

معارف القرآن (جلد ۱)

تالیف

حضرت مولانا محمد رفیع کاندھلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

ابن

شیخ اشرفیہ اعلیٰ حضرت مولانا ابوالخیر محمد رفیع صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَحَمْدُهُ وَاسْتِغْنَاهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِمَكْتَبَةِ اَشْرَفِيَّةِ لَاهُورِ

جلد ہفتم مشتمل بر ۲۸ (۲۸) ۲۹ (۲۹) ۳۰ (۳۰)

بہ ترجمہ و تحقیق نگاہ معارف پتہ معارف بابتہ حضرت شاہ عبدالقادر بریلوی شاہ ولی اللہ دہلوی و دیگر علمائے کرام

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم انجمن اسلامیہ، شہداد پور

سندھ، پاکستان

بہارت: مکتبہ عثمانیہ بیت النور، مہران پور، قلعہ مبارک، قبا، لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَالَ اللهُ تَعَالَى اِنْ عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنُهُ فَاِذَا قُرْآنُهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيِّنَاتَهُ

الحمد لله والحمد لله...
مُسْتَقْبَلِي بِهِ

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

تأليف: حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
ابن

شیخ التفسیر و الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد ادریس صاحب کاندھلوی
رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ رَحْمَةً وَّاسِعَةً شَيْخُ الْحَدِيثِ جَامِعَهُ أَشْرَفِيهِ لَاهُورِ

جلد ہفتم مشتمل بر تفسیر پارہ ۲۸ ۲۹ ۳۰

بر ترجمہ حقیقت آگاہ معارف پناہ عارف باللہ حضرت شاہ عبد القادر بن شاہ ولی اللہ دہلوی قدس اللہ سرار مجا

شائع کردہ

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحسینیہ شہداد پور

سندھ، پاکستان

نام کتاب :- معارف القرآن جلد ۷
 نام مصنف :- حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ} ابن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی ^{رحمۃ اللہ علیہ}
 مکمل سیٹ :- ۸ جلد
 صفحات جلد ۷ :- ۶۰۰
 کتابت متن قرآن کریم :- خطاط القرآن حضرت سید محمد اشرف علی الحسینی سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ
 کتابت سرورق :- سید انیس الحسن ابن سید الخطاطین سید نفیس الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لاہور
 کتابت ترجمہ و تفسیر :- سید عصمت اللہ، سید جعفر حسین، سید ضیاء اللہ گوجرانوالہ
 تعداد طبع اول :- ۱۳۱۹ھ (گیارہ سو)
 تعداد طبع دوم :- ۱۳۲۲ھ
 پریس :- القادر پرنٹنگ پریس کراچی
 ناشر :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور سندھ پاکستان
 فون :- ۴۲۲۷۶ - ۴۱۳۷۶ (۰۲۲۳۲)

ملنے کے پتے

کراچی ۱- صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس۔ المنظر پارٹمنٹس ۴۵۸ گارڈن ایسٹ
 نزد سبیل چوک کراچی۔ پوسٹ کوڈ نمبر ۷۴۸۰۰
 لاہور ۱- مکتبہ عثمانیہ بیت الحمد ۳۵۳ مہران بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور
 شہدادپور :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور ضلع سانگھو سندھ پاکستان پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

اہد نوٹ
 ہم نے اس کتاب کی تصحیح میں حتی الوسع کوشش کی ہے پھر بھی ممکن ہے کوئی غلطی رہ گئی ہو۔
 لہذا تمام قارئین سے التماس ہے کہ اگر کہیں غلطی پادیں تو براہ راست ہمیں اطلاع دیں تاکہ آئندہ
 اشاعت میں اسے درست کیا جاسکے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائیں گے۔

خط و کتابت کیلئے :- مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور پوسٹ کوڈ ۶۸۰۳۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اجازت نامہ

برائے اشاعت معارف القرآن بنام مکتبہ المعارف شہدادپور

قرآن مبارک معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلوی صاحب

جو کہ دارالعلوم الحسینہ (حسرت) شہدادپور والے حضرات سے دوبارہ

لکھوایا ہے اور چھاپا ہے۔

ہماری طرف سے اجازت ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اس کو

چھپائیں اور فروخت کریں۔

27/1/99

ڈاکٹر محمد سعد صدیقی

نیرۃ حضرت مصنف

فہرست معارف القرآن جلد ہشتم (تکمیل)

مشتمل بر پارہ نمبر ۲۸ ۲۹ ۳۰

از سورہ مجادلہ تا سورہ الناس

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱ | تفسیر سورہ المجادلہ | |
| ۲ | آغاز پارہ ۲۸ قَدْ سَمِعَ اللهُ | |
| ۳ | شکوہ و التجاہد خاتون پریشان حال در بارگاہ رب العزت ذی الجلال و نزول حکم ظہار | ۱ |
| ۵ | ظہار کا مفہوم اور اس کا حکم شرعی | ۲ |
| ۶ | تسبیہ و وعید بر بغاوت و نافرمانی اور حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم | ۳ |
| ۱۰ | بیان عظمت خداوندی و آداب حاضری در بارگاہ رسالت | ۴ |
| ۱۵ | تنبیہ و وعید بر بوائیات و دوستی از قوم مغضوب علیہم و ذلت و ناکامی حزب الشیطان و فلاح و کامیابی الخ | ۵ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۶ | اختتام سورۃ المجادلہ | ۶ |
| ۱۸ | تفسیر سورۃ المحشر | |
| ۲۲ | جلاد وطنی یہود اراض حجاز و غلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر باغات و قلعہ ہائے بنی نضیر . . . | ۷ |
| ۲۴ | جزیرہ عرب سے یہود کی جلا وطنی | ۸ |
| ۲۵ | غنیمت اور فبی کے درمیان فرق | ۹ |
| ۲۶ | مالک حقیقی کی عطا کردہ ولایت پیکر رسالت میں | ۱۰ |
| ۲۹ | استحقاق مہاجرین و انصار و مجاہدین و مخلصین صحابہ کرامؓ در مال فبی | ۱۱ |
| ۳۲ | ذوی القربی یتامی اور ابن السبیل میں مستحقین فبی کی قسم اول فقراء و مہاجرین | ۱۲ |
| ۳۳ | مستحقین کی قسم دوم انصار اور انکی خصوصیات | ۱۳ |
| ۳۳ | قسم سوم عام اہل اسلام | ۱۴ |
| ۳۴ | مستحقین و مصارف مال فبی | ۱۵ |
| ۳۵ | مال فبی اور مال غنیمت میں فرق | ۱۶ |
| ۳۶ | استحقاق کی اقسام | ۱۷ |
| ۳۸ | احوال منافقین و کاذبین بعد بیان اوصاف مخلصین و صادقین | ۱۸ |
| ۴۲ | دعوت تقویٰ و فکر آخرت برائے اہل ایمان مع ذکر عظمت رب ذوالجلال و الاکرام | ۱۹ |
| ۴۶ | اسما حسنیٰ و صفات خداوندی | ۲۰ |
| ۴۸ | اللہ رب العزت کے ننانوے اسماء حسنیٰ | ۲۱ |
| ۵۴ | اختتام تفسیر سورۃ المحشر | ۲۲ |
| ۵۵ | تفسیر سورۃ الممتحنہ | |
| ۵۸ | حاطب کے خط کا مضمون | ۲۳ |
| ۶۱ | حکم خداوندی برائے ترک محبت و دوستی از دشمنان اسلام و تکمیل اقتضای ایمان الخ | ۲۴ |
| ۶۴ | ترغیب اہل اسلام برائے اتباع اموہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام | ۲۵ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۶۶ | تسلی اہل ایمان بذكر بشارت و کامیابی مسلمین براعدار اسلام و اجازت حسن سلوک از کافران امن پسند و صالحین | ۲۶ |
| ۷۰ | حکم امتحان ہجرات مؤمنات و احکام بیعت و اطاعت | ۲۷ |
| ۷۳ | حکم بیعت ہجرات مؤمنات | ۲۸ |
| ۷۶ | قصہ بیعت نسا و مؤمنات | ۲۹ |
| ۷۵ | اختتام تفسیر سورۃ الممتحنہ | ۳۰ |
| ۷۶ | تفسیر سورۃ الصف | |
| ۷۷ | تسبیح و تحمید خداوندی مع ترفیہ اہل ایمان برائے جہاد فی سبیل اللہ | ۳۱ |
| ۷۹ | جہاد فی سبیل اللہ بارگاہ خداوندی میں محبوب ترین عمل | ۳۲ |
| ۸۰ | شکوہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام از ایثار رسالی قوم و التجار بہ بارگاہ خداوندی و الجلال والا کرام | ۳۳ |
| ۸۲ | بشارت حضرت مسیح بن مریمؑ بر بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم | ۳۴ |
| ۸۲ | نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لئے عیسائیوں کو الخ | ۳۵ |
| ۸۵ | بشارت انجیل یوحنا | ۳۶ |
| ۸۶ | لفظ فارقلیط کی تحقیق | ۳۷ |
| ۸۸ | جواب | ۳۸ |
| ۹۶ | نصاری کی طرف سے فارقلیط کی عجیب و غریب تفسیر | ۳۹ |
| ۹۷ | انجیل برنابا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کی تصریح کے ساتھ بشارت | ۴۰ |
| ۹۹ | دعوت اہل ایمان برائے تجارت را بجمہ و ترفیہ بر حصول فلاح و سعادت دنیا و آخرت | ۴۱ |
| ۱۰۱ | حواریین مسیح کے بالمقابل حواریین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار اللہ کی عظمت و منقبت | ۴۲ |
| ۱۰۲ | تاریخ عالم گواہ ہے کہ کفر کی تمام طاغوتی طاقتیں اللہ کا نور نہ بجھا سکیں | ۴۳ |
| ۱۰۲ | اختتام سورۃ الصف | ۴۴ |
| ۱۰۳ | تفسیر سورۃ الجمعہ | |
| ۱۰۵ | تکمیل بشارت عیسیٰ بن مریمؑ بر بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تنبیہ بر شقاوت اہل کتاب الخ | ۴۵ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۰۹ | حضرت آدمؑ کے جنت سے نکلنے جانے کی حکمت | ۴۶ |
| ۱۱۰ | ترغیب اہل ایمان برائے اقامت جمعہ و تاکید سعی الی ذکر اللہ و ترک بیع و شراب بر اذان | ۴۷ |
| ۱۱۲ | تخلیق کائنات میں یوم جمعہ کی عظمت و خصوصیت اور امت محمدیہ کی فضیلت | ۴۸ |
| ۱۱۶ | اختتام تفسیر سورۃ الجمعہ | ۴۹ |
| ۱۱۹ | تفسیر سورۃ المنافقون | ۵۰ |
| ۱۲۴ | خدمت نفاق و منافقین و تحقیق یہودہ خصال منافقین | ۵۱ |
| ۱۲۵ | تنبیہ و تہذیب اہل ایمان از غفلت ذکر اللہ و تاکید انفاق فی سبیل اللہ | ۵۲ |
| ۱۲۶ | فتنہ مال اور فتنہ جاہ انسان کے لیے سعادت سے محرومی کا باعث ہے | ۵۳ |
| ۱۲۶ | اختتام تفسیر سورۃ المنافقون | ۵۳ |
| ۱۲۸ | تفسیر سورۃ التغابن | ۵۴ |
| ۱۳۳ | تقسیم اولاد آدم در قسم مؤمن و کافر و انکار وحدت قومیہ لمحاظ وطن | ۵۵ |
| ۱۳۵ | تنبیہ بر فکر آخرت و ترغیب ایمان و عمل صالح و نصیحت برائے مہربان استقامت اطاعت خداوندی | ۵۶ |
| ۱۳۹ | دیوبی زندگی میں مصائب کا راز اور ان پر صبر کی تلقین | ۵۷ |
| ۱۳۹ | اختتام تفسیر سورۃ التغابن | ۵۸ |
| ۱۳۹ | تفسیر سورۃ الطلاق | ۵۹ |
| ۱۴۱ | احکام طلاق و عدت، نفقہ و سکنی و تاکید تقویٰ و تنبیہ بر تجاوز از حدود خداوندی | ۶۰ |
| ۱۴۵ | زمانہ جاہلیت میں عورت کی بے بسی اور اسلام و قرآن کا اس کے حقوق کا محافظ ہونا | ۶۱ |
| ۱۴۸ | ذکر احکام بعض مطلقات مع بیان حق سکنی و نفقہ و مسئلہ رضاعت | ۶۲ |
| ۱۵۰ | مطلقہ عورتوں کی عدت کے بعض احکام | ۶۳ |
| ۱۵۱ | معتدہ عورت کے لیے نفقہ اور سکنی | ۶۴ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۵۳ | طلاق ثلث باجماع است تین طلاق ہیں | ۶۳ |
| ۱۵۴ | مسئلہ طلاق ثلث میں حدیث عبداللہ بن عباسؓ کی تحقیق | ۶۴ |
| ۱۵۷ | تسبیہ و تہذیر پر فرمائی رب العالمین و درس عبرت پر بیان ہلاکت قرہہائے بھین | ۶۵ |
| ۱۵۹ | سات آسمانوں اور سات زمینوں کے متعلق عبداللہ بن عباسؓ کی روایت اور اسکی تحقیق | ۶۶ |
| ۱۶۰ | تاویل اول | ۶۷ |
| ۱۶۱ | تاویل دوم | ۶۸ |
| ۱۶۱ | تاویل سوم | ۶۹ |
| ۱۶۱ | جدید فلاسفہ کا نظریہ | ۷۰ |
| ۱۶۲ | تفسیر سورۃ التحریم | |
| ۱۶۵ | تعلیم صبر و استقامت و عدل و انصاف در حقوق و امور معاشرت | ۷۱ |
| ۱۶۸ | خطاب خاص برائے ازواج مطہرات | ۷۲ |
| ۱۷۰ | حکم توبہ و انابت الی اللہ باخلاص قلب و وعدہ معافی خطایا و بشارت حصول نعمتہائے جنت | ۷۳ |
| ۱۷۱ | توبہ ذصوحاً کی تفسیر | ۷۴ |
| ۱۷۲ | میدان حشر میں اہل ایمان کا نور | ۷۵ |
| ۱۷۴ | نمونہ ایمان و کفر و ہدایت و شقاوت برائے خواتین عالم | ۷۶ |
| ۱۷۶ | آسیہ امراة فرعون کے ایمان کا واقعہ | ۷۷ |
| ۱۷۷ | اختتام تفسیر سورۃ التحریم | ۷۸ |
| ۱۷۸ | تفسیر سورۃ الملک | |
| ۱۷۹ | آغاز پارہ ۲۹ مَبَارَاکَ الَّذِیْ | |
| ۱۸۰ | شان عظمت و قدرت خداوندی مع بیان جزائے اہل سعادت و تنبیہ و تہذیر بر اہل شقاوت | ۷۹ |
| ۱۸۲ | توحید ذات و صفات خداوندی ایمان کی اساس ہے | ۸۰ |

| صفحہ | مضامین | نمبر شمار |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۱۸۴ | آسمانوں کے وجود پر قرآن کریم اور الہامی کتابوں کا فیصلہ اور حکماء یونان و فلاسفہ کے منہی الامت | ۸۱ |
| ۱۸۹ | عقوبت و تنبیہ برائے کفار تو حید رب العالمین | ۸۲ |
| ۱۹۳ | بیان الفاہ ابرہیل تقویٰ و احاطہ علم خداوندی باحوال فریقین | ۸۳ |
| ۱۹۷ | دلائل قدرت رب العالمین و تنبیہ و تہدید بر مجرمین و منکرین | ۸۴ |
| ۱۹۹ | تفسیر سورۃ القلم | |
| ۲۰۱ | بیان عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تلقین صبر و استقامت | ۸۵ |
| ۲۰۴ | قلم اور تحریر قلم تاریخ عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حقانیت کا ثبوت اعظم | ۸۶ |
| ۲۰۷ | فسائدہ | ۸۷ |
| ۲۰۸ | عبرت ناک انجام غرور و تکبر پر دولت دنیا و محرومی از سعادت آخرت | ۸۸ |
| ۲۱۰ | غرور و تکبر سے سرسبز و شاداب باغ کی تباہی | ۸۹ |
| ۲۱۳ | بشارت اہل ایمان و تقویٰ بنغمے جنت و تذلیل و توہین کفار و مشرکین در روز آخرت | ۹۰ |
| ۲۱۷ | کشف ساق اور تہلی خداوندی کے ظہور کا مفہوم | ۹۱ |
| ۲۱۹ | اختتام تفسیر سورۃ القلم | ۹۲ |
| ۲۲۰ | تفسیر سورۃ الحاقہ | |
| ۲۲۳ | ذکر احوال قیامت و بیان انجام کذب و منکرین | ۹۳ |
| ۲۲۷ | فرشتوں کا عرش الہی امتحان | ۹۴ |
| ۲۳۰ | بیان عظمت کلام الہی و حقانیت و صداقت قرآن کریم | ۹۵ |
| ۲۳۳ | اختتام تفسیر سورۃ الحاقہ | ۹۶ |
| ۲۳۴ | تفسیر سورۃ المعارج | |
| ۲۳۷ | مجازات عند سرکشی کفار و شدت و کرب و اضطراب در روز قیامت | ۹۷ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۴۰ | فائدہ | ۹۸ |
| ۲۴۲ | حیرت و استعجاب بر حال اہل عناد و تنبیہ و تہدید بر خود فریبی ایشان | ۹۹ |
| ۲۴۳ | اختتام تفسیر سورۃ المعارج | ۱۰۰ |
| ۲۴۳ | تفسیر سورۃ نوح (علیہ السلام) | |
| ۲۴۶ | بعثت رسول ہادی حق و داعی توحید نوح علیہ السلام و ترمود و سرکشی قوم و نفرت و انکبار از صدائے ایمان الخ | ۱۰۱ |
| ۲۵۱ | شکوۃ نوح علیہ السلام ببارگاہ خداوندی بر نافرمانی و سرکشی قوم | ۱۰۲ |
| ۲۵۳ | دنیا میں شرک کا آغاز کیونکر ہوا | ۱۰۳ |
| ۲۵۵ | اختتام تفسیر سورۃ نوح * | ۱۰۴ |
| ۲۵۶ | تفسیر سورۃ الجن | |
| ۲۵۹ | تاثیر حقانیت قرآن بر قوم جن کا قبول ایمان | ۱۰۵ |
| ۲۶۵ | وجود جن کے بارے میں فلاسفہ کا خیال | ۱۰۶ |
| ۲۶۶ | طائف سے واپسی پر تمام سزائوں میں جنات کا قرآن کریم سنا اور اس پر ایمان لانا | ۱۰۷ |
| ۲۶۹ | حکم اعلان توحید و اعلان برادرت از شرک و فیصلہ عذاب برائے مجرمین | ۱۰۸ |
| ۲۷۱ | تمام امت کا اجماعی فیصلہ کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہے | ۱۰۹ |
| ۲۷۲ | اختتام تفسیر سورۃ الجن | ۱۱۰ |
| ۲۷۳ | تفسیر سورۃ المزمل | |
| ۲۷۵ | حکم قیام اللیل و تاکید تریل و تحمیں در تلاوت کلام اللہ تعالیٰ | ۱۱۱ |
| ۲۷۹ | تمام حجت خداوندی بر منکوبین و کفار بر بعثت سید البرار خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم | ۱۱۲ |
| ۲۸۱ | یَوْمَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا سے متعلق فائدہ | ۱۱۳ |
| ۲۸۲ | حکم تخفیف در قیام لیل و رخصت برائے ضعیف و مجاہدین | ۱۱۴ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۸۳ | فرضیت تہجد اور ایک سال بعد تخفیف کا حکم | ۱۱۵ |
| ۲۸۶ | فائدہ | ۱۱۶ |
| ۱۱ | نمازوں میں مطلق قرآن کی فرضیت | ۱۱۷ |
| ۲۸۷ | تفسیر سورۃ المدثر | |
| ۲۹۰ | حکم اعلان توحید و رسالت سید المرسلینؐ و تہدید بر اعراض مجرمین | ۱۱۸ |
| ۲۹۵ | فائدہ | ۱۱۹ |
| ۱۱ | رب سموات و ارض کے لشکر بس وہی جلتا ہے | ۱۲۰ |
| ۲۹۸ | تنبیہ بر انکار مجرمین دیان قانون جزاء و سزا در روز قیامت | ۱۲۱ |
| ۳۰۰ | تفسیر سورۃ القیامت | |
| ۳۰۲ | احوال روز قیامت مع ذکر مناظر محشر و شدت کرب بوقت مرگ انسانی و حسرت و طلال بر مجرمی از ہدایت | ۱۲۲ |
| ۳۰۸ | نفس کی حقیقت اور اس کی قسمیں | ۱۲۳ |
| ۳۱۱ | فائدہ | ۱۲۴ |
| ۱۱ | اختتام تفسیر سورۃ القیامت | ۱۲۵ |
| ۳۱۲ | تفسیر سورۃ الدھر | |
| ۳۱۵ | ابتداء ہستی انسان در عالم و عطا صلاحیت برائے فرق در میان حق و باطل مع ذکر العاقبات الخ | ۱۲۶ |
| ۳۲۰ | نسل انسانی کا عدم سے وجود میں آنا | ۱۲۷ |
| ۳۲۲ | ڈارون کا عجیب و غریب نظریہ | ۱۲۸ |
| ۳۲۵ | عظمت کلام رب العالمین و تاکید بر پابندی احکام و دوام ذکر و بندگی | ۱۲۹ |
| ۳۲۶ | فائدہ | ۱۳۰ |
| ۱۱ | اختتام تفسیر سورۃ الدھر | ۱۳۱ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۳۲۶ | تفسیر سورۃ المرسلات | |
| ۳۳۱ | اعلان پر لگندگی نظام عالم برائے تحلیل دعدہ قیامت و برہادی بحرین و انعام و الطاف بر مؤمنین | ۱۳۲ |
| ۳۳۱ | سورۃ و المرسلات میں اختیار کردہ الفاظ قسم کی تشریح (حاشیہ) | ۱۳۳ |
| ۳۴۱ | آیت وَبِئْسَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا کُفْرًا کَبِیْرًا کی حکمت | ۱۳۴ |
| ۳۴۲ | اختتام تفسیر سورۃ المرسلات | ۱۳۵ |
| ۳۴۳ | تفسیر سورۃ المناب | |
| ۳۴۳ | آغاز پارہ ۳ عَمَّ | |
| ۳۴۵ | گستاخی بحرین بصورت سوال و مطالبہ روز قیامت و ذکر قانون جزا و سزا مع دلائل قدرت | ۱۳۶ |
| ۳۴۹ | فائدہ | ۱۳۷ |
| ۳۵۰ | النعامت و راحت و اکرام و عزت برائے اہل ایمان و تقویٰ و اصحاب ہدایت | ۱۳۸ |
| ۳۵۲ | تفسیر سورۃ النزعات | |
| ۳۵۵ | ہیبت و اضطراب در روز محشر و فلاح و کامرانی اہل ایمان | ۱۳۹ |
| ۳۵۸ | راجضہ اور رادفہ کی تفسیر | ۱۴۰ |
| ۳۵۸ | فائدہ | ۱۴۱ |
| ۳۶۰ | اعلان خداوندی بقدرت کاملہ و عاجزی و پستی کائنات پیش عظمت الہی | ۱۴۲ |
| ۳۶۳ | مسئلہ آخرت اور بعثت بعد الموت | ۱۴۳ |
| ۳۶۰ | عالم جسمانی کی حقیقت اور اس کی موت و حیات | ۱۴۴ |
| ۳۶۱ | مسئلہ بعثت اور معاد ابدان | ۱۴۵ |
| ۳۶۴ | معاد جسمانی اور حشر ابدان پر عقلی شواہد | ۱۴۶ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۲۷۶ | تفسیر سورۃ عبس | |
| ۲۷۹ | ترغیب بلا طفت باضعفار مؤمنین واستغفار و بے نیازی از اہل دنیا و متکبرین | ۱۴۷ |
| ۲۸۲ | نظام قدرت و ربوبیت کے کرشمے | ۱۴۸ |
| ۲۸۲ | فقراء و درویش در اصل عنایت و توجہ خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں | ۱۴۹ |
| ۲۸۲ | نکتہ | ۱۵۰ |
| ۲۸۴ | اثبات قیامت کے لیے دلائل آفاق و انفس | ۱۵۱ |
| ۲۸۴ | اموات کے لیے قبر اور دفن قانونِ فطرت ہے | ۱۵۲ |
| ۲۸۶ | تفسیر سورۃ المستکویر | |
| ۲۸۸ | ہونا کہ مناظر روز قیامت و پیشی اعمال و فیصلہ جزا و سزا | ۱۵۳ |
| ۲۹۲ | شمس و قمر کی قسموں سے مضمون کی مناسبت | ۱۵۴ |
| ۲۹۴ | ابطال جبر و قدر | ۱۵۵ |
| ۲۹۶ | تفسیر سورۃ الانفطار | |
| ۲۹۶ | حوادث ارض و سما و شمس و قمر بر قیام قیامت | ۱۵۶ |
| ۲۹۸ | مغزور و نافرمان انسان کو خلاق رب العالمین کی ایک دھمکی | ۱۵۷ |
| ۳۰۰ | تفسیر سورۃ المطففین | |
| ۳۰۲ | وعید بر اتلاف حقوق و خیانت در وزن و پیمانہ | ۱۵۸ |
| ۳۰۴ | معاملات میں عدل و انصاف و امانت | ۱۵۹ |
| ۳۰۶ | کرامت و عزت برائے مؤمنین مطہرین | ۱۶۰ |
| ۳۰۸ | فائدہ عا | ۱۶۱ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۴۳۷ | تشبیہ انسان غافل از وقوع قیامت و دعوت فکر برائے رجوع الی اللہ | ۱۷۳ |
| ۴۴۰ | دلائل قدرت میں غور و فکر تعاضلے فطرت اور باعث سعادت ہے | ۱۷۴ |
| ۴۴۱ | تفسیر سورۃ الفجر | |
| ۴۴۲ | تاریخ اقوام مکذبین و تقسیم فطرت انسانی بصورت شقاوت و سعادت | ۱۷۵ |
| ۴۴۸ | قدیم اقوام میں ارم ذات العباد کی تاریخی عظمت اور تہذیب خداوندی سے ہلاکت | ۱۷۶ |
| ۴۵۰ | عذاب خداوندی کی عظمت و شدت | ۱۷۷ |
| " | فائدہ | ۱۷۸ |
| ۴۵۱ | اختتام تفسیر سورۃ الفجر | ۱۷۹ |
| ۴۵۲ | تفسیر سورۃ السجد | |
| ۴۵۳ | انقسام عمل درخیز و شرح بیان عظمت مہبط وحی و سرچشمہ ہدایت | ۱۸۰ |
| ۴۵۸ | فائدہ | ۱۸۱ |
| ۴۵۹ | تواضعی بالصبر الفرادی اور اجتماعی فلاح کا باعث ہے | ۱۸۲ |
| ۴۶۰ | تفسیر سورۃ الشمس | |
| ۴۶۱ | استعداد خیر و شر و طبیعت بشریہ و معیار سعادت و شقاوت | ۱۸۳ |
| ۴۶۷ | قوم ثمود کی اجمالی تاریخ | ۱۸۴ |
| ۴۶۹ | تفسیر سورۃ التلیل | |
| ۴۷۱ | تقسیم جہود علیہ در حیات انسانی و ترتب ثمرات سعادت و شقاوت | ۱۸۵ |
| ۴۷۳ | ایمان و تقویٰ اور جہود و سخا کا پیکر اعظم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ | ۱۸۶ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۴۷۴ | حضرت علیؑ کی شہادت کو صدیق اکبرؓ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستحق خلافت تھے | ۱۸۷ |
| ۴۷۸ | تفسیر سورۃ الضحیٰ | |
| ۴۷۹ | الغامات خاندان برذات اقدس نبی اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام و امر با دارشکر | ۱۸۸ |
| ۴۸۲ | الغامات خاندان ندی اور مکارم نبویؐ | ۱۸۹ |
| ۴۸۳ | تفسیر سورۃ الانشراح | |
| ۴۸۵ | بشارت بانشریح صدر و رفع گرائی قلب و ازالہ شدائد ہمت شکن | ۱۹۰ |
| ۴۸۷ | خاندانہ | ۱۹۱ |
| " | شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی | ۱۹۲ |
| ۴۹۲ | تفسیر سورۃ الستین | |
| ۴۹۳ | شہادت اشجار و اماکن بر فالقیات رب العالمین و مہربان و معاد انسان | ۱۹۳ |
| ۴۹۶ | تین اور زیتون کی تفسیر | ۱۹۴ |
| ۴۹۷ | تفسیر سورۃ العلق | |
| ۴۹۹ | آغاز وحی بامر قرآنہ باسم رب العالمین و مذمت و تہدید بر مخالفت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم | ۱۹۵ |
| ۵۰۵ | تفسیر سورۃ القدر | |
| ۵۰۶ | عظمت شب قدر و ماہ رمضان نزول قرآن | ۱۹۶ |
| ۵۰۷ | شب قدر اور نزول قرآن | ۱۹۷ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۱۰ | شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت | ۱۹۸ |
| ۵۱۱ | تفسیر سورۃ البینہ | |
| ۵۱۳ | ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم د آیات قرآن سرچشمہ علم و برہان ہدایت | ۱۹۹ |
| ۵۱۴ | تفسیر سورۃ الزلزال | |
| ۵۱۶ | حوادث و زلزلہ بوقت وقوع قیامت | ۲۰۰ |
| ۵۱۹ | تفسیر سورۃ الطہیات | |
| ۵۲۱ | سرگرمی بہائم در اطاعت مالک و نافرمانی و ناشکری انسان با قاروب العالمین | ۲۰۱ |
| ۵۲۲ | تفسیر سورۃ القارعہ | |
| ۵۲۵ | حوادث زمان و قوارع دہر ہر روز محشر و تنبیہ برائے بیداری از خواب غفلت | ۲۰۲ |
| ۵۲۶ | مادی اجسام کا نقل اور روحانیات کی لطافت | ۲۰۳ |
| ۵۲۶ | تفسیر سورۃ التکاثر | |
| ۵۲۸ | تنبیہ و تہدید بر غفلت از آخرت و وعید بر حرص مال و دولت | ۲۰۴ |
| ۵۳۲ | تفسیر سورۃ العصر | |
| ۵۳۳ | کلام اللہ میں زمانہ کی قسم کھانا انسانی حیات کو ضیاع و خسران سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے | ۲۰۵ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۲۵ | فائدہ | ۲۰۶ |
| ۵۲۶ | تفسیر سورۃ الہمزہ | |
| ۵۲۷ | طعن و تشنیع و عیب جوئی و حب مال موجب ہلاکت و باعث نادرہ جہنم | ۲۰۷ |
| ۵۲۹ | ہمزہ اور لہزہ کی تفسیر | ۲۰۸ |
| ۵۳۰ | تفسیر سورۃ الفیل | |
| ۵۳۱ | نزول غضب خداوندی بہ بہتک حرمت الہیہ و تحقیر مرکز ہدایت | ۲۰۹ |
| ۵۳۲ | قصہ اصحاب فیل | ۲۱۰ |
| ۵۳۹ | فائدہ | ۲۱۱ |
| " | تفسیر سورۃ قریش | |
| ۵۵۰ | انعامات خداوندی بہ قریش بصورت عطا، رزق و امن و تسہیل و سائل سفر | ۲۱۲ |
| ۵۵۲ | فائدہ | ۲۱۳ |
| ۵۵۳ | تفسیر سورۃ الماعون | |
| | | |
| | | |
| ۵۵۵ | تفسیر سورۃ الکوثر | |
| ۵۵۶ | انعام رب ذوالجلال بعطار کوثر و ہلاکت و بربادی دشمن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم | ۲۱۴ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۵۷ | الکوثر کا مفہوم | ۲۱۵ |
| ۵۵۹ | تفسیر سورۃ الکافرون | |
| ۵۶۰ | اعلان استقامت بر اسلام و شعار اسلام و بیزاری از مراعات اہل باطل | ۲۱۶ |
| ۵۶۳ | فائدہ | ۲۱۷ |
| ۵۶۴ | تفسیر سورۃ النصر | |
| ۵۶۵ | ذکر بشارت فتح و نصرت و غلبہ دین و ظہور اسلام مع حکم تسبیح و استغفار | ۲۱۸ |
| ۵۶۶ | سورۃ النصر کا نزول قبل از فتح مکہ یا بعد از فتح | ۲۱۹ |
| ۵۶۸ | تفسیر سورۃ اللہب | |
| ۵۶۹ | خسران و بربادی در دنیا و عقبی از دشمنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم | ۲۲۰ |
| ۵۷۲ | تفسیر سورۃ الاخلاص | |
| ۵۷۳ | اعلان توحید خداوندی و تقدیس و تنزیہ از مماثلت و مشابہت | ۲۲۱ |
| ۵۷۶ | فائدہ | ۲۲۲ |
| ۵۷۷ | تفسیر المعوذتین سورۃ الفلق و سورۃ الناس | |
| ۵۸۰ | معوذتین کے بارے میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف | ۲۲۳ |

| صفحہ | مضمون | نمبر شمار |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ۵۸۳ | تعلیم تعوذ و حصول پناہ از مہالک حسیہ | ۲۲۴ |
| ۵۸۴ | فائدہ | ۲۲۵ |
| ۵۸۵ | تعلیم و تلقین از مہالک باطنیہ و آفات نفسانیہ | ۲۲۶ |
| ۵۸۷ | معوذتین کی تفسیر میں حکماء و عارفین کی تحقیق و تشریح | ۲۲۷ |
| ۵۸۸ | امام رازیؒ کی تحقیق فیہ | ۲۲۸ |
| ۵۹۱ | قاسم العلوم و الخیرات مولانا محمد قاسم نانوتویؒ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام معرفت التیام | ۲۲۹ |
| ۵۹۲ | اختتام تفسیر | ۲۳۰ |
| ۵۹۳ | کلمات دعا | ۲۳۱ |
| ۵۹۸ | دعا ختم القرآن | ۲۳۲ |

کتابت ع. م. شہدادپور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُجَادَلَةِ

سورۃ المجادلہ مدنی سورہ ہے جس کی آیتیں آدھیں اور تین رکوع ہیں

یہ سورت بہت سے فقہی اور شرعی احکام پر مشتمل ہے ابتداء سورت اس مجادلہ اور جھگڑے کے قصہ سے فرمائی گئی جو خولہ بنت ثعلبہ کا اپنے خاوند سے پیش آیا تھا کہ ان کے خاوند اس بن صامت نے ظہار کر کے ان کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تو خولہ بنت ثعلبہ شکایت کرتی ہوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اس وقت تک کوئی حکم شرعی اس بارہ میں نازل نہیں ہوا تھا زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی شخص اپنی عورت کو اپنے پر حرام کرنے کا ارادہ کرتا تو اپنی بیوی کو کہہ دیتا "انت علی کظفیر اچی" کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو یہ آہ و زاری کرتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا بس تو اپنے خاوند پر حرام ہو گئی ہے خولہ بار بار کہتی رہی یا رسول اللہ اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور مسلسل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتی رہیں اور اس دوران یہ بھی کہا یا رسول اللہ میرے خاوند نے میرا مال بھی کھایا میری جوانی بھی گزر گئی عمر بڑی ہو چکی میری اولاد مجھ سے جدا ہو چکی اب میں کیا کروں پھر یہ موردگار کی طرف رخ کر کے دعا مانگی لے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے رنج و غم کا شکوہ پیش کرتی ہوں تو ہی اس کو دور فرمانے والا ہے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُنَادِيكَ الْاِثْمَ لَمْ يَكُنْ لَكَ مِنْ غَيْرِ اللّٰهُ لَمْ يَكُنْ لَكَ بَاتِئْنٌ لِيْ هِيَ۔ جو آپ سے جھگڑا رہی ہے اپنے خاوند کے معاملہ میں اور اللہ کی طرف وہ اپنی شکایت پیش کر رہی ہے تو ابتداء سورت میں ظہار کر لینے پر کفارہ اور کفارہ ظہار کا حکم بیان فرمایا گیا۔ پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری کے آداب و احکام بیان کیے گئے اور یہودیوں کی اس بے ہودگی کو بھی ذکر کیا گیا جو وہ آپ کی مجلس میں آکر کیا کرتے تھے جس سے ان کی عرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہوتی تھی اسی کے ساتھ منافقین کے بھی احوال ذکر کیے اور اخیر سورت میں ایمان کی اصل بنیاد و اساس کا ذکر کیا گیا کہ وہ محب فی اللہ اور بغض فی اللہ ہے اور جب تک کوئی شخص ایمان کے ان تقاضوں کی تکمیل نہیں کر سکتا وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا عملی ثبوت پیش کرنے سے قاصر ہے صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ فرمایا کیسی بابرکت اور عظمت والی وہ ذات ہے جو

عہ تفسیر روح المعانی۔ ابن کثیر جلد رابع۔

تمام عالم کی آوازوں کو سُننے۔

یہ عورت جھگڑالے کر آئی اور میرے حجرہ کے گوشے میں بیٹھی وہ جھگڑا رہی تھی بات کر رہی تھی اور میں حجرہ کے گوشے میں ہونے کے باوجود اس کی کچھ باتیں نہیں سُن سکی تھی مگر سبحان اللہ کہ رَبُّ الْعِزَّةِ سَاتِ آسْمَانُوں کی بلندی سے اس کی باتیں سُن رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہی تھی اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَشْكُو الْمَيْثَ۔ چنانچہ تھوڑی دیر گزری کہ جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔

آیَاتُهَا ۲۲ : ۵۸ : سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ مَدَنِيَّةٌ : ۱۰۵ : رُكُوعَاتُهَا ۳

سورہ مجادلہ مدنی ہے، اور اس کی بائیس آیتیں اور تین رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِیْ تُجَادِلُكَ فِیْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِیْ اِلَیَّ

سُن لی اللہ نے بات اس عورت کی، جو جھگڑاتی ہے تجھ سے اپنے خاوند پر اور جھینکتی ہے

اللّٰهِ ۱۰۵ وَاللّٰهُ یَسْمَعُ تَحَاوُرَکُمَا ۱۰۶ اِنَّ اللّٰهَ سَمِیْعٌ بَصِیْرٌ ①

اللہ کے آگے، اور اللہ سُنتا ہے سوال جواب تم دونوں کا، بے شک اللہ سُنتا ہے دیکھتا۔

الَّذِیْنَ یُظْهِرُوْنَ مِنْکُمْ مِّنْ نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ اُمَّهَاتِهِمْ ۱۰۷

جو لوگ ماں کہہ بیٹھیں تم میں اپنی عورتوں کو وہ نہیں ان کی ماں ہیں۔

اِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِلَّا اِلٰیۤ وَاٰلُہُمْ وَاٰلُہُمْ لَیَقُولُوْنَ مُنْکَرًا ۱۰۸

ماںیں وہی جنہوں نے اُن کو جنا۔ اور وہ بولتے ہیں ایک ناپسند

مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۱۰۹ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۱۱۰ وَالَّذِیْنَ

بات اور جھوٹ - اور اللہ معاف کرتا ہے بخشنے والا - اور جو

عہ صحیح بخاری - ابن ماجہ

يُظهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ

ماں کہہ بیٹھیں اپنی عورتوں کو ، پھر وہی کام چاہیں جس کو کہا ہے تو آزاد کرنا

رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ

ایک بردہ ، پہلے اس سے کہ آپس میں ہاتھ لگا دیں۔ اس سے تم کو نصیحت ہوگی۔ اور اللہ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ

خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر جو کوئی نہ پادے، تو روزہ دو مہینے کا

مُتَابِعِينَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ۚ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

لگا تار ، پہلے اس سے کہ آپس میں چھوئیں۔ پھر جو کوئی نہ کر سکے تو

فِاطْعَامٍ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكُمْ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

کھانا دینا ہے ساٹھ محتاج کا۔ یہ اس واسطے کہ حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ

اور یہ حدیں باندھی ہیں اللہ کی۔ اور منکروں کو دکھ کی مار ہے۔

شکوہ التجاجاتون پریشان حال دربار گاہ رب العزت ذی الجلال

و نزول حکم ظہار

قال الله تعالى. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ الی عَذَابُكَ أَلِيمٌ .

(رابط) گزشتہ سورت کا مضمون انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور ان کے ذریعہ عالم دنیا کے لیے سامان ہدایت و رحمت کا ذکر تھا اب اس سورت کی ابتداء اس مضمون سے کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ایسے ہدایت و احکام نازل فرماتا ہے جن سے لوگ اپنی پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی کے کسی شعبہ میں بھی کسی وقت پریشان و مضطرب ہوں تو خدا تعالیٰ کس طرح ان کی التجاجات مستفتا ہے اور احکام شریعت کے ذریعہ کس طرح ان کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا۔

بے شک اللہ نے سن لی ہے اس عورت کی بات جو اے ہمارے پیغمبر آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے خاوند کے حق میں اور شکایت کر رہی تھی اپنی مصیبت و پریشانی کی اللہ کے سامنے اور اسی کی بارگاہ میں التجا کر رہی تھی اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کے سوال و جواب کو اور آپس کی رد و قدح کو کہ خولہؓ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ! اس نے مجھے طلاق نہیں دی اور اب میں کس طرح زندگی گزاروں کہ اس کے یہ کہنے سے کہ ”تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے“ میں حرام ہو گئی۔ اور آپؐ کہتے تھے کہ مجھ پر تو کوئی اور حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا۔ بے شک اللہ خوب سنتا دیکھتا ہے تو اس نے ایک دکھی عورت کی آواز و التجا کو سنا اور اس کی مصیبت و پریشانی سے نجات پانے کا راستہ پیدا کر دیا اور آئندہ کے لیے اس قسم کی بات کرنے والوں کے واسطے یہ حکم نازل کر دیا کہ جو لوگ ظہار کر بیٹھیں تم میں سے اپنی عورتوں سے اور ان کو اپنی ماں کہہ بیٹھیں اور ماں کے بدن سے لڑتے تشبیہ دیدیں تو وہ نہیں ہو جائیں اٹنی ماںیں۔۔۔۔۔ ان کی ماںیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جانا اور یقیناً وہ بول رہے ہیں ایک بہت ہی ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہ جس عورت نے ان کو جانا نہیں وہ کیسے ان پر ماں کی طرح حرام ہو سکتی ہے یہ بیہودہ بات ایسی تو نہ تھی کہ اس پر درگزر کیا جاتا لیکن اللہ بہت ہی درگزر کرنے والا ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے تو اب ایسی صورت حال میں قانون خداوندی اور حکم شرعی یہ ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے ظہار کر لیں اور پھر وہ لوٹنا چاہیں اسی چیز کی طرف جس کے واسطے انہوں نے یہ کہا یعنی حرمت تعلق اور وہ پھر اس علاقہ حریت کی طرف لوٹنا چاہیں تو ایک غلام آزاد کرنا ہے اس سے قبل کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں عہ۔ اے مسلمانو! یہ ہے وہ بات جس کی نصیحت تم کو کی جا رہی ہے۔ اور اس حکم کا تم کو پابند کیا جا رہا ہے۔ اور اللہ تو خوب خبر رکھنے والا ہے ان تمام کاموں کی جو تم کرتے ہو پھر اگر کوئی شخص نہ پائے غلام اور اس کی

عہ حنفیہ کے بیان ظہار میں یہی حکم ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے قبل مرد و عورت آپس میں نہیں مل سکتے جماع اور دواعی جماع سب ممنوع ہیں۔ چنانچہ متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے۔ زہریؒ نے تصریح کی ہے کہ لمس و تقبیل وغیرہ بھی جائز و حلال نہیں ہے جب تک کہ کفارہ نہ ادا کرے عکر مٹے۔ ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر عرض کیا یا رسول اللہ! میں نے اپنی عورت سے قربت کر لی قبل اس کے کہ میں کفارہ ادا کروں۔ آپؐ نے اس پر نیکی فرمائی اور فرمایا اس بات پر آخر تجھے کس بات نے آمادہ کیا اس نے اپنا عذر بیان کیا تو آپؐ نے فرمایا لا تقس دھا حتی تفعل ما امرک اللہ، عذو جل کہ تو اس کے قریب بھی نہ جا جب تک کہ تو اس بات کی تکمیل نہ کرے جس کا اللہ عزوجل نے تجھے حکم دیا ہے یعنی کفارہ ادا کرے امام ترمذیؒ نے اس حدیث کو حسن غریب صحیح فرمایا ہے اور امام ابو داؤد و نسائی نے اس کو عکر مٹے سے مسلاً روایت کیا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۴)

ظہار کے تفصیلی احکام کے لیے کتب فقہ کی مراجعت فرمائی جاوے ۱۷۔

قدرت نہ ہو کہ غلام آزاد کرے تو پھر دو مہینہ کے روز سے ہیں پہلے درپے پہلے اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو چھو نہیں پھرا اگر کوئی اس کی بھی کوئی استطاعت نہیں رکھتا تو ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یہ حکم مذکورہ بالا کفارہ کی تین صورتوں میں ہے اس لیے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور نابع وار ہو اللہ کے ہر حکم کے اور اس کے رسول کے اور یہ اللہ کی حدود ہیں جو اللہ نے اپنے بندوں پر مقرر کر دی ہیں ان پر ایمان لانا اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے اور کافروں کے واسطے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے حکم سے روگردانی درحقیقت انسان کا خود اپنے اوپر ظلم ہے جس کی سزا سے وہ ہرگز نہیں بچ سکتا اسی وجہ سے اللہ نے حدود مقرر کر دیں تاکہ ان سے کوئی تجاوز نہ کرے۔

ظہار کا مفہوم اور اس کا حکم شرعی

جیسا کہ تفسیری کلمات سے معلوم ہو چکا ظہار کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مرد اپنی عورت کو یہ کہے انت علیٰ کظہس اتقی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح حرام ہے۔ اصطلاح شریعت میں ظہار اپنی بیوی کو یا اس کے کسی ایسے جزء شائع کو جس سے سارے جسم کو اور ذات کو تعبیر کیا جاسکتا ہو۔ اپنی ماں سے یا اس کے کسی ایسے حصہ سے تشبیہ دینا جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اسی طرح دیگر محرمات ابدیہ سے تشبیہ دینا ظہار ہے لفظ ظہار ظہر بمعنی پشت سے مشتق ہے یہ لفظ اگرچہ تلفظ اور ذکر کیا جاتا ہے مگر مراد مجازاً یا بیٹھ یا منہم مخصوص ہوتا ہے۔ حیاء لفظ ظہار بون اختیار کیا گیا۔ کلام عرب میں اس طرح کا مجازاً استعمال شائع اور معروف ہے۔ ان آیات کے نزول سے پیشتر ظہار کو قطعی طلاق شمار کیا جاتا تھا اور اس وقت اسلام میں اس صورت خاص کا کوئی حکم بھی نازل نہ ہوا تھا اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً فرما دیا تھا کہ اب تو اس پر حرام ہو چکی اور اب کوئی صورت تیرے واسطے نہیں یہاں تک کہ یہ کفارہ کا حکم قرآن کریم میں نازل ہو گیا اب ظہار کرنے پر شریعت کے نزدیک کفارہ کی یہ شکل نکل آئی اور اس طرح کفارہ ادا کر کے مرد اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔

فقہاء کے نزدیک یہ بات تو بالاجماع ہے کہ ان الفاظ کے کہنے سے ظہار ہو جائے گا۔ لیکن ان الفاظ یعنی "انت علیٰ کظہس اتقی" کے علاوہ اور کوئی لفظ کہے اس کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً کظہس تو کہے لیکن "ام" کا لفظ نہ کہے تو اگر ام کے علاوہ کسی غیر محرم کا ذکر کیا یعنی محرم سے تشبیہ نہیں دی تو اس صورت میں بالاتفاق ظہار نہ ہوگا۔ اس لیے کہ اپنی عورت سے قربت کو اگر ایسی عورت کی قربت سے تشبیہ دی جس سے نکاح ہو سکتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ البتہ اگر ماں کے سوا ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دی جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہیں خواہ نسبتاً ہوں مثلاً بہن۔ چھوٹی۔ بیٹی۔ نواسی یا رضاعت کے رشتہ سے مثلاً جیسے کہ رضاعی بہن اور رضاعی بیٹی وغیرہ تو ان صورتوں میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظہار ہوگا امام شافعی کے نزدیک اس میں دو قول ہیں پہلا قول یہ تھا کہ ظہار نہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ظہار ہے۔ دوسری شکل یہ کہ ماں کی پشت سے تشبیہ نہیں دی بلکہ اس کے کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں ایک ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ ان کا دیکھنا

حرام نہیں مثلاً ہاتھ۔ پاؤں۔ چہرہ۔ آنکھ تو اس میں ظہار نہیں اور اگر ایسے اعضاء سے تشبیہ دی ہے کہ ان کا دیکھنا حرام ہو مثلاً ران۔ سرین اور پیٹ تو امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک ظہار ہے۔
 تیسری شکل یہ کہ نہ ماں کا ذکر ہو اور نہ پشت کا بلکہ یہ کہے کہ تو مجھ پر میری بہن یا بیٹی کی طرح ہے تو اس شکل میں فقہاء حنابلہ و شافعیہ ظہار نہیں کہتے لیکن امام ابوحنیفہؒ کے نزدیک اس شکل میں بھی ظہار ہے فقط منکر سے ظاہر ہوتا ہے کہ ظہار مسلمان کر سکتا ہے۔ کافر ذمی کو ظہار کا حق نہیں۔
 تفصیل کے لئے کتب فقہ کی مراجعت فرمائیں۔

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَيْتُوا كَمَا كَبِتَ

جو لوگ مخالف ہوئے اللہ سے، اور اس کے رسول سے، وہ رد ہوئے جیسے کرد

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ

ہوئے ان سے پہلے، اور ہم نے اتاریں ہیں آیتیں صاف۔ اور منکروں کو

عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا

ذلت کی مار ہے۔ جس دن اٹھادے گا اللہ ان سب کو، پھر بتا دے گا ان کو

عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوا اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

انکے کیے۔ اللہ نے وہ گن رکھے ہیں اور وہ بھول گئے۔ اور اللہ کے سامنے ہے

شَهِيدٌ ۝

ہر چیز پر۔

تنبیہ و عید بر بغاوت و نافرمانی از حکم خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الخی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
 (رابطہ) گزشتہ آیات میں کفارہ ظہار کا حکم بیان فرما کر اطیر میں فرما دیا گیا تھا یہ احکام اللہ کی حدود ہیں۔ اور
 حدود خداوندی سے تجاوز کرنا اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہو سکتا تو اب ان آیات میں احکام خداوندی سے بغاوت

کرنے والوں اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والوں پر وسیع و تنبیہ ہے فرمایا۔

بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی وہ ذلیل و خوار ہوئے جیسا کہ ذیل ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے اور ہم نے انار دی ہیں کھل کھلی نشانیاں اور واضح احکام جن کے بعد نہ کوئی تردد ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ایہام باقی رہ سکتا ہے اور کافروں کے واسطے بڑا ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ جس دن کہ اٹھانے گا اللہ ان سب کو پھر کھول کر رکھ دے گا ان کے سامنے ان کے وہ کام جو انہوں نے کیئے۔ اللہ نے تو اس کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہوں نے اس کو بھلا دیا ہے ہر انسان اور اس کا عمل اور اس کی ہر حالت خدا کے احاطہ میں ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں گو انسان اپنے اعمال اور احوال کو بھلا دیتا ہے اور نہ ہی اس کو قیامت یاد رہتی ہے۔ اور اللہ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے کوئی ذرہ آسمانوں اور زمین میں اس سے پوشیدہ نہیں۔ ہر ایک کے سامنے اس کے اعمال کا دفتر کھول کر رکھ دیا جائے گا زبان پر ہر گادی جائے گی اور انسان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیتے ہوں گے۔ الغرض اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے کسی بھی نافرمان اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے کو دھوکہ میں نہ رہنا چاہیئے کہ وہ اللہ کی گرفت اور عذاب سے بچ جائے گا۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط

تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔

مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُمْ رَاٰبِعَهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ

کہیں نہیں ہوتا مشورہ تین کا، جہاں وہ نہیں ان میں چوتھا، اور نہ پانچ

إِلَّا هُمْ سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا

جہاں وہ نہیں ان میں چھٹا، اور نہ اس سے کم نہ زیادہ جہاں وہ نہیں

هُوَ مَعَهُمْ آيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ

ان کے ساتھ، جہاں کہیں ہوں۔ پھر بتا دے گا ان کو جو انہوں نے کیا قیامت

الْقِيَامَةِ ط إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۴۰ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ

کے دن۔ بے شک اللہ کو معلوم ہے ہر چیز۔ تو نے نہ دیکھے؟

الَّذِينَ نَهَوْا عَنِ التَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعْوَدُونَ لِمَا نَهَوْا عَنْهُ

جن کو منع ہوئی کانا بھوسی، پھر وہی کرتے ہیں جو منع ہو چکا ہے۔

وَيَتَجَوَّنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ

اور کان میں باتیں کرنے ہیں گناہ کی، اور زیادتی کی، اور رسول کی بے حکمی کی۔ اور

إِذَا جَاءُوكَ حَتُّوكَ بِمَا لَمْ يَحِيبْكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي

جب آدیں تیرے پاس تجھ کو دعا دیں جو دعا نہیں دی تجھ کو اللہ نے، اور کہتے ہیں

أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ

اپنے دل میں، کیوں نہیں عذاب کرتا ہم کو اللہ؟ اس پر جو ہم کہتے ہیں۔ بس ہے انکو دوزخ

يَصَلُونَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

پہنچیں گے اس میں، سو بڑی جگہ پہنچے۔ اے ایمان والو! جب

تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ

کان میں بات کرو، تو مت کرو بات گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی

الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

بے حکمی کی، اور بات کرو احسان کی اور ادب کی اور ڈرتے رہو اللہ سے، جس

إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزَنَ

کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ جو ہے کانچھوسی، سو شیطان کا کام ہے کہ دیکھ کرے

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْءٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ

ایمان والوں کو، اور وہ ان کا کچھ نہ بگاڑے گا بن حکم اللہ کے۔ اور

عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

اللہ پر چھاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو! جب تم کو کہیں

قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ

کھل بیٹھو مجلسوں میں، تو کھل جاؤ، اللہ کھلا دے گی

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ

دے تم کو۔ اور جب کیے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو۔ اللہ اُونچے کرے ان کے جو ایمان

أَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا

رکھتے ہیں تم میں، اور علم، بڑے درجے۔ اللہ خبر

تَعْمَلُونَ خَيْرٌ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَجَّيْتُمْ

رکھتا ہے جو کرتے ہو۔ لے ایمان والو! جب تم کان میں بات

الرَّسُولِ فَقَدْ مَوَّابِينَ يَدَى نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ

کہو رسول سے تو آگے دھرو، اپنی بات کہنے سے پہلے خیرات۔ یہ

خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

بہتر ہے تمہارے حق میں، اور بہت ستھرا پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

أَسْفَقْتُمْ إِن تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْوِكُمْ صَدَقَةٌ

کیا تم ڈر گئے! کہ آگے رکھا کرد کان کی بات سے پہلے خیراتیں۔

فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ

سو جب تم نے نہ کیا، اور اللہ نے معاف کیا تم کو تو اب کھڑی رکھو نماز اور

آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط

دیتے رہو زکوٰۃ، اور حکم پر چلو اللہ کے اور اس کے رسول کے،

وَاللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا

اور اللہ کو خیر ہے جو کچھ

تَعْمَلُونَ ۝

تم کرتے ہو۔



بیان عظمتِ خدائی و ادبِ حاضری در بارگاہِ رسالت

قال اللہ تعالیٰ۔ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ یُعَلِّمُ الی وَاللّٰهُ خَبِیْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۔

(رابط) اس سے قبل ان غافلوں اور نافرمانوں پر وسیع تھی جو اللہ کے رسول کے احکام سے بغاوت کریں روزِ قیامت اور اپنے اعمال کے نتیجہ کو فراموش کر دیں ان کو آگاہ فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے اس کے علم اور قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و جلال کا ذکر ہے اور یہ کہ اس کے رسول کی خدمت میں حاضری کے ادب کیا ہیں اور جو منافقین و یہود آپ کے پاس محض آپ کا وقت ضائع کرنے یا آپ کو ایذا پہنچانے کی غرض سے آتے ہیں اس کے پیش نظر مسلمانوں پر کچھ احکامِ ادب و عظمت کے بیان فرمائے گئے تاکہ مخلص کا فرق ظاہر ہو سکے۔ ارشاد فرمایا اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ جانتا ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے انسانوں کے اعمال تو کیا ہر ذرہ کا ثنات اس کی نظروں کے سامنے ہے کوئی بھی سرگوشی اور مشورہ تین آدمیوں کا نہیں ہوتا ایسا کہ وہ ان کا چوتھا نہ ہو اور نہ پانچ کا جہاں وہ نہ ہوتا ہوا ان کا چھٹا اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زائد کا کوئی مشورہ دیرگوشی مگر یہ کہ وہ پروردگار ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی کہیں وہ ہوں عرض کوئی مکان و زمان اور کوئی حالت اور مجلس دیرگوشی اور کوئی مخفی سے مخفی عمل ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا علم اس کو محیط نہ ہو چھپ کر مشورے کرنے والوں کو اس دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے کہ ہم خدا کی نظروں سے چھپے ہوئے ہیں اس کو سب کچھ معلوم ہے اور وہ ہر چیز محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے پھر ان کو آگاہ کر دے گا اور جلد دے گا قیامت کے روز ان اعمال کو جو انہوں نے کیے بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔ اس بنا پر نہ تو کسی کو حق تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سے غفلت برتنی چاہیے جیسا کہ کچھ منافقین دہود کرتے تھے تو کیا اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو آپس میں سرگوشیوں سے منع کئے گئے لیکن پھر وہ لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کی ان کو ممانعت کی گئی اور آپس میں سرگوشی کرتے ہیں گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی اور جب آئیں اے پیغمبر یہ لوگ آپ کے پاس تو توجیہ و سلام کرتے ہیں اس طرح سے کہ اللہ نے آپ کو توجیہ نہیں کیا اور ان الفاظ سے آپ کو دعا سلامتی نہیں دی۔ اللہ نے تو اپنے رسولوں کو سَلَامٌ عَلَیْہِ السَّلَامِ فرمایا اور سَلَامٌ عَلَیْہِ عِبَادِہِ الْکَذِبِیْنَ اصْطَفٰی کہا اور اسی طرح السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ۔ التوجیہات میں فرمایا مگر یہ منافق اور یہودی جب آپ کو توجیہ کرتے تو السَّلَامُ عَلَیْکَ کے بجائے السام علیک کہتے اور سام کے معنی موت ہیں تو اسی طرح نازیبا الفاظ کہہ کر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور

عہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں - ۱۲

مؤمنین کو ایذا بھی پہنچاتے ہیں اور خود اپنی باطنی گندگی و خبثت کی وجہ سے اپنے دلوں میں کہتے ہیں کیوں نہیں ہم کو اللہ عذاب دیتا ہمارے اس کہنے پر اگر ہم اس کے پیغمبر کی توہین و دل آزاری کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ عالم دنیا میں اس طرح کا نظام اللہ کی حکمت کے پیش نظر ممکن نہ تھا کہ جو گستاخ اور یہودی یا کافر کوئی بھی یہودہ لفظ زبان سے نکالے تو فوراً ہی اس پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے ایسی صورت میں تو پھر ایمان بالغیب کا کوئی درجہ نہیں رہتا اس وجہ سے فرمایا بس کافی ہے ان کو دوزخ جس میں یہ داخل ہوں گے قیامت کے روز سو وہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے جس کی طرف ان کو لوٹنا ہے۔

یہودیوں اور منافقوں کی یہ کس قدر خباثت تھی کہ باوجود اس طرح سرگوشیوں کی ممانعت کے پھر بھی سرگوشیاں کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے والے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور عجیب عجیب قسم کے آنکھوں سے اشارے کناٹے کرتے تو اس کے بالمقابل مسلمانوں کو ہدایت فرمائی گئی اے ایمان والو! جب تم ایک دو سگر سے کوئی پوشیدہ بات کرو تو ہرگز کسی گناہ کی بات کی سرگوشی نہ کرو اور نہ زیادتی اور رسول کی نافرمانی کرنے کی۔ اور سرگوشی و مشورہ کیا کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب اٹھائے جاؤ گے ہر عمل و اخلاص کا بدلہ روزِ محشر ہر ایک کو مل جائے گا اگر یہود اور منافقین مسلمانوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل آزاری کے واسطے ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس پر مسلمانوں کو رنجیدہ نہ ہونا چاہیے ان کو یہ بات ہر وقت پیش نظر ہی رکھنی چاہیے کہ یہ جو کچھ سرگوشی اور کاننا چھوسی ہے وہ صرف شیطان ہی کی طرف سے ہے تاکہ رنگین کر دے اہل ایمان کو اور حال یہ ہے کہ وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا

علہ حضرت شاہ عبدالقادرؒ اپنے نوائد میں لکھتے ہیں "مجلس میں دو شخص کان میں بات کریں تو دیکھنے والے کو غم ہو کہ مجھ سے کیا حرکت ہوئی جو یہ چھپ کر کہتے ہیں"

احادیث میں اس بات کی ممانعت آئی ہے کہ مجلس میں ایک آدمی کو چھوڑ کر دو شخص آپس میں سرگوشی کرنے لگیں کیونکہ اس صورت میں لامحالہ تیسرا شخص تنگین ہوگا۔ ۱۲

۱ حاشیہ صفحہ گزشتہ) عہ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے اسی لفظ سے آپ کو مخاطب کیا۔ السام علیک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن رہی تھیں ان کو غصہ آیا اور فرمائی گئیں بل علیک السام واللحنا۔ کہ بلکہ تبھی ہی پر موت اور لعنت ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے عائشہ زہری کرو۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کیا نہیں محسوس فرمایا کہ اُس نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا جواب دیا میں نے اس کو کہہ دیا وعلیک، یعنی اس کی بات اسی پر لوٹا دی اور میری بات تو اس کے حق میں قبول ہوگی۔ اور اس کی بات میرے حق میں قبول نہ ہوگی۔ ۱۲

بجز اللہ کے حکم کے کہ اگر کسی بات کے متعلق اسی کا حکم ہو تو وہ بہر کیف ہو جائے گی اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کرنے سے ان پر اس قسم کی دل آزار حرکتیں زیادہ اثر انداز نہ ہوں گی۔ اور ان کا یہ اعتقاد کہ کوئی چیز اور کوئی بھی سازش بغیر اذن الہی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ان کے دلوں کے ایمان و تقویٰ کو اور مضبوط کر دے گا اگر منافق و یہود برائی کی باتوں کی سرگوشیوں میں مصروف ہیں تو اہل ایمان کو نیکی اور تقویٰ کے مشوروں میں لگ جانا چاہیے۔ ان آداب و بدایات کے ساتھ اس ادب کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ

اے ایمان والو جب تم کو کہا جائے کھل کر بیٹھو مجلس میں تو کھل جاؤ اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے کشادگی فرمائے گا۔ اس لیے ایسا نہ کرنا چاہیے کہ منتشر بیٹھیں اور دوسرے آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ نہ رہے بلکہ قریب قریب حلقہ بنا کر بیٹھتے رہیں اور اگر کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ کھڑے ہو جایا کرو حلقہ بنانے اور جگہ کشادہ کرنے کے لیے یا مجلس میں بعد میں آنے والوں کو جگہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے تم میں سے ایمان لانے والوں اور علم والوں کے درجات حقیقت یہی ہے ایمان، اخلاص اور تہذیب و شائستگی جہاں انسان کو تواضع سکھانے کا درجہ ہے اسی کے ساتھ مراتب و درجات کی بندی کا بھی باعث ہے اور اللہ خوب جانتا ہے ان تمام کاموں کو جو لوگوں کو تم کرتے ہو۔ اس وجہ سے ہر ایک کو اس کے اخلاص اور صلاحیت کے اعتبار سے اجر و ثواب ملے گا ایمان اور علم بھی دو نعمتیں ہیں جن سے انسانوں کی صلاحیتوں اور استعداد میں جلا اور خوبی حاصل ہوتی ہے تو ان ہی پر درجات و مراتب کی بندی مرتب فرمائی گئی۔

منافق چونکہ ہر طرح اسی کی کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ایذا پہنچے اور اسی طرح وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض و برکات سے مستفیض نہ ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر ضروری باتیں کرنے لگتے اور دقت ضائع کرتے اور آپ اپنی مروت و اخلاص کے باعث کسی کو منع نہ فرماتے تو اس وجہ سے یہ حکم نازل فرمایا گیا کہ آنحضرت سے جو بھی کوئی خصوصی مجلس کی طرح مشورہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ ان عزیزان کے واسطے صدقہ دے جو اصحاب صفہ اور دیگر عزیزان مسجد نبوی میں شب و روز رہتے ہوں تاکہ ان غریبوں کی اعانت بھی ہو اور اس کے باعث جو حقیقت ضرورت مند اور مخلص ہوگا وہی خصوصی مشورہ اور سرگوشی کے لیے ماضی چاہے گا تو فرمایا اے ایمان والو جب تم کوئی سرگوشی اور مشورہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اپنی سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ بھیج دیا کرو۔ یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ کیونکہ صدقات سے انسان کی باطنی کدورتوں اور کثافتوں کا ازالہ ہوتا ہے اور تقویٰ و طہارت کے آثار رونما ہوتے ہیں۔ پھر اگر تم نہ پاؤ کوئی چیز صدقہ کی پہلے بھیج دینے کے لیے تو بس اللہ بڑا ہی بخش دینے والا مہربان ہے۔ اس طرح غیر مستطیع لوگوں کے حق میں پہلے ہی ہولت فرمادی گئی۔

یہ جو کچھ مقرر ہوا تھا محض نفس کے تزکیہ اور منافق و مخلص کے امتیاز کے لیے۔ منافقین نے تو بخل کی وجہ سے پہلے ہی مجلس میں خصوصی سرگوشی کا سلسلہ بند کر دیا اور جو مسلمان بلا وجہ ہی خصوصی ملاقات کا ارادہ کرتے

تھے۔ انہوں نے بھی یہ سوچ کر کہ یہ سرگوشیاں اللہ کو پسند نہیں بالآخر اس طرح اس حکم کو تبدیل فرما دیا گیا کہ تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات بھیجا کرو۔ بہر حال جب تم نے ایسی بات نہیں کی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو اب تم قائم رکھو نماز اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرتے رہو اسی میں تمہارے واسطے نجات و کامیابی اور فلاح و سعادت ہے اور اللہ خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ نہ کسی کا عمل خدا سے مخفی ہے اور نہ کسی کے اخلاص اور سعادت سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے ہر ایک کو اس کے اخلاص و عمل کا ضرور پورا پورا اجر و ثواب دے گا۔

سنا جات دسرگوشی پر جو صدقہ کا حکم تھا وہ عارضی تھا اور اس کی غرضی پوری ہو گئی تو اس کو تو اٹھا یا گیا ہاں جو احکام ابدی اور دائمی ہیں وہ ہمیشہ قائم و باقی رہیں گے سوان کو قائم رکھو نماز پڑھتے رہو۔ زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور ہر حکم کی اطاعت و فرما برداری میں مستعد و تیار رہو۔

استاذی محترم شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ فَاذْكُرُوا الَّذِي كَفَرْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حکم پر عام طور سے عمل کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی بعض روایات میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے امت میں صرف میں ہی ایک شخص ہوں جس نے اس حکم پر عمل کیا (باقی اور کسی کو نوبت ہی نہیں آئی)۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ

ترنے نہ دیکھے؟ وہ جو رفیق ہوئے ہیں ایک لوگوں کے، جن پر غضب

عَلَيْهِمْ طَاهَرٌ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكُذِبِ

ہوا ہے اللہ، نہ وہ تم میں ہیں نہ ان میں ہیں، اور قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بات پڑ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ

اور خبر رکھتے ہیں۔ رکھی ہے اللہ نے ان کو سخت مار۔ بے شک وہ

سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا

بڑے کام ہیں جو کرتے رہے ہیں۔ بنایا ہے اپنی قسموں کو ڈھال، پھر روکے ہیں

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ تَغْنِي

اللہ کی راہ سے، تو ان کو ذلت کی مار ہے۔ کام نہ آویں گے

عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ

ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، اللہ کے ہاتھ سے کچھ - وہ لوگ

أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ

ہیں دوزخ کے - اسی میں رہ پڑے - جس دن جمع کرے گا اللہ انکو

جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

سارے، پھر تمہیں کھادیں گے اس کے آگے جیسے کھاتے ہیں تمہارے آگے، اور خیال رکھتے ہیں کہ

عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْكَٰذِبُونَ ﴿۱۸﴾ اسْتَحْوِذْ عَلَيْهِمْ

وہ کچھ بھلی راہ پر ہیں سنا ہے وہی ہیں اصل جھوٹے - قابو میں کر لیا ہے ان کو

الشَّيْطٰنُ فَانۡسَمۡ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ الشَّيْطٰنِ

شیطان نے پھر بھلائی ان کو اللہ کی یاد - وہ لوگ ہیں جتنھا شیطان کا۔

اَلَا اِنَّ حِزۡبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوۡنَ ﴿۱۹﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ

سناتا ہے جو جتنھا ہے شیطان کا۔ وہی خراب ہوتے ہیں - جو لوگ مخالف

يُحٰدِثُوۡنَ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهُ اُولٰٓئِكَ فِی الْاٰذِلٰیۡنَ ﴿۲۰﴾ كَتَبَ

ہوتے ہیں اللہ سے اور رسول اس کے سے، وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں - اللہ

اللّٰهُ لَا غَلِبَۡنَ اَنَا وَرَسُوۡلِیۡ اِنَّ اللّٰهَ قَوِیُّۡ عَزِیۡزٌ ﴿۲۱﴾ لَا

کھ چکا کہ میں زبرد ہوں گا اور میرے رسول - بیشک اللہ زور آور ہے زبردست - تو نہ

يَجِدُ قَوْمًا یُّؤْمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالیَوْمِ الْاٰخِرِ یُوَادُّوۡنَ

دیکھے گا کوئی لوگ، جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر، پھر دوستی کریں

مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوۡلَهُ وَلَوْ كَانُوۡا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَاۡهُمُ

ایسوں سے، جو مخالف ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے، پڑے وہ اپنے باپ ہوں یا بیٹے ہوں

أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۗ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ

یا اپنے بھائی یا اپنے گھرانے کے - ان کے دلوں میں لکھ دیا ہے

الْإِيمَانَ ۖ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

ایمان ، اور ان کی مدد کی ہے اپنے غیب کے فیض سے۔ اور داخل کرے گا انکو باغوں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ رَضِيَ اللَّهُ

میں، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں۔ سدا رہیں ان میں - اللہ ان سے راضی

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ

اور وہ اس سے راضی - وہ ہیں جنت کا اللہ کا - سنتا ہے جو

حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۲﴾

جنت کا وہی مراد کہ پہنچے -

تنبیہ و عید برموالات و دوستی از قوم مغضوب علیہم ذلت و ناکامی
حزب الشیطان فلاح و کامیابی حزب اللہ

قال الله تعالى- أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا... الخ --- إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
اربطا گزشتہ آیات میں ان منافقین و یہود کا ذکر تھا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر آپ کو اور مسلمانوں کو ایذا پہنچانا چاہتے تھے اور مختلف طریقوں سے یہی چاہتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و بھرتی کی جائے تو اب ان آیات میں مسلمانوں کو اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ایسے گستاخوں اور مغضوب علیہم لوگوں کے ساتھ کسی طرح موالات و دوستی نہ رکھی جائے مقصود یہ کہ جو اسلام اور اللہ کے پیغمبر کے دوست ہیں ان کے واسطے یہ بات زریعہ نہیں دیتی کہ ایسے گستاخوں اور اسلام دشمن عناصر سے تعلقات و دوستی قائم کریں اسی کے ضمن میں ان کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان حملوں کو بیان کیا جا رہا ہے جو وہ اختیار کیا کرتے تھے تو ارستاد مبارک ہے اے مخاطب کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کو جو دوست رکھتے ہیں۔ اس

قوم کو جس پر غضب ہوا اللہ کا، اور ان کو خدا نے مغضوب علیہم قرار دیا اور یہ گروہ منافقین ہے جنہوں سے یہود سے دوستی اور موالات قائم کی جو نہ تو تم میں سے ہیں کیونکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں محض زبانی اسلام کا دعویٰ ہے اور نہ ان کا سر دل سے ہیں جو کھلم کھلا کفر و انکار کرتے ہیں بلکہ یہ لوگ زبان سے کہنے والے ہیں "اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَبِّ الْاٰخِرِ" اور حقیقت یہ ہے کہ "وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ" اور قسم کھاتے ہیں جھوٹ بات پر اور حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹے ہیں تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان منافقوں کے واسطے ایک سخت عذاب جو "در لث الاسفل من المثلث" ہے بے شک بہت ہی برے ہے وہ کام جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نفاق دھوکہ ایذا و رسانی اور لوگوں کو راہ ہدایت سے روکنے کی پوری پوری کوشش۔ یقیناً یہ کام عقل اور فطرت کی رو سے بدترین کام ہیں جس کے باعث یقیناً ان کے واسطے دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی شدید عذاب ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اپنے بچاؤ اور اعتراض و گرفت سے بچنے کے لیے پھر اس ڈھال اور رکاوٹ کے ساتھ روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے تو یقیناً ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے ان کو اس گمان میں نہ رہنا چاہیے کہ کوئی تدبیر اور ذریعہ ان کو عذاب خداوندی سے بچا دے گا ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے حکم اور اس کے فیصلہ کے مطابق ذرہ برابر بھی اور یہ لوگ جہنم والے ہوں گے ہمیشہ عذاب جہنم میں ہی رہیں گے جس روز اللہ ان سب کو قیامت کے روز جمع کرے گا تو دنیا کی عادت کی طرح وہاں بھی پھی کریں گے کہ پھر اس کے سامنے بھی نہیں کھائیں گے جس طرح دنیا میں لے مسلمانو! تمہارے سامنے نہیں کھایا کرتے تھے اور کہیں گے لے پردہ و گارہم تو ایسے نہیں تھے ہم تو ایمان و یقین رکھتے تھے اور گمان کریں گے کہ وہ کسی راہ پر ہیں خبردار ہو جاؤ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہی ہیں۔ ان کی کسی بات میں صداقت کا امکان ہی نہیں اور نہ یہ ممکن ہے کہ یہ کسی صحیح راستہ پر ہوں۔ حقیقت تو یہ ہے شیطان ان پر مسلط ہو چکا پھر ان کو خدا کی یاد سے قطعاً غافل بنا دیا۔ ایسے ہی لوگ شیطان کی پارتی ہیں۔ آگاہ ہو جانا چاہیے کہ شیطان کے گروہ والے ہی وہ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں اور ناکام و ذلیل ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شیطان اور شیطان کے گروہ کے منصوبے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کو نجات نصیب ہوگی اور نہ عذاب شدید وہیں سے چھٹکارے کی کوئی سبیل ہوگی۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت دشمنی کرتے ہیں یہ سب ذلیل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ حتیٰ و صداقت کے خلاف جنگ اور مقابلہ ذلت و ناکامی ہی کا سبب ہوگا۔

فیصلہ لکھ دیا ہے اللہ نے اس بات کا کہ یقیناً میں غالب ہوں گا اور میرے رسول کا میاب و غالب ہوں گے۔ بے شک اللہ بڑا قویست و عزیزت والا ہے۔ خدا کی طاقت کو نہ کوئی زیر کر سکتا ہے اور نہ کوئی باطل کی طاقت خدا کے ارادوں کو مغلوب کر سکتی ہے۔ حق تعالیٰ کے اس فیصلہ اور قانون کے پیش نظر اے ہمارے پیغمبر ہم آپ پر یہ بات واضح کر رہے ہیں۔ آپ ہرگز کسی بھی ایسی قوم کو جو اللہ پر اور روز قیامت پر

ایمان لانے والی ہے نہیں پائیں گے کہ وہ دوستی کرے ایسی قوم سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مٹا کر رہے ہوں اور ان کے احکام سے بغاوت کر رہے ہوں اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے یا بھائی ہوں یا ان کے قبیلے و خاندان ہوں ایسے ہی لوگ ہیں وہ جن کے دل میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کے دلوں کی گہرائیوں میں ایمان راسخ ہے اور تائید کی ہے ان لوگوں کی اپنی طرف سے ایک غیبی فیض سے اور روحانی برکات سے ان کو ایسا مضبوط کر دیا ہے کہ وہ ایسے احوال کا مقابلہ کرتے رہیں اور ہر مخالفت اور مانع کی دور کرنے کی ہمت اپنے میں پاتے ہیں اس تائید غیبی یا جبریل امین (جن کا لقب روح الامین ہے) کی مدد سے ان کو ایک خاص معنوی حیات و قوت نصیب ہوتی ہے۔ کفر اور کافروں کے مقابلہ میں اس تائید غیبی سے یمن کامیاب و غالب ہوتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرمایا کرتے تھے کہ کفر و شرک کا رد کرو اور کفار کو کی بھج میں وہ اشعار پڑھتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اللہم ایتدہا بس روح القدس کہ لے اللہ تو ان کی مدد فرما روح القدس کے ذریعے۔ اور داخل کرے گا اللہ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں دائمی ہیں ان انعامات و کرامتوں پر مزید انعام یہ ہو گا کہ راضی ہو گا اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے اس کے انعامات پر خوش ہوں گے یہ اللہ کی رضا و خوشنودی اور اہل ایمان کا اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا اس بات کا ثمرہ ہو گا کہ خدا ایسے ایمان والوں سے دنیا میں بھی راضی ہوا اور وہ منومنین بھی اس کی اطاعت و فرماں برداری پر راضی رہے تو اس کا نتیجہ آخرت میں رضا الہی کی صورت میں رونما ہوا اور اہل ایمان اس کے انعامات پر خوش ہوئے جب کہ ان کو اپنے اعمال کی نسبت سے بہت زیادہ گراں قدر نعمتیں ملیں جن کا یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ یہی لوگ ہیں حزب اللہ (خدا کا گروہ) بے شک خدا کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے اور خدا کے گروہ والے ہی دنیا میں بھی غالب آتے ہیں اپنی مراد پاتے ہیں اور آخرت میں بھی ان ہی کو کامرانی و خوشی نصیب ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جن اللہ کے برگزیدہ بندوں نے خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے اپنے خویش و اقارب کو ناراض کیا ان کی دشمنی مولیٰ بلاشبہ اس کا بدلہ ہی ہونا چاہیے کہ وہ خداوند عالم کی خوشنودی و رضا سے سرفراز فرمائے جائیں اور ایسی نعمتیں اور راحتیں ملیں کہ وہ خود بھی خوش ہو جائیں۔ اللہم اجعلنی منہم آمین یا رب العالمین۔

حافظ ابن کثیر نے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کی تفسیر میں سعید بن عبدالعزیز کی سند سے روایت کیا کہ یہ آیت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے بارہ میں نازل ہوئی جنہوں نے اپنے مشرک باپ کو غزوہ بدر میں قتل کیا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجلس شوریٰ قائم فرمائی تو ان چھ حضرات کی خاص خصوصیت میں یہ فرمایا أُولَئِكَ السِّتَةُ الَّذِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ کہ یہ وہ چھ حضرات ہیں جن سے اللہ راضی ہوا۔ تو ابو عبیدہؓ و لو کانوا آباءنا ہم کا صدق ہو اور آباءنا ہم کا صدق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے جب کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے عبدالرحمن جو اس وقت مشرکین کہہ کی فوج میں تھے کہ اگر سامنے آجائے

قتل کر دوں گا اور اِخْوَانَهُمْ كَامِصِدَاقِ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو بدر میں قتل کیا اور عَشْرَتَهُمْ كَامِصِدَاقِ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے جب کہ انہوں نے اپنے خاندان کے بعض افراد کو قتل کیا۔

اس آیت مبارکہ میں بیان کردہ اہل ایمان کی شان اس وقت بھی ظاہر ہوئی جب کہ بدر کے قیدیوں کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ فدیہ لینے میں کچھ مسلمانوں کے واسطے مدد اور تقویت کا سامان ہو جائے گا مزید یہ لوگ جب کہ خود اپنے عمیرہ دقبیلہ ہی کے ہیں تو اس طرح کے انعام و احسان سے ممکن ہے اسلام کی طرف مائل ہو جائیں۔ مگر عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ میری یہ رائے نہیں ہے جو ابو بکرؓ کی ہے۔ میری تو رائے یہ ہے کہ یا رسول اللہ یہ لوگ ائمۃ الکفر ہیں ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ کفر کی طاقت و شوکت پامال ہو مجھے آپ اجازت دیں کہ اپنے فلاں رشتہ دار (بھائی) کو قتل کروں اور علی رضی اللہ عنہ کو فرمائیے کہ وہ عقیل اپنے بھائی کو قتل کرے اور فلاں کو فرمائیے کہ فلاں کو قتل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھ لے کہ ہمارے دلوں میں مشرکین اور خدا کے دشمنوں کی قطعاً کوئی محبت نہیں۔ قصہ کی تفصیل کے لیے کتب سیرت کی مراجعت فرمائی جاوے۔ (تفسیر ابن کثیر۔ روح المعانی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْحَشْرِ

حضرت عبداللہ بن عباسؓ اس سورت کو سورۃ بنی النضیر بھی کہا کرتے تھے اس وجہ سے کہ اس سورۃ میں بنو نضیر کا واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے۔

حشر کے معنی لغت میں جلا وطنی کے ہیں تو اس سورت میں یہودیوں کی جلا وطنی اور ذلت و خواری کا ذکر ہے کہ وہ کس طرح مدینہ اور مضافات مدینہ سے جلا وطن کیئے گئے جو قدرت خداوندی کا عظیم کرشمہ تھا کہ اس نے اپنے رسول کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرمایا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا آغاز حق تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تقدیس سے فرمایا اور اختتام بھی تسبیح و تنزیہ پر فرمایا اور سورت کے اختتام پر اپنی صفات کمال و جلال کو بھی ذکر فرمادیا تاکہ اللہ رب العزت کی کمال قدرت اور کمال حکمت ظاہر ہو۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ مجاہد اور زہریؒ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ اور مضافات مدینہ میں بسنے والے یہود سے صلح و معاہدہ فرمایا تھا۔ معاہدہ کی اصل بنیاد یہ تھی کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف کوئی اقدام فرمائیں گے نہ خود قتال کریں گے اور

کسی قتال کرنے والی قوم کی مدد کریں گے، اسی طرح یہودی نہ قتال کریں گے اور نہ قتال کرنے والی کسی قوم کی مدد کریں گے مگر یہودیوں نے فوراً نقض عہد کیا قریش مکہ سے ساز باز شروع کی اور ان کو جنگ پر آمادہ کیا۔ ان کا ایک بڑا سردار کعب بن الاشرف چالیس سو اردوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچا اور بیت اللہ کے سامنے قریش مکہ سے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کا معاہدہ کیا۔

غزوہ اُحد کے بعد ان یہودیوں کی نباشت و رعونت میں اور اضافہ ہو گیا جب یہ دیکھا کہ اُحد میں مسلمانوں کو پریشانی اٹھانی پڑی اور بظاہر شکست کی صورت پیش آئی تو اپنی سازشیں اور زائد کر دیں حتیٰ کہ ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خون بہا کے ادا کرنے کے سلسلہ میں بنو نضیر کے یہود کے یہاں تشریف لے گئے تو ان خبیثوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ جس جگہ تشریف فرما ہیں وہاں آپ سے بڑے بڑے ہتھیار گرا کر آپ کا اور آپ کے چند رفقاء کا خاتمہ کر دیا جائے جس پر اللہ نے بذریعہ وحی آپ کو مطلع کر دیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئے۔

ان واقعات کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اب ہمارا اور تمہارا کوئی عہد باقی نہ رہا اور تم یہاں سے نکل جاؤ ورنہ پھر جہاد و قتال ہے ان مغزوروں نے قریش سے خفیہ معاہدہ اور درپردہ منافقوں کے تعاون کے دھوکہ میں اپنے احاطوں اور قلعوں کے دروازے بند کر لیے اور سمجھے کہ ان محفوظ قلعوں سے ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو لے کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ جب یہودی اپنے مکانوں اور قلعوں میں محصور ہو گئے تو مرعوب و خوفزدہ ہو کر صلح کی التجا کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے یہ علاقے خالی کر دیں یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے کسی کی جان سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا اور جو کچھ مال و اسباب کوئی ساتھ لے جا سکتا ہے لے جائے مگر اب یہاں کسی طرح نہیں رہ سکتا۔

محاصرہ کے دوران ان کے باغات و کھیتوں کو کاٹا اور جلایا بھی گیا اس طرح اس قوم بنو نضیر کو پہلی مرتبہ جلا وطن کیا گیا اور اسیجا و تیماشام کے علاقوں میں جا کر بسے اور کچھ یہودی جیسے ابوالحق و ادریجی بن اخطب خیبر چلے گئے اور یہ زمین و باغات ہماجرین و انصار کو تقسیم کیے گئے۔ تو اس سورۃ مبارکہ میں بنو نضیر کی جلا وطنی انکی ذلت و شکست کا ذکر ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے کس طرح ان کو ان کی زمینوں قلعوں اور باغات سے نکالا اور مسلمانوں کو ان کی زمینوں کا وارث بنایا۔ جب کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم حشر تک اپنی زمینیں نہیں چھوڑیں گے خدا تعالیٰ نے انہی کا حشر اللہ جلا وطنی کا منظر ان کو دکھلا دیا اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ حشر مقرر ہوا۔

(صحیح بخاری - تفسیر ابن کثیر - روح المعانی - قرطبی)

آیاتھا ۲۳ = ۵۹ = سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۱ = رُكُوْعَاتُهَا ۳

سورہ حشر مدنی ہے اور اسکی چوبیس آیتیں اور تین رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا،

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ

اللہ کی پاک بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہی ہے زبردست

الْحَكِیْمُ ① هُوَ الَّذِیْ اَخْرَجَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ

گت والا - وہی ہے جس نے نکال دیئے، جو منکر ہیں کتاب والوں سے

الْكِتٰبِ مِنْ دِیَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا

ان کے گھروں سے پہلے ہی بھیڑ ہوتے۔ تم نہ اٹکتے تھے کہ وہ نکلیں گے

وَضَنُّوْا اَنْتُمْ مَّا نَعْتَمِدُكُمْ حِصُوْنَكُمْ مِنَ اللّٰهِ فَاَتَكُمْ اللّٰهُ

اور وہ خیال رکھتے تھے کہ ان کا بھاد ہے ان کے تلے اللہ کے ہاتھ سے، پھر پہنچا ان پر اللہ

مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا وَقَذَفَ فِي قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ

جہاں سے ان کو خیال نہ تھا، اور ڈالی ان کے دل میں دھاک،

يَخْرِبُوْنَ بِيُوْتِهِمْ بِاَيْدِيهِمْ وَاَيْدِی الْمُوْمِنِیْنَ فَاعْتَبِرُوْا

اجاڑنے لگے اپنے گھر اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں، سو دہشت مانو

يٰۤاُولِی الْاَبْصَارِ ② وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَیْهِمُ الْجَلٰءَ

لے آنکھ والو! اور اگر نہ ہوتا کہ لکھا تھا اللہ نے ان پر اجڑنا

لَعَذَّبْتُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ③

تو ان کو مار دیتا دنیا میں - اور آخرت میں ہے ان کو آگ کی مار۔

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ

اس پر کہ وہ مخالف ہوئے اللہ سے اور اسکے رسول سے، اور جو کوئی مخالف ہو اللہ سے

فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿۴﴾ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ

تو اللہ کی مار سخت ہے۔ جو کاٹ ڈالا تم نے کھجور کا پیڑ یا

تَرَكَتُمْوهَا قَائِمَةً عَلٰی اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ

رہنے دیا کھڑا اپنی جڑ پر، سو اللہ کے حکم سے اور تا روا کرے

الْفٰسِقِيْنَ ﴿۵﴾ وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مِنْهُمْ فَمَا

بے حکموں کو۔ اور جو ہاتھ لگایا اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، سو تم

اَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَارِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ

نے نہیں دوڑانے اس پر گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ

يَسِيْطُرُ رَسُوْلَهُ عَلٰی مَنْ يَّشَآءُ وَاَللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ

جتا دیتا ہے اپنے رسولوں کو، جس پر چاہے۔ اور اللہ سب چیز کے

قَدِيْرٌ ﴿۶﴾ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰی رَسُوْلِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى

کتا ہے۔ جو ہاتھ لگا دے اللہ اپنے رسول کو بستیوں والوں سے

فِللّٰهِ وِلِلرَّسُوْلِ وِلِذِي الْقُرْبٰى وَاِلْيَتٰى وَاِلْمَسْكِيْنَ

سو اللہ کے واسطے اور رسول کے اور ناتے والے کے اور بن باپ کے لڑکوں کے اور

وَابْنِ السَّبِيْلِ كِي لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ

محتاجوں کے اور مسافروں کے تا نہ آدے لینے دینے میں دولت مندوں کے تم

مِنْكُمْ وَمَا اَتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاَمَّا نَهٰكُمْ عَنْهُ

میں سے۔ اور جو دے تم کو رسول، سولے لو۔ اور جس سے منع کرے

فَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

سو چھوڑ دو۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، بیشک اللہ کی مار سخت ہے۔

جلاوطنی یہود از ارض حجاز و غلبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

برباغات قلعہائے بنی نضیر

قال الله تعالى - سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ... الخ... إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(ربط) گزشتہ سورت کے اختتامی مضمون میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اور مخالفت کرنے والوں پر وعید تھی اور ان کی ذلت و رسوائی کا بیان تھا اور خداوند عالم کی عزت و قدرت اور کبریائی کا ذکر تھا تو اب اس سورہ حشر میں اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ اور دشمنی کرنے والوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہودیوں کی ذلت و رسوائی ذکر کی جا رہی ہے کہ ان کی طاقت و شوکت اور ان کے محفوظ قلعے ان کو عذاب خداوندی سے نہ بچا سکے ارشاد فرمایا۔

پاکی بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہی زبردست قوت و عزت و حکمت والا ہے اسی کی عزت و حکمت کا یہ نتیجہ ہے کہ اسی نے نکال دیا کانٹوں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلی مرتبہ جلاوطن کرنے کے لیے کہ ان سب کو اجتماعی طور پر اپنے گھروں اور آبادی سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا اور وہ سرمایہ دار اور بڑے بڑے جتوں والے یہودی جو بنو نضیر تھے اپنے گھروں سے جلاوطن کر کے اریحا اور تیمار کے علاقوں میں آباد کیے گئے یہ پہلا حشر اور جلاوطنی تھی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوئی دوسری جلاوطنی جس کا اشارہ لفظ لَادِي الْحَشْرِ میں کر دیا گیا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پیش آئی جب کہ یہود کے ساتھ نصاریٰ بھی خیبر سے نکال کر شام کی طرف جلاوطن کیے گئے۔ اور اس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان "اخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" کی تکمیل فرمائی گئی۔

اے لوگو! تم گمان نہ کرتے تھے کہ وہ لوگ نکلیں گے اور ظاہری اسباب میں اس کی توقع نہ تھی اور ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہوا تھا کہ ان کے قلعے ان کو بچالیں گے اور ان کی حفاظت کر لیں گے خدا کے فیصلہ سے لیکن خدا کا فیصلہ ان پر آپہنچا ایسی صورت سے کہ وہ گمان بھی نہ کرتے تھے اور سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ اس طرح محصور ہو کر بے بس و مجبور ہو جائیں گے اور ذلیل و مغلوب ہو کر نکلنا پڑے گا ان کے قلعے ہتھیار اور ساز و سامان کچھ بھی کام نہ آئے گا اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو اجاڑنے

لگے اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں اپنے سردار کعب بن الاشرف کے قتل سے پہلے ہی خوفزدہ ہو چکے تھے مگر پھر ناگہانی مسلمانوں کے حملے سے بچے کچھے ہوش و حواس بھی جاتے رہے۔ خود ہی اپنے ہاتھوں اپنے مسکافوں کے دروازے کڑی تختے اکھاڑنے لگے جب کہ مسلمانوں کا لشکر بھی ان کے قلعوں کو مسمار کر رہا تھا تو یہ ایسے حقائق و واقعات ہیں کہ عبرت حاصل کر دے ایسے آنکھ والو کہ خدا کی نافرمانی کا انجام کس طرح دنیا میں ذلت و رسوائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔

اگر اللہ نے ان پر یہ جلا وطنی کا فیصلہ نہ کیا دیا ہوتا تو پھر ان کو دنیا میں عذاب دیتا جیسا کہ پہلی امتوں قوم عاد و ثمود پر دنیا میں عذاب نازل کیا گیا اور ہو سکتا تھا کہ بنو قریظہ کی طرح مارے جاتے اور آخرت میں ان کے واسطے تو ہے ہی جہنم کا عذاب۔ جن سے ان کو کسی صورت میں بھی چھٹکارا نصیب نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو بھی کوئی مقابلہ کرے گا اللہ کا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ بڑا سخت عذاب والا ہے جو مجرموں اور نافرمانوں پر واقع ہوتا ہے۔ تو بنو نغیر کے یہودیوں کے محاصرہ کے دوران لے مسلمانو! جو بھی کچھ تم نے کا تا کسی نرم کھینٹی یا کھجور کے درخت کو یا تم نے رہنے دیا اس کو اپنی جڑوں پر کھڑا ہوا سو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے اور اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اس وجہ سے کافروں کے یہ طعن و اعتراض لغو ہیں جو انہوں نے کرنے شروع کیے کہ دیکھو مسلمانوں نے کیسا ظلم کیا کس طرح کھیتیاں اجاڑیں اور کس طرح کھجور کے درخت کاٹ ڈالے اور اس صورت سے کیسا فساد برپا کیا حالانکہ خود یہ مسلمان فساد کے منع کرتے ہیں تو سن لینا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا اور اس کی عرض یہ تھی کہ کافروں کا غرور و نخوت پامال کر دیا جائے کہ جس دولت و جاہیلا پر ان کو غرور تھا وہ ان کے ہی سامنے ڈھائی جا رہی ہے۔ یہ باغات اور کھیتیاں جن کے نشے نے ان کے دماغ خراب کر رکھے تھے ان کے سامنے جلائی جا رہی ہوں تاکہ وہ دیکھ لیں یہ ہے ہماری عزت اور یہ ہے ہمارے غرور و سرکش کا متاع باطل جو آگ کے شعلوں کی نذر ہو رہا ہے یہود کی اس شکست و مغلوبی اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی صورت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا اور جو کچھ مال لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان لوگوں سے سودہ ایسا مال ہے کہ نہیں دوڑائے ہیں تم نے اس پر گھوڑے اور نہ ہی اونٹا

لیکن اللہ اپنے رسولوں کو غلبہ دے دیتا ہے جس پر چاہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے تو یہ ہے حقیقت مال فتنے کی اور اس کے مصارف و احکام یہ ہیں جو مال بھی لوٹایا اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں سے وہ اللہ کے واسطے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں کے لیے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ان سب کے حصے مال فتنے میں مقرر کر دیئے ہیں تاکہ نہ رہے یہ چیز گردکش کرنے والی ایک دولت تمہارے میں سے مالداروں کے درمیان بلکہ ان سب مصارف میں تقسیم ہو کر ان سب اقسام و انواع کے افراد کے لیے اعانت و امداد کا ذریعہ بنے اور اس لینے میں کسی شخص کو یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا حق ہے میں اس کو جس طرح سے چاہوں لوں بلکہ تمہیں قناعت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور جو کچھ تم کو رسول خدا دیں وہ لے لو اور جس چیز سے

تہیں منع کر دیں اس سے رُک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کسی بھی مرحلہ پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہ ہو سکے بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔

اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی عطا ہو یا احکام ہوں اور اوامر نہ لڑا ہی جو بھی کچھ دیا جائے اس کو لینا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور جس سے روکا جائے اور منع کیا جائے سعادت یہی ہے کہ اس سے باز رہا جائے اس کی خلاف ورزی بد نصیبی اور شقاوت ہے۔

جزیرہ عرب سے یہود کی جلا وطنی

اس سورت کی ابتدا ہُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ ان کے گھروں سے جلا وطنی کا مضمون ادا کر رہی ہے اور لفظ اَوَّلِ الْكُتُبِ سے ظاہر کر دیا گیا کہ اس پہلی مرتبہ کی جلا وطنی کے بعد پھر بھی کوئی اور وقت آئے گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکالے جائیں گے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے مولیٰ بن عقبہ کی سند سے نیز امام بخاری نے دوسرے موقع پر اسناد عبدالرزاق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر پر حملہ کیا اور قرینہ پر بھی۔ تو بنو نضیر کو جلا وطن کیا اور قرینہ پر احسان و کرم کرتے ہوئے ان کو رہنے دیا۔ لیکن جب قرینہ نے بھی بغاوت کی تو ان پر بھی حملہ کیا گیا ان کے مردوں کو قتل کیا گیا۔ خورتوں اور بچوں کو قیدی بنا یا گیا البتہ جن بعض اہل کتاب نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لی تو آپ نے ان کو پناہ دے دی اور وہ لوگ اسلام لے آئے۔ عہ

پہلی مرتبہ کی جلا وطنی کا ذکر اس سورت میں وضاحت و تفصیل کے ساتھ کیا گیا اور دوسری مرتبہ کی جلا وطنی جو فاروق اعظم کے زمانہ میں ہوئی صرف لِأَوَّلِ الْكُتُبِ کہہ کر اشارہ کر دیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس طرح نکالا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ چھوڑا گیا جس کام کی ابتدا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی اس کی تکمیل فاروق اعظم کے ہاتھوں ہوئی جو ان کی فضیلت کی عظیم ترین دلیل ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کا محاصرہ کیا۔ یہاں تک کہ یہود بنو نضیر مجبور و بے بس ہو گئے تو ان لوگوں نے اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ ہمیں منظور ہے بشرطیکہ آپ ہماری جان بخشی کر دیں تو آپ نے ان کے حق میں یہی فیصلہ فرمایا کہ وہ اپنی زمینوں، مکانوں اور وطن سے نکل جائیں اور شام کے علاقہ میں جا کر بس جائیں آپ نے ہر تین کو ایک مشکیزہ اور ایک اونٹ کی اجازت دی تاکہ وہ اس پر سفر کر سکیں اور پینے کے لیے

پانی رکھ سکیں تو یہ پہلی مرتبہ کی جلا وطنی تھی۔

غنیمت اور فتنے کے درمیان فرق

بنو نضیر کے اموال شریعت کے نزدیک مال فتنے ہوئے اور اسی حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہاں قرآن کریم نے فتنے کا مفہوم متعین کر دیا جیسا کہ ارشاد فرمایا: وَمَا آفَاءُ اللَّهِ غَلَائِمٌ مِّنْهُم مَّا آوَوْا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ وَكَانَ وَالِدُهُمْ يَدْرِي مَا آوَوْا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ وَمَا كَانُوا يَدْرِي مَا آوَوْا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ وَمَا كَانُوا يَدْرِي مَا آوَوْا وَجْهَهُمْ لِلدِّينِ

ہوں اور نہ ادبوں سے حملہ کیا ہو بلکہ کافر مرعوب و مغلوب ہو گئے ہوں۔ اور مرعوب و مغلوب ہو کر کافروں نے ہتھیار ڈال دیئے ہوں تو اس تو م سے حاصل شدہ اموال خواہ وہ منہ لہ ہوں یا غیر منقولہ مال فتنے کہلاتے ہیں۔ غنیمت تو اس مال کو کہا جائے گا جو قوت استعمال کرنے کے بعد بصورت فتح حاصل ہو۔ مال غنیمت کا حکم: وَاعْتَمِدُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ عَلَيْهِمْ يَخِضُّ لَكُمْ أَصْحَابُ الْجِبَالِ وَالْأَنْهَارِ وَالسَّيْرِ وَالْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالسَّيْرِ وَالْبِحَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالسَّيْرِ وَالْبِحَارِ

کے درمیان برابر حصوں میں تقسیم کیا جائے لیکن فتنے میں خمس بھی نہیں نکالا جائے گا اور یہ بھی لازم نہیں کہ ہر مجاہد کو برابر دیا جائے استعداد و صلاحیت کے پیش نظر حصوں میں کمی زیادتی کی جاسکتی ہے۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یہی فرق رکھا ہے غنیمت اور فتنے میں جو مال لڑائی سے ہاتھ لگا وہ غنیمت ہے اور اس میں یا سچواں حصہ اللہ کی نیا اور چار حصے لشکر کو تقسیم کیے جاتے ہیں اور جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ سب کا سب مسلمانوں کے خزانے میں رہے۔ جو ان ہی پر صرف کیا جائے۔

حضرت فقہاء نے بیان فرمایا ہے اگر ارتداد میں کچھ صورت جنگ کی ہوتی لیکن پھر کافروں نے مرعوب ہو کر قیل اس کے کہ جنگ کا کوئی فیصلہ ہو صلح کی طرف سارعت کی اور مسلمانوں نے اس کو قبول کر لیا تو اس صورت میں بھی جو اموال حاصل ہوں گے وہ بھی "فتنے" کے حکم میں شمار کیے جائیں گے اور بنو نضیر کے واقعہ میں صورت ایسی ہی پیش آئی۔

مال فتنے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی حکم تھا کہ وہ خالصتاً آپ کے اختیار و تصرف میں آجاتے ہیں اور ان اموال پر آپ کا تصرف بعض فقہاء کی رائے کے مطابق مانا نہ تھا جیسا کہ الفاظ آیت سے ایسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ جو صرف آپ کے حق میں مخصوص تھا اور بعض فقہاء کی رائے کے مطابق آپ کا تصرف متولیانہ تھا۔ یہ احتمال و بحث صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک مخصوص محدود تھی اس کے بعد اس امر پر اجماع ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی خلیفہ اور امام کا تصرف مانا نہ نہیں ہوتا بلکہ متولیانہ ہے، جو اپنی صوابدید اور مشورہ سے مناسب مواقع پر مسلمانوں کے مصالح میں خرچ کر سکتا ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ صرف ان ہی مجاہدین پر تقسیم کیا جائے جو اس ہم میں شریک تھے جس کے نتیجہ میں یہ فتنے حاصل ہوا بر خلاف مال غنیمت کے کہ وہ خمس نکالنے کے بعد صرف انہی مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے جو اس

شکر اور جہاد میں شامل تھے ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کوئی مجاہد خود ہی اپنا حق چھوڑ دے یا کسی اور کو ہیہ کر دے۔

قاضی ابوبکر جصاص احکام القرآن میں بیان فرماتے ہیں: ”یہ حکم اموال منقولہ کا ہے غیر منقولہ میں امام کو یہ اختیار ہے کہ مصیحت سمجھے تو لشکر پر تقسیم کر دے اور مصیحت نہ سمجھے تو بجائے تقسیم کرنے کے مصلح عامہ کے لیے رہنے دے جیسا کہ سواد عراقی میں حضرت عمر فاروقؓ نے بعض جلیل القدر صحابہ کے مشورہ سے یہی عمل درآمد رکھا اسی مساک اور رائے کے پیش نظر قاضی ابوبکر جصاصؒ نے ”وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سِوَا مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِيثَاقًا“ اس طرح کہ یہاں پہلی آیت ”وَ مَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالْأَفْئَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ کا حکم فقہی سے متعلق ہے اور دوسری آیت ”مَا آفَاءُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَالْأَفْئَاءُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ“ سے اہل القرای کا حکم غنیمت پر معمول ہے اور لغت غنیمت کو فتنی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب (از فوائد عثمانی)

علامہ ابن الاثیر جزئیؒ نے مال غنیمت اور فتنے میں فرق کا یہی معیار تجویز فرمایا ہے کہ جو بغیر قتال و جہاد کافروں سے حاصل ہو وہ مال فتنے ہے جیسا کہ سورہ حشر کی ان آیات میں ہے لیکن قاضی ابوبکر جصاصؒ اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو مال کافروں سے کفر کی بناء پر مسلمانوں کو حاصل ہو خواہ وہ جہاد و قتال سے ہو یا بغیر جہاد و قتال کے وہ ہمارے نزدیک مال فتنے ہے۔ (احکام القرآن ص ۲۷، ۲۸) اس لحاظ سے مال فتنے عام ہوا اور مال غنیمت خاص۔ غزوہ حنین میں جو مال غنیمت ملا تھا وہ بلاشبہ مقابلہ اور شدید مقابلہ کے بعد حاصل ہوا تھا لیکن آپ نے اس میں سے مؤلفہ قلوبہم پر تقسیم فرمایا جیسا کہ مال فتنے تقسیم کیا جاتا ہے اور پہلے معنی کے لحاظ سے حنین کی غنیمت تھی اس پر فتنی کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔

غزوہ خیبر میں جو قلعہ اور زمین آپ نے اپنے واسطے محفوظ رکھی اور اس کو غنائم پر تقسیم نہیں کیا۔ صحیح روایات میں اس پر بھی فتنے کا اطلاق آیا ہے اور فدک اور وادی القرنی کی جو زمینیں آپ کو صلح سے ملی تھیں ان پر بھی فتنی کا اطلاق آیا ہے تو ان نقول در روایات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو مال یا زمین کسی بھی صورت سے مسلمانوں کو کافروں سے ملے اس کو فتنے کہیں گے نصوص کتاب اللہ اور سنت سے یہی عموم معلوم ہوتا ہے اور بعض فقہاء مثلاً صاحب ہدایہ کے کلام سے بھی ایسا ہی مفہوم ہوتا ہے۔

مالک حقیقی کی عطا کردہ ولایت پیکر رسالت میں

آیت مذکورہ **فَلِلَّهِ** و **لِلرَّسُولِ** میں لام باللہ پر تمکیک کے لیے ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا کہ اللہ رب العزت ان اموال کا حقیقی مالک ہے اور الرسول پر لام تو لیت کا ہے کہ مالک حقیقی نے اپنی عطا اور ملک یا امانت بطور نیا بہت و تولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمائی اور قانون مقرر ہو گیا کہ **وَمَا آفَاءُ الرَّسُولِ فَخُذُوا** و **وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا** تو ولایت دنیا بہت کا یہ مقام اور تولیت ایک

برزخی مقام ہوا جو ملک حقیقی اور ملک مستعار کے درمیان ہے اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اس سے یہ نتیجہ واضح طور پر اخذ ہوتا ہے کہ جیسے مالک حقیقی خداوند مالک الملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے اسی طرح بوجہ خلافت خداوندی یہ مرتبہ متوسط یعنی مرتبہ تولیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے جس کے واسطے آیت مبارکہ مَا أَتَتْكُمْ السَّرُّوسُلُ فَخُذُوا ذُرُّهُ وَمَا تُطِغْكُمُ عَنْهُ فَاَتَتْهُمُوْا۔ ناطق ہے۔

جو تولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت الہیہ کے ضمن میں من جانب اللہ حاصل تھی اس کا حاصل خلافت کی تقسیم ہے کہ آپ کے بعد خلفائے راشدین وہ خدمت انجام دیتے رہیں جو ان کے سپرد کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلافت خداوندی حاصل تھی تو خلفائے راشدین کو خلافت نبوت حاصل تھی اور اس کا اصل سبب تولیت ہے نہ کہ ملکیت۔ اس لیے نقل خلافت میں دراثت و قرابت کا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ فرما کر وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اٰیٰتٌ لِّیَسْزِلَ عَلَیْهَا مَنۡ یَّشَآءُ لَیۡسَ لَہٗ اِنۡجَآءٌ مِّنۡ عِندِ اللّٰہِ اِلَّا بِمَا رَزَقَہٗ لَیۡسَ یَسْمَعُ لِحٰجِہٖمَ۔ مال فتنی و غیبت ہو یا خلافت دنیا بت رسالت ہو اس میں کسی کا استحقاق دخل نہیں بلکہ رسول خدا کا فیصلہ ادران کی غطا اور تعیین ہی بنیاد ہے جس کو چاہیں اپنی صوابدید سے عطا فرمادیں تو اسی معیار سے آپ نے جس بہستی کو حضرات صحابہ میں خلافت نبوت کا سبک پہلا سستی بچھا اسی کو خود اپنی حیات مبارکہ میں جانشین بنا دیا اور حکم دے دیا مَرُوْا اَبَآبَکْرَ لَیۡصِلۡ بِالنَّاسِ کَمَا اَبُو بَکْرٌ کُوۡبَرٌ کُوۡبَرٌ کُوۡبَرٌ کُوۡبَرٌ کُوۡبَرٌ کُوۡبَرٌ۔ مگر اذواج مطہرات میں سے حضرت عائشہؓ و حفصہؓ نے بہت کوشش کی کہ ابوبکرؓ کے بھائے کسی اور کو اس خدمت پر مامور کر دیا جائے لیکن آپ نے پوری قوت اور سختی سے ان کی بات رد کرتے ہوئے ہی فیصلہ برقرار رکھا کہ مَرُوْا اَبَآبَکْرَ لَیۡصِلۡ بِالنَّاسِ۔ تاکہ دنیا کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ آپ کا اپنے مصلے پر ابوبکرؓ کو کھڑے ہونے کے لیے فرمانا کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ یہ ایک طے شدہ خداوندی فیصلہ تھا کہ اب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و جانشینی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے بارگاہ خداوندی سے طے ہو چکی ہے چنانچہ خود حضرت علیؓ اسی حقیقت کو اپنے خطبات میں ارشاد فرمایا کرتے اور فرماتے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکرؓ کو امامت کے لیے فرمایا یہ بات نہیں کہ ہم غائب تھے بلکہ موجود تھے ہماری موجودگی میں یہ حکم صادر ہو رہا تھا اور ہم نذر دست تھے بیمار نہ تھے کہ کوئی یہ گمان کرنے لگے شاید علیؓ بیمار ہوں گے اس وجہ سے یہ بات ہو گئی در نہ علیؓ ہی امام بنائے جاتے (نہج البلاغہ)

بَلِّغُوا رِسَالَاتِ اللّٰہِ
لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِیْنَ

واسطے ان مفلسوں و مہاجرین کے

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ

جو نکالے آئے ہیں اپنے گھروں سے اور مالوں سے

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ

دُعا کرتے آئے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی اور مدد کرنے کو اللہ کی

وَرَسُولَهُ أَولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا

اور اس کے رسول کی۔ وہ لوگ وہی ہیں سچے۔ اور جو گھر پکڑ رہے

الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ

ہیں اس گھر میں، اور ایمان میں اُن سے پہلے، محبت کرتے ہیں اُس سے جو وطن چھوڑ

وَلَا يَجِدُونَ فِي صَدْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتِرُونَ

آدھے اُن کے پاس اور نہیں پاتے اپنے دل میں غرض اس چیز سے جو ان کو ملا، اور ادا رکھتے ہیں

عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ

ان کو اپنی جان سے، اور اگرچہ ہو اپنے اوپر بھوک۔ اور جو بچایا گیا

شَيْءٌ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمَفْلُحُونَ ﴿٩﴾ وَالَّذِينَ جَاءُوا

اپنے جی کے لالچ سے، تو وہی لوگ ہیں مراد پانے والے۔ اور واسطے ان کے جو

مِّنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ

آئے ان سے پیچھے کہتے ہوئے، اے رب! بخش ہم کو، اور ہمارے بھائیوں کو جو

سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

ہم سے آگے پہنچے ایمان میں، اور نہ رکھ ہمارے دل میں بیز ایمان

أَمِنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

والوں کا، اے رب! تو ہی ہے نرمی والا مہربان۔

استحقاق مہاجرین و انصار و مخلصین صحابہ کرام و مالِ فنی

قال الله تعالى يَنْفَعُ آءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا الى إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

(ربط) گزشتہ آیات میں بنو نضیر کی جلا وطنی کا ذکر تھا اور یہ کہ ان کے اموال جو بطور فنی حاصل ہوئے ہیں ان کا متولی و متصرف کلیۃً اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا پیغمبر ہی کو ان پر تسلط و غلبہ عطا کیا گیا اب ان ہی کے اختیار میں ہے کہ جس کو چاہیں اور جتنا چاہیں عطا کریں کسی کو اس میں ذرہ برابر نکتہ چینی کا حق نہیں اور اللہ نے ان اموال کے مستحق ذوی القربیٰ، یتامی و مساکین اور ابن السبیل بنائے ہیں ان مصارف کے ذکر کے بعد خاص طور پر اب ان آیات میں مہاجرین و انصار اور حضرات مہاجرین و انصار سے محبت رکھنے والوں کا استحقاق بیان کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی مہاجرین و انصار کے ایسے عظیم فضائل اور وہ بلند پایہ قربانیاں ذکر فرمائیں جن کے سامنے ہر شخص گرویدہ ہو جائے جس کے دل میں ادنیٰ درجہ کا بھی ایمان ہو اسی ضمن میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جو بھی شخص یا گروہ مہاجرین و انصار سے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ بغض رکھتا ہے درحقیقت وہ ایمانی جذبات اور تقاضوں سے قطعاً محروم ہے اور بے پیرہ ہے ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو اور اس کو اسلام کی خاطر ہجرت کرنے والوں اور اس کی وجہ سے اپنے وطن جائیدادوں اور فائدوں کو چھوڑ دینے والے محبوب نہ ہوں اسی طرح وہ شخص بھی ہرگز مومن نہیں ہو سکتا جو ایمان اور پیغمبر خدا کو ٹھکانا دینے اور مدد کرنے والوں کو محبوب نہ رکھتا ہو تو ارشاد فرمایا۔

یہ مالِ فنی ان فقراء و مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے انہوں نے اپنی زندگی کی ہر محبوب چیز قربان کی صرف اللہ کا فضل اور رضامندی چاہتے ہوئے اور اس لیے کہ مدد کریں اللہ کی اور اس کے رسول کی بے شک یہی لوگ کچھ ہیں جن کی صداقت پر ان کی بے مثال قربانیاں و جانثاریاں اور اپنے جان و مال سے اللہ اور اس کے رسول کی امداد و اعانت کے سورج سے زیادہ روشن دلائل و شواہد ہیں اور اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانا بنایا اس گھر کا یعنی مدینہ منورہ کہ جس میں وہ بستے تھے اور اس سرزمین میں ایمان کو بھی بسایا ان مہاجرین کی مدینہ منورہ آمد سے قبل جن کی حالت یہ ہے کہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں نہ صرف محبت بلکہ کمال اخلاق اور بلندی حوصلہ کی نوبت یہاں تک ہے کہ اور اپنے دلوں میں کسی قسم کا حسد اور تنگی بھی محسوس نہیں کرتے اس شرفِ فضیلت سے کہ جو ان مہاجرین کو دی گئی اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اپنے اوپر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو فاقہ ہی ہو اور سب پاکیزہ نعلتیں اس بنیاد پر قائم ہیں کہ ان حضرات کے قلوب حرص اور حب مال سے پاک ہیں اور بے شک جو بھی اپنے نفس کی حرص سے بچایا گیا تو بس ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں اور یہ مالِ فنی ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے۔ یہ

کہتے ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار مغفرت فرما ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ اور کینہ ایمان والوں کے لیے اے پروردگار اے ہمارے رب بے شک تو بہت ہی نرمی کر نوالا مہربان ہے۔

تو یہ ہیں مصارف اور مستحقین اموال فتنی جن کے اوصاف ایمان و اخلاص کے یہ ہونے چاہئیں۔ سب سے مقدم ادا علیٰ مستحق مہاجرین و انصار ہیں کیونکہ وہ اصل اسلام کی عمارت ہیں۔ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی اور ایمان کو اپنی بستی "مدینہ پاک" میں بسایا۔ پھر ان کے بعد جو لوگ ان کے ساتھ اخلاص و محبت رکھنے والے ہوں ان کو دعائیں دیتے ہوں ان کے قلوب ان نفوس قدسیہ سے بغض و حسد سے پاک ہوں وہ مستحق ہوں گے۔

اسی آیت مبارکہ کے مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا: اوصی الخلیفة بعدی بالمہاجرین الاولین ان یعفروا لهم حقهم و یحفظ لهم کرامتهم و اوصیتہ بالانصار خیر الذین تسبقوا الدار و الایمان من قبل ان یقبل من محنتهم و ان یعفروا عن مسیئتهم کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو اس بات کی کہ مہاجرین اولین کے ساتھ بہتر معاملہ کرے۔ ان کا حق پہچانے اور ان کی عظمت و کرامت کو محفوظ رکھے اور اسی طرح اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو انصار کے بارہ میں بھی وصیت کرتا ہوں خیر اور بھلائی کے لیے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مدینہ کو پہلے سے مرکز ایمان بنا چکے ہیں اور اس بستی میں پہلے ہی انہوں نے ایمان کو بسایا تھا اس امر کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کی بھلائیاں قبول کرے۔ (اور ان کو سزا ہے) اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے۔

(صحیح بخاری)

وَلَا یَجِدُونَ فِي وُجُوهِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. مکارم اخلاق کی بلند ترین تعلیم ہے اور انسان کا اصل شرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ کسی دوسرے کی فضیلت و برتری پر حسد نہ کرے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے انس بن مالک کی روایت نقل فرمائی کہ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا اے لوگو! ابھی ایک شخص اہل جنت میں سے تمہارے سامنے رونما ہوگا۔ تو ناگہاں ایک انصاری صاحب نظر آئے۔ سامنے سے آ رہے ہیں اور ان کی داڑھی سے دھوکے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جو تانا لٹکایا ہوا ہے۔ رادی بیان کرتے ہیں کہ جب آئندہ روز ہوا تو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا۔ اور پھر وہی شخص اسی شان کے ساتھ رونما ہوئے۔ پھر تیسرا دن ہوا تو بھی آپ نے ایسا ہی فرمایا اور پھر وہی شخص اسی طرح سامنے سے آئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس سے اٹھ کر تشریف لے گئے تو عبد اللہ بن عمرو بن العاص ان صاحب کے پیچھے پیچھے چلے اور ان سے الحاح و اصرار سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ تین روز رہنے کی اجازت دے دیں انہوں نے اس کو منظور کر لیا۔ تو عبد اللہ بن عمرو نے ان کے ساتھ تین راتیں گزاریں

تو کوئی خاص قابل حیرت عمل نہ دیکھا۔ بجز اس کے کہ رات کو آرام کر کے کچھ حصہ عبادت میں گزارتے اور پھر صبح کے لیے اُٹھ جاتے۔ تین راتیں گزارنے پر میں نے ان سے دریافت کیا کہ اے بندہ خدا میں نے تین روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا جس کے باعث تجھ ست میں رہا کہ دیکھوں تمہارا خاص عمل کیا ہے۔ لیکن میں نے تمہارا کوئی حیرت ناک عمل نہیں دیکھا۔ اس پر ان صاحب نے جواب دیا بس میرے پاس یہی کچھ ہے جو تم نے دیکھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب واپس ہونے لگا تو مجھ کو پکارا اور فرمایا اے بندہ خدا میرے پاس بیشک کوئی خاص عمل تو نہیں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں کسی شخص کے کوئی حسد اور دل میں قطعاً کوئی بغض نہیں رکھتا۔ عبد اللہ بن عمرؓ اس کو سن کر فرمانے لگے بس یہی تو وہ خوبی ہے جس کی ہر شخص طاقت نہیں رکھتا۔ عنہ حسن بصریؒ سے بھی یہی منقول ہے۔

يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَكَ تَوْبَةً لِمَا بَيْنَهُمْ اَمْ لِيُقَاتِلَ فَاِذَا دُفِعَ عَنْهُمَا لَمِيسًا كَمَا كَانَ الْمَدِیْنَةُ لَمِيسًا
ہمارے مبارک بھائیوں! آ جاؤ ہم اپنا مال زمینیں نصف نصف برابر اپنے اور تمہارے درمیان تقسیم کر لیں حتیٰ کہ کسی کے پاس دو بیویاں تھیں وہ کہنے لگا میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ اس سے شادی کر تو تم کو مناسب معلوم ہو بتاؤ اس ایثار و اخوت کی دنیا میں ظاہر ہے کیا مثال مل سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہاجرین نے بھی عزت نفس اور استغناء کا وہ ثبوت پیش کیا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ فرمایا خدا تعالیٰ تمہارے مال تمہیں مبارک فرمائے بس آپ لوگ ہمیں بازار بتا دو یعنی تعارف کرادو ہم محنت و مشقت سے کمالیں گے۔

وَ يُؤْتِيكَ مِنْ عَمَلِكَ خَيْرًا وَّ لَوْ كَانَ بِهِنَّ خِصَاصَةٌ كِ تَفْسِيرِ مِیْنِ مَفْسِرِیْنِ نَعْنِ وَهْ مَعْرُوفٌ
ردایت بیان کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں فاقہ کی مشقت میں مبتلا ہوں میری مدد فرمائیے۔ آپ نے ازدواج مطہرات کے حجروں کی طرف کسی کو بھیجا شاید کچھ مل جائے لیکن کچھ نہ مل سکا آپ نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو آج رات اس کی مہمانی کر سکے تو ایک انصاری شخص کھڑے ہوئے اور عرض کیا میں حاضر ہوں اور اپنی اہلیہ کی طرف رگئے اور بتایا کہ یہ صورت حال ہے۔ اہلیہ نے کہا آج تو بس بچوں ہی کے کھانے کے بقدر ہے اس کے سوا کچھ نہیں۔ انصاری نے کہا جب رات ہو تو بچوں کو کسی طرح پہلا کر سلا دینا اور پھر جب مہمان کھانے پر بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ یہ بات مہمان کو نظر نہ آسکے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں چنانچہ ایسا ہی کیا صبح کو جب یہ صحابی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کو اس مرد اور عورت کی یہ بات بہت ہی پسند آئی اور ان ہی کے متعلق اس نے یہ فرمایا۔ وَ يُؤْتِيكَ مِنْ عَمَلِكَ خَيْرًا وَّ لَوْ كَانَ بِهِنَّ خِصَاصَةٌ كِ تَفْسِيرِ مِیْنِ مَفْسِرِیْنِ نَعْنِ وَهْ مَعْرُوفٌ
یہ صحابی ابو طلحہؓ تھے۔ ایسا ہی وہ مشہور قصہ ہے جو جنگ یرموک میں پیش آیا تھا کہ چند زخمی لب دم تھے۔ ان میں سے جس کسی کے سامنے پانی لایا گیا اس نے یہ چاہا کہ بجائے میرے پانی میرا بھائی پی لے اور اسکی جان بچ جائے تو اچھا ہے۔ ہر ایک دوسرے کی

منہ: تفسیر ابن کثیر ج ۴ - عنہ: صحیح بخاری، مسلم، نسائی - ۱۷

طرف لوٹا تا رہا کسی نے بھی زہیا اور سب کے سب اسی طرح پیاس میں ترپتے ہوئے جاں بحق ہو گئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاهم)

ذوی القربی یتامیٰ اور ابن السبیل میں مستحقین فتنیٰ کی قسم اول فقراء و مہاجرین

آیت مَا آفَاءَ لِلَّهِ عَلٰی رَسُولِهِ مِنْ عَمَلٍ غَنِيٍّ فِي الْحَرَبِ میں عمومی طور پر ان اصناف و اقسام کا مال فتنیٰ میں استحقاق بیان فرمانے کے بعد ان مستحقین میں سب سے اعلیٰ اور مقدم جو گروہ ہے اس کو ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ فقراء مہاجرین کا گروہ ہے ان کے اوصاف میں سب سے پہلے تو ان کی مظلومیت کو اُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ سے ظاہر فرمایا گیا کہ ان کو ان کے مکانوں سے نکالا گیا اور ان کے اموال ضائع کیے گئے۔ پھر یہ مظلومیت ان کی محض اللہ کی رضا کے لیے واقع ہوئی تو جس طرح ہر مظلوم کے لیے خواہ وہ کسی طرح بھی مظلوم ہو ہمدردی اور اعانت کا جذبہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے چہ جائیکہ وہ مظلوم اللہ کی راہ اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے مظلوم ہوا ہو تو اس فرد پر جس کو خدا سے ذرہ برابر بھی تعلق ہے۔ ضروری ہے کہ وہ ان مظلومین کے ساتھ ہمدردی اور مدد کے لیے پوری طرح مستعد ہو جائے۔ مزید برآں یہ مظلوم باوجود مظلوم و بے مہارا ہونے کے وہ ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مدد کی اور اسی جرم میں ان کو ان کے مالوں اور گھروں سے نکالا گیا۔ مظلومیت اخلاص اور اللہ و رسول کی نصرت کے علاوہ ان کے کردار اور مجموعہ عملی زندگی نے یہ ثابت کیا کہ وہ راست باز اور سچے ہیں اور جب وہ لوگ اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ کا صدق ہیں تو ہر ایمان و تقویٰ والے پر یہ حکم خداوندی عائد ہوتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس کی تعمیل میں ہر صاحب ایمان کو ان صادقین کے ساتھ ہو جانا ضروری ہے جن کے صادق ہونیکا اعلان خداوند عالم نے فرمادیا۔

مستحقین کی قسم دوم انصار اور انکی خصوصیات

استحقاق مہاجرین کے بعد انصار کا استحقاق اور ان کے اوصاف میں سب سے پہلے تَبَسُّمُ السَّادَاتِ وَالْإِيمَانِ مِنْ قَبْلِهَا کا وصف بیان فرمایا کہ انہوں نے ایمان و اسلام کو اپنے شہر مدینہ میں چھکانے دیا۔ دوسری صفت یہ کہ وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کہ حسد سے ان کے قلوب پاک ہیں کہ مہاجرین کو جو شرف و فضل ملا اس پر ذرہ برابر حسد یا ملال نہیں۔ چوتھی صفت یہ کہ یُؤْتُونَ عَلٰی أَنْفُسِهِمْ کہ اپنے اوپر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہوں اور پانچویں صفت یہ کہ وہ مال کی حرص سے منزہ ہیں اور ظاہر ہے کہ یہی اوصاف رشد و فلاح کے ضامن ہیں۔ لہذا یہ گروہ

مفلمین اور کامرانوں کا ہوا۔

قسم سوم عام اہل اسلام

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ فِي سَفَرٍ مِّن مَّوَالِيكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ فِي أَعْيُنِنَا ذُرِّيَّةٌ طَبَعَتْ أَعْيُنُنَا عَلَىٰ سَفَرِهِم بِئْسَ لَكُمُ الْوَجْدُ
وہ مال فحش کے مستحق ہیں اور اس تیسری جماعت کو مال فحش میں حصہ ملنے کے اوصاف و وجوہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ سابقین اور اولین اور مفلمین کی توفیر و تعظیم کریں ان کے واسطے دعائے مغفرت کریں اور ان کے دل میں ان حضرات صحابہ کی طرف سے کسی قسم کی کدورت یا بغض نہ ہو۔ ان اوصاف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس کسی کے دل میں مہاجرین و انصار کی عظمت و محبت و خیر خواہی کا جذبہ نہ ہو بلکہ بغض و نفرت یا تکدرب یا طعن و تشنیع اور تحقیر توہین ہو وہ کبھی ان حقوق میں شامل نہیں ہو سکتا جو حقوق اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ ان آیات کو تلاوت کر کے فرمایا کرتے خدا کی قسم جو شخص مہاجرین کی طرف سے کدورت رکھتا ہو وہ ہرگز ان لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا عہ جن کو اس آیت میں بیان کیا گیا اور حق تعالیٰ شانہ نے مدح فرمائی۔

چنانچہ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ "منہاج السنۃ جلد اول میں ان آیات کا ذکر کر کے لکھتے ہیں۔

اور یہ آیتیں مہاجرین و انصار کی مدح پر مشتمل ہیں اور ان لوگوں کی بھی تعریف پر مشتمل ہیں جو انصار و مہاجرین کے بعد آئیں گے اور یہ بعد میں آئے ہوئے سابقین اولین کے لیے دعائے مغفرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو مہاجرین و انصار کے کینہ سے بالکل پاک و صاف رکھ۔ نیز ان آیات میں یہ مضمون بھی ہے کہ مال فحش کی مستحق یہ تین جماعتیں ہیں ان کے سوا اور کسی کا اس میں استحقاق نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رافضی ان تینوں قسموں سے خارج ہیں

وَ هَذِهِ الْآيَاتُ تَتَضَمَّنُ
الثناء على المهاجرين
والانصار وعلى الذين
جاءوا من بعدهم يستغفرون
لهم ويستلون الله عزو
جل ان لا يجعل في قلوبهم
غلاً لهم. وتتضمن ان هؤلاء
الاصناف هم المستحقون
للفشى. ولا ريب ان هؤلاء
الرافضة خارجون عن الاصناف

علم ازالة الخفاء۔ ہدیۃ الشیعہ ۱۲۔

اس لیے کہ وہ مہاجرین و انصار کے لیے دعا و مغفرت نہیں بلکہ ان کے دلوں میں تو مہاجرین و انصار کا کینہ بھرا ہوا ہے۔

تو ان آیات میں صحابہ کرام کی فضیلت و مدح ہے اور اسی طرح اہلسنت کی مدح ہے جو صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں اور یہ آخری قید رافضیوں کے خارج کرنے کے لیے ہے اور یہ آیت رافضیوں کے مذہب کو بالکل چاک کر دیتی ہے۔

الثَّلَاثَةُ فَآخِهِمْ لَمْ يَسْتَغْفِرُوا
للسَّابِقِينَ وَفِي قُلُوبِهِمْ
غِلٌّ عَلَيْهِمْ - فَمِنَ الْآيَاتِ
الَّتِي تَدْعُو عَلَى الصَّحَابَةِ وَعَلَى
أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُمْ
وَإِخْرَاجِ الرَّافِضَةِ مِنْ ذَلِكَ -
وَهَذَا يَفْتَضِ مَذْهَبَ
الرَّافِضَةِ -

اور ان کے اس عیب و خبیثت کی پردہ دری کر رہی ہے جو ان کے سینوں میں بھرا ہوا ہے۔ اللَّهُمَّ
جَنِّبْنَا عَنْ كُلِّ رَفِضٍ وَسَوْءٍ وَأَمْلَأْ قُلُوبَنَا عَنْ حَيْثُ أَصْحَبِ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ..... اجمعين -

مستحقین و مصارف فنی

حق تعالیٰ شانہ نے مال فنی کے مصارف اور ان کا استحقاق بیان فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا۔
مَا آتَا اللَّهُ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَىٰ خَلْفًا وَلَا مَسْئُولًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَّةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۚ
جیسے مال غنیمت کے مصارف ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ ۚ وَلِلرَّسُولِ الْبَدَلُ ۚ وَلِلَّذِينَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي نَمَسَّوْا مِنْهَا خُمُسٌ ۚ
ہے لیکن ظاہر ہے کہ متعلق کے فرق سے استحقاق کی صورتوں میں بھی فرق ہوگا۔ اللہ کے لیے مال غنیمت اور مال
فنی ہونا ملکیت کے معنی ظاہر کر رہا ہے۔ کیونکہ اللہ ہی مالک الملک اور حقیقی مالک ہے اور للرسول میں تولیت
کا مفہوم ادا کر رہا ہے۔ جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان اموال کے اصل متولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مالک
حقیقی کی امانت کو بطور امانت و نیابت صرف کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے کہ آپ مالک حقیقی کے حکم کے
مطابق خرچ فرمائیں گے اور لذی القرابی کا لام صرف محل صرف ہونا ظاہر کر رہا ہے کہ مال فنی کے
یہ مستحق اور مصرف ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ اذالۃ الخفاء میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان
فرمایا ہے کہ مال فنی اللہ اور اس کے رسول کے اور قرابت داروں۔ یتیموں اور مسافروں کے لیے ہے۔ بلکہ
میں خدا کی مالکیت کا بیان ہوا اور للرسول کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رسول خدا ہیں۔ خدا کے کام میں لگے ہوئے
ہیں۔ ان کو اتنی فرصت نہیں کہ ان میں اور اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں تو جب وہ خدا کے کام میں لگے ہوئے ہیں

جانفشیوں سے ملے پہلا مال یعنی فنی مجاہدین کو ان کی سعی اور کوشش کے بغیر محض اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے اس وجہ سے اللہ نے اس میں تصرف کا حق کلیتہً اپنے پیغمبر کو عطا فرمادیا کہ جس طرح چاہیں وہ بیان کرے مصارف میں اس کو خرچ کریں برخلاف مال غنیمت کے کہ وہ مجاہدین کی محنت اور مشقت سے حاصل ہوتا ہے تو اس میں مجاہدین کا حصہ رکھا گیا اور خمس کے علاوہ وہی اس کے مستحق قرار دیتے گئے یہی وجہ ہے کہ مال فنی کا کوئی مصرف متعین نہیں۔ جمیع مصالح مصلحین۔ مسلمین امیر و فقیر سب پر خرچ کیا جاسکتا ہے بخلاف زکوٰۃ۔ خمس اور مال غنیمت کے کہ مصارف متعین اور محدود کر دیئے گئے۔

جیسا کہ قرآن کریم نے ان کی وضاحت اور تعین کر دی۔

استحقاق کی اقسام

اصول شریعت کی رو سے استحقاق دو قسم کا ہے۔ ایک استحقاق قوی جس کو استحقاق فعلی اور استحقاق شخصی بھی کہا جاتا ہے اور یہی استحقاق حقیقی ہے۔ دوسرا استحقاق ضعیف ہے جس کو استحقاق انفعالی اور استحقاق نوعی بھی کہا جاسکتا ہے اور یہ استحقاق مجازی ہے۔ استحقاق قوی وہ ہے جس کا منشاء امر وجودی ہو جیسے مال غنیمت میں مجاہدین اور غنائم کے استحقاق کا منشاء ان کا جہاد ہے جو کہ امر وجودی ہے اسی بناء پر

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَيَاتِكُمْ فِي حَقِّهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ تُحْسِنُ فِي غَنِيمَتِكُمْ كَمَا جَاءَتْكُمْ مِنْهُ ۚ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ

یہ ظاہر کر دیا کہ غنیمت کی تحصیل مجاہدین کی سعی اور جہاد کے باعث ہے۔

استحقاق ضعیف وہ ہے کہ جس کا منشاء امر عدلی ہو جیسے صدقات میں فقراء و مساکین کا استحقاق انکی ناداری اور مفلسی کی وجہ سے ہے جو کہ امر عدلی ہے۔ اسی وجہ سے فقراء کو دعویٰ کا حق نہیں اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ کسی خاص شخص معین کو فقراء و مساکین میں سے دیا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ہذا من افاضات حضرت الوالد مولانا محمد ادریس کاندھلوی)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

تو نہ دیکھے وہ جو

نَافِقُوۡا يُقُوۡلُوۡنَ لِيَاۡخُوۡا۟ بِهٖمُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنْ

دغا باز ہیں، کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، جو منکر ہیں کتاب

أَهْلِ الْكِتٰبِ لِيۡنَ أُخْرِجَتۡمُ لِنَخْرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا

دالوں میں سے۔ اگر تم کو کوئی نکال دے گا تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور کہانہ

نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ

میں گے کسی کا تمہارے حق میں کبھی، اور اگر تم سے لڑائی ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور

اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ لَئِنْ أَخْرَجُوا لِأَخْرَجُونَ

اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے جاویں گے یہ نہ نکلیں گے

مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ

ان کے ساتھ۔ اور اگر ان سے لڑائی ہوگی یہ نہ مدد کریں گے انکی۔ اور اگر مدد کریں گے تو

لَيُؤْتِنَنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَنْصُرُونَ ۝۱۲ لَا أَنْتُمْ أَشَدُّ

بھاگیں گے پیٹھ دے کر پھر کہیں مدد نہ پاویں گے۔ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے

رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

ان کے دل میں اللہ سے۔ یہ اس سے کہ وہ لوگ

لَا يَفْقَهُونَ ۝۱۳ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قَرْيٍ

بوجہ نہیں رکھتے۔ لڑ نہ سکیں گے تم سے سب مل کر، مگر بستوں کے

مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ

کوٹ میں، یا دیواروں کی اوٹ میں۔ ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ

تو جانے وہ اکٹھے ہیں اور ان کے دل پھوٹ رہے ہیں۔ یہ اس سے کہ وہ لوگ عقل

لَا يَعْقِلُونَ ۝۱۴ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا

نہیں رکھتے۔ جیسے کہاوت ان کی، جو ہو چکے ہیں ان سے پہلے پاس ہی کبھی

وَبِأَلْ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۵ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ

سزا اپنے کام کی۔ اور ان کو دکھ کی مار ہے۔ جیسے کہاوت شیطان کی،

إِذْ قَالَ لِلنَّاسِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ

جب کہے انسان کو تو منکر ہو۔ پھر جب وہ منکر ہوا، کہے میں الگ ہوں

مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا

تجھ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب سارے جہان کا۔ پھر آخر ان دونوں کا یہی کہ

أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ط وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾

وہ دونوں ہیں آگ میں، سدا رہیں اس میں۔ اور یہی ہے سزا گناہگاروں کی۔

احوال منافقین کا ذہن بعد ایمان اوصاف مخلصین صادقین

قال الله تعالى - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ... الخ ... وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ

در ربط گزشتہ آیات میں مال فحی اور اس کے مستحقین کا ذکر کرتے ہوئے ان اہل ایمان و اخلاص کا بیان فرمایا جو اپنے ایمانی اوصاف میں وہ عظمت و بلندی حاصل کرنے والے ہیں کہ ان کو قرآن کریم نے "الصادقون" اور "المفلحون" کے لقب سے یاد کیا۔ ان کے برعکس اب ایک گروہ منافقین و کاذبین کا بیان ہے جن کے قبائح اور بدترین خصلتوں کو ذکر کر کے ان کی ذلت و ناکامی کو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

سے ہمارے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نفاق کا پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہ منافق کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں کہ اگر تم کو اپنے گھروں سے نکال لایا تو ہم بھی ضرور باغزوہ تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہم تمہارے معاملہ میں کسی کی بھی بات نہ مانیں گے کبھی بھی۔ اور اس طرح ہم تمہارے معاون و مددگار رہیں گے اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی نے یہودی بنی نضیر کو خفیہ پیغام بھیجا تھا اور تاکید سے کہلوا یا کہ ہرگز نہ گھبرانا اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا۔ اگر مسلمانوں نے تم کو نکالنا چاہا تو ہم بھی احتجاجاً تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور اگر جہاد و قتال کی نسبت آئی تو ہم تمہاری پیوری پوری مدد کریں گے یہ ہمارا ایسا قطعی اور یقینی فیصلہ ہے کہ اس کے خلاف ہم کسی کی بات ماننے کے واسطے ہرگز تیار نہ ہوں گے۔ ان کے اس طرح کے باطل دعوؤں پر قرآن کریم نے رد کرتے ہوئے فرمایا اور خدا گواہی دے رہا ہے کہ بیشک یہ منافق جھوٹے ہیں۔ محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے اور درغلانے کے لیے یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ آگاہ ہو جانا چاہیے اگر وہ اہل کتاب نکالے گئے تو یہ ہرگز ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ کبھی بھی ان کی مدد نہ کریں گے اور اگر کچھ تھوڑی ہمت دکھا دے کے طور پر مدد بھی کی تو

ہیٹھ پھیر کر بھاگیں گے پھر کہیں سے بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی کسی اور کی کیا مدد کرتے اس طرح پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے بعد تو یہ خود بھی ایسے بے یار مددگار ہو جائیں گے کہ ان کی بھی کوئی مدد نہ کر سکے گا۔ چہ جائیکہ یہ دوسروں کی مدد کریں۔ ان کی اس منافقانہ روش سے معلوم ہوتا ہے کہ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں بہ نسبت اللہ کے یہ اس وجہ سے کہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ سمجھ نہیں رکھتے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت و ہیبت اور قدرت و کبریائی کی کوئی حد نہیں اس سے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ورنہ تو نفاق کیوں اختیار کرتے اس کے بالمقابل مسلمانوں کی قوت و جماعت سے ڈر رہے ہیں اور ان سے مرعوب و خوفزدہ ہو کر نفاق اختیار کیا اور حکم کھلا کفر کے اعلان کی جرأت نہیں۔ تو ان کے اس طرز عمل نے ثابت کیا کہ مسلمانوں کا ڈر ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ ہے۔ ان کے مرعوب اور خوفزدہ ہونے کی تو یہ حالت ہے کہ یہ لوگ نہیں لڑ سکیں گے تم سے ایک جگہ جمع ہو کر اس طرح جیسے میدان جنگ میں کوئی فوج کسی فوج کا مقابلہ کرتی ہو مگر ایسی سستیوں میں جو احاطہ بندی کے ساتھ محفوظ ہوں اور قلعے کی شکل میں کہ اندر چھپ جانے والوں کو پناہ دے سکیں یا دیواروں کے پیچھے سے تو جو قوم اس قدر بزدل ہو وہ کبھی کامیاب نہ ہوگی اور نہ ہی مسلمانوں کو ایسی بزدل قوم سے خائف ہونا چاہیے۔ یہ لوگ اگرچہ مسلمانوں کے مقابلہ میں بظاہر متحد نظر آتے ہیں اور لے مخاطب! لگان کرتا ہے تو ان کو اکٹھا اور باہم متحد، لیکن ان کے دل جدا جدا ہیں یہ اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی غرض اور خواہش جدا ہے اگرچہ مسلمانوں کی مخالفت میں سب متفق اور متحد ہیں مگر ہر ایک اپنی اغراض و خواہشات کے باعث مختلف اور متفرق ہے تو ایسے عناصر کے ظاہری اتحاد سے مسلمانوں کو فکر مند و پریشان نہ ہونا چاہیے اس صورت حال میں یہ دشمنان اسلام بلاشبہ کمزور ہیں اور اسلام کا مقابلہ ہرگز نہ کر سکیں گے اگر انسان میں عقل ہو تو سمجھ سکتا ہے اگر اندر سے دل پھٹے ہوئے ہوں تو ظاہری اجتماعیت کچھ کام نہیں آتی۔ اس امر کو ملحوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض و خواہشات سے کنارہ کش ہو کر سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اپنا امرنا جینا سب اسی خدائے وحدہ لا شریک لہ کے لیے بنالیں۔

ان منافقین کی یہ حالت تو بالکل ایسی ہی ہوگئی جیسے کہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ان سے پہلے قریب ہی وقت میں گذرے کہ مزہ چکھ لیا اپنے کام کا دنیا میں بھی ذلیل و ناکام ہو کر اور مختلف قسم کے عذاب میں ہلاک و تباہ ہو کر اور آخرت میں بھی ان کے واسطے ایک دردناک عذاب ہے۔ چنانچہ یہود بنی قینقاع نے اپنی غداری کا مزہ چکھ لیا۔ جب انہوں نے بد عہدی کی تو مسلمانوں نے ایک مختصر سی لڑائی کے بعد ان کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا اور اس سے بہتر ماضی قریب میں مکہ والے ” بدر “ میں سزا پانچکے ہیں ایسا ہی انجام بنو نضیر کا دیکھ لو دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں سزا مل چکی اور آخرت کا دردناک عذاب اپنی جگہ باقی ہے۔

یہ حالت بالکل شیطان کے قصہ کی طرح ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر پھر جب انسان کفر کرتا ہے اور عذاب خداوندی اس کے سامنے ہوتا ہے اور شیطان پر وہ کا فر ذمہ داری ڈالتا ہے کہ مجھ سے کفر تو اس نے کرایا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں۔ میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو

رب ہے سارے جہانوں کا، پھر آخر کار انجام ان دونوں کا۔ کافر ہو یا کافر کو گروہ کو یا شیطان کہ وہ دونوں جہنم میں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی وقت یہ نہ ہوگا کہ وہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کریں، اور یہی سزا ہوتی ہے ظالموں کی اس لیے ان منافقوں کو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے اور مسلمانوں کو ایسی باتوں سے رنجیدہ اور پریشان نہ ہونا چاہیے کیونکہ ایسے گمراہوں کا انجام ذلت و ناکامی طے ہو چکا ہے جس سے وہ ہرگز نہیں بچ سکتے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں «یعنی شیطان اول انسان کو معصیت پر ابھارتا ہے جب انسان دام اغواء میں پھنس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ہوں اور تیرے کام سے بیزار ہوں۔ مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے یہ کہنا بھی زیادہ مکمل ہوگا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود دوزخ کا کدو بنا اور اسے بھی بنایا»

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں «شیطان آخرت میں یہ بات کہے گا اور بدر کے دن بھی ایک کافر کی صورت میں لڑواتا تھا جب فرشتے نظر آجاتے تو بھاگ جاتا (تفصیل سورہ انفال میں گزر چکی) تو یہی مثال منافقوں کی ہے کہ وہ بنو نضیر کو اپنی حمایت و رفاقت کا یقین دلا دیا کہ بھڑے پر چڑھاتے رہے۔ آخر جب وہ مصیبت میں پھنس گئے تو آپ الگ ہو بیٹھے کیا وہ اس بکر و عیاری کے بعد عذاب سے بچ گئے؟ ہرگز نہیں دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ (فوائد عثمانی)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے دیکھ لے کوئی جی، کیا بھیجا ہے

لِغَدٍّ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾ وَلَا

کل کے واسطے؟ اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ بیشک اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو۔ اور مت

تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ

جو ویسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر اُس نے بھلا دیئے اُن کو انکے جی وہ لوگ

هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ

دہی ہیں بے حکم۔ برابر نہیں لوگ دوزخ کے اور لوگ

الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا

پہشت کے۔ بہشت کے لوگ وہی ہیں مراد کو پہنچے۔ اگر ہم اتار دیتے یہ

الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ

قرآن ایک پہاڑ پر ، تو تو دیکھتا دب جاتا پھٹ جاتا اللہ

خَشِيَّةِ اللَّهِ ۖ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

کے ڈر سے ۔ اور یہ کہادیں ہم سناتے ہیں لوگوں کو ، شاید وہ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ

دھیان کریں ۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی ، جانتا

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾ هُوَ اللَّهُ

سے چھپا اور کھلا ، وہ ہے بڑا مہربان رحم والا ۔ وہ اللہ ہے

الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ

جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی ، وہ بادشاہ پاک ذات چنگا

الْمُؤْمِنُ الْمُهِمِّنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ

امان دیتا پناہ میں لیتا زبردست دباؤ والا صاحب بڑائی کا ۔ پاک ہے

اللَّهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

اللہ اس سے جو شریک بناتے ہیں ۔ وہ اللہ ہے بنانے والا نکال کھڑا کرتا صورت کھینچتا ،

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ

اسی کے ہیں سب نام خاصے ۔ اس کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور

الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ

زمین میں ، اور وہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

حکمت والا ۔



دعوتِ تقویٰ و فکرِ آخرت برائے اہل ایمان مع ذکر عظمتِ ربِّ ذوالجلالِ الاکرام

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 (ربط) گزشتہ آیات میں منافقین کی سازشوں اور اسلام کے خلاف ان کی معاندانہ سرگرمیوں کا ذکر تھا۔ تو اب ان آیات میں اہل ایمان کو تقویٰ اور فکرِ آخرت کی دعوت دی جا رہی ہے اس لیے کہ ایمان و تقویٰ اور فکرِ آخرت ہی مسلمان قوم کے لیے ہر عزت و غلبہ اور ترقی کا باعث ہے یہی وہ عظیم وصف ہے جس کے باعث مسلمان اپنے دشمن کی ہر سازش سے محفوظ رہتا ہے تو ارشاد فرمایا۔

لے ایمان والو! ڈرتے رہو خدا سے اور ہر تنفس کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل آنے والے دن کے واسطے۔ ایمان اور اعمالِ صالحہ کا ذخیرہ ہی روزِ آخرت کام آنے والا ہے اور روزِ آخرت بس کل آیاتِ الہی ہی دن ہے تو اس کے واسطے تیاری کرنی چاہیے۔ دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ اس کے واسطے اعمالِ صالحہ کا کیا ذخیرہ مہیا کیا ہے اور تقویٰ اختیار کرنا اور تقویٰ ہی اساس ہے ایمان و عمل کی۔ بے شک اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر کسی تنفس کے قلب میں یہ اعتقاد راسخ ہے کہ خداوند عالم کے سامنے بندہ کا ہر کام اور اس کا ہر حال عیاں ہے تو بلاشبہ خوفِ تقویٰ پیدا ہو جائے گا یہ اعتقاد ہی تقویٰ کی بنیاد ہے جس کا لازمی اثر انسانی زندگی میں احتیاط اور فکر کی صورت میں رونما ہوگا اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایمان اور اخلاص مرتب ہے اور لافاق کی گندگی سے پاک رہنے کا باعث ہے۔

اور نہ ہو جاؤ تم ان لوگوں سے جنہوں نے خدا کو بھلا دیا اور شبِ دروز اپنی نفسانی شہوتوں اور دنیوی لذتوں میں منہمک رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور اس طرح اللہ کی توفیق اور خیر کے کاموں کی صلاحیت اور اس کا احساس بھی ان سے مفقود ہو گیا۔ اور آخرت کے فکر و تصور سے بھی غافل ہو گئے۔ یہ لوگ اللہ کی فرماں برداری سے خارج ہیں کیونکہ ان کی اس عظمت و لاپرواہی اور انہماک فی الدنیا کی وجہ سے وہ صلاحیت اور جوہر ہی ختم ہو گیا جس کے ذریعے انسان سعادت اور اناہت الی اللہ حاصل کر سکتا ہے۔ بلاشبہ یہ حقیقت ہے کہ برابر نہیں ہیں جہنم والے اور جنت والے جہنمی عذاب جہنم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ عذاب جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اہل جنت اللہ تعالیٰ کے انعامات اور جنت کی راحتوں اور نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں تو یقیناً جنت والے ہی کامیاب ہیں اور اپنی مراد پانے والے ہیں۔ فلاح و سعادت کے اصول اور قوتِ نظریہ و عملیہ کی اصلاح کے ضابطے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی صورت میں دنیا کے انسانوں کے واسطے نازل کیے۔ اسی سے انسانی زندگی فلاح و سعادت سے ہمکنار

ہو سکتی ہے۔ اس کلام الہی کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو لے کر مخاطب یقیناً تو دیکھتا اس پہاڑ کو ہیبت الہی سے پارہ پارہ ہو جانے والا۔ اگر اس پہاڑ میں انسان کی طرح عقل ہوتی شعور عطا کر کے اس پر قرآن نازل کیا جاتا تو وہ سمجھتا اور عظمت و ہیبت خداوندی سے ایسا متاثر ہوتا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن افسوس کہ یہ انسان جس پر یہ کلام الہی اتارا گیا ایسا سخت دل واقع ہوا ہے کہ اس کا دل کانپتا ہے اور خشیت و تقویٰ کے آثار اس میں نظر آتے ہیں انسان کو چاہیے کہ اس امانت الہیہ کی عظمت کو پہچانے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے آخر اس انسان کو یاد کرنا چاہیے کہ روز یثاق اس امانت کو جب اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تھا اور آسمان و زمین نے اس کی عظمت و ہیبت سے گھبرا کر انکار کر دیا تھا تو اس حضرت انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا تھا اور اس امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنے کا اقرار کیا تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰیٰتِنَا عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَانكَبْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَعْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَاهِلُوًّا۔

اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں اور جس سعادت اور یہ کا حصول انسان کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے اس کو حاصل کر سکیں اور فلاح و کامیابی کی منزل تک پہنچنے کی جو صلاحیتیں اس کو عطا کی گئی ہیں ان کو بروئے کار لائے اور قوت نظریہ درست کرنے کے بعد قوائے عملیہ کو اس کے تابع کر دے۔ جو عرف حق قاطع شائد کی ذات و صفات کی معرفت اور دل و دماغ میں اس عقیدہ کو راسخ کر لینے پر موقوف ہے تو جان لینا چاہیے کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہی پرشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے جو چیز انسانی ادراک و شعور سے ماوراء ہو اس چیز کو انسانی ادراک ادراک کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہاں تک عقل کی پرواز ہے۔ وہ صرف خدا ہی جانتا ہے اور ہر ظاہر چیز کو بھی

عہ الغیب بڑا ہی وسیع المعنی لفظ ہے۔ انسان کی حس بصر سے لیکر حواس خمسہ تک ہر جس سے جو چیز غائب ہے اس کو غیب کہا جائے گا۔ اضافہ کردہ الفاظ میں بھی اشارہ کر دیا گیا کہ غیب کا اطلاق حواس ظاہرہ سے غائب ہی چیز پر نہیں بلکہ جو انسانی ادراک اور عقل و فکر کی پرواز سے بالا و برتر ہے وہ بھی غیب ہے چنانچہ آخرت اور احوال آخرت جیسی جملہ چیزیں غیب کا مصداق ہیں۔ انسان ہی کیا بلکہ ملائکہ اور جنوں کے ادراک و شعور سے بھی پرشیدہ چیزیں اس میں شامل ہیں۔

چنانچہ غلام اعلیٰ اور ملکوت السموات کی بہت سی چیزیں فرشتوں سے بھی پرشیدہ ہیں الغرض ہر وہ چیز جو مخلوق کے ادراک و شعور سے بالا ہو یا بعد مکانی سے حواس بصریہ وغیرہ سے مستور و پرشیدہ ہو اس کو غیب کہا جائے گا۔ جو ایک وسیع عالم ہے۔ اور اس کے بے شمار مراتب و درجات ہیں جیسا کہ حضرات عارفین و صوفیہ بیان کرتے ہیں اسی طرح عالم شہادت کے بھی بے شمار مراتب و درجات ہیں۔ ۳

خدا ہی جانتا ہے جب کہ انسان بہت سی چیزوں کو دیکھنے اور محسوس کرنے کے باوجود اس کے جاننے سے عاجز رہتے ہیں۔ وہی بڑا حیران اور نہایت رحم والا ہے جس کی عنایات و رحمتیں انسان کو آمادہ کرتی ہیں کہ وہ صرف اسی رحمن و رحیم کی عبادت و بندگی کرے۔ اس کے خزانہ رحمت بے پایاں ہیں دنیا میں وہ اپنی رحمتوں سے مؤمن و کافر، انسان و حیوان، شجر و حجر سب ہی کو نوازتا ہے اس طرح کہ اس کی رحمت و عنایت رحمت و ہر بانی کے لباس میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی پیکر تکلیف و شدت میں اس کی یہ رحمت اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ان ظاہری و باطنی رحمتوں کو اس پروردگار نے اپنے مؤمن بندوں کے لیے آخرت میں مخصوص کر دیا۔ غرض وہ پروردگار ہی ایسا معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی بادشاہ ہے تمام کائنات کا اس کی سلطنت و حکمرانی کائنات پر جاری ہے بروبحر زمین و آسمان پر بسنے والی ہر مخلوق اس کے فرمان کے تابع ہے کسی کو مجال نہیں کہ اس کے حکم سے عدول کر سکے یا بغاوت کر سکے۔ وہی بادشاہ ہے جس کے قبضہ میں تمام خزانے ہیں جن کی کوئی حد و انتہاء نہیں اور اس کی بادشاہت دنیا و آخرت میں ایسی کامل اور مضبوط بادشاہت ہے کہ اس کے حکم سے کسی کو سرتابی کی مجال نہیں۔ جس کو نہ کسی کی بغاوت کا خطرہ ہے اور نہ کسی کی خیانت کی فکر اور نہ کسی کی معاونت و امداد کا محتاج۔ وہ پاک ہے ہر عیب سے اور ایسی ہر بری بات سے جو اس کے شایان شان نہ ہو۔ جو ہر نقصان و زوال سے محفوظ و سالم ہے اور اپنی مخلوق و بندوں کو سلامتی عطا کرنے والا ہے۔ وہی امن و پناہ دینے والا ہے خواہ دنیا کی کوئی مصیبت و پریشانی ہو یا آخرت کی وہی محافظ و نگہبان ہے اپنی مخلوق پر کہ ہر آفت و مصیبت سے بھی وہ ہی محفوظ رکھتا ہے اور وہی بندوں کے ہر عمل کا نگران اور ان کے اعمال کا رقیب ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ رَانَ اَذْنَانُكَ مَا نَ عَلَيَّكُمْ رَرَقِيْبًا۔

وہ بڑی ہی عزت والا۔ غالب و قاهر اور زبردست دباؤ والا صاحب عظمت ہے۔ پاکی سے

عہ لفظ المتکبر کا ترجمہ صاحب عظمت سے کیا۔ لفظ کبر بڑائی اور عظمت کے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو باب تفاعل میں استعمال ہونے سے مفہوم ہوگا علو و بلندی اور عظمت کو اختیار کرنے والا یعنی اس سے متصف امام رازی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تکبر انسانوں کی صفات میں مذموم ہے۔ اور تکبر کو صفت ذم شمار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبر کے معنی جب یہ ہوئے کہ وہ اپنی ذات سے کبر و بڑائی ظاہر کرنے والا ہو تو مخلوق تو سراسر عاجز ہے۔ ہزاراں ہزار عیب ہر انسان میں ہوتے ہیں تو ایسے نقائص اور عیوب کے ہوتے ہوئے انسان کا کبر اور بڑائی کرنا یقیناً مذموم ہوگا اور وہ اس میں جھوٹا ہوگا۔ اس کو تذلل و تواضع اور اظہار پستی ہی زیب دیتا ہے لیکن اس کے برعکس اللہ رب العزت کی ذات تو ہر کمال و بلندی سے متصف ہے اس لیے جب وہ اپنی بڑائی اور علو کو ظاہر کرے گا تو حقیقت کے عین مطابق ہوگا۔ اور بندوں کو یہ بات رہنمائی کرنے والی ہوگی کہ حق تعالیٰ جل شانہ، و عم نوالہ کی جلالت شان اور اس کی عظمت و برتری کو پہچانیں۔

اللہ رب العالمین کی ان تمام چیزوں سے جو وہ شرک کی کرتے ہیں اس لیے کہ جو پروردگار ان صفات کا مالک اور صاحب عظمت ہوگا اس کا کون شریک ہوگا۔ لہذا وہ ہر شرک اور شریک سے پاک ہے وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا۔ ایجاد کرنے والا۔ صورت بنانے والا جیسا کہ ایک قطرہ آب پر انسان کی شکل و صورت اور اس کے جسم کی ساخت اور اس کے اعمال و اخلاق اور کردار کی ہیئت و تصویر وہی کھینچتا ہے اسی کے واسطے ہیں سب پاکیزہ نام جس کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں کہ ہر چیز شجر و حجر جہانم و طیور اور وحوش ہر ایک اس کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہے۔ جیسے کہ ارشاد ہے **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ**۔ وہی زبردست حکمت والا ہے۔ کیونکہ جو ذات ان جملہ اوصاف کی حامل ہوگی وہ بلاشبہ بڑی ہی قدرت و قوت والی بھی ہوگی اور بڑی ہی حکمت والی بھی ہوگی۔ اس لیے کہ اس میں سے ہر صفت اس کی کمال حکمت کی دلیل ہے اور ہر صفت کا ظہور اس کی مخلوقات میں بالکل اسی طرح ہے جس طرح آفتاب کی روشنی کا ثبوت و ظہور عالم کے ایک ایک ذرہ سے ہو رہا ہے۔

امام احمد بن حنبل اور ترمذی نے معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ التسمیع العظیم من الشیطن الرجیم پڑھ کر یہ تین آخری آیات سورہ حشر کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر ستر ہزار فرشتے مقرر کر دے گا جو اس پر مدعا و رحمت کرتے رہیں گے یہاں تک کہ شام ہو جائے اور اسی طرح اگر شام کے وقت پڑھ لے تو صبح تک یہ تعداد فرشتوں کی اس پر رحمت کی دعا کرتی رہے گی اور اگر وہ اس دن مرے گا تو اس حالت میں انتقال کریگا کہ وہ شہید ہوگا۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں آیت **لَوْ أَشْرَقْنَا هَذَا الْفُجْرَانِ** کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کلام الہی کی عظمت و ہیبت کا جب یہ مقام ہے کہ پہاڑ اپنی سختی و عظمت اور قوت کے باوجود اس قدر متاثر ہوتے ہیں کہ اگر ان میں وہ فہم و شعور و دیعت رکھ دیا جائے جو انسانوں کو عطا ہوا ہے تو وہ اپنی اس عظمت و سختی کے باوجود خداوند عالم کی خشیت و ہیبت سے پارہ پارہ ہو جاتا تو انسان کی حالت قابلِ افسوس ہے کہ وہ انسانی شعور و احساس رکھتے ہوئے خدا کی خشیت سے متاثر نہ ہو حالانکہ وہ کتاب الہی کو سمجھتا ہے اس میں تدبر اور غور و فکر کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ ع

میرے شیخ محترم حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فوائد قرآن کریم ملتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے والد مرحوم نے ایک طویل نظم کے ضمن میں یہ تین شعر کہے۔

نتے سنتے نغمہائے محفل بدعات کو کان ہرے ہر گئے دل بد مزہ ہونے کو ہے

آؤ سنوائیں تمہیں وہ نغمہ شروع بھی پارہ جس کے لمن سے طور بدی ہونے کو ہے
 حیف گر تاثیر اسکی تیرے دل پر کچھ نہ ہو کوہ جس سے غاشعاً مُتَصَدِّعاً ہونے کو ہے
 حضرات عارفین اور علماء بائینین کی تحقیق یہ ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ جمادات و نباتات میں
 بھی اللہ رب العزت نے احساس و شعور کی صلاحیت رکھی ہے چنانچہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کی شقاوت
 اور قساوت قلبیہ کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ حَسَوَةً وَ
 إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْشَقُّ فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ
 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَنْهَيْطُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ۔

چنانچہ جمادات کے احساس و شعور کا ثبوت اس واقعہ سے بھی ملتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے واسطے جب منبر تیار کیا گیا اور آپ نے پہلی مرتبہ اس پر خطبہ دینا شروع فرمایا وہ کھجور کے درخت کا تنہا
 جو ستون کی طرح مسجد میں گڑا ہوا تھا اور آپ اسی پر ٹیک دسپارا لے کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو وہ
 ستون بیقرار ہو کر اس طرح رونے لگا کہ جیسے کوئی بچہ روتا ہو یہ آواز سب نے سنی آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم منبر سے نیچے اترے اس ستون کو تھپکا تسلی دی۔ جیسے بچے کو تھپک کر تسلی دی جاتی ہو اور اس کو
 خاموش کیا جاتا ہو۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ستون اپنی آواز ضبط کرنے لگا۔ راوی حدیث
 اس قصہ کو ذکر کرتے ہوئے در لسا کان یسمع من الذکور والنوحیہ کہ وہ ستون اس وجہ سے روبا کہ
 وہ جو ذکر اور وحی الہی سنا کرتا تھا اب اس سے بعد ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس ستون کا نام ستون
 حنّانہ رکھا گیا۔

حسن بصری اس حدیث کو نقل کر کے فرماتے ہیں اے مسلمانو! دیکھو جب ایک لکڑی کا تنہا اور ستون
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق و محبت میں بے قرار ہو کر آہ و زاری کرنے لگا تو تم انسان ذی عقل ہو تمہیں
 چاہیے کہ تم بھی اپنے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور محبت اس لکڑی کے ستون سے زائد پیدا
 کر دہی وہ چیز ہے جس کو حضرت رومیؒ نے فرمایا ہے۔

فلسفی کو منکر حنّانہ است از حواس انبیاء بیگانہ است

اسماء حسنیٰ وصفات خداوندی

قال الله تعالى - وَبِذَلِكَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا -

عہ صحیح بخاری جلد ۱ - ابواب الخطبہ - ۱۲

ارشاد مبارک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عظمیٰ ہیں انہی کے ذریعے خدا تعالیٰ سے دعا مانگا کرو مثلاً یا اللہ اور یا رحمن اور یا غفار کہہ کر دعا مانگو اور یا ذات یا موجود یا حسی کہہ کر دعا مت مانگو اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنیٰ کو سوال اور دعا کا ذریعہ بناؤ خود تراشیدہ ناموں سے اللہ کو مت پکارو۔

اسماءِ حسنیٰ سے اللہ کے نام اور اوصاف مراد ہیں جو اس کی ذات پاک پر یا اس کی کسی صفت پر دلالت کریں لفظ "اللہ" ذاتِ خداوندی کا اسمِ عظیم ہے اور اسمِ ذات ہے جو اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور باقی اوصاف سب اس کے تابع ہیں اور بعثتِ نبوی سے پہلے عرب میں "اللہ" ذاتِ خداوندی کے لیے بولا جاتا تھا۔ شریعت نے اسی نام کو بحال رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اس کے کمالات کی کوئی حد نہیں مگر اللہ پر صرف ان اسماء کا اطلاق درست ہے جو شرع شریف سے ثابت ہوئے ہیں۔

علماء متکلمین کی رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو قیفی ہیں یعنی صاحب شرع کے واقف کرانے اور بتلانے پر موقوف ہیں شرع میں جس اسم کا اطلاق حق تعالیٰ کی ذات پر آیا ہے اس اسم کا اطلاق کرنا تو جائز ہے۔

اور جس اسم کا اطلاق نہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے اگرچہ اس میں معنی کمال کے پائے جاتے ہوں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ پر جواد اور کریم کا اطلاق جائز ہے اس لیے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سخی کہنا جائز نہیں اس لیے کہ اس اسم کا اطلاق شرع میں نہیں آیا لہذا ہم کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اپنی رائے اور قیاس سے خدا کے نام تجویز نہ کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ دِيْتَهُ بِسْمَعَةَ وَ تَسْعِيْنِ اَسْمَاءٍ مِنْ اَحْصَاها دَخَلَ الْجَنَّةَ يَعْنِي اللّٰهُ كَيْ نَمُوْءِ نَامٍ فِيْ جِسْمِ نِيْ اَنْ كُوْ مُحْفُوْطٍ اَوْ يَادُ كَرِيْمٍ اَوْ جَنَّتْ فِيْ دَاخِلِ هُوَ۔ سو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں لیکن یہ ننانوے نام۔ تمام اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عظمیٰ کی اصل ہیں کہ دنیا میں اہل عقل کے نزدیک جس قدر صفات کمال متصور ہو سکتی ہیں وہ سب انہی ننانوے اسماءِ حسنیٰ کے تحت درج ہیں اور یہ ننانوے اسماءِ عظمیٰ بے شمار صفات کمالیہ کے لیے بمنزلہ اصل کے ہیں اور تمام صفات کمال کا خلاصہ اور اجمال ہیں اور حدیث میں احصاء سے محض زبان یا ذکر لینا مراد نہیں بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ عظمیٰ کے ساتھ موصوف ہے تو جس نے حق تعالیٰ کو تمام صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف جانا وہ جنت میں داخل ہوگا۔

اللہ رب العزت کے ننانوے اسماء حسنیٰ

- ۱- **اللَّهُ** معبود برحق اور موجود مطلق۔ یہ نام خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ غیر خدا پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا نہ حقیقتاً نہ مجازاً۔
- ۲- **الرَّحْمَنُ** نہایت رحم والا۔
- ۳- **الرَّحِيمُ** بڑا مہربان۔
- ۴- **الْمَلِكُ** بادشاہ حقیقی۔ اپنی تدبیر اور تصرف میں مختار مطلق۔
- ۵- **الْقُدُّوسُ** تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک اور منزہ۔ فضائل اور محاسن کا جامع اور معائب اور مخلوقات کی صفات سے معز اور مبرا۔
- ۶- **السَّلَامُ** آفتوں اور عیبوں سے سالم اور سلامتی کا عطا کرنے والا بے عیب۔
- ۷- **الْمُؤْمِنُ** مخلوق کو آنتوں سے امن دینے والا اور امن کے سامان پیدا کرنے والا۔
- ۸- **الْمُهَيِّمُ** ہر چیز کا نگہبان اور پاسبان۔
- ۹- **الْعَزِيزُ** عزت والا اور غلبہ والا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہ کوئی اس پر غلبہ پاسکتا ہے۔
- ۱۰- **الْجَبَّارُ** جبر اور قہر والا ٹوٹے ہوئے کا جوڑنے والا اور بگڑے ہوئے کا درست کرنے والا کوئی اسے مجبور نہیں کر سکتا۔
- ۱۱- **الْمُتَكَبِّرُ** انتہائی بلند اور برتر، یعنی بزرگ اور بے نیاز جس کے سامنے سب حقیر ہیں۔
مر اور رسد کبریا، و منی کر طکش قدیم است و ذواتش غنی
- ۱۲- **الْخَالِقُ** مشیت اور حکمت کے مطابق ٹھیک اندازہ کرنے والا اور اس کے مطابق پیدا کرنے والا اس نے ہر چیز کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی کسی کو چھوٹا اور کسی کو بڑا، اور کسی کو انسان اور کسی کو حیوان، کسی کو پہاڑ اور کسی کو پتھر اور کسی کو ٹمھی اور کسی کو مچھڑ، ہر ایک کی ایک خاص مقدار مقرر کر دی۔
- ۱۳- **الْبَارِئُ** ہر کسی اس کے اور ہر کسی نخل کے پیدا کرنے والا۔
- ۱۴- **الْمُصَوِّرُ** طرح طرح کی صورتیں بنانے والا کہ ہر صورت کو دوسری سے جدا اور ممتاز بناتا ہے۔
- ۱۵- **الْغَفَّارُ** بڑا بخشنے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور پردہ پوشی کرنے والا۔
- ۱۶- **الْقَهَّارُ** بڑا قہر اور غلبہ والا کہ جس کے سامنے سب عاجز ہوں ہر موجود اس کے قدرت کے سامنے مقہور و عاجز ہے۔
- ۱۷- **الْوَهَّابُ** بغیر عرض اور بغیر عوض کے بخشنے والا۔ بندہ بھی کچھ بخش دیتا ہے مگر اس کی بخشش ناقص اور

نامت مہوتی ہے بندہ کسی کو کچھ روپیہ پیسہ دے سکتا ہے مگر صحت اور عافیت نہیں دے سکتا۔
 روزی دینے والا اور روزی کا پیدا کرنے والا رزق اور سرزدق سب اسی کی مخلوق ہے۔
 رزق اور صحت کا دروازہ کھولنے والا اور مشکلات کی گرہ کھولنے والا۔
 بہت جاننے والا جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو۔ اس کا علم تمام کائنات کے ظاہر و باطن
 کو محیط ہے۔

۱۸۔ الرِّزْقُ

۱۹۔ الْفَتْحُ

۲۰۔ الْعَلِيمُ

۲۱۔ الْقَابِضُ

۲۲۔ الْبَاسِطُ

۲۳۔ الْخَافِضُ

۲۴۔ الرَّافِعُ

۲۵۔ الْمُعِزُّ

۲۶۔ الْمُدِيتُّ

۲۷۔ السَّمِيعُ

۲۸۔ الْبَصِيرُ

۲۹۔ الْحَكَمُ

۳۰۔ الْعَدْلُ

۳۱۔ اللَّطِيفُ

۳۲۔ الْخَبِيرُ

۳۳۔ الْحَلِيمُ

۳۴۔ الْعَظِيمُ

۳۵۔ الْغَفُورُ

۳۶۔ الشَّكُورُ

۳۷۔ الْعَلِيُّ

تنگی کرنے والا۔
 فراخی کرنے والا۔ یعنی رزق حسی اور معنوی کی تنگی اور فراخی سب اس کے ہاتھ میں ہے
 کسی پر رزق کو فراخ کیا اور کسی پر تنگ کیا۔
 پست کرنے والا۔
 بلند کرنے والا۔ جس کو پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے۔

عزت دینے والا۔
 ذلت دینے والا جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے جس کو چاہے
 ہدایت دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔
 بہت سنانے والا۔
 بہت دیکھنے والا۔

حکم کرنے والا اور فیصلہ کرنے والا کوئی اس کے فیصلہ کو رد نہیں کر سکتا اور نہ کوئی
 اس کے فیصلہ پر تبصرہ کر سکتا ہے۔
 انصاف کرنے والا۔ اس کی بارگاہ میں ظلم اور جور و ستم عقلاً محال ہے۔
 باریک بین اور نیکی اور نرمی کرنے والا ایسی خفی اور باریک چیزوں کا ادراک کرنے والا
 جہاں نگاہیں نہیں پہنچ سکتیں۔

بڑا ہی آگاہ اور باخبر ہے۔ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے ہر چیز کی اس کو خبر ہے یہ
 ناممکن ہے کہ کوئی چیز موجود ہو اور خدا کو اس کی خبر نہ ہو۔
 بڑا ہی بردبار۔ علانیہ نافرمانی بھی اس کو مجرمین کی فوری سزا پر آمادہ نہیں کرتی گناہوں
 کی وجہ سے وہ رزق نہیں روکتا۔
 بڑا ہی عظمت والا جس کے سامنے سب بیچ ہیں اور کسی کی اس تک رسائی نہیں۔

بہت بخشنے والا۔
 بڑا قدر دان۔ تھوڑے عمل پر بڑا ثواب دینے والا۔
 بلند مرتبہ کر اس سے اور کسی کا مرتبہ نہیں۔

۳۸- الْكَئِبُ

بہت بڑا کہ اس سے بڑا کوئی تصور نہیں۔

۳۹- الْكَفِيظُ

نگہبان مخلوق کو آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھنے والا۔

۴۰- الْمُقِنْتُ

مخلوق کو قوت یعنی روزی اور غذا دینے والا۔ روح اور جسم دونوں کو روزی دینے

والا۔ اور بعض نسخوں میں ”الْمُقِنْتُ“ ہے یعنی زیادہ کو پہنچنے والا۔

۴۱- الْكَسِيبُ

ہر حال میں کفایت کرنے والا یا قیامت کے دن بندوں سے حساب لینے والا۔

۴۲- الْكَلِيلُ

بزرگ تر۔ یعنی کمال استغناء اور کمال تقدس اور کمال تنزیہ کے ساتھ مومنوں کے

۴۳- الْكَرِيمُ

کریم اور بخشش والا بغیر سوال کے اور بغیر وسیلہ کے عطا کرنے والا۔

۴۴- الرَّقِيبُ

نگہبان اور نگران کسی شے سے وہ غافل نہیں اور کوئی شے اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔

۴۵- الْمُجِيبُ

دعاؤں کا قبول کرنے والا اور بندوں کی پکار کا جواب دینے والا۔

۴۶- الْوَاسِعُ

فراخ علم والا جس کا علم اور جس کی نعمت تمام اشیاء کو محیط ہے۔

۴۷- الْحَكِيمُ

حقائق اور اسرار کا جاننے والا جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اور حکمت کے

معنی کمال علم کے ساتھ۔ نعل اور عمل کا عمدہ ہونا اور سمجھتہ ہونا یعنی اس کی کار اور گفتار

سب درست اور استوار ہے۔

۴۸- الْوَدُودُ

نیک بندوں کو دوست رکھنے والا خیر اور احسان کو پسند کرنے والا۔

۴۹- الْمُجِيدُ

ذات اور صفات اور افعال میں بزرگ اور شریف۔

۵۰- الْبَاعِثُ

مردوں کو زندہ کرنے والا اور قبروں سے اٹھانے والا اور مواتے ہوؤں کو بستروں

سے جگانے والا۔

۵۱- الشَّهِيدُ

حاضر داناظر اور ظاہر و باطن پر مطلع اور بعض کہتے ہیں کہ امور ظاہرہ کے جاننے والے

کو شہید کہتے ہیں اور امور باطنہ کے جاننے والے کو خیر کہتے ہیں اور مطلق جاننے

والے کو علیم کہتے ہیں۔

۵۲- الْحَقُّ

ثابت اور برحق یعنی جس کی خدائی اور شہنشاہی حق ہے اور اس کے موا سب

باطل اور بیج۔

۵۳- الْوَكِيلُ

کار ساز جس کی طرف کسی نے اپنا کام سپرد کر دیا ہو وہ اس کا کام بنانے والا ہے۔

۵۴- الْقَوِيُّ

غیر متناہی قوت والا یعنی توانا اور زور والا جس کو کبھی ضعف لاحق نہیں ہوتا۔

۵۵- الْمُتَيْنُ

استوار اور شدید القوت جس میں ضعف اور اضلال کا امکان نہیں اور اس کی

قوت میں کوئی اس کا مقابل اور شریک نہیں۔

۵۶- الْوَلِيُّ

مددگار اور دوست رکھنے والا یعنی اہل ایمان کا محبت اور ناصر۔

۵۷- الْحَمْدُ

سزا دار حمد و ثناء ذات و صفات اور افعال کے اعتراف سے متوہ۔

- ۵۸۔ **الْمُحْصِي** کائنات عالم کی مقدار اور شمار کو جاننے والا زمین کے ذرے اور بارش کے قطرے اور درختوں کے پتے اور انسانوں اور حیوانوں کے سانس سب اس کو معلوم ہیں۔
- ۵۹۔ **الْمُبْدِي** پہلی بار پیدا کرنے والا اور عدم سے وجود میں لانے والا۔
- ۶۰۔ **الْمُعِيدُ** دوبارہ پیدا کرنے والا۔ پہلی بار بھی اس نے پیدا کیا اور قیامت کے دن بھی وہی دوبارہ پیدا کرے گا اور معدومات کو دوبارہ ہستی کا لباس پہنائے گا۔
- ۶۱۔ **الْمُحْيِي** زندہ کرنے والا۔
- ۶۲۔ **الْمُمِيتُ** مارنے والا۔ جسمانی اور روحانی ظاہری اور باطنی موت اور حیات کا مالک جس نے ہر ایک کی موت اور حیات کا وقت اور اس کی مدت مقرر اور مقدر کر دی۔
- ۶۳۔ **الْحَيُّ** بذات خود زندہ اور قائم بالذات جس کی حیات کو کبھی زوال نہیں۔
- ۶۴۔ **الْقَيُّومُ** کائنات عالم کی ذات و صفات کا قائم رکھنے والا اور تھامنے والا یعنی تمام کائنات کا وجود اور ہستی اس کے ہمارے سے قائم ہے۔
- ۶۵۔ **الْوَاحِدُ** غنی اور بے پردہ کہ کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں۔ یا یہ معنی کہ اپنی مراد کو پانہ والا جو چاہتا ہے کرتا ہے نہ کوئی اس سے چھوٹا سکتا ہے اور نہ کوئی اس تکلیف پہنچ سکتا ہے۔
- ۶۶۔ **الْمَاجِدُ** بڑی بزرگی والا مطلق بزرگ۔
- ۶۷۔ **الْوَاحِدُ** ایک، کوئی اس کا شریک نہیں۔
- ۶۸۔ **الْأَحَدُ** ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ یعنی بے مثال اور بے نظیر۔
- ۶۹۔ **الضَّمَدُ** سردار کامل۔ سب سے بے نیاز اور سب اس کے محتاج۔ یعنی ذات و صفات کے اعتبار سے ایسا کامل مطلق کہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اسکے محتاج ہوں۔
- ۷۰۔ **الْقَادِرُ** قدرت والا اسے اپنے کام میں کسی آلہ کی ضرورت نہیں مجز اور بے چارگی سے پاک اور منزہ۔
- ۷۱۔ **الْمُقْتَدِرُ** بذات خود کامل القدرت کسی چیز کے کرنے میں اسے دشواری نہیں اور کسی میں یہ قدرت نہیں کہ اس کی قدرت میں تراحت کر سکے۔
- ۷۲۔ **الْمُقَدِّمُ** دوستوں کو آگے کرنے والا۔
- ۷۳۔ **الْمُؤَخِّرُ** دشمنوں کو پیچھے کرنے والا۔
- ۷۴۔ **الْأَوَّلُ** سب سے پہلا۔

عہ احد کا لفظ ترمذی کی روایت اور بیہقی کی دعوات کبیر میں نہیں آیا۔ البتہ ابن ماجہ کی روایت میں

یہ لفظ آیا ہے۔ دیکھئے شرح کتاب الاذکار ص ۲۱۵، ج ۳۔

۷۵۔ **الْآخِرُ** سب سے پچھلا یعنی اس سے پہلے کوئی موجود نہ تھا اور اس کے سوا جو موجود ہو اس کو اسی کی بارگاہ سے وجود ملا۔

۷۶۔ **الظَّاهِرُ** آشکارا

۷۷۔ **الْبَاطِنُ** پوشیدہ: یعنی لحاظ و داخل قدرت کے آشکارا ہے کہ ہر ذرہ اس کے کمال قدرت پر دلالت کرتا ہے اور باعتبار کثرت اور حقیقت کے پوشیدہ ہے۔

۷۸۔ **الْوَالِحُ** کارساز اور مالک اور تمام کاموں کا متولی اور منتظم۔

۷۹۔ **الْمُتَعَالِي** عالیشان اور بہت بلند اور برتر، کہ جہاں تک کوئی نہ پہنچ سکے۔

۸۰۔ **الْبَرُّ** نیکی اور احسان کرنے والا نیکو کار۔

۸۱۔ **التَّوَابُ** توبہ قبول کرنے والا، اور توبہ کرنے والا۔

۸۲۔ **الْمُنْتَقِمُ** سرکشوں سے بدلہ لینے والا۔

۸۳۔ **الْعَظِيمُ** گناہوں اور تقصیروں سے بڑا درگزر کرنے والا اور گناہوں کو مٹا دینے والا۔

۸۴۔ **الزَّوَّجُونَ** بڑا ہی مہربان جس کی رحمت کی غایت اور نہایت نہیں۔

۸۵۔ **مَالِكُ الْمُلْكِ** خداوند جہان و ملک کا جس طرح چاہے تعریف کرے کوئی اس کے حکم اور تصرف کو نہ روک سکے۔

۸۶۔ **ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** صاحب عظمت و جلال جس کا حکم جاری اور نافذ ہے اور اس کی اطاعت لازم ہے۔

اور اپنے فرمانروا و بندوں کی تعظیم و تکریم کرنے والا اور ان کو عزت دینے والا

اور ان پر کرم کرنے والا جس کے پاس جو عزت اور کرامت ہے وہ اسی کا عطیہ ہے۔

عادل اور منصف مظلوم کا ظالم سے بدلہ لیتا ہے۔

۸۷۔ **الْمُقْسِطُ**

تمام متفرق چیزوں کو جمع کرنے والا جس نے اپنی قدرت و حکمت سے جسم انسانی

۸۸۔ **الْجَامِعُ**

اور حیوانی میں غنا مٹھادہ کو جمع کیا۔

بے پرواہ اسے کسی کی حاجت نہیں اور کوئی اس سے مستغنی نہیں۔

۸۹۔ **الْغَنِيُّ**

مخلوق کو بے پرواہ کرنے والا۔ یعنی وہ خود بے نیاز ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے

۹۰۔ **الْمُعْنِي**

بندوں میں سے حسب حکمت و مصلحت اس کو بے پرواہ کر دیتا ہے اور بقدر ضرورت

اس کو دے دیتا ہے۔

روکنے والا اور باز رکھنے والا جس چیز کو وہ روک لے کوئی اس کو دے نہیں سکتا۔

۹۱۔ **الْمَانِعُ**

ضرر پہنچانے والا۔

۹۲۔ **الضَّارُّ**

نفع پہنچانے والا۔ یعنی نفع اور ضرر سب اس کے ہاتھ میں ہے خیر و شر

۹۳۔ **النَّافِعُ**

نفع و ضرر سب اسی کی طرف سے ہے۔

۹۴۔ النُّور

وہ بذات خود ظاہر اور روشن ہے اور دوسروں کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہے۔ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہر بنفسہ ہو اور دوسرے کے لیے منظر ہو۔ آسمان و زمین سب ظلمتِ عدم میں مستور تھے اللہ نے ان کو عدم کی ظلمت سے نکال کر نور وجود عطا کیا جس سے سب ظاہر ہو گئے اس لیے وہ نُور السموات والارض ہے۔

در ظلمتِ عدم ہمہ بودیم بے غیر نور وجود سرشہود از تو یا نقسیم۔

۹۵۔ الْهَادِي

راہ دکھانے والا اور تھلانے والا اور چلانے والا کہ یہ راہ سعادت ہے اور یہ راہ شقاوت ہے۔

۹۶۔ الْبَدِيعُ

بے مثال اور بے نمونہ عالم کا پیدا کرنے والا۔

۹۷۔ الْبَاقِي

ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا یعنی دائم الوجود جن کو کبھی فنا نہیں اور اس کے وجود کی کوئی انتہا نہیں اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے ماضی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے اور مستقبل کے لحاظ سے وہ باقی ہے ورنہ اس کی ذات کے لحاظ سے وہاں نہ ماضی ہے اور نہ مستقبل ہے اور وہ بذات خود باقی ہے اور جنت و جہنم کو جو دو اسم اور بقاء ہے وہ اس کے باقی رکھنے سے ہے اور بقاء اور ابقاء میں فرق ہے۔

۹۸۔ الْوَارِثُ

تمام موجودات کے فنا ہو جانے کے بعد سب کا وارث اور مالک جب سارا عالم فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے گا تو وہ خود ہی فرمائے گا لَمَنْ الْوَارِثُ الْيَسُّورُ اور خود ہی جواب دے گا۔ هَذَا الْمَوْحِدِ الْقَهَّارِ۔

۹۹۔ الرَّشِيدُ

رہنمائے عالم یعنی دینی اور دنیوی مسلمانوں میں عالم کا رہنما اور اس کا ہر تصرف میں رشد اور عین صواب اور اس کی ہر تدبیر نہایت درست ہے۔

۱۰۰۔ الصَّبُورُ

بڑا صبر کرنے والا۔ کہ نافرمانوں کے پکڑنے اور سزا دینے میں اور دشمنوں سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہیں جن کے ساتھ اسم اللہ مل کر سو کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ اور جنت کے سو درجے ہیں۔ سو جو ان اسماء حسنیٰ کو یاد کرے اور ان کے معنی کو سمجھ کر دل میں یہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات کمالیہ کے ساتھ موصوف ہے اور ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو یاد کرے اور ان کے ذریعے اپنی حاجتیں مانگے یعنی جو نام اس کی حاجت اور ضرورت کے مناسب ہو اس نام کے ذریعہ اللہ سے دعا کرے مثلاً جو روزی کا حاجت مند

ہو وہ یا ذائق کو کہہ کر دعائے گے اور طالب علم دین یا علیہم کہہ کر دعا مانگے۔ اور گم گشتہ راہ یا ہادی کہہ کر دعائے گے وغیرہ جو ایسا کرے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے یہ ننانوے نام ترمذی وغیرہ کی روایت میں آئے ہیں جن میں اکثر قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ اللہ کے اسماء و صفات بے شمار ہیں مگر مشہور حدیثوں میں ان ننانوے ناموں کا ذکر آیا ہے۔ کیونکہ یہ نام تمام صفات کمالیہ کی اصل اور جڑ ہیں باقی ان کے علاوہ اور بھی اللہ کے کچھ نام ہیں جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً قاهر اور شاکر اور داحم اور قدیم اور وتر اور فاطس اور علام اور ملیک اور آکر اور مدبر اور ر فیح اور ذی الطول اور ذی المعارج اور ذی الفضل اور خلاق اور سید اور حنان اور منان اور دیتان وغیرہ وغیرہ۔

اس لیے ہم نے ان ننانوے ناموں کی شرح پر اکتفا کیا جو سلف صالحین میں بطور ورد معروف و مشہور ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان اسماء الحسنیٰ کو یاد کرے اور ان کو ورد اور وظیفہ بنائے اور ان تمام اسماء حسنیٰ میں اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے جس کے ذریعے دعا قبول ہوتی ہے اور اسم اللہ ذات واجب الوجود اور معبود برحق کا نام ہے۔ اور یہ نام سوائے حق تعالیٰ کے کسی اور پر اطلاق نہیں کیا جاتا۔ حقیقہً اور نہ مجازاً۔

حضرات اہل علم اگر اسماء حسنیٰ کی مزید تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات از ص ۶ تا ص ۹۳ دیکھیں اور امام غزالی کی کتاب المقصد الاسنی شرح اسماء اللہ المحنہ اور شرح کتاب الاذکار از ص ۱۹۹ تا ص ۲۲۶ جلد ۳ دیکھیں۔

عرض ان آیات مبارکہ میں ابتداء میں حکم تقویٰ فرمایا گیا اور آخرت کی فکر اور تیاری کے لیے متوجہ کیا گیا۔ اس مقصد کا حصول چونکہ عظمت وحی اور خداوند عالم کی ذات و صفات کی معرفت پر موقوف تھا تو قرآن کریم کی شان عظمت بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنی صفات عظیمہ کے بیان پر اس مضمون کو ختم فرمایا۔

تم تفسیر سورۃ الحشر و بھ اللہ الحمد والمنة



۵۴ المقصد الاسنی شرح اسماء الحسنیٰ للامام الغزالی۔ اسم اعظم کی تفصیل کے لیے شرح

حضور حسین اور شرح کتاب الاذکار، کراچی، احمدیہ پبلشرز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُتَحَنِّنَاتِ

اس سورت کا شان نزول حاطب بن ابی بلتعث کا وہ واقعہ ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آپ کے اس ارادہ کی اطلاع قریش مکہ کو کر دی تھی اور ایک عورت کے ذریعے ایک خط روانہ کیا تھا جس پر بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرمایا۔

حافظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ حاطب بن ابی بلتعث مہاجرین میں سے تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے مکہ مکرمہ میں ان کے خاندان کے کچھ افراد اور بچے تھے قریش سے کوئی نسبی قرابت نہ تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا قریش مکہ نے جب اس کو توڑ ڈالا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف مجاہدین کی فوج لے کر روانہ ہوئے تو حاطب بن ابی بلتعث نے یہ سوچ کر کہ ایسے ہنگامے میں اگر میرے اہل و عیال کی دباں کوئی حفاظت کی صورت ہو جائے تو اچھا ہے قریش مکہ کو فائدہ کی روانگی کی اطلاع کر دی۔ حضرت علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو زبیر بن العوام اور مقداد بن الاسود کو حکم فرمایا تم لوگ روانہ ہو جاؤ اور چلتے رہو تا آنکہ تم روضہ خاخ نامی مقام تک پہنچ جاؤ تو اس جگہ تم کو ایک سوار عورت ملے گی اس کے پاس خط ہوگا اس سے وہ خط لے لینا۔ بیان کرتے ہیں ہم گھوڑوں پر سوار تیزی سے روانہ ہو گئے یہاں تک کہ روضہ خاخ پر جب پہنچے تو ایک عورت ملی ہم نے اس سے کہا خط نکال کر ہمیں دے دے۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس پر سختی کی اور کہا یا تو خط دیدے ورنہ تجھ کو پکڑے اتار کر بربند کر دیں گے اور وہ خط کسی نہ کسی طرح ہم تجھ سے لے ہی لیں گے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور اس کو لینے کے ہم مامور ہیں! تو اس نے ایک خط اپنے بالوں کے جوڑے سے نکال کر ہمیں دے دیا۔ ہم خط لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے وہ خط حاطب بن ابی بلتعث کی طرف سے بعض مشرکین مکہ کے نام تھا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی طرف روانگی کی اطلاع تھی آپ نے دریافت فرمایا اسے حاطب یہ کیا ہے۔ حاطب نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اظہار حقیقت کی مہلت عنایت فرمائیے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میں قریش کے فائدانوں کے ساتھ وابستہ تھا اور میری ان کے ساتھ کوئی نسبی قرابت نہ تھی جیسا کہ دوسرے مہاجرین کی ان کے ساتھ قرابتیں ہیں میں نے خیال کیا یہ ایک ظاہری سلوک ان کے ساتھ کہ وہ دن تاکہ وہ میرے بچوں کے لئے زمانہ سازگاری کے لئے ہوں۔

اس لیے کہ حق تعالیٰ کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ ان سے یہ فروگذاشت ہوگی مگر باوجود اس ازل اور ابدی علم کے پھر ان کو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ کے تمغے سے سرفراز فرمایا معلوم ہوا کہ اس عظیم الشان حسنہ کے بعد ان سے کوئی ایسی غلطی نہ ہوگی کہ جو ان کی اس نیکی کو محو کر سکے بلکہ یہ عظیم الشان حسنہ ہی آئندہ کی غلطی کا کفارہ بن جائے گی۔ کَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِئْنَ السَّيِّئَاتِ يَعْنِي تَحْقِيقَ نِيكِيَاں بِرَأْيِيوں کو مٹا دیتی ہیں۔

اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

وَإِذَا الْحَبِيبَ إِلَىٰ بَدَنِ وَاجِدٍ جَاءَتْ مَحَاسِنُهُ بِالْفِشْفِيعِ

اگر دوست سے کسی وقت کوئی غلطی اور چوک ہو جائے تو اس کے محاسن اور گزشتہ کارنامے ہزار سفارشی لکڑھانے کھڑے کر دیتے ہیں۔

قلب میں اگر کوئی فاسد اور زہریلا مادہ نہ ہو تو پھر معصیت چنداں نقصان نہیں پہنچاتی۔ بلکہ قلب کی قوتِ ایمانی اس کو توبہ اور استغفار پر آمادہ کرتی ہے جس سے فقط گناہ معاف ہی نہیں ہوتا بلکہ مبدل ہو جاتا ہے کَمَا قَالَ تَعَالَى۔

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (القرآن العظیم)

مگر جن لوگوں نے کفر و شرک سے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور ہے اللہ بخشنے والا اور مہربان۔

بندہ نے جب توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہ کو ندامت اور پشیمانی سے بدلا تو خداوند ذوالجلال نے اس کی سیئات کو حسنات سے اور اس کی برائیوں کو جملاتیوں سے بدل دیا۔

مَرَكِبٌ تَوْبَةٍ عِجَابٌ مَرَكِبَتِ جُودٌ بَرَّازٌ زَانِبٌ مَرَكِبَتِ

مَرَكِبٌ تَوْبَةٍ عِجَابٌ مَرَكِبَتِ جُودٌ بَرَّازٌ زَانِبٌ مَرَكِبَتِ

یہ آیت عامہ مؤمنین کے حق میں ہے اہل بدر سب سے زیادہ اس کے مستحق ہیں اور جس کے قلب میں کوئی زہریلا اور فاسد مادہ موجود ہو تو ہزار اطاعت و عبادت بھی اس کے لیے مفید نہیں جیسے ابلیس لعین اور طہم باعوراء۔ خوارج دروافض ہزار نماز اور روزہ اور لاکھ عبادت کریں مگر جب تک قلب کا تنقیہ نہ ہو جائے اور فاسد مادہ نہ نکل جائے اس وقت تک کوئی طاعت اور کوئی عبادت مفید اور کارآمد نہیں۔

صفاوی مزاج والے کو کتنی ہی لطیف غذا کیوں نہ دی جائے کوئی فائدہ نہیں۔ سوء مزاج کی وجہ سے وہ لطیف غذا بھی سخیل الی الصفاء ہو جائے گی۔ کَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى۔

خَفَّ قُلُوبُهُمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا. ان کے دلوں میں بیماری ہے اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔

صحیح المزاج اور صحیح القوی اگر غلطی سے کوئی بد پرہیزی کر بیٹھے تو اس کے لیے کسی خاص علاج کی حاجت نہیں اس کی طبیعت ہی خود اس عارضی مرض کو دفع کر دے گی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حاطبؓ کی اس غلطی کو فساد مزاج پر محمول کر کے نفاق کا حکم لگایا اور قتل کی اجازت چاہی۔ مرخیل اطباءِ روحانی فداہُ روحی و جفائی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر! حاطبؓ کا قلب نفاق کے مرض سے بالکل پاک ہے یہ نفاق نہیں بلکہ غفلت سے غلطی ہو گئی ہے روحانی مزاج اس کا صحیح ہے بدر کی شرکت نے اس کو کندن بنا دیا ہے اتفاق سے بد پرہیزی ہو گئی ہے صحیح المزاج کو کبھی کبھی زلزلہ اور زکام کی شکایت پیش آجاتی ہے جس کے لیے کبک سمونی سا جو شانڈہ یا عیسانڈہ کافی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حاطبؓ کو بلا کر نقطہ پر دریافت فرمانا (مَا هَذَا يَا حَاطِبُ) اے حاطب یہ کیا معاملہ ہے۔ ان کی عارضی شکایت کے لیے یہی جو شانڈہ کافی تھا پیتے ہی بد پرہیزی کا اثر ایسا کا فور ہو کر مرتے دم تک پھر کبھی کوئی شکایت ہی نہ پیش آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضوا۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہِ اسکندر یہ کے نام دعوتِ اسلام کا خط لکھوایا تو انہی حاطبؓ کو مفیر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ کیا بارگاہِ تھی۔ ایک جانب حاطبؓ کو جو شانڈہ پلایا جا رہا ہے اور دوسری جانب عمر بن الخطابؓ کو امراضِ روحانی کی تشخیص اور معالجہ کا طریقہ تلقین ہو رہا ہے تاکر جب وقت آئے تو عمرؓ تشخیص اور علاج میں غلطی نہ کریں۔ علی

حاطبؓ کے خط کا مضمون

حاطب بن ابی بلتعہ کے خط کا مضمون بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کہ اس کا منشاء عیناً اذاً باللہ نفاق نہ تھا وہ خط یہ تھا۔

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| لے گروہ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | أما بعد يا معشر قريش |
| رات کی مانند تم پر ایک ہونٹاک لشکر لے کر | فان رسول الله صلى الله |
| آنے والے ہیں جو سیلاب کی طرح بہتا ہوگا | عليه وسلم جاءكم بجهنم |
| خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شکر | كالليل يسير كالسيل فوالله |
| کے خود تن تنہا ہی تشریف لے جائیں تو اللہ تعالیٰ | لوجاءكم وحده نصره |
| ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور فتح و نصرت | الله وانجز لئ وعدة. فانظروا |
| کا جو وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ | لانفسكم — والسلام — |

ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تقوموا لئ الا خيرا۔ کہ ان کے حق میں خیر کے

اور پھر ان کے متعلق احکام کیا ہیں۔ ان احکام کے بعد سورت کے آخر میں پھر کافروں کے ساتھ دوستی اور موالات و ہمدردی پر تنبیہ کر دی گئی جس سے مشنوں سورت کا آغاز کیا گیا تھا۔ نیز یہ کہ سورہ حشر میں منافقین کے خصائل ذمیرہ کا ذکر تھا تو اس مناسبت سے اس کے بعد سورہ ممتحنہ میں ان باتوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے جس سے اسلام کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور ان چیزوں کی مذمت کی جا رہی ہے جو نفاق کی خصیلتوں میں شمار ہوتی ہیں۔

آیۃ ۱۳ = ۶۰ = سُوْرَةُ الْمُتَحَنَّنِ بِدَنْبِيَّةٍ = ۹۱ = فِيهَا رُكُوْعَانِ

سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اور اس میں تیرہ آیتیں اور دو رکعات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

اے ایمان والو! نہ پھر لو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست

تَلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِّنْ

ان کو پیغام بھیجتے ہو دوستی سے، اور وہ منکر ہوئے ہیں اس سے جو تم کو آیا

الرَّحَقِ يُخْرِجُونَ الرِّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تَتُومِنُوا بِاللَّهِ

سچا دین۔ نکالتے ہیں رسول کو اور تم کو اس پر کہ تم مانو اللہ اپنے

رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

رب کو۔ اگر تم نکلے ہو لڑائی کو میری راہ میں اور چاہ کر

مَرْضَاتِي تَسِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا

میری رضامندی۔ تم ان کو چھپے پیغام بھیجتے ہو دوستی کے۔ اور مجھ کو خوب معلوم ہے جو

أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ

چھپایا تم نے اور جو کھولا تم نے۔ اور جو کوئی تم میں یہ کام کرے، وہ

ضَلَّ سِوَاءَ السَّبِيلِ ۱ اِنْ يَتَّقِفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ

بھولا سیدھی راہ ۔ اگر تم کو وہ پاویں دشمن ہوں تمہارے

اَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّدْتَهُمُ بِالسُّوءِ

اور چلا دیں تم پر اپنے ہاتھ ۔ اور زبانیں برائی کو ۔

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۲ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا

اور چاہیں کسی طرح تم منکر ہو جاؤ ۔ ہرگز کام نہ آویں گے تم کو تمہارے نامتے اور نہ

أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۳ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

تمہاری اولاد ۔ قیامت کے دن ۔ وہ فیصلہ کرے گا تم میں ۔ اور اللہ جو کرتے ہو

بَصِيرٌ ۳

دیکھتا ہے ۔

حُكْمُ خُدَّوْنَدِي بَرَّكَتُكَ دُوسْتِي اَز دَشْمَنَانِ اِسْلَامِ
وَتَكْمِيلِ اِقْتِضَا اِيْمَانِ بِصُورَتِ لُغْضِ وَنَفْرَتِ اَز كُفَّارِ

قال الله تعالى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ... إِلَى... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
(دربط) حاطب بن ابی بلتعنه اگرچہ ایک مجلس صحابہ تھے جن کو غزوہ بدر کی شرکت نصیب ہوئی تھی اور جملہ اہل بدر
خدا کی نظر میں وہ مقدس ستیاں تھے جن کے لیے بارگاہِ خداوندی سے پردانہ مغفرت جاری ہو چکا تھا مگر یہ کیف
غفلتی خواہ کسی سے بھی ہو اچھی بات نہیں ہے اس سے بچنا ہر ایک کے لیے لازم ہے تو حکمِ خداوندی نازل ہوا کہ
مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ خدا کے دشمنوں اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست بنائیں اور ان کی
طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن کے قلب میں کفر اور کافروں کی نفرت اور
بغض ہو اور یہ بات تو انسانی حیثیت بھی چاہتی ہے کہ جب کافر مسلمان سے دشمنی پر تلے ہوتے ہیں تو یہ کیسے
ممکن ہے کہ مسلمان ایسے دشمن سے محبت کرے اسی حکم اور ممانعت کو اس طرح ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

اے ایمان والو! ہرگز نہ بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست کہ بھیجتے ہو تم ان کو پیغام دوستی کے ساتھ اور ایسی باتیں ان کی طرف بھیجتے ہو جن سے یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ تم ان سے محبت و دوستی کرتے ہو۔ اور دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھا رہے ہو۔ حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے نہ انہوں نے اس حق کو مانا اور نہ ایمان لائے بلکہ دشمنی ہی پر کمر بستہ رہے ایسی صورت میں تو عقلاً و طبعاً یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ ان کی دشمنی کی یہ انتہاء ہے وہ نکال رہے ہیں رسول کو اور تم کو تمہارے گھروں سے۔ اور ہجرت پر مجبور کیا اور اب تک بھی وہ اسی رکشش پر قائم ہیں محض اس وجہ سے کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، حالانکہ یہ کوئی قصور نہیں بلکہ حق و ہدایت کو قبول کرنا تو عقلاً مستحسن بات ہے پھر بھی وہ تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اے مسلمانو! اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کیلئے اور میری رضامندی حاصل کرنے کے لیے تو پھر دشمنوں کو دشمن سمجھو۔ اور جن کے ساتھ مقابلہ اور جہاد کے لیے نکلے ہو ان کے ساتھ دشمنوں کا معاملہ کرو۔ یہ بات قابل تعجب ہے کہ پوشیدہ طور پر تم ان کو بھیجتے ہو دوستی کا پیغام کوئی تصور کرنے والا یہ نہ سوچے کہ کسی خفیہ بات کا مجھے علم نہ ہوگا۔ حالانکہ میں تو خوب جانتے والا ہوں ان باتوں کا جو تم چھپاتے ہو اور ان باتوں کا بھی جو تم ظاہر کرتے ہو چنانچہ حاطبہ کی بات کا پتہ چل ہی گیا حالانکہ اس کو مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔ الغرض یہ بات انتہائی خطرناک اور ناپسندیدہ ہے اور جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستہ سے جہنم جائے گا۔ انسان کی یہ فطرت ہے اور حقیقت کا تقاضا ہے کہ اپنے دشمن سے نفرت کرے۔ پھر جب کہ یہ دشمن تو ایسے ہیں اگر یہ تم پر قابو پالیں اور ان کا کسی طرح تم پر بس چل جائے تو یہ تمہارے کھلم کھلا دشمن بن جائیں اور دراز کریں تمہاری طرف اپنے ہاتھ ظلم و تعدی کے اور زبانیں بھی برائی کے ساتھ اور یہی چاہیں کہ کسی طرح تم کا فر ہو جاؤ۔ اس لیے یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں کہ ایسے دشمنوں سے بھلائی کی امید رکھی جائے تو آخر پھر یہ مسلمان ایسے دشمنوں سے کیوں رواداری برت رہے ہیں یہ تو سخت غلطی اور بہت بڑی بھول ہے۔ بلاشبہ ایسے خبیث اور بد باطن دشمن اس لائق نہیں ہیں کہ ان کو پیغام دوستی بھیجا جائے اور کافر تو غایت دشمنی میں ہی چاہتا ہے اور اس کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ تم کو کافر بنا دے جو کافر تمہاری عزت و عظمت اور دین و ایمان کا دشمن ہے ان سے ہمدردی یا دوستی کا معاملہ کیسے عقل و فطرت کے لحاظ سے درست ہو سکتا ہے۔

اہل دعیال کی محبت میں ایسی غلطی کر لینا جس طرح کہ حاطبہ سے ہوئی۔ اے مسلمانو! ہرگز تم سے ایسی غلطی کا ارتکاب نہ ہونا چاہیے۔ سمجھ لینا چاہیے کہ جس اولاد و خاندان کی محبت میں تم اس قسم کی غلطی کرو گے ہرگز کام نہ آئیں گی تمہاری قرابتیں اور نہ تمہاری اولاد قیامت کے دن اللہ رب العزت تو ہر ایک کا عمل دیکھتا ہے۔ وہ فیصلہ کریگا تمہارے درمیان اسی کے مطابق۔ اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے یہ وہ کام جو تم کرتے ہو پھر سوچو اور فیصلہ کرو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ ایک مسلمان اہل دعیال یا خاندان کی محبت میں ایسا کام کر بیٹھے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دینے والا ہو حالانکہ مؤمن کی زندگی میں تو ہر چیز سے مقدم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہے اس کی رضا سے وہ سب پریشانیوں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ جن کے باعث بسا اوقات

انسان ایسا کرتا ہے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ

تم کو چال چلنی ہے اچھی، ابراہیم کی

وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا الْقَوْمِ هُمْ إِنَّا بُرَاءُ وَامِنُكُمْ وَمِمَّا

اور جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا اپنی قوم کو، ہم الگ ہیں تم سے، اور جن کو

تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَ

تم بلو جتے ہو اللہ کے سوا، ان سے، ہم منکر ہوئے تم سے، اور کھل پڑی ہم میں اور

بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ

تم میں دشمنی اور بیزہر ہمیشہ کو، جب تک تم یقین نہ لاؤ اللہ

وَحُدَّةٍ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا

اکیلے پر، مگر ایک کہتا ابراہیم کا اپنے باپ کو، میں مانگوں گا معافی تیری، اور

أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَ

مانگ نہیں ہیں تیرے بھلے کو اللہ کے ہاتھ سے کسی چیز کا۔ اے رب ہمارے! ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور

إِلَيْكَ أُنَبِّئُكَ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ^۳ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً

تیری طرف رجوع ہونے اور تیری طرف بھر آنا۔ اے رب ہمارے! نہ جانچ ہم پر

لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَأَغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ

کافروں کو اور ہم کو معاف کر، اے رب ہمارے! تو ہی ہے زبردست

الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن

كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ

رکھتا ہو اللہ کی . اور پیچھے دن کی . اور جو کون منہ پھیرے تو

اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦﴾

اللہ وہی ہے بے پرداہ خوبیوں سرا۔

ترغیب اہل اسلام برائے اسوہ حسنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ... إِلَى... هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

اے بھائی! سورہ ممتحنہ کی گزشتہ آیات میں کافروں کے ساتھ دوستی پر وعید و مذمت تھی اور اس طرح کا ایسا واقعہ
حاصل کے ساتھ پیش آگیا تھا اس پر تمہیں کر کے فرمادیا گیا تھا کہ مسلمان کو اپنے اور خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی نہ رہا بطور
مہم قائم کرنے کی قطعی اجازت نہیں۔

نواب ان آیات میں دشمنان اسلام اور دشمنان خدا کے ساتھ ہو بغض و نفرت کے جذبات مسلمان
کے قلب میں ہونے چاہئیں ان کی ہدایت و تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا اے مسلمانو! بے شک تمہارے واسطے
ایک بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں جب کہ انہوں نے کہہ دیا
اپنی قوم سے کہ لے لو جو تم سے بیزار درالگ ہیں اور ان سے بھی کہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔

ہم نے بلاشبہ تمہارا انکار کیا اور ہم ہر چیز میں تمہارے سے نفرت و قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اور کھل گئی ہے ہمارے
اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و نفرت ہمیشہ کے لیے یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اور شرک
چھوڑ کر خدا سے وحدہ لا شریک نہ پرا ایمان لے آؤ اس وقت تک ہمارے اور تمہارے درمیان یہ بغض و نفرت
اور عداوت قائم رہے گی۔ سورہ ابراہیم بھی ہے اور مسلمانوں کو اسی کا اتباع کرنا چاہیے۔ لیکن ابراہیم کا یہ کہنا

اپنے باپ کے لیے کہ لے باپ میں تیرے واسطے عز و باہر در استغفار کروں گا اور میں تیرے واسطے کسی نفع کا مالک
نہیں ہوں۔ خدا کے سوا وہی جو چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں۔ صل
عطا کرنے والا تو وہی رب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس سورہ ابراہیم کے خلاف نہ تھی جس کا
لے مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں سے اعلان دشمنی اور نفرت کر دیا جائے۔ اس لیے کہ اول تو یہ بیہ

کی یہ دعا استغفار اس وقت تھی کہ جب ان کو اس بات کا علم نہ تھا کہ کافر کے لیے بخشش کی دعا کرنا درست
نہیں لیکن جب معلوم ہو گیا تو ہر قسم کے جذبہ محبت اور اس کے تصور یا طلب سے برکت و بیزاری ظاہر کی جیسا کہ
ارشاد فرمادیا گیا۔ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارًا لِأَبِيهِمْ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَبْغِيَنَّكَ عَنْ مَوْعِدَةٍ فَعَدَّهَا آيَاتًا فَلَمَّا

تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَيَّنَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّالٌ حَلِيمٌ۔
 ثانیاً یہ بھی امکان ہے کہ یہ دعا استغفار بمعنی طلب ایمان اور دعا ہدایت ہو۔ اور کسی کافر کے
 واسطے ہدایت کی دعا مانگنا کفر اور کافر سے عداوت و نفرت کے سنائی نہیں ہے اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے یہ جو دعا مانگی یہ اعلان بغض و برکت کے خلاف نہ تھی اس وجہ سے کسی کو ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے
 یہ مغالطہ نہ ہو کہ کافر سے ہمدردی اور دوستی درست ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو اسوۂ حسنہ
 میں یہ جذبات اور دعائیں بھی ہیں کہ اے ہمارے رب ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع
 کیا کہ ہر چیز میں تو ہی کارساز ہے اگر ہم کافروں سے دشمنی و برکت اختیار کریں گے تو ان کی دشمنی کا اور ان
 سے علیحدگی کا ہمیں کوئی خوف و اندیشہ نہیں اس لیے کہ ہم نے تجھ ہی پر بھروسہ کر لیا اور ہر پریشانی اور ضرورت
 کے لیے ہم نے دنیا سے اپنا رخ موڑ کر تیری ہی طرف اپنا رخ کر لیا اور کیوں نہ کریں جبکہ تیری ہی طرف لوٹنا
 ہے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں معاصب و شدائد برداشت کرنے کی طاقت نہیں تو اے پروردگار تو ہم کو کافروں
 کی آزمائش کا محل اور تختہ مشق نہ بنانا اور ہم کو معاف کر دینا اگر کسی وقت صبر و استقامت کو ہاتھ سے چھوڑ
 دیں۔ اے ہمارے رب بے شک تو بڑی ہی عزت و حکمت والا ہے کہ تیری ہی عزت و قوت سے ہم کافروں
 کے مقابلہ میں زور آور ہو سکتے ہیں اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر کسی وقت کافروں کے ہم تختہ مشق بنیں اور وہ اپنی ظاہر
 اور عارضی کامیابی پر ہمارا مذاق اڑائیں تو یہ بھی تیری حکمت سے ہماری اصلاح و تنبیہ کے لیے ہو گا۔

یقیناً اس بیان کردہ ضابطہ میں اے مسلمانو! ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے اس میں ایک
 عظیم سامان ہدایت و استقامت ہے جو امید رکھنا ہے اللہ کی اور قیامت کے روز کی تو بے شک ایسے لوگ ابراہیم
 علیہ السلام کی روشنی اختیار کریں گے اور ان کو اس بات کی ذرہ برابر پرواہ نہ ہوگی کہ دنیا ایسے لوگوں کو متعصب
 اور تنگ نظر کہے وہ دنیا کے موعدا عظیم کے نقش قدم پر چلیں گے اور اپنے ایمان و اعتقاد سے کسی بات پر
 یقین و اعتماد رکھیں گے کہ مستقبل کی کامیابی اور عزت و عظمت کفر اور کافروں سے اعلان برکت و بیزاری
 ہی میں ہے وقتی مفاد اور عارضی منفعت کی خاطر کافروں سے دوستی کا ٹھنڈا کوئی اچھی بات نہیں بلکہ مسلمان قوم کے
 لیے مہلک اور خطرناک ہے۔ یہ ہے وہ ضابطہ جس پر مسلمان کی اصلاح و کامیابی اور عظمت و ترقی موقوف
 ہے جو اس نعمت کو اختیار کرے گا وہ اس نعمت سے سرفراز ہو گا اور جو شخص اس سے منہ موڑے گا وہ خود ہی کو
 ذلیل و ناکام بنائے گا جس اللہ تو بہر حال میں بے نیاز قابل تعریف ہے۔ اس کو نہ کسی کی اطاعت کی ضرورت ہے۔
 اور نہ کسی کی مدد گردانی سے اس کو کچھ نقصان ہے۔

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوْدَّةً وَاللَّهُ

تم میں اور جو دشمن ہیں تمہارے ان میں دوستی ۔ اور اللہ

قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ

سب کر سکتا ہے اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ۔ اللہ تم کو منع نہیں کرتا ان سے جو

لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ

ڑے نہیں تم سے دین پر ۔ اور نکالا نہیں تم کو تمہارے گھروں سے کہ

أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

ان سے کہو بھلائی اور انصاف کا سلوک ۔ اللہ چاہتا ہے

الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ

انصاف والوں کو ۔ اللہ تو منع کرتا ہے تم کو ان سے جو ڑے تم سے

فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى

دین پر ، اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے ، اور میل باندا تمہارے

إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

نکالنے پر ۔ کہ ان سے کہو دوستی اور جو کون ان سے دوستی کرے سو وہ لوگ وہی

الظَّالِمُونَ ۝

ہیں گنہگار ۔

تسلی الہ ایمان بذکر بشارت و کامیابی۔ مسلمین براعدائے اسلام و

اجازت حسن سلوک از کافران امن پسند و صالحین

قال الله تعالى: عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً... فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

درابطہ، گزشتہ آیات میں کفار و مشرکین کے ساتھ بغض و نفرت اور برات و بیزاری کا ذکر تھا کہ یہی سہوہ ابراہیمی ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ اسی کو اختیار کریں۔ اب ان آیات میں مستقبل قریب میں پیش آنے والے غلبہ اور کامیابی کا ذکر ہے اور ضمناً اشارہ ہے کہ کچھ تو میں کافر سردوں میں سے ایمان لے آئیں گی اور یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ جس کسی کافر قوم نے اب تک مسلمانوں کے ساتھ کوئی قتال نہیں کیا اور نہ دشمنی کا کوئی معاملہ کیا اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا ان کے ساتھ مسلمانوں کو رواداری اور حسن سلوک کی اجازت دی جاتی ہے۔ فرمایا۔

امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دوستی قائم کر دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے دوستانہ اور برادرانہ تعلقات قائم ہو جائیں۔ اور اس طرح سے تمہارے اور ان کے درمیان رشتہ محبت و مودت قائم ہو جائے کہ وہ اسلام لے آئیں چنانچہ فتح مکہ کے وقت ایسا ہی ہوا کہ ساری عمر دشمنی کرنے والے اور ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلوار اٹھانے والے ایک دوسرے کے بھائی بن گئے اور وہ اوسنیان جو بدر و احد میں کافر سردوں کی فوجوں کی کمان کر رہے تھے۔ اب وہ مجاہدین اسلام کے سپہ سالار ہو گئے اور کل گزشتہ ایک دوسرے کے خون کے دشمن اب ایک دوسرے پر جان قربان کرنے کو تیار ہو گئے تو ان الفاظ میں ذہنی و طبعی طور سے تسلی دی گئی کہ قوم سے علیحدگی اور بیزاری کا ہمیشہ کے لئے تصور کر کے نہ گھبرانا چاہیے۔ بیزاری اور باہمی بغض کی یہ فضا بہت جلد ختم ہو کر باہمی مودت اور سخوت کی فضا قائم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بڑی ہی مغفرت و مہربانی فرماتے والا ہے۔ اور ایک عرصہ کفر کے بعد جو لوگ اسلام لے آئیں۔ خدا کی رحمت و مغفرت سے ان کو بھی نوازا دیا جاتا ہے۔ بارگاہِ خداوندی میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ماضی میں اس نے کیا کیا بلکہ اس کی بارگاہ سے تو یہی اعلان ہے۔ **يُجِبُ سَائِرَ الْكَافِرِينَ اسْتَرْفُوا عَلَيَّ اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِي الْاِنَّ اَنَا اَدْنَا يُغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔**

دوستی اور ہمدردی کے رشتے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے قائم کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کی۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جنہوں نے تمہارے سے نہ تو قتال کیا دین کے معاملے میں اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور اس پر مجبور کیا تو اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے اس چیز سے کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرو اور ان سے انصاف کا سلوک کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو صرف ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور اچھا سلوک کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے قتال کیا دین کے معاملے میں اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور دوسروں کی بھی مدد کی تمہارے نکالنے پر اور گھروں سے تم کو اجاڑنے پر کہ ایسے لوگوں سے تم دوستی کرو ظاہر ہے کہ ایسے ظالموں اور دشمنوں سے دوستانہ برتاؤ بہت ہی بدترین چیز اور خود اپنے اوپر سخت ظلم ہے اس بناء پر یہ اصول فراموش نہ کرنا چاہیے کہ اگر جو بھی ایسے ظالموں سے دوستی کرے وہ ظالم

انْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوا إِذَا تَيَمَّمْتُمْ

ان مردوں کو جو ان کا خرچ ہوا اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کرو ان عورتوں سے۔ جب تم

أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ وَ سَأَلُوا مَا

دوران کے مہر۔ اور نہ رکھو قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کے۔ اور مانگ لو جو

انْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْ تَنْفِقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ

تم نے خرچ کیا۔ اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تم میں

بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۱۰ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ

فیصلہ کرتا ہے۔ اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا۔ اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے

مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ

کوئی تمہاری عورتیں کافروں کی طرف، پھر تم گناہ مارو، تو دو ان کو جن کی عورتیں جاتی

أَزْوَاجَهُمْ مِّثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

رہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، جس پر تم کو

مُؤْمِنُونَ ۱۱ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ

یقین ہے۔ اے نبی جب آئیں تیرے پاس مسلمان عورتیں، اقرار کرنے کو

عَلَى أَنْ لَا يَشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ

اس پر کہ شریک نہ ٹھہرائیں اللہ کا کسی کو اور بچوری نہ کریں، اور بدکاری نہ کریں،

وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ

اور اپنی اولاد نہ ماریں، اور طوفان نہ لادیں باندھ کر

بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِبَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ

دھمکیوں کے درمیان اور نہ اپنے پیروں کے درمیان اور نہ اپنے پیروں کے درمیان

فَبَايَعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

تو ان سے اقرار کر، اور معافی مانگ ان کے واسطے اللہ سے۔ بیشک اللہ بخشنے والا

رَحِيمٌ ﴿۱۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ

مہربان ہے۔ اے ایمان والو! مت دوستی کر دو ان لوگوں سے کہ غصے ہوا

اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُؤُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَسُؤُا الْكُفَّارُ

اللہ ان پر۔ وہ آس توڑ پکے ہیں پچھلے گھر سے، جیسے آس توڑی منکروں

مِنُ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴿۱۴﴾

نے قبر والوں سے

حکم امتحان مہاجرت مومنات احکام بیعت اطاعت

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... إلى... مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

(ربط) گزشتہ آیات میں کافروں کے ساتھ دوستی اور مولات کے کچھ احکام بیان کیے گئے تھے اور یہ تلقین کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو اس معاملہ میں اسوۂ ابراہیمی اختیار کرنا چاہیے اور نہایت واضح طور پر منع کر دیا گیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح مولات دوستی جائز نہیں اسی کے ساتھ ان کافروں سے بہتر سلوک کرنے کی اجازت دے دی گئی جو نہ تو کبھی مسلمانوں سے لڑے اور نہ کسی قسم کی دشمنی کی۔ اب ان آیات میں بعض خاص احکام ایسی عورتوں کے متعلق بیان کیے جا رہے ہیں جو ہجرت کر کے دارالاسلام آجائیں۔ صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا اور جو شرائط معاہدہ طے ہوئی تھیں ان میں یہ تھا "عظا ان لا یاتیک منّا رجلٌ دان کان عطا دینک الحار رد دتہ الینا۔" ہم قریش مکہ اس پر معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی مرد ہمارے پاس سے تمہارے پاس پہنچ جائے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہوا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کی رو سے جو مرد مسلمان مکہ سے مدینہ نکل کر آئے ان کو واپس فرمایا جیسے ابو جندل بن سبیل کو قریش مکہ کے حوالے فرما دیا جب کہ وہ کفار کی قید سے نکل کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے لیکن معاہدہ میں لفظ مرد تھا اس وجہ سے عورتوں کا واپس کرنا اس میں شامل نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے ایسی مہاجر خواتین کی واپسی کا انکار فرما دیا جو کفار کی قید سے چھوٹ کر

آپ کے پاس پہنچیں۔ جیسے تبیہ اسلام کی سبب بنت حارثہؓ ان کا خاوند مسافر مخزومی دورا ہوا مقام حدیبیہ پہنچا۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ اس معاہدہ کے بعد جب ام کلثومؓ ہجرت کر کے آپ کے پاس پہنچیں تو ان کے دو بھائی سارہ اور ولید مکہ سے فوراً آپ کے پاس پہنچے اور واپسی کے لیے گفتگو کی تو آپ نے واپس بھیجنے سے انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی **فَلَا تَنْ جَعُوْهُنَّ اِلٰی الْكُفَّارِ** اور اس آیت نے واضح کر دیا کہ یہ حکم عورتوں کے متعلق نہیں اور یہ حکم بھی اتارا گیا کہ ان کا امتحان لے لیا کرو تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ مؤمنات ہیں اور احکام بیعت بھی نازل فرمائے تو ارشاد فرمایا۔

لے ایمان والو! جب تمہارے پاس آجائیں ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی ہوئی تو ان کا امتحان کرو تو رُوب جانچ لو کہ وہ ایمان اور اظہار کیا تہ ہجرت کر کے آئی ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو یکن مسلمانوں کو اپنے درمیان احکام اسلام کسی پر جاری کرنے کے لیے یہ قانون نازل کیا جا رہا ہے بہر حال اگر امتحان و تحقیق کے بعد جان لو کہ یہ ایمان والی ہیں تو ان کو کافروں کی طرف مت واپس کرو اب جب کہ یہ ایمان لاکر اور ہجرت کر کے دارالاسلام آگئیں تو نہ یہ عورتیں کافروں یعنی اپنے کافر خاوندوں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ مردان مہاجر عورتوں کے لیے حلال ہیں اور دیدو ان مردوں کو جو کچھ انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا اور اس وجہ سے کہ اب وہ عورتیں اسلام لاکر ہجرت کرتی ہوئی دارالاسلام آگئی ہیں ان کا نکاح پہلے کافر شوہروں سے ختم ہو گیا تو عدتِ فسح گزارنے پر کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ان عورتوں سے نکاح کرو جب کہ تم ان کے مہر ان کو دے دو جو بھی مہر اس نکاح کے وقت مقرر کیا جائے وہ بہر حال مرد کے ذمے ہوتا ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور نہ رکھو تم اپنے قبضہ میں ناموس کافر عورتوں کی اور طلب کرو جو کچھ تم نے خرچ کیا اور چاہیے کہ وہ بھی طلب کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے تمہارے واسطے لے لوگو! اللہ کا حکم جس حکم سے وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی علم والا صاحب حکمت ہے اس وجہ سے اس کا ہر حکم صحیح اور حکمت و مصلحت پر مبنی ہے تو جب اللہ نے یہ حکم مقرر فرمایا کہ کافر عورتوں کی ناموس و عصمت نہ رو کے رکھو اور اپنے قبضہ میں تھامے نہ رکھو تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا کہ کسی مسلمان کو اپنی ان بیویوں کو جو اسلام نہیں لائیں اور کفر پر قائم رہیں ان کو اپنی منگوتہ کی طرح رو کے رکھنا درست نہیں بلکہ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ پھر جس سے چاہیں نکاح کر لیں۔

زہریؒ بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دو بیویاں جو مکہ میں مشرک رہ گئی تھیں چھوڑ دیں ایک کا نام قریہہ تھا جو امینہ بنت ابی سفیانہ کی بیٹی تھی جس نے بعد میں مکہ مکرمہ میں معادیہ بن ابی سفیان سے نکاح کر لیا تھا اور اس وقت وہ دونوں مشرک تھے دوسری کا نام ام کلثوم تھا جو عمر و بن جریول کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی ماں تھی اس نے ابو جہم بن حذافہ سے نکاح کر لیا اور وہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے علیہ

حکم بیعت مہاجراتِ مومنا

اے ہمارے نبی جب انہیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کرتی ہوئیں تو وہ بیعت کریں آپ سے اس بات پر کہ نہ تو وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ چوری کریں اور نہ زنا کریں اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں اور نہ کسی پر وہ ایسا بہتان لگائیں جس کا افرام و ازام وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان باندھتی ہوں اور نہ وہ کسی بھی بھلے کام میں آپ کی نافرمانی کریں تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے اور طلب مغفرت کیجئے ان کے لیے اللہ سے۔ ان کی ہر قسم کی اس کوتاہی اور غلطی پر جو ان سے سرزد ہو چکی یا بیعت کے بعد کوئی خطا و غلطی نادانستہ طور پر ہو جائے۔ بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ رب العزت آپ کے استغفار و دعا کی برکت سے ان کی مغفرت فرمائے گا اور اپنی عملیات و رحمتوں کے سرفراز فرمائے گا۔ یہ جملہ احکام جن میں مردوں اور عورتوں

(بقیہ حاشیہ) خرچ واپس نہیں کر سکتا تو بیت المال سے ادا کر دیا جائے سبحان اللہ کیسا عدل و انصاف ہے! الغرض نَعَا قَبْنَتْكَ کا مفہوم یہی راجح ہے کہ پھر تمہاری نوبت آئے یعنی مہر لینے کی۔ دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ کفار سے جہاد کرو اور مال غنیمت حاصل ہو تو اس مال غنیمت سے ان مسلمان مردوں کو وہ خرچ اور مہر ادا کرو جو انہوں نے اپنی بیویوں پر کیا تھا جو اسلام نہیں لائیں اور دارالکفر میں رہ گئیں کیونکہ کافر تو یہ خرچ واپس نہیں کر رہے ہیں تو اب یہی صورت ہو سکے گی کہ مال غنیمت سے یا بیت المال اس کی تلافی کر دے۔

یہ آیت یعنی وَ سَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا مَسْخُوحًا۔ منسوخ ہے یا اپنے حکم پر باقی ہے؟ جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم چونکہ دو طرفہ ذمہ داریوں پر مشتمل تھا جو صلح حدیبیہ میں طے کر دہ معاہدہ کی رو سے تسلیم کیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے تو بلا کسی تردد اور تامل اس پر عمل کیا لیکن کفار مکہ میں سے کسی ایک فرد نے بھی اس پر عمل نہ کیا اس وجہ سے یہ حکم خود بخود منسوخ ہو گیا اور برقرار نہ رہا یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ حکم ابتداء ہی سے محدود اور مؤقت تھا کفار مکہ کے لیے ہر جب عہد نامہ حدیبیہ۔ کفار عرب میں بھی مہر دینے کا دستور تھا اور وہ عورت کو پہلے ہی دے دیا جاتا تھا۔ اولاً تو کفار کی طرف سے اس حکم کی پابندی نہیں ہوئی پھر فتح مکہ کے بعد اس حکم کی ضرورت ہی نہ رہی۔ قبائل عرب کی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں اور دارالاسلام میں بسنے والے مسلمانوں سے ان کے نکاح ہوئے۔ ۱۲۔
واللہ اعلم بالصواب۔

لمحض من احکام القرآن للبحرصاص۔ و تفسیر روح المعانی۔ تفسیر حقائق۔ تفسیر ابن کثیر و ما افادنی شیخنا شیخ الاسلام علامہ شمس احمد عثمانی و حضرت ابوالدائم محمد ادریس الکاندھلویؒ ۱۲۔

ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ اعلان کر دیں اے مسلمان عورتو: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیعت لینا چاہتے ہیں اس بات پر کہ تم نہ ششک کرو گی نہ چوری نہ زنا و بدکاری اور نہ بہتان طرازی اور نہ رسول خدا کی نافرمانی کرو گی۔ تو ان عورتوں میں ہندہ بنت عتبہ بن ربیعہ بھی تھی جس نے غزہ اُحد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کے بعد ان کے شکم مبارک کو چاک کر کے جگر کا ٹکڑا چبانا چاہا تھا اگرچہ اب اسلام لاپکی تھیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہوئے چھپی ہوئی تھیں اور کسی کو نہ میں بیٹھی تھیں۔ جب فاروق اعظمؓ نے یہ کہا کہ عہد کرو چوری بھی نہ کرو گی۔ تو کہنے لگی میں ابوسفیانؓ کے مال سے کچھ لے لیتی ہوں کیونکہ وہ مال کے تریس اور سخیل انسان ہیں (تو گھر کے منارف وغیرہ کے لیے ان سے چھپا کر کچھ لینا پڑتا ہے) ابوسفیانؓ ان کے خاوند بھی وہاں موجود تھے فوراً بولنے سے ہندہ تو نے آج تک جو کچھ لیا یا آئندہ لے کی وہ سب تیرے واسطے حلال ہے۔ جب عمر فاروقؓ نے یہ کہا کہ تم اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی تو کہنے لگی ہم نے تو ان کو پالا تھا مگر تم نے نہیں بدر میں قتل کر دیا۔ اس جملہ پر فاروق اعظمؓ کو بیت ہنسی آئی۔

ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ عورتوں نے کہا کہ ہم تو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے ان کے باپ قتل کرتے ہیں۔

عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ **وَلَا يَأْتِيَنَّ بِسُهْتَانٍ** میں یہ چیز بھی داخل ہے۔ کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف ایسے بچہ کی نسبت کرے جو درحقیقت اس شوہر سے نہیں جیسا کہ یہ فعل جاہلیت کے زمانہ میں ہوتا تھا۔ سنی کنگانی میں قبل از ہجرت آپ نے انصارِ مدینہ سے بیعت لی تو یہی وہ امور تھے جن پر ان سے عہد لیا اور فرمایا **يَا يَعُونِي عَلِيٌّ اِنْ لَا تَشْرِكُوا بِاللّٰهِ وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ الْاَبَاحِقُ**۔ اے اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ **اِنَّ وَايْتَكُمْ فَدَكُمُ الْجَنَّةُ** اگر تم ان باتوں کو پورا کر دو گے تو تمہارے واسطے جنت ہے (باسناد ابن ابی حاتم) (تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ المائدہ)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الصَّفِّ

اس سورہ مبارکہ کے فضائل میں حافظ ابن کثیرؒ نے ایک روایت باسناد عبداللہ بن سلام نقل کی ہے۔ بیان کیا میں صحابہ کے ایک مجمع میں موجود تھا کہ ہم باہم یہ گفتگو کرنے لگے کاش اگر ہماری حاضری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہو تو ہم یہ دریافت کریں کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہمیں ہمت نہ ہونے کہ خود حاضر ہو کر یہ پوچھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع کے ایک ایک شخص کو بلایا اور جب سب جمع ہو گئے تو ہمارے سامنے یہ سورہ نصف تلاوت فرمائی اور گویا یہ ظاہر فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت اللہ کے نزدیک محبوب ترین چیز ہے۔

سورت کا آغاز اللہ رب العزت نے اپنی تسبیح و پاکی و حمد و ثناء سے کیا۔ پھر اس بات پر وعید فرمائی گئی کہ انسان کے لیے یہ بات نہایت ہی نازیبا ہے کہ وہ جس بات کا عہد کرے اس کو پورا نہ کرے اور اس کے قول و فعل میں تضاد ہو اس کے بعد مسلمانوں کو دشمنان اسلام سے جہاد و قتال کی ترغیب دی گئی اور ان کو اس کے لیے ہمت دلائی گئی کہ پوری طاقت اور بہادری کے ساتھ کافروں کے مقابلہ کے لیے متحد و متفق ہو کہ ڈٹ جائیں اور اتحاد و اخوت میں انکو چاہیے کہ وہ سیسہ پلائی دیوار کے مانند ہو جائیں۔ ساتھ ہی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہما السلام کا دعوۃ الی اللہ میں اسوہ و نمونہ بھی بیان کیا گیا اور یہ کہ انہوں نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں اٹھائیں اور اہل ایمان کو اس امر کے متعلق اطمینان دمایا گیا کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی مدد کرتا ہے اور دین کے مددگاروں کو غالب و کامیاب فرماتا ہے اور اس سلسلہ میں دشمنوں کی ہر سازش اور کوشش ناکام ہوتی ہے۔ ان مشنابین کو ذکر کرتے ہوئے سورت کے اخیر میں اہل ایمان کو ایک کامیاب اور نفع بخش تجارت کی دعوت دی گئی اور اس کی وضاحت کی گئی کہ وہ نفع بخش تجارت کون سی ہے جس سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت کی سعادت و فلاح بھی اس کو نصیب ہوتی ہے۔

آیاتہا ۱۴ : ۶۱ : سُورَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۹ فِيهَا ۲۰ آيَةً

سورہ صفت مدینہ میں اُتری، اور اس میں چودہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور وہی ہے

الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ① یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ

زبردست حکمت والا۔ لے ایمان والو! کیوں کہتے ہو سزا سے

مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ② کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا

جو نہیں کرتے! بڑی بیزاری ہے اللہ کے ہاں، کہ کہو وہ چیز جو

مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ③ اِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ

نہ کرو۔ اللہ چاہتا ہے ان کو جو لڑتے ہیں اس

سَبِیْلِهِ صَفًا کَاَنْهُمْ بَنُوْا مَرْصُوْصًا ④

کی ماہ میں قطار باندھ کر، جیسے وہ دیوار ہیں سیسہ پلائی۔

تسبیح و تحمید خداوندی مع ترغیب اہل ایمان برائے جہاد فی سبیل اللہ

قال اللہ تعالیٰ۔ سَبِّحْ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ ... اِلَى ... کَاَنْهُمْ بَنُوْا مَرْصُوْصًا

اے بھائی! گزشتہ سورت میں کافروں سے مولا سے دوستی پر تشبیہ و تمثیل اور واضح طور پر یہ فرما دیا

کیا تھا لَا تَشْقُوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ کَرِهَ اللّٰهُ اٰیَاتِهِمْ ہرگز ایسی قوم کو اپنا دوست نہ

ہوئے فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ سیسہ پلائی دیوار کی طرح متحد ہو کر کافروں کے مقابلہ اور نفاق پر بیٹھے اٹھ کھڑے ہونا چاہیے اور یہ وصف اس وقت پیدا ہو گا جب مسلمان اپنے قول و فعل میں مطابقت اور یکسانیت پیدا کر لے۔ اس زمانہ میں عرب میں کھلی مچی ہوئی تھی کفار کا ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ جو رہا تھا اور مسلمان باوجود اپنی قلت اور ضعف کے ہمت و جوانمردی سے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے تو اس سورت میں بالخصوص جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا۔

پاک بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں سب سے بکامنائت آسمان و زمین کی ہر چیز کا اس کی پاکی اور تسبیح میں مشغول ہونا اس کی عظمت و کبر پائی کی واضح دلیل ہے بے شک وہی زبردست عزت و حکمت والا ہے ایسی ذات سراپا عزت و عظمت کے حامی یقیناً نہ دنیا کی طاقت سے مغلوب و مرعوب ہو سکتے ہیں اور نہ ناکام۔ لیکن انسانوں کی عزت اور کامیابی ایمانی اوصاف و کمالات پر ہی موقوف ہے جس کے لیے قول و فعل کی مطابقت و یکسانیت چاہیے قول و فعل میں تضاد نفاق کی علامت ہے اس لیے

لے مسلمانوں! اے ایمان والو کیوں کہتے ہو اپنے منہ سے وہ بات جو تم نہیں کرتے ہو بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ چیز کہو جو نہیں کرتے ہو اس طرح کے دعوے اور لاف زنی جھوٹوں اور منافقوں کا کام ہوتا ہے اور نفاق انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو ظاہر ہے کہ ایسی کمزوری کے بعد دشمن کا کیا خاک مقابلہ کرے گا اور فتح و کامرانی کیونکر توقع ہو سکتی ہے ایمان والوں کو تو چاہیے کہ عمدت اور عزیمت کے حامل بن کر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور بڑی قوت و ہمت سے ایک آہنی دیوار بن کر دشمن کے مقابلہ کے لیے میدان جہاد میں نکل آئیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے اپنے بندوں کو جو قتال و

جہاد کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح کہ گویا وہ ایک دیوار ہیں سیسہ پلائی ہوئی۔ یہی صفت اور حالت ان کے اخلاص و سعادت کی دلیل ہوگی۔ محض دعوؤں کے بعد میدان جہاد سے بھاگنا منافقوں کا وہ شیوہ ہے جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ پہلے تو یہ لوگ جہاد کا مطالبہ کرتے رہے لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوا تو کہنے لگے رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَذْتَنَا إِلَىٰ آجَلٍ قَرِيبٍ۔ یہی حال قوم موسیٰ علیہ السلام تھا جب جہاد کا حکم ہوا نہایت ہی بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا کہ لے موسیٰ اس بستی میں بڑی طاقت والی قوم ہے اور ہم اس بستی میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔

البتہ اگر وہ لوگ اس بستی کو خالی کر کے وہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے اور تم کا سا جواب دے دیا۔ اذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہ لے موسیٰ بس تم اور تمہارا رب چلے جاؤ اور تم دونوں جا کر کافروں سے نزو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو حق تعالیٰ نے جہاد کے لیے اہل ایمان

کو ترغیب دی اور یہی وہ اخلاص باطن کا رنگ ہے جو اس طرح حضرات صحابہ کی زندگیوں میں نمودار ہوا جب سب سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اعلان کیا تو آپ کے جانثار صحابہ کا یہ جواب تھا یا رسول اللہ آت جہاد کا حکم دے مجھے ہم آئے کے آگے ہم لڑا گئے اور مجھے بھی دائیں اور بائیں ہم اور تمہارا تو مراد

طرح نہ ہوں گے جنہوں نے اپنے پیغمبر کو یہ جواب دے دیا تھا کہ اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هُمْنَا قَاعِدُونَ۔

جہاد فی سبیل اللہ بارگاہِ خداوندی میں محبوب بن عمل

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ - آیت مبارکہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ میں جہاد فی سبیل اللہ کا محبوب ترین عمل بیان کر رہی ہے اور ظاہر ہے کہ جب یہ عمل اللہ کو محبوب ہے تو مجاہدین بھی یقیناً اس کی نظروں میں محبوب ترین بندے ہوں گے اسی کو یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ تین قسم کے لوگوں کو بڑی ہی محبت اور پیار کی نظر سے دیکھتا ہے ایک وہ جو رات کو بیدار ہو کر نماز میں مشغول ہو جائے۔ دوسری وہ قوم جو جماعت میں نماز کے لیے صف بستہ ہیں۔ تیسری وہ جماعت مجاہدین جو میدان جہاد میں کافروں سے قتال کے لیے نکلے۔

حضرت کعب اجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت خود اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں طرح بیان فرماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندہ، منوکل ہیں۔ پسندیدہ و برگزیدہ جو نہ سخت دل ہیں نہ بد مزاج۔ اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ درگزر اور معاف کرتے ہیں جن کا مولد زچاٹے پیدائش، مکہ ہے اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ (مدینہ) ہے۔ اور ان کا ملک سلطنت شام ہوگا۔ ان کی امت حتماً ہوگی جو ہر جگہ اور ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوگی۔ ان کی سحر کے وقت خشیہ خداوندی سے نضامیں ایک آواز ہوگی جیسے شہد کی کھیوں کی آواز ہو جو اپنے اطراف اعضا دھونے ہوں گے یعنی وضو، اور نصف پندلیوں پر اپنی ازار باندھتے ہوں گے اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کی۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًا اَلَمْ يَلِكْ اَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلَ ثُمَّ اُحْيٰ ثُمَّ اُقْتَلَ۔ عتہ

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ لِقَوْمِ لِمَ تُوذُوْنِىْ وَقَدْ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، اے قوم میری! کیوں ستاتے ہو مجھ کو؟ اور جانتے ہو کہ

تَعْلَمُوْنَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ

میں اللہ کا بھیجا آیا ہوں تمہارے پاس پھر جب وہ پھر گئے، پھر دینے

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ إِلَيَّ ۖ

اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل! میں

رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنْ

بھیجا آیا ہوں اللہ کا تمہاری طرف، سچا کرتا اس کو جو مجھ سے آگے ہے

التَّورَةِ وَبِشْرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ

توریت اور خوشخبری سناتا ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اسکا نام

أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۶﴾

ہے احمد۔ پھر جب آیا ان کے پاس کھلے نشان لے کر ابولے یہ جادو ہے۔ سحر۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ

اور اس سے بے انصاف کون ہے؟ جو باندھے اللہ پر جھوٹ اور اس کو

يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۷﴾

بلاتے ہیں مسلمان ہونے کو۔ اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ

چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کی روشنی اپنے منہ سے۔ اور اللہ کو پوری کرنی اپنی روشنی اور

لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۸﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى

پڑے بڑا مانیں منکر۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنا رسول راہ کی سوجھ لے کر،

وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ

اور سچا دین، کہ اس کو اوپر کرے دینوں سے سب سے اور پڑے بڑا

المشركون ﴿۹﴾

نام، شرک، الہیہ۔



بشارت حضرت مسیح بن مریمؑ بہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ - وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اِنَّ وَتَوَكَّرَ الْمُشْرِكُونَ

(ربط) گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شکوہ کا ذکر تھا جو انہوں نے بارگاہِ خداوندی میں اپنی قوم کی ایذا رسانیوں پر کیا اس ضمن میں قوم بنی اسرائیل کی بد سنجی و محرومی کا ذکر تھا تو اس مناسبت سے اب یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی اس محرومی اور بد نصیبی کے بعد اللہ رب العزت نے اس قوم کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ پہلے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا اور وہ اس لیے مبعوث فرمائے گئے کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سنائیں اور بنی اسرائیل کو تاکید کریں کہ اس آنے والی ہدایت اور حق کی پوری طرح اتباع و پیروی کریں کیونکہ اب اس کے بعد اللہ نے قیامت تک کے لیے حق و ہدایت کا داعی خاتم الانبیاء و المرسلینؑ کو بنایا ہے اور وہ عنقریب مبعوث ہوں گے ان کی بشارت کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے نبی خاتم الانبیاء کی علامات اور نشانیاں بھی بتائیں اور ان پر ایمان لانے کا بھی حکم دیا۔ فرمایا اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے سے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اللہ کی کتاب تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہے۔ اس طرح ان یہودیوں کو مجھ پر ایمان لانے میں کوئی تامل نہ ہونا چاہیے۔ جو تورات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ میں ان کی تصدیق کرنے والا ہوں جب میں انہی اصول و ہدایات کی دعوت دے رہا ہوں تو پھر یہودیوں کو مجھ پر ایمان لانے سے کیوں انکار ہے ساتھ ہی میں ایک آنے والے پیغمبر کی بشارت سن رہا ہوں جن کا نام احمد ہو گا ان پر سے جیسا تو تم ایمان لانا اگر تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو بس تمہارا حال ان یہودیوں جیسا ہو گا جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس ہدایت و تاکید اور علامات و نشانوں سے نبی آخر الزمان کی نبوت و رسالت متعین کر دینے کا تقاضا تو یہی تھا کہ جیسا کہ قوم اپنے بادی و پیغمبر روح اللہ مسیح بن مریم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ لیکن جب وہ رسول بشارت کے پاس آگئے کھلی نشانیاں لے کر اور واضح معجزات و دلائل کے ساتھ تو کہنے لگے یہ تو کھٹا جادو ہے۔ کس قدر بے حیائی اور گستاخی کی کہ اللہ کی ہدایت اور اس کے دلائل و معجزات کو جادو کہا اور اس کے رسول کا انکار کیا۔ یہ بات اسی حد تک نہیں کہ نادرمانی اور گستاخی ہو بلکہ خود اپنے اوپر بڑا ہی ظلم ہے اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حال یہ کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو۔ مگر وہ بجائے اس کے کہ حق و ہدایت قبول کرے خدا ہی پر بہتان باندھنے لگتا ہے اور اس کی تکذیب و تردید کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ نصاریٰ نے کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادو کہا۔ اور جب ان کو اسلام کی دعوت دی

نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے عیسائیوں کو حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام اور انجیل مقدس کا صریح حکم

خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت و نبوت کا شہدہ تو تمام انبیاء سابقین مناتے رہے اور آپ کی علامات و نشانیوں بھی بیان کرتے رہے لیکن جس صراحت اور اہتمام و وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کی آمد کی خوشخبری دی وہ کسی بھی پیغمبر سے منقول نہیں چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اور کوئی پیغمبر سوانے نبی آخر الزمان کے بعوث ہونے والا نہ تھا اور زمانہ بھی آپ کی نبوت کا مسیح علیہ السلام سے قریب تھا تو اس خصوصیت اور قرب زمانہ کے باعث زائد سے زائد وضاحت و اہتمام انجیل مقدس نے فرمایا اور بڑی تاکید اور امر کے ساتھ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والے فارقلیط (پیغمبر) پر ایمان لانے اور ان کے احکام کی پیروی کرنے کے لیے فرمایا اور اس نبی بشارت کے دین کی جامعیت و کاملیت اور علم و ظہور کو بخوبی بیان کر دیا۔

اگرچہ یہود و نصاریٰ کی غفلتوں کی بدولت تورات و انجیل میں تحریفات اور تغیر و تبدل کی کوئی حد باقی نہ رہی اور ان بے شمار تحریفات کے باعث یہ دعویٰ ناممکن ہے کہ آج روئے زمین پر تورات و انجیل کا کوئی صحیح نسخہ باقی ہے اس وجہ سے اگر موجودہ نسخوں میں عرصہ نام لکھا ہوا نظر نہ آئے تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ قرآن کے اس صریح اعلان میں جو سورہ صنف کی اس آیت میں مذکور ہے کسی قسم کا تردد کرے۔

وَاِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ
يَبْنَوتُ اسْرَائِيْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَیْنَ
یَدَیِّ مِنَ التَّوْرٰتِ وَ مُبَشِّرًا
بِرَسُوْلِیْ تَاْتِیْهِ مِنْۢ بَعْدِی
اسْمٰءُ اَحْمَدُ

اور جب کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے اے نبی
اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف
بھیجا ہوا۔ در آن حالیکہ میں تصدیق کرنے والا
ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے اور
بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے
بعد آئے گا جن کا نام ہے احمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

قرآن کریم کے اس صاف اور صریح اعلان کو تحریف شدہ بائبل میں جھٹلانا قیاس اور عقل کے خلاف ہے لیکن یہ بات خاتم الانبیاء کے معجزات میں سے ہے کہ اہل کتاب کے معاندانہ طریق اور اس جذبہ کے ماتحت ہر طرح کی تحریف و تبدیلی کے بعد بھی بہت سی بشارتیں ایسی باقی رہ گئی ہیں جن میں تقریباً صاف اور صریح طور پر آنحضرت کی ذات مقدس کا ہی ذکر ہے اور ان الفاظ کا انطباق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سوا کسی اور پر

ممکن نہیں جس میں کوئی صاحب فہم ذرہ برابر بھی تامل نہیں کر سکتا۔ مجد ان بشارت کے انجیل یوحنا میں فارقلیط والی بشارت اس قدر صاف ہے کہ بلا تکلف اس کا مصداق بجز احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔

بشارت انجیل یوحنا

حضرت مولانا عبدالحق تحفانی دہلوی نے انجیل یوحنا باب ۱ کی یہ مشہور بشارت انجیل یوحنا کے اس عربی نسخہ سے نقل کی ہے جو لندن میں ۱۸۳۱ء اور ۱۸۳۲ء میں طبع ہوا۔

باب نمبر ۱۴ از آیت نمبر ۱۵، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کر دو گے۔ (۱۶) اور میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ تمہیں فارقلیط دے گا کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا (یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، ۲۶) لیکن وہ فارقلیط جو روح حق ہے جسے باپ میرے نام بھیجے گا وہ تمہیں سب چیزیں سکھائے گا۔ اور سب باتیں جو میں نے تم سے کہیں وہ یاد دلائے گا۔ (۲۹) اور اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ جب وہ واقع ہو تو تم ایمان لاؤ۔ (۳۰) بعد اس کے میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا اس لیے کہ اس جہان کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں ہے۔

اور باب نمبر ۱۵، آیت ۲۴ میں ہے۔ جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا (یعنی سچائی کی روح) تو وہ میری گواہی دے گا۔

اور باب نمبر ۱۶، آیت نمبر ۷ میں ہے۔ لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں تمہارے لیے میرا جانا ہی فائدہ مند ہوگا کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ فارقلیط (مددگار) تمہارے پاس نہ آوے لیکن اگر میں جاؤں تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ (۸) وہ آکر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت سے قصور وار ٹھہرائے گا (۹) گناہ کے بارے میں اس لیے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ (۱۰) راست بازی کے بارے میں اس لیے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تم پھر مجھے نہ دیکھو گے۔ (۱۱) اور عدالت پر اس لیے کہ اس جہان کے سردار پر حکم کیا گیا ہے (۱۲) میری اور بہت سی باتیں ہیں جن کو تم سے (اب) کہوں یہ تم ان کو اب برداشت نہ کر سکو گے۔ (۱۳) لیکن جب وہ روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور وہ تمہیں آئندہ کی خبریں اور میری بزرگی اور جلال کو ظاہر کرے گا۔

یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے جو آپ کے حواری یوحنا نقل کر رہا ہے جو آپ نے رفیع الی اسماء سے پہلے حواریوں کو تسلی دینے کے لیے فرمایا جب کہ یہود انتہائی بدسلوکی پر اترے ہوئے تھے اور تھقل کی تدبیروں میں گئے ہوئے تھے کہ اے میرے حواریو! تم یہود کی ان سازشوں اور تدبیروں سے ہرگز نہ گھبراؤ اور میری تکلیف سے رنجیدہ و غمگین نہ ہو۔ غضبیب اس دنیا سے نکل کر ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کسی کی رسائی نہ ہوگی۔ یعنی آسمان

پر چلا جاؤں گا اور ایک آنے والے فارقلیہ سے تسلی دی کہ وہ میرے جانے کے بعد اگر میری بزرگی بیان کرے گا اور جن لوگوں نے مجھ کو نہیں مانا ان کو سزا دے گا (یعنی یہودیوں کو) اور وہ دین و دنیا کا مردار ہو گا اور وہ اس قدر بند مرتبہ ہو گا کہ مجھ میں اس کی کوئی بات نہیں۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے سورہ صنف کی آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کا ذکر فرمایا ہے: **وَ مُبَشِّرٌ بِمَا لِيَّ مِنْ بَعْدِي اِسْمٰى اَحْمَدٍ**۔

اس بشارت میں لفظ احمد موجود تھا جیسا کہ انجیل براباس میں اب بھی موجود ہے لیکن جس وقت انجیل کا عبرانی زبان سے یونانی زبان میں ترجمہ ہوا تو یونانیوں نے اپنی عادت کے مطابق ذکر ترجمہ کرتے وقت ناموں کا بھی ترجمہ کر دیتے تھے۔ انحضرتؑ کے نام مبارک "احمد" کا ترجمہ بھی پیر کلوٹوس سے کر دیا جس کے معنی ہیں بہت سزا باگیا یا بہت حمد کرنے والا جو لفظ احمد کا عربیت کے اعتبار سے مفہوم ہے پھر جب یونانی نسخہ کا ترجمہ عربی زبان سے کیا گیا تو پیر کلوٹوس کا معرب فارقلیط کر لیا گیا ایک عرصہ تک عربی فارسی اور اردو نسخوں میں بھی فارقلیط کا لفظ لکھا جاتا رہا۔ لیکن محض اس بناء پر کہ یہ باستان شناسی طور سے واضح اور متعین ہو چکی تھی کہ فارقلیط احمد کا ترجمہ ہے اور اس طرح یہ عبارت **وَ مُبَشِّرٌ اَمِ بِمَا لِيَّ مِنْ بَعْدِي اِسْمٰى اَحْمَدُ** کی قطعاً مراد اور یقینی ترجمہ تھی فارقلیط کے بعد بین القوسین بطور ترجمہ روح القدس لکھا جانے لگا اور سبھی حضرات لفظ روح القدس کو خطوط و صدائی میں لکھتے رہے رفتہ رفتہ ان حضرات نے انجیل کے نسخوں میں سے لفظ فارقلیط کو حذف کر کے اس کی جگہ صرف روح القدس یا کسی نے روح حق یا کسی نے مددگار اور تسلی دینے والا کا لفظ لکھنا شروع کر دیا اور فارقلیط کے لفظ کو اس طرح سے انجیل کے نسخوں سے بالکل نکال ڈالا تاہم علمائے اسلام کسی طرح اس بشارت کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق نہ کر سکیں۔ لیکن اہل کتاب اور مسیحی حضرات کا کوشش کسی درجہ میں بھی سود مند ثابت نہ ہوئی خواہ کچھ بھی تغیر و تبدل کر لیا لیکن انجیل کی اس بشارت اور اس تعبیر نے بشارت کا مدلول اور مصداق اس طرح متعین کر رکھا ہے کہ مجموعی کلام سولے آنحضرتؑ کے کسی اور پر منطبق نہیں ہو سکتا۔

اس موقع پر مناسب ہے کہ ناظرین کی خدمت میں لفظ فارقلیط کی کچھ تحقیق پیش کر دی جائے اس کے بعد باقی تمام آیات اور عبارات کے الفاظ سے آنحضرتؑ کی ذات اقدس کا مصداق ہونا ظاہر کیا جائے گا۔

لفظ فارقلیط کی تحقیق

علمہ آنحضرتؑ کی ذات اقدس پر انجیل یوحنا کی اس بشارت کے انطباق و تفصیل میں والد محترم حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کا یہ کلام ایک مثالی تحقیق ہے جسکو ہم حضرت موصوفؒ کی کتاب بشارت النبیین سے بعینہ نقل کر کے قارئین کے سامنے معارف و حقائق کا ایک خزانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ (محمد مالک کاندھلویؒ)

لفظ فارقلیط اصل میں یونانی زبان سے مرکب کیا گیا ہے اور یہ لفظ یونانی زبان میں کئی معنوں میں مشترک ہے اور وہ سب معنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتے ہیں علماء نصاریٰ نے فارقلیط کے مختلف معنی بیان کیئے ہیں۔

- ۱- کسی نے کہا فارقلیط کے معنی تسلی دینے والے کے ہیں جس کا عربی ترجمہ مُعِزٌّ ہے۔
- ۲- کسی نے کہا اس کے معنی معین و مددگار کے ہیں۔
- ۳- کسی نے کہا اس کے معنی شافع یعنی شفاعت کرنے والے کے ہیں۔
- ۴- کسی نے کہا اس کے معنی وکیل کے ہیں۔
- ۵- کسی نے کہا اس کے معنی بڑا سراہنے والا جس کا فارسی ترجمہ ستائندہ اور عربی ترجمہ حماد اور احمد بصیغہ اسم تفضیل یعنی فاعل ہے۔
- ۶- اور کسی نے کہا اس کے معنی بڑا سراہا گیا۔ یعنی بڑا ستودہ کے ہیں جس کا عربی ترجمہ محمد ہے اور احمد اسم تفضیل یعنی مفعول ہے کیونکہ لفظ احمد بصیغہ اسم تفضیل کا ہے جو کبھی فاعل کے معنی میں آتا ہے کبھی مفعول کے پس اگر احمد اسم تفضیل یعنی فاعل ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بڑی حمد دینا کرنے والا یعنی خدا تعالیٰ کا بڑا سراہنے والا اور اگر احمد اسم تفضیل یعنی مفعول ہو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا بڑا ستودہ یعنی جو خدا اور بندوں میں بڑا ہی ستودہ ہے کہ ہر جگہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔
- ۷- اور بعضوں نے فارقلیط کا ترجمہ امیدگارہ عوام سے کیا ہے۔
- ۸- اور بعض نسخوں میں رسول کا لفظ ہے۔
- ۹- اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی روح حق کے ہیں۔
- ۱۰- اور بعض نے کہا کہ اس کے معنی ثقہ اور معتبر کے ہیں۔

بہر کیف اگر فارقلیط کی اصل یونانی زبان میں پاراکلی طوس قرار دی جائے تو اس کے معنی معین و مددگار اور وکیل کے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کی اصل پیرکلو طوس ہے تو اس کے معنی محمد یا احمد یا حماد کے قریب قریب ہیں اول تو یہ کوئی خاص تفاوت نہیں تلفظ اور رسم الخط کے فرق سے اس قدر فرق واقع ہو جانا ممکن ہے اور اگر اس کو نہ بھی تسلیم کیا جائے تو بھی مدعا ثابت ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں آپ کا لقب معین اور وکیل بھی ہے تو اس معنی کی صورت میں بھی یہ لفظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر صادق آتا ہے۔ انجیل کے تمام قدیم نسخوں میں عربی اور فارسی اور اردو تمام نسخوں میں فارقلیط کا لفظ موجود تھا مگر اب موجودہ نسخوں میں لفظ فارقلیط کی بجائے زیادہ تر مددگار اور روح حق کا لفظ پایا جاتا ہے مگر باوجود ان تحریفات و تغیرات اور تبدیلات کے پھر مدعا حاصل ہے اس لیے کہ اس بشارت میں فارقلیط کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر علیٰ وجه الکمال و التمام صادق اور منطبق ہیں۔ فارقلیط کے جو معنی بھی لیے جائیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق ہیں آپ خدا تعالیٰ کے وکیل اور سفیر بھی ہیں اور

روح حق اور روح صدق اور روح راستی بھی ہیں اور امت کے شافع بھی ہیں اور بشیر اور نذیر بھی ہیں اور خدا کے ستودہ اور پسندیدہ بھی ہیں اور سب سے زیادہ خدا کی حمد و ثناء کرنے والے بھی ہیں بلکہ یہ تمام آپ کے اسماء ہیں کوئی ان میں سے اہم صفت ہے جیسے وکیل اور شافع اور معین و مددگار اور روح الحق اور کوئی اسم علم ہے جیسے احمد اور محمد اور محمود اور حماد اور آپ کے ناموں میں ایک نام آپ کا حمد بھی ہے حمد اگرچہ مصدر ہے یعنی ستودن مگر بالفاظہ آپ پر اطلاق کر دیا گیا گویا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ کی مجسم حمد و ثناء ہیں۔

فار قلیط کا سب سے زیادہ صحیح ترجمہ احمد ہے اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں اس بشارت کا ذکر بلفظ احمد آیا ہے کما قال اللہ تعالیٰ فَبَشِّرْهُ بِبُشْرَىٰ يُقْبَلُهَا أَفْوَاجًا مُّسْلِمِينَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِأَحْمَدُ یہ آیت قرآن مجید کی ہے۔ اور قرآن مجید جس ملک میں نازل ہوا اس وقت اس ملک میں بے شمار علماء یہود و نصاریٰ موجود تھے۔ اگر یہ بشارت اور یہ خبر غلط ہوتی تو ہزار ہا علماء یہود و نصاریٰ اس غلطی کو فاش کرتے اور برملا اس خبر کی تردید کرتے اور جو علماء یہود و نصاریٰ اسلام میں داخل ہو گئے تھے وہ اس غلط بیانی کو دیکھ کر فوراً اسلام سے برگشتہ ہو جاتے اور بغیر شور و غل مچائے خاموش نہ بیٹھتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پیشین گوئی کو علی الاعلان ظاہر فرمانا اور بیان کرنا اور علماء نصاریٰ کا خاموش رہنا یہ ان کے اعتراف اور تسلیم کی روشن دلیل ہے اور اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اگر یہ بات سچی تھی تو اس وقت کے تمام علماء یہود و نصاریٰ کیوں مسلمان نہ ہو گئے۔

جواب

یہ ہے کہ علماء نصاریٰ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی پیشین گوئیاں تو ریت میں موجود ہیں مگر باوجود ان پیشین گوئیوں کے اور باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مشاہدہ کر لینے کے پھر بھی علماء یہود حضرت مسیح پر ایمان نہیں لائے بلکہ ان کے دشمن ہو گئے اور بوجہ سنگدلی اور بوجہ دنیاوی اغراض یا بوجہ حسد کے حضرت مسیح کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ صاف طور پر علماء یہود یہ کہتے کہ تو اس میں حضرت مسیح کی کوئی بشارت نہیں اور نہ ان کا کوئی ذکر ہے تو اسی طرح بہت سے علماء نصاریٰ نے بوجہ سنگدلی اور بوجہ دنیاوی اغراض آپ کا پیرو ہونا قبول نہ کیا۔ حالانکہ ان کو یقین تھا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی مسیح بن مریم نے بشارت دی ہے جیسے ہرقل اور متوقس نے صاف طور پر اس کا اقرار کیا کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی انجیل میں بشارت دی گئی مگر اپنی سلطنت کی خاطر اسلام میں داخل نہیں ہوئے اور علماء نصاریٰ میں جو منصف

اور حق پرست تھے جیسے نجاشی شاہ حبشہ اور ضحاک رومی اور ابن الناطور وغیرہم یہ لوگ ایمان لائے اور بہت سے علماء نصاریٰ نے دیدہ دانستہ علماء یہود کی طرح صاف طور یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات انجیل میں کوئی بشارت نہیں۔ غرض علماء نصاریٰ کی یہ تکذیب ایسی ہے جیسا کہ علماء یہود اور دیگر یہود حضرت مسیح کی بشارتوں سے منکر اور مکذب ہیں علماء نصاریٰ یہ کہتے ہیں کہ اس بشارت میں فارقلیط کی آمد سے روح القدس کا حواریں پر نازل ہونا مراد ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کے بعد جب حواریں ایک مکان میں جمع تھے تو وہ روح ان پر نازل ہوئی اور اس روح کے نزول سے حواریں تھوڑی دیر کے لیے مختلف زبانیں بولنے لگے۔

نصاریٰ کا یہ خیال سراسر خیال خام ہے۔ یہ بشارت کسی مقدس اور برگزیدہ انسان کے حق میں ہے جو خدا کی طرف سے الہام پائے گا اور خدا کی طرف سے اس کو جو القاد ہو گا وہی ہو گا اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا اس بشارت کو روح القدس یعنی جبرائیل سے کوئی واسطہ نہیں اور کسی فرشتے سے اس بشارت کا کوئی تعلق نہیں بلاشبہ فارقلیط کی آمد سے ایک رسول عظیم کی بعثت مراد ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے گا۔ اور اگر ہم اس تحقیق سے قطع نظر بھی کر لیں کہ نہ تلمیذ کے کیا معنی ہیں تو تب بھی ہمارا مدعا ثابت ہے کیونکہ اس بشارت میں آنے والے فارقلیط کے بہت سے اوصاف بیان کیے گئے جو بہ تمام و کمال سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ و احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہم و اصحابہ وسلم پر صادق اور منطبق ہیں۔

اول۔ یہ کہ جب تک میں نہ جاؤں وہ نہ آئے گا۔

دوم۔ یہ کہ میری گواہی دے گا۔

سوم۔ یہ کہ وہ گناہ اور راستی اور عدالت سے تعمیر و ارٹھرانے گا۔

چارم۔ یہ کہ مجھ پر ایمان نہ لانے والوں کو سزا دے گا۔

پنجم۔ یہ کہ وہ سچائی کی راہ دکھلانے گا۔

ششم۔ یہ کہ وہ آئندہ کی خبریں دے گا۔

ہفتم۔ یہ کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا بلکہ جو اللہ سے نئے گا وہی کہے گا۔

ہشتم۔ یہ کہ وہ جہان کا سردار ہوگا۔

نہم۔ یہ کہ وہ میری تمام باتوں کو یاد دلائے گا۔

دہم۔ یہ کہ جو امور تم اس وقت برداشت نہیں کر سکتے وہ نبی اس وقت تم کو آکر بتلانے گا اور جو باتیں

غیر کمال ہیں ان کی تکمیل کرے گا اور یہ تمام باتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہیں جس

کے دلائل حسب ذیل ہیں۔

۱۔ آپ کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانے پر اس لیے موقوف تھا کہ آپ خاتم الانبیاء

ہوئے۔ ۲۔ آپ کے نبوت پر ۱۲۰ سال قبل از ولادت سے روایت ہے کہ آپ کو آسمان سے ندا آئی کہ اے محمد! میں نے تجھے

ورنہ اگر وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو اس کے آنے سے پہلے نبی کا جانا، شرط ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اس لیے کہ جب وہ نبی خاتم الانبیاء نہیں تو پہلے نبی کی موجودگی میں بھی بے معنی ہو سکتا ہے۔

پہلے نبی کا جانا دوسرے کے آنے کے لیے جب ہی شرط ہو سکتا ہے کہ جب دوسرا نبی خاتم الانبیاء ہوگا۔
کما قال تعالیٰ

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لَقَدْ رُسِلَ اللَّهُ وَاخْتَمَرَ النَّبِيُّنَ .
محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخر النبیین ہیں۔

اور حضرت مسیحؑ خاتم النبیین نہ تھے ورنہ علماء نصاریٰ وہود حضرت مسیحؑ کے بعد ایک نبی کے کس لیے منتظر تھے اور روح کا آنا حضرت عیسیٰؑ غیر السلام کے جانے پر موقوف نہ تھا روح کا نزول تو حضرت عیسیٰؑ کی موجودگی میں بھی ہوتا تھا۔

۲۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی گواہی بھی دی۔

وَمَا قَتَلُوهُ وَاَصْلَبُوهُ وَاَلَكْنَ شَيْبَةً لَهُمْ وَاَلَتَّ الَّذِينَ احْتَمَلُوْا فِيْهِ نَفْيَ شَيْءٍ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اِتِّبَاعَ الظَّنِّ وَا مَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَا كَانَتْ اَنْتُمْ عَنْ يَمِيْنٍ حٰكِمِيْنَ .
اور انہوں نے نہ ان کو عیسیٰؑ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ سولی دی۔ لیکن اشتباہ میں ڈال دیئے گئے اور جن لوگوں نے عیسیٰؑ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ یقیناً شک میں ہیں خود ان کو اس کا یقین نہیں محض گمان کی پردہ ہے یقیناً حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ وہی غالب اور حکیم ہے۔

۳۔ اور راستی اور عدالت سے غلام بھی کیا۔

۴۔ اور حضرت مسیحؑ کے نہ ماننے والوں کو پوری پوری سزا بھی دی کسی سے قتال اور جہاد کیا اور کسی کو جلاوطن کیا جیسا کہ یہود خیر اور یہود بنو نضیر اور یہود بنو قینقاع کے واقعات سے ظاہر ہے اور روح نے کسی کو ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی کی سرزنش کی۔ اور سرزنش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاجر قلیط ظاہر ہونے کے بعد حکومت کے ساتھ لوگوں کو توجیح اور سرزنش کو سہے گا۔ اور ظاہر ہے کہ روح القدس کا ظاہر ہو کر عام لوگوں پر حکومت کرنا کیسے ثابت نہیں اور نہ حواریین کا منصب یہ تھا۔ حواریین نے حکومت کے طور پر کسی کی توجیح نہیں کی بلکہ اعطائے طور پر لوگوں کو سمجھاتے رہے جس میں حکومت کا زور نہ تھا۔ غرض یہ کہ کسی طرح بھی روح القدس کو فاجر قلیط کا مصداق نہیں قرار دیا جاسکتا۔

اور آیت دہم میں سرزنش کا یہ روح ماننا اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں۔ ۱۱۔ آیت ۱۲ اور عدالت

کرتا ہے کہ اس فارقیط اور مددگار اور وکیل و شفیع کا ظہور منکرین عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہو گا۔ اختلاف روح کے کہ اس کا ظہور تو آپ کے نزدیک حواریں پر ہوا کہ جو منکرین عیسیٰ علیہ السلام نہ تھے اور نہ حواریں نے کسی کو سزا دی وہ خود ہی مکین دعا جز تھے کسی منکر کو کیسے سزا دے سکتے تھے۔

۵۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق اور راستی کی وہ راہیں دکھائیں کہ جو نہ کسی نے دیکھیں اور نہ سُنیں آپکی شریعت عزائم اور ملت بیضاء اس کی شاہد ہیں۔

۶۔ اور واقعات کے متعلق آپ نے اتنی خبریں دیں کہ جن کا کوئی شمار نہیں اور ایسی صحیح خبریں دیں کہ جو ہو ظاہر ہوں اور ان کا ایک حرف بھی خلاف واقعہ نہ نکلا اور تاقیامت اسی طرح ظاہر ہوتی رہیں گی۔

۷۔ اس لیے کہ آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں فرمایا کما قال تعالیٰ وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔

۸۔ اور بایں ہمہ جہان کے سردار اور بادشاہ بھی جوئے اور جہان اور دنیا کی سرداری سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت تمام عالم کے لیے ہو گی کسی قوم کے ساتھ مخصوص نہ ہو گی۔

۹۔ اور نصاریٰ نے حضرت مسیحؑ کی صحیح تعلیمات کو محو کر دیا تھا ان کو بھی یاد دلایا جن میں توحید و تثلیث کا مسئلہ بھی ہے۔ اس کو خوب یاد دلایا اور حضرت مسیحؑ کے قتل و صلب کی نفی اور رفع الی السماء کا اثبات فرمایا۔

قُلْ يَا هَلْكَ الْكُتُبِ نَعْلَمُو الْاِلٰی
كَلِمَةٍ سِوَا آيَةٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ
اِلَّا نَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكُ بِهِ
شَيْئًا وَ لَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۝

آپ فرما دیجیے کہ اے ان کتاب ایسے امر کی
طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مستم ہے وہ یہ کہ
خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کری اور اس کے ساتھ
کسی کو شریک نہ کریں اور ایک دوسرے کو اللہ
کے سوا رب نہ بنائیں۔

وَ قَالَ الْمَسِيْحُ بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ
اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ اِنَّهُ
مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَتَمَ
اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَا وَاوَهُ النَّارُ
وَ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ
اَنْصَارٍ۔

اور فرمایا حضرت مسیحؑ بنی اسرائیل
بندگی کرو صرف ایک اللہ کی جو میرا اور تمہارا پروردگار
ہے تحقیق جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ
تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کیا ہے اور اس
کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار
نہیں ہوتا۔

۱۰۔ آپ نے مبعوث ہونے کے بعد وہ باتیں بھی بتلائیں جو حضرت مسیحؑ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے تحمل سے باہر تھیں یعنی ذات و صفات، شریعت و طریقت، حشر و نشر، جنت و جہنم کے متعلق وہ علوم و معارف کے دریا بہائے کہ جن سے تمام عالم دنگ ہے اور کسی کتاب میں ان علوم کا نام و نشان نہیں اور جو علوم غیر تکمیل پر نہ تھے آپ کی شریعت کا طرے ان سب کی تکمیل بھی کر دی۔ کما قال اللہ تعالیٰ عَزَّ وَ جَلَّ۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَانْتُمْتُمْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل
کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے
لیے اسلام کو پسند کیا دین بنا کر۔

اور قیامت تک کے لیے دنیا کو ایک ایسا کامل اور مکمل دستور (یعنی شریعت) دے گئے جو ان کے دین اور دنیا کی صلاح اور فلاح کا کفیل ہے اور اس کے حقائق اور دقائق اور اسرار و حکم کو دیکھ کر دنیا حیران ہے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا حکم شریعت محمدیہ سے معلوم ہو سکتا ہے علماء، یہود و نصاریٰ کے پاس کوئی شریعت ہی نہیں جس کو سامنے رکھ کر علماء امت اور فقہائے سنت کی طرح فتوے دے سکیں اس وقت کے نصاریٰ کے پاس صنعت و حرفت اور کارگری کے علوم و فنون ہیں مگر حکمرانی اور جہان بینی اور عدل عمرانی کے متعلق ان کے پاس کوئی آسمانی قانون نہیں ہے کہ جس کی زد سے وہ دنیا میں عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر سکیں مغربی اقوام کے پاس جو دستور ہے وہ چند اہل فکر کے افکار اور خیالات کا نتیجہ ہے شریعت اسلامیہ کی طرح آسمان سے نازل شدہ کوئی قانون ان کے پاس نہیں۔

علماء مسیحین اس بشارت کو روح القدس کے حق میں قرار دیتے ہیں جس کا نزول حضرت مسیح علیہ السلام کے ربیع الی السماء کے ۴۴ یوم بعد حواریین پر ہوا لیکن یہ قول چند وجوہ سے باطل ہے۔

۱۔ اس لیے کہ روح کا نازل ہونا حضرت مسیح کے جانے پر موقوف نہ تھا بلکہ وہ تو ہر وقت حضرت مسیح کے ساتھ رہتی تھی۔

۲۔ اور نہ روح نے کسی کو راستی اور عدالت سے ملزم ٹھہرایا اور نہ کسی یہودی کو حضرت مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے کبھی سزا دی البتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین اور کفار سے جہاد بھی کیا اور یہودیوں کو کافی سزا بھی دی اور ان کو ملزم ٹھہرایا اس لیے کہ اہل دنیا کو الزام دینا اور ان کی سرزنش کرنا بغیر حکومت کے ممکن نہیں ہوگا کہ آنے والا فارقلیط اور دوسرا مدگار دنیا کا حاکم اور بادشاہ ہوگا جو مجرموں کی سرزنش کرے گا اور چودھویں باب کے درس ۲۰ میں جو دنیا کے سردار آنے کا ذکر ہے اس سے بھی دنیا کا حاکم مراد ہے کہ جس کی حکومت اور توجیح اور سرزنش کا ذکر ہو چکا ہے۔

۳۔ نیز حضرت مسیح کا اس پر ایمان لانے کی تاکید فرمانا بالکل بے محل ہے اس لیے کہ حواریین پیشتر ہی سے روح القدس پر ایمان رکھتے تھے اس کے فرمانے کی کیا حاجت تھی کہ ”جب وہ آئے تب تم ایمان لاؤ۔“

حضرت مسیح کا اس قدر اہتمام فرمانا اور اس پر ایمان لانے کی وصیت کرنا خود اس کو بتلا رہا ہے کہ وہ آنے والی شے کچھ ایسی ہوگی جس کا انکار تم سے بعید نہ ہوگا۔

اگر فارقلیط سے روح مراد ہوتی تو اس کے لیے چنداں اہتمام اور تاکید کی ضرورت نہ تھی اس لیے کہ جس کے قلب پر روح کا نزول ہوگا اس سے روح کا انکار ہونا بالکل ناممکن ہے۔

روح القدس کا نزول بالبداہت مفید یقین سے جس طرح کہ روح القدس کے نزول سے بالبداہت

بیغیر کو اپنی نبوت کا یقین آجاتا ہے پیش آنے والی چیز سے انسان کو ایسا یقین کامل آجاتا ہے کہ قوتِ خیالہ بھی اس کو دفع نہیں کر سکتی۔ انسان پر جب کوئی حالت طاری ہوتی ہے تو اس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔

۴۔ نیز اس عبارت کا مصداق اس بات کو بتلانا رہا ہے کہ آنے والا فارقلیط حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مغایر ہے جیسا کہ سولہویں آیت کا یہ لفظ دوسرا مدگار بننے کا صاف مغایرت پر دلالت کرتا ہے کہ وہ علیحدہ صورت میں ظاہر اور نمودار ہوگا۔

پس اگر فارقلیط سے روح القدس مراد لی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ سے کسی طرح مغایر نہیں کیونکہ نصاریٰ کے نزدیک ابن اور روح القدس میں حقیقی اتحاد ہے اور روح القدس جو حواریین پر ظاہر ہوگی وہ کسی علیحدہ صورت میں ظاہر نہیں ہوئی جس طرح کسی شخص پر جن مسقط ہوتا ہے سو جن کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو اس شخص کے منہ سے نکلتی ہیں علیحدہ صورت میں اس کا ظہور نہیں ہوتا۔

۵۔ نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ ”جو کچھ میں نے تمہیں کہا، یاد دلائے گا، حالانکہ کسی کتاب سے یہ ثابت نہیں کہ حواری حضرت عیسیٰ کے ارشادات فراموشی کر چکے تھے اور روح القدس نے ان کو علیحدہ صورت میں ظاہر ہو کر یاد دلائے ہوں۔“

۶۔ نیز اس بشارت میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ میرے لیے گواہی دے گا، سو یہ وصف صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ آپ ہی نے اگر مشرکین اور یہود کے سامنے حضرت مسیحؑ کی گواہی دی اور ان لوگوں کے سامنے کہ جو حضرت مسیحؑ سے منکر یا بے خبر تھے آپ ہی نے حضرت مسیحؑ کی رسالت کا اعلان کیا۔ بخلاف روح القدس کے کہ وہ حضرت عیسیٰ کے حواریین پر نازل ہوئی اور حواریین پہلے ہی سے حضرت مسیحؑ کو رسول جانتے تھے ان کے سامنے گواہی دینے کی کوئی حاجت نہ تھی گواہی کی ضرورت تو منکرین کے سامنے ہوتی ہے نہ کہ مؤمنین کے سامنے بخلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے یہود کے سامنے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر اور دشمن تھے علی الاعلان حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت در رسالت کی گواہی دی اور ان کے دعوئے قتل و صلب کی تردید کی اور رفع الی السماء کو ثابت کیا۔

۷۔ نیز حضرت مسیح علیہ السلام اس فارقلیط کی نسبت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں، سو یہ جملہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آسکتا ہے کہ مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں روح القدس اور مسیح تو ایک ہی چیز ہیں۔

۸۔ نیز یہ بھی قابلِ غور ہے کہ اس روح نے کون سی آئندہ کی خبریں بتلائیں کہ جس سے اس روح کو اس بشارت کا مصداق کہا جائے۔

۹۔ نیز اس بشارت کا تمام سیاق و سباق دلالت کرتا ہے کہ آنے والا دوسرا فارقلیط اور دوسرا مدگار لباسِ بشری اور پیکرِ انسانی میں ظہور کرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بشری لباس میں دعوتِ حق اور لوگوں کی تسلی کے لیے آئے گا پس فارقلیط کا مصداق اس روح کو سمجھنا کہ جو آدمیوں پر جن کی طرح نازل ہوا اور ان میں حلول کرے

بِذَلِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
 شک کی ضرورت نہیں اپنا دست مبارک بڑھائیے
 میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود
 نہیں اور یقیناً محمد رسول اللہ ہیں۔

اور علیٰ ہذا برقل شاہ روم اور دوسرے ذی شوکت علماء تورات و انجیل نے آپ کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کا نام انجیل میں لکھا ہوا تھا۔ جس کو دیکھ کر لوگ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی آمد سے پہلے وہ آپ کے منتظر تھے جن کو خدا نے تعالیٰ نے توفیق بخشی اور کسی ذبیوی طمع نے ان کو نہ گھیرا وہ اس دولت سے متنع ہوئے۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ -

۱۱۔ اور سو لہویں آیت کا یہ جملہ کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ فارقیط یعنی روح جس کے نصاریٰ قائل ہیں وہ بھی ہمیشہ ان کے ساتھ نہ رہا۔ بلکہ مراد یہ ہے کہ اسکی شریعت اور دین ابد تک رہے گا اور اس کے بعد کوئی دین نہ آئیگا جو اس کیلئے ناسخ ہو۔

۱۲۔ اور باب چہار دہم کی سترھویں آیت کا یہ جملہ یعنی سچائی کی روح جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اُسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔

اس کا یہ مطلب ہے کہ دنیا اس کے مرتبہ کو نہیں جانتی وہ تمام کائنات میں سب سے بہتر اور برتر ہوگا۔

غرض انجیل یوحنا کی یہ آیات اپنے مجموعی مضمون اور تمام الفاظ و کلمات سے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی بشارت سنار ہی ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام اپنے حواریوں کو نہایت وضاحت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تھا کہ جب وہ واقع ہو تو ایمان لاؤ۔

اس بنا پر اس شخص پر جو انجیل مقدس کو مانتا ہو اور حضرت مسیح پر ایمان رکھتا ہو۔ لازم ہے کہ وہ حضرت مسیح کے اس فرمان کی تعمیل کرے۔

کیا کسی کا یہ دعویٰ قابل قبول ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت مسیح پر ایمان رکھتا ہے اور حال یہ کہ وہ ان کے صریح حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہی بمشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دے۔ ایسی صورت میں عقلاً یہ کہا جائے گا یہ شخص خود حضرت مسیح علیہ السلام کا منکر اور کافر ہے۔

لہذا جو شخص بھی نصاریٰ میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ حضرت مسیح پر ایمان قائم رکھے اس کے واسطے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ورنہ اس یہودی کو جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ رکھتا ہو ایسے عیسائی سے کوئی امتیاز نہ ہوگا۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و

رسالت پر ایمان لانے سے انکار کر دے۔

انجیل برنابا میں تو یہ بشارت اس سے بھی زائد وضاحت و اہتمام سے آپ کے امم مبارک محمد اور محمد کی تشریح کے ساتھ مذکور ہے۔

نصاری کی طرف سے فارقلیط کی عجیب و غریب تفسیر

عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام نے جن آنے والے فارقلیط کی خبر دی ہے اس سے روح القدس (جبرئیل امین) کا نازل ہونا مراد ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے چند حواریوں پر نازل ہوئے جبکہ وہ ایک مکان میں جمع تھے جس کی وجہ سے وہ حواری مختلف قسم کی زبانیں بولنے لگے اور یہ کہتے ہیں کہ روح القدس کسی خاص شکل و صورت میں نہیں آئے بلکہ ان کا یہ باطنی طور پر تصرف تھا جس کی وجہ سے یہ تغیر ہوا اور ان مختلف اقسام زبانوں میں وہ لوگ بولنے لگے۔

سابق تفصیل سے یہ بات بدیہی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ ان تمام الفاظ کا مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی دنیا میں ممکن نہیں ہے وہ تمام اوصاف اور احوال جو بشارت انجیل میں پوری پوری وضاحت سے ذکر کیے گئے ہیں ان کے پیش نظر جبرئیل کو اس کا مصداق ٹھہرانا ایک بالکل ہی بے معنی بات ہے جو کسی طرح بھی سمجھ میں نہیں آسکتی۔ کیا یہ بات کہ وہ حواری محض کچھ قسم کی زبانوں میں بولنے لگے جو بھی زبانی تھیں عقلاً اس عظیم الشان بشارت کا مصداق بن سکتی ہے اور کیا عقل سلیم اس امر کو باور کر سکتی ہے۔ محض اتنی سی بات کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے رو برو یہ نصیحت و تسلی آمیز مژدہ سنا رہے ہیں کہ مختلف ناقابل فہم زبانوں میں کچھ بولنے لگیں تو بس یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کے سر پر شیش ٹنڈو یا کوئی جن سوار ہو جائے اور وہ بولتا ہو اور پھر عجیب تر بات یہ کہ خود عیسائیوں کو یہ تسلیم ہے کہ یہ حالت ان حواریوں کی صرف تھوڑی دیر تک رہی تو کیا جو حالت چند لمحوں کے لیے رہی ہے وہ ایسا ناقابل ہو سکتا ہے جو اب تک ساتھ رہے۔

عہ برنابا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک حواری میں جس طرح ان کے حواری یوحنا۔ متی لوقا اور مرقس اپنی اپنی انجیلوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام اور ان کے احوال نقل کرتے ہیں۔ اسی طرح برنابا نے بھی اپنی انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال کو جمع کیا ہے عیسائیوں کا اس انجیل کے الہامی ہونے سے انکار کرنا ایک بے معنی چیز ہے اس لیے کہ یہ انجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ۱۲

انجیل برنابا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم مبارک کی تصریح کے ساتھ بشارت

پادری سیبل نے اپنے ترجمہ قرآن عظیم کے مقدمہ میں انجیل برنابا سے نقل کیا ہے اور یہ انجیل ۱۸۵۴ء میں طبع ہو کر شائع ہوئی لیکن دوسری طباعت میں اس بشارت کو حذف کر دیا گیا اور وہ بشارت جس کو پادری سیبل نے نقل کیا ہے یہ ہے کہ اے برنابا گناہ اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتے ہیں اس لیے کہ حق تعالیٰ گناہ سے راضی نہیں میری امت اور میرے شاگردوں نے جب دنیا کے لیے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے اور باقتضاء عدل و انصاف یہ ارادہ فرمایا کہ ان کو اسی دنیا میں اسی غیر مناسب عقیدے کی بنا پر سزا دے تاکہ عذاب جہنم سے نجات پائیں اور وہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو اور میں اگرچہ اس عقیدہ فاسد سے بالکل بری ہوں لیکن چونکہ بعض لوگوں نے مجھ کو اللہ اور ابن اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا ناگوار ہوا اور اس کی مشیت اس کی مقتضی ہوئی کہ قیامت کے دن شیاطین مجھ پر نہ ہنسیں اور نہ میرا مذاق اڑائیں پس اللہ نے اپنی مہربانی اور رحمت سے یہ پسند کیا کہ یہود کی وجہ سے یہ ہنسی دنیا ہی میں ہو اور ہر شخص یہ گمان کرتا رہے کہ میں سولی دے دیا گیا لیکن یہ اہانت و استہزاء فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک رہے گا پس جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ہر مومن کو اس غلطی پر متنبہ فرمائیں گے اور یہ شبہ لوگوں کے دلوں سے مٹنے ہو جائے گا۔

ترجمہ بلفظ ختم ہوا

اظہار الحقیق میں ہے کہ اگر لوگ یہ اعتراض کریں کہ اس انجیل کو علماء نصاریٰ نے رد کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس رد کا کوئی اعتبار نہیں اس لیے کہ یہ انجیل قدیم انجیلوں میں سے ہے اس کا تذکرہ دوسری اور تیسری صدی عیسوی کی کتابوں میں ہے پس اس بنا پر کہ یہ انجیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے دو سو سال قبل لکھی گئی ہے اور اس جیسے عظیم الشان امر کی بدون الہام کے خبر دینا اہل فہم کے نزدیک ناممکن ہے (دوسری بشارت) فاضل حیدر علی قریشی نے اپنی کتاب ”خلاصہ صیغہ المسلمین“ میں جو اردو زبان میں ہے لکھا ہے کہ پادری اوسکان ارمنی نے صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کا ارمنی زبان میں ۱۶۶۶ء میں ترجمہ کیا جو ۱۸۴۳ء میں طبع ہوا اس میں صحیفہ یسعیاہ علیہ السلام کے بالیسوی باب میں یہ فقرہ موجود ہے ”اللہ کی تسبیح پڑھو اس آنے والے پیغمبر کی سلطنت کا نشان اس کی پشت پر ہوگا (یعنی مہر نبوت) اور اس کا نام احمد ہوگا“ انتہی۔ اور یہ ترجمہ آرمینیوں کے پاس موجود ہے اس میں دیکھ لیا جائے۔

ان کے علاوہ انجیل مقدس کی اور بھی بشارتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کا ثرہ و خوشخبری ہیں

فَأَمِنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ

پھر ایمان لایا ایک فرقہ بنی اسرائیل میں اور منکر ہوا ایک فرقہ۔

فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

پھر زور دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے ان کے دشمنوں پر پھر پورے غائب۔

دعوت اہل ایمان کے تجارتِ ربوہ ترغیب بہ حصولِ فلاح و سعادت دنیا و آخرت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

در ربط اگر شتر آیات کا حاصل مضمون یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی آخر الزمان کی بعثت سے دنیا کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تاکہ انسان حق و ہدایت کے ذریعہ دنیا و آخرت کی فلاح و کامیابی حاصل کر سکیں۔ اور اسی بشارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح بن مریم کو مبعوث فرمایا۔ لیکن ان کی بد نصیب قوم نے ان کی بات کو ٹھکرایا حتیٰ سے منہ موڑا اور جو کچھ نبی آخر الزمان کی نشانیوں تھیں ان میں تحریف کی اب ان آیات میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ جس تجارتِ ربوہ کو اہل کتاب نے چھوڑا اور اس سے محروم ہوئے اسے ایمان والو! اب تم اس کامیاب تجارت کی طرف رخ کرو جو جس سے دنیا کی عافیت اور آخرت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ فرمایا۔

اسے ایمان والو! کیا میں رہنمائی کروں تم کو ایک ایسی تجارت کی طرف جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا دے وہ تجارت یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے بس یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اگر تم جان لو اس حقیقت کو اور اس تجارت کی عظمت و اہمیت اور نافعیت کو اس تجارت سے حاصل ہونے والے عظیم تر فوائد یہ ہیں کہ بخش دے گا تمہارا پروردگار تمہارے گناہ اور دماغل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور نہایت ہی صاف ستھرے پاکیزہ مکانات ہوں گے آباد ہونے کے باغوں میں جن میں اہل ایمان ٹھہریں اور ان ہی میں بسیں گے یہی ہے سب سے بڑی کامیابی اور ایک دوسری چیز جس سے وہ پروردگار تمہیں دے گا جس کو تم چاہتے ہو وہ اللہ کی طرف سے مدد اور جلد ہی حاصل ہونے والی فتح۔ اگرچہ اصل کامیابی اور عظیم انعام تو آخرت ہی کی کامیابی ہے جس کے سامنے ہفت اقلیم کی بھی کوئی حقیقت نہیں لیکن ایک اور نعمت بھی اللہ تم کو جلد عطا کرنے والا ہے جس کو اہل ایمان! تم طبعاً چاہتے ہو اور وہ تمہیں محبوب ہے وہ ہے نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ۔ اور اسے ہمارے پیغمبر اس کی خوشخبری سنا دو ایمان والو! کہ تم کو تاکہ وہ موجودہ تکالیف خندہ پستانہ

سے برداشت کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں پورے ایمانی جذبات سے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کریں۔ یہی جہاد ان کی کامیاب اور نفع بخش تجارت ہے جو دنیا و آخرت میں کام آئے گی اس کے واسطے مسلمانوں کو متحد ہو جانے کی ضرورت ہے لہذا اے ایمان والو! جو جاؤ تم اللہ کے مددگار اس کے دین اور پیغمبر کی نصرت و حمایت میں کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑو تم سمجھو کہ یہ ایک مطالبہ ہے اور تمہارے پیغمبر کی دعوت ہے جس کی طرف تم کو بلایا جا رہا ہے اس پر تمہیں کتبائے کہتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیئے جیسا کہ عیسیٰ بن مریمؑ نے اپنے حواریوں کو دوستوں اور مددگاروں کو پکارتے ہوئے کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو ان کے مخلص دوستوں نے کہا ہم ہیں مددگار اللہ کے اس کے دین کی حمایت و نصرت اور اس کے پیغمبر کی اعانت کے لیے۔ اس وعدہ حمایت و نصرت پر چاہیئے تو یہ نھاسب حواری قائم رہتے لیکن پھر ایسا ہوا ایک گروہ تو بنی اسرائیل کا اس پر قائم رہا اور ایمان و اخلاص سے اس وعدہ کو پورا کرنے لگا اور دوسرے ایک گروہ نے کفر کیا۔ تو ہم نے قوت دی ایمان لانے والوں کو اور جہد پر قائم رہنے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں چنانچہ وہ ایمان لانے والے غالب آئے اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں اور اللہ کا یہی قانون اور دستور ہے کہ وہ اپنے پیغمبر اور اس کے احوال و انصار اور دین کے مددگاروں کو دین کے دشمنوں میں غالب و کامیاب کرے۔

استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانیؒ فرماتے ہیں۔

”حواریین یا ان مسیح تھوڑے سے تو گئے چنے آدمی تھے جو اپنے حسب و نسب کے لحاظ سے کچھ معزز نہیں سمجھے جاتے تھے انہوں نے حضرت مسیح کو قبول کیا اور ان کی دعوت پر بڑی قربانیاں دے کر دیارِ ممالک میں پھیلا دیا۔“

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے یاروں نے بڑی محنتیں کیں تب ان کا دین نشر ہوا ہمارے حضرت کے پیچھے ان کے خلفاء نے اس سے زیادہ کیا، واللہ اعلم بالصواب اور اتنا کیا کہ تاریخ عام اس پر حیران ہے۔ ان کی مدد۔ ان کا اخلاص اور اللہ کی راہ میں قربانیاں تاریخ عام میں اپنی مثال نہیں رکھتیں؟

جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے صرف چند نام ہی ملتے ہیں اور ان کی قربانیوں یا اخلاص و بہمدی کا کوئی خاص کارنامہ بھی دنیا نے نہیں دیکھا بلکہ حضرت مسیح کے آسمان پر اٹھالیے جانے کے بعد ان کے متبعین دو فرقوں میں بٹ گئے ایک ایمان پر قائم رہا اور دوسرے نے انکار کر دیا اور جو ایمان پر قائم رہے وہ بھی آپس میں دست درگوبیاں ہوتے رہے۔ حضرت مسیح کے مخلص نام یوں انصاریؑ یہود پر غالب رہے اور انصاریؑ کی عام گمراہی کے بعد سچے کچھے افراد صحیح عقیدہ پر قائم رہ گئے تھے ان کو حق تعالیٰ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دوسروں پر غلبہ عنایت فرمایا۔ حجت و برہان کے اعتبار سے بھی اور قوت و سلطنت کی حیثیت سے بھی۔ فَلَقْنَاهُ الْحَمْدَ وَالْمُنْتَ

(تفسیر نوائے عثمانی)

حوارین مسیح کے بالمقابل حواریین محمد رسول اللہ ﷺ اور انصار اللہ کی عظمت و منقبت

حضرت مسیح بن مریم کے حواریوں کا ذکر آیت کَمَا قَانَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ میں فرمایا گیا لیکن حق تعالیٰ شانہ نے جو عظمت و برتری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریین یعنی انصار اسلام کو عطا فرمائی اس کے سامنے مسیح علیہ السلام کے حواریوں کی کوئی حقیقت نہیں جس طرح کہ ذرہ کو آفتاب سے کوئی نسبت نہیں ہو سکتی اور اس تفاوت کو تاریخ نے خود ثابت کر دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ ازالۃ الخفاء ج ۱ ص ۲۴ میں فرماتے ہیں ”اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو تمام ادویان پر غالب فرمانے کا سو یہ بات علی وجہ الاکل والالتهم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پائی گئی اس کی تکمیل آپ کے بعد خلفائے راشدین کے دورِ مسعود میں ہوئی کہ مسلمانوں نے بڑے بڑے جہاد کیے اور فتوحات حاصل کیں یہی صورت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ساتھ ہوئی کہ انہیں بھی غلبہ بعد میں ہی حاصل ہوا۔“

قائدہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ بفضلہ تعالیٰ ایسا ہی یہ واقعہ بھی ہوا۔ مدینہ کے ستر اشخاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے اور حجرہ عقبہ کے نزدیک آپ کے دست مبارک پر بیعت کی اور آپ کی نصرت و اعانت کا عہد کیا چنانچہ انہوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا اور اللہ کے پیغمبر کی جان و مال سے مدد کی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غلبہ عطا کیا اور یہ گروہ انصار کے نام سے پکارا گیا۔ دنیا میں ان کے سوا کسی قبیلہ اور گروہ کا نام آسمان سے انصار تجویز ہو کر نہیں اترا سوائے ان حضرات انصار کے۔

سیرت کی روایات میں ہے کہ اس بیعت عقبہ کے موقع پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر تم اللہ کی عبادت کریں اور آپ کی اطاعت و نصرت کریں تو ہمیں کیا ملے گا فرمایا دنیا میں فتح و ظفر اور آخرت میں جنت۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے ایسا ہی کر دکھایا اور بے شک اللہ نے ان کو اس کی یہی جزا دی۔

الغرض خاتم الانبیاء والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری یہ لوگ تھے اور کل قریش تھے بالخصوص عشرہ مبشرہ۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت ابوعبید بن الجراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حواریین رسول انصار و مہاجرین کے سرخیل مقتدی و پیشوا

تھے۔ جن کی ساعی نے ایک تاریخ بن کر اللہ رب العزت کے اس وعدہ غیبیہ اسلام کو پیش کر کے دنیا کو دکھا دیا۔ **وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا**

تاریخ عالم گواہ ہے کہ کفر کی تمام طاغوتی طاقتیں اللہ کا نور نہ بجھا سکیں

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ الْاٰلِهِي بِالْقَوٰ اِهْمٰرًا

یہ مضمون سورہ توبہ میں گزر چکا ہے جو یہاں بھی قدر سے تغیر کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا۔ مسیحیت کا ابطال کرتے ہوئے یہاں یہ ظاہر کیا گیا کہ نصاریٰ نے خصوصاً اور دیگر مذاہب نے عموماً حق تعالیٰ شانہ کی دست و مناسبت میں جو لغو اور غلاب غفل عقائد اختیار کیے ہیں اور دین حق کی عداوت پر کمر بستہ ہیں ان کی ایسی بیوردہ باتوں سے قہر و غضب خداوندی جو جس میں آگیا ہے۔ اور بارگاہ رب العزت سے یہ تلے ہو چکا کہ ان فرقوں کو نہ گنوں اور درجہ برہم کر دیا جائے گا اور اس کی صورت بارگاہ خداوندی اور غیب سے اس طرح تجویز ہوئی ہے کہ ایک رسول کو جو خاتم الانبیاء ہو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا جائے تاکہ وہ دین حق تمام ادیان پر غالب آئے گا ذریعہ بنے اور غلبہ کے معنی یہ ہیں کہ تمام ادیان کو جزاؤں سے اکھاڑ پھینکے ان کے عقائد باطلہ اور اوہام کی جڑیں کھد جائیں اور ان کے حمایتی درہم برہم ہو جائیں اور کوئی شخص اس دین کی طرف۔ (دلائل کی روشنی میں) دعوت دینے والا باقی نہ رہے اور ان ادیان کو جو دنیاوی اور مادی شوکت و عزت حاصل ہے اس کا خاتمہ ہو جائے۔

آپ کی بعثت کے وقت دنیا دو عظیم طاقتوں میں منقسم تھی ایک کسریٰ اور دوسری قیصر اور یہ دونوں بادشاہ دو سر مذاہب پر غالب تھے اور یہ اپنے اپنے مذہب کے حامی اور عظیم داعی تھے ان کی حکومت و بادشاہت اپنے مذاہب کی ترویج و اشاعت کا باعث بنی ہوئی تھی۔

روم۔ فارس۔ جرمن۔ افریقہ۔ شام۔ مصر اور بعض بلاد مغرب و حبش قیصر کی موافقت میں لغاتیت پر تھے فارس۔ خراسان۔ توران اور ترکستان وغیرہ کسریٰ کی تبعیت میں مجوسیت کو اختیار کیے ہوئے تھے ان کے علاوہ باقی مذاہب جیسے مذہب یہود۔ ہنود۔ مشرکین اور صابئین کی ان دو مذہبوں کے مقابلہ میں کوئی قوت و شوکت نہ تھی بلکہ ان کے معتقدہ درہم برہم ہو چکے تھے۔

بارگاہ خداوندی سے جب مذاہب باطلہ کو مغلوب کرنے اور دین حق کو غالب کرنے کا ارادہ ہوا تو زمین جہاز میں ایک نبی پیدا فرمایا۔ کیونکہ نہ زمین جہاز نہ تو کسریٰ کے تصرف میں تھی اور نہ ہی قیصر کے تصرف میں۔ اس لیے حق تعالیٰ شانہ نے اس سرزمین کو دین حق کی بادشاہت کے لیے منتخب فرمایا تاکہ اس علاقہ سے ظاہر ہو جو ان

دین کسی سابق بادشاہت اور مادی طاقت سے مغلوب و مرعوب نہ ہو اور اسی سرزمین سے حق کی بادشاہت ہو کر دنیا کی دو عظیم طاقتوں قبصر و کسریٰ کو نشاۃ بنا یا جائے اور جب یہ دو سلطنتیں پامال ہو جائیں گی دوسرے باطل مذاہب خود بخود پامال ہو جائیں گے۔

بعثت نبوی کا یہی مقصد تھا۔ اللہ رب العزت نے اس مقصد کی تکمیل کے لیے دین حق کی بنیادیں مضبوط کیں اور جزیرہ عرب میں سولے اسلام کے اور کوئی مذہب نہ رہا تبصرہ ہدایت کی بنیادیں مضبوط اور مکمل ہو گئیں اور کچھ عمارت بھی بن گئی کہ اسی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاماعلیٰ اور رفیق الاعلیٰ سے حقوق و اتصال کی دعوت آپہنچی اور اللہم الرفیق الاعلیٰ فرماتے ہوئے اپنے رب سے جا ملے تو پھر اس دین حق کے غلبہ کی تکمیل آپ کے جانشینوں کے ہاتھوں پر ہوئی تاکہ جو ارادہ انبیاء انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ضمن میں لپٹا ہوا تھا وہ آپ کے خلفاء کے ہاتھوں پر پورا ہو۔ سو الحمد للہ خلفائے راشدین کے ہاتھوں قبصر و کسریٰ کی سلطنتیں درہم برہم ہوئیں اور عیسائیت و مجوسیت مغلوب ہو کر مقہور ہوئی اور اس طرح دین حق ظاہر و غالب اور روشن ہوا۔ **وَاللَّهُ بِالْحَمْدِ** حمدًا کثیرًا۔ تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الصف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

آیاتہا ۱۱ = ۶۲ = سُورَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۱۰ = فِيهَا رُكُوعًا

سورۃ جمعہ مدنی ہے اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ

اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، بادشاہ

الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي

اللہ کی پاکیزگی، عزیز، حکیم، وہی ہے جس نے

الْأَمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

ان پڑھوں میں ایک رسول ان ہی میں کا، پڑھنا ان پاس اس کی آیتیں اور ان کو سنوارنا۔

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ

اور سکھاتا کتاب اور عقل مندی - اور ان سے پہلے تھے وہ

لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝۲۰ وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَدْحُقُوا فِي

صراطِجِ بھلاوے میں - اور ایک اوروں کے واسطے انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۱ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ

اور وہی ہے زبردست حکمت والا - یہ بڑا ہی اللہ کی ہے، دیتا ہے

مَنْ يَشَاءُ ۝۲۲ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝۲۳ مَثَلُ

جس کو چاہے - اور اللہ کا فضل بڑا ہے - کہاوت

الَّذِينَ جَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ

ان کی جن پر لادی تورات - پھر نہ اٹھائی انہوں نے جیسے کہاوت گدھے کی۔

يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِسْمِ اللَّهِ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا

بیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں - بڑی کہاوت ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلائیں

بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝۲۴

اللہ کی باتیں - اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو -

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ

تو کہہ لے یہود ہونے والو! اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم دوست ہو

لِللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ

اللہ کے سب لوگوں کے سوا - تو تمناؤ مرنے کو - اگر تم

صَادِقِينَ ۖ وَلَا يَتَمَنَّوْنَ اَبَدًا اِيْمًا قَدَّمَتْ

پہے ہو - اور کبھی نہ سنا دیں گے مرنا، جس واسطے آگے بھیج چکے ہیں

اَيْدِيْهِمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝۷۰ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ

ان کے ہاتھ - اور اللہ کو خوب معلوم ہیں گنہگار - تو کہہ موت وہ ہے

الَّذِي تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهُ مُلْقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ

جس سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے مٹی ہے پھر پھیرے جاؤ گے

اِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

اُس چھپا اور کھلا جانے والے پاس، پھر بتادے گا تم کو

تَعْمَلُوْنَ ۝۷۱

جو کرتے تھے -

تکمیل بشارت عیسیٰ بن مریمؑ بہ بعثت نبی اکرم صلی علیہ وسلم

و تنبیہ برشقادت اہل کتاب بوجہ انحراف الایمان اتباع نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم

قَالَ اللهُ تَعَالَى: يُسَبِّحُ دَرَجَاتِ السَّمٰوٰتِ ... اِلَى ... بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

(ربط) گزشتہ سورت میں خاص طور پر حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام کی بعثت کا اہم مقصد یہ بیان کیا گیا تھا

آنے والے پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کی بشارت سنانا تھا اور نبی اسرائیل کو

اس بات پر مامور کرنا تھا کہ جب وہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں تو ان پر وہ لوگ ایمان لائیں تو اب اس

سورت میں اللہ کی پاکی اور حمد و ثناء بیان کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ ارشاد ہے

پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے کہ وہی ہے بادشاہ پاک ذات

نہ بردست حکمتوں والا جس کی پاکی و عظمت اور بادشاہت پر کائنات کی ہر چیز گواہ ہے وہی پروردگار

سے جس نے بھیجے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں کا جو سنانا ہے ان کو اسے پروردگار کی آیتیں



اور ان کو پاک کرتا ہے برعیب دگدگی سے اور کھاتا ہے ان کو کتاب و حکمت اگرچہ یہ اہل عرب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

وہ قوم جس میں نہ کوئی علم و سز تھا اور نہ ان میں کوئی آسمانی کتاب تھی معمولی لکھنا پڑھنا بھی بیعت ہی کہ لوگ جانتے تھے جن کی وحشت و جہالت تاریخ میں ضرب المثل تھی۔ بت پرستی عام تھی۔ مخلوق کا اپنے خالق سے کوئی رشتہ اور رابطہ باقی نہ رہا تھا۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت کا ایسی قوم میں اپنا ایک رسول مبعوث فرما دینا جو ان کو اللہ کی آیات سُنائے۔ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ایسی دانائی کی باتیں بتائے۔ جن پر دنیا کے حکماء حیران ہوں وہ علوم و معارف سکھائے کہ دنیا کے ارباب حکمت اور اصحاب معرفت کی اس کے سامنے کوئی حقیقت باقی نہ رہے بلاشبہ پروردگار عالم کا بڑا ہی عظیم انعام ہے اور اس پروردگار نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ کچھ اور دوسرے لوگوں کے واسطے بھی انہی میں سے جو ابھی تک ان کے ساتھ ملے نہیں کہ وہ بھی اہل عرب کی طرح اُنہی زبان پڑھیں، بن اس لحاظ سے کہ وہ بھی ان کی طرح مبداء و معاد سے بے خبر ہیں نہ ان کو آسمانی شریعت کا کوئی علم ہے۔ یہ فارس و روم چین اور ہندوستان کی قومیں جو بعد میں امتیہ کے دین اور اسلامی برادری میں شامل ہو کر انہی میں سے ہو گئے اور اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا اہل عرب کے ساتھ یہ ملے نہیں تھے۔ اور نہ فتوحات اسلام کا دائرہ ان تک وسیع ہوا تھا۔

حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے *وِ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ* کی تفسیر دریافت کی گئی تو آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شانہ پر ہاتھ مار کر فرمایا۔ اگر علم دین ثریا پر بھی پہنچے تو اس کی قوم فارس کا ایک مرد وہاں سے بھی دین لے آئے گا شیخ جلال الدین سیوطی اور امثہ حدیث و تفسیر نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اس پیشین گوئی کے اعلیٰ اور اکمل مصداق حضرت امام عظیم ابوحنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔

امام بخاری نے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت صحیح بخاری میں تخریج کی ہے فرمایا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پر سورہہ مائدہ نازل ہوئی: *اٰپ نے جب یہ سورت تلاوت کی اور اس میں یہ پڑھا *وِ اٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَعَنَّا كَيْفَ نَحْنُوْا جِهَنَّمَ* تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا حتیٰ کہ جب تین مرتبہ سوال کیا جا چکا اور اس وقت ہمارے درمیان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو آپ نے اپنا دست مبارک سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پر رکھا اور پھر یہ فرمایا۔ لو کان الایمان عند الثریا لسنالما رجال اور *جل من هؤلوا* کہ اگر ایمان ثریا تک بھی پہنچ جائے تو ان کی نسل کے لوگ یا یہ فرمایا ان کی نسل کا کوئی شخص ایمان لا کر وہاں سے بھی لے آئے گا۔ بے شک یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہے عطا کر دے اور اللہ بڑا ہی عظیم نفضل والا ہے۔ اسی نے اپنے رسول آخر الزمان کو یہ بڑائی عطا فرمائی کہ*

خاتم الانبیاء والمرسلین بنایا اور ان کو ایسی حکمت سے نوازا کہ دنیا کے حکماء ان امر اور حکم کے سامنے حیران ہیں اور علم و ہدایت کا وہ نور روشن ہو کہ دنیا سے شرک و گمراہی کی تاریکی دور کر دی اس لیے دنیا کو چاہیے کہ اس انعام و کرام کو پہنچانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم و ہدایات سے مستفید ہو علوم و ہدایات سے مستفیض

ہونا انسانی کمال ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی قوم کے پاس سامان اور ذخیرہ علم و ہدایت تو موجود ہو لیکن وہ اس سے استفادہ نہ کرے جیسے یہود تو ان کو بس اس طرح سمجھ لینا چاہیے۔ مثال ان لوگوں کی جن پر تورات لادی گئی لیکن پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا تو ایک گدھے کی طرح ہے جو بیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لادے ہوئے چل رہا ہو۔ جس کو ظاہر ہے کہ کوئی احساس نہیں کہ اس پر بوجھ کس چیز کا ہے یہ علوم و حکمت کے گرانقدر ذخائر ہیں اور اسفار ہیں یا اینٹ پتھر ہیں۔ بالکل یہود نے یہی صورت کی ان پر تورات کا بوجھ رکھا گیا۔ اس کے ذمے دار بنائے گئے مگر انہوں نے ان علوم و ہدایات کی کوئی پرواہ نہ کی نہ ان کو دل میں کوئی جگہ دی نہ اس کو پڑھنا اس پر عمل کیا تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ان علوم و ہدایات کے ذخیروں اور آسمانی صحیفوں کا ان پر بوجھ یقیناً ایسا ہی ہے کہ یہ کتابوں کا انبار کسی گدھے پر لدا ہوا ہے۔

نہ محقق بود نہ دانش مند

چار پائے بر دو کتابے چند

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ اپنے نوآمد میں فرماتے ہیں۔

» ایک گدھے پر سچا س کتابیں علم و حکمت کی لاد در۔ اس کو بوجھ میں دبنے کے سوا کوئی فائدہ نہیں وہ تو صرف ہری گھاس کی تلاش میں ہے اس بات سے کچھ سروکار نہیں رکھا کہ بیٹھ پر نعل و جواہر لادے ہوئے ہیں یا خرت دستگیر سے۔ اگر محض اسی پر فخر کرنے لگے کہ دیکھو میری بیٹھ پر کیسی کیسی عمدہ اور قیمتی کتابیں لدی ہوئی ہیں لہذا میں بہت بڑا عالم اور معزز ہوں تو اور زیادہ گدھا پن ہے «

اس مثال سے یہود کی اخلاقی اور عملی بیہودگی ظاہر فرمانے کے بعد فرمایا۔

بہت ہی بُری ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور جو بشارتیں و نشانیاں نبی آخرازلان صلی اللہ علیہ وسلم کی کتب سماویہ میں تھیں ان کا انکار کیا اور تحریفات سے ان تمام حقائق کو مٹا کیا جو اللہ نے ان کو عطا کیے تھے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ظلم ہوگا اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے ایسے ناانصاف عالم لوگوں کو اس لیے اب یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ ایسے بدبخت راہ حق پر آسکیں گے۔ شقاوت و بدبختی کی یہ انتہا ہے کہ یہود کی ایک طرف اللہ اور اس کے احکام کے خلاف کلمہ کھلا بنادت کر رہے ہیں۔ انکار آیات۔ تحریف کتاب۔ اپنے رسول کی نافرمانی ان کا طرز زندگی بنا ہوا ہو۔ اسی کے ساتھ دوسری طرف دعویٰ ہو خدا کی محبت کا اور اس کے محبوب بندے سے ہونے کا تو اس پر حق نعالے اپنے پیغمبر کو خطاب فرما رہے ہیں کہہ دیجئے اے پیغمبر۔ اے لوگو! جو یہودی ہو گئے ہو اگر تم کو دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محبوب اور اس کے دوست ہو دو سکر تمام لوگوں کو چھوڑ کر تو تمنا کرو تم موت کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اس لیے کہ اللہ کی ملاقات کا ذریعہ تو بس یہی ہے کہ انسان دنیا سے گزر جائے تو ایسی صورت میں کہ کسی کو خدا سے محبت ہو وہ یقیناً خدا سے ملاقات کا مستحق ہوگا اور جب اس شوق کی تکمیل حیات دنیوی کا رشتہ منقطع ہونے کی صورت میں ہے تو لامحالہ یہ بھی محبوب ہوگی لیکن یہ لوگ قطعاً

جھوٹے ہیں اور ہرگز کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کی وجہ سے جو پہلے کر چکے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو اور وہ ظالم اپنے ظلم کی سزا سے کبھی نہیں بچ سکتے۔

بلاشبہ جن لوگوں کو اللہ سے محبت تھی انہوں نے موت کی تمنا کر کے دکھائی بلکہ موت کی طرف بڑھے اور جس طرح کسی مرغوب و محبوب شے کی طرف انسان دوڑتا ہو وہ دوڑے کسی کی زبان سے غیر اختیاری طور پر یہ الفاظ جاری ہوتے و اھا انی لاجد ریح المحنات دون اُخذ۔ سبحان اللہ مجھے تو اصرہ بہار کے اس طرف جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔

یہ ہستیاں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و رفقاء تھے کسی کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے عذائقی الاحبۃ محمدًا وحبیبہ۔ یا حبیبنا الجنة و اقتربنا بہا بہ طیبۃ و بار دسترا بہا۔ ان اوسیا رائد کے یہ کلمات کسی دنیوی سختی اور تکلیف سے گھبرا کر نہیں بلکہ ناصح اللہ کی ملاقات اور جنت کے اشتیاق میں تھے اور اسی کے لیے موت کی تمنا تھی۔ ان کی زندگی اور زندگی کے جملہ احوال اس بات کے گواہ تھے کہ موت سے زیادہ ان کو دنیا کی کوئی چیز لذیذ اور مرغوب نہیں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انی نوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم اُحیی ثم قتل اسی جذبہ کا پیکر تھا اس کے بالمقابل ان جھوٹے مدعیوں کے افعال و حرکات پر نظر ڈالنے سے ہر ایک شخص یہ سمجھنے پر مجبور ہو گا کہ ان سے زیادہ کوئی شخص دنیا کی زندگی کا حریص اور موت سے ڈرنے والا نہیں ہے مگر زندگی کی حرص اور موت کے ڈر سے کیا انسان موت سے بچ سکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں تو کہہ دیجئے لے یہود یو ابے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو وہ ضرور تم سے ملاقات کرے گی اور پھر لوٹائے جاؤ گے ایسے رب کی طرف جو ہر چھپے ہوئے اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھر وہ تم کو خوب جتلا دے گا وہ کام جو تم کیا کرتے تھے اور اس کا امکان نہ رہے گا تم اس سے انکار یا اس میں محنت بازی کر سکو۔

ائمہ نصیرین نے بیان فرمایا ہے کہ قَسَمْتُ بِالْمَوْتِ اِنْ كُنْتُ صَادِقِيْنَ اِنْ يَهُودِيُوں كَے كَاذِبِ بونے کی واضح دلیل ہے کیونکہ اس اعلان کے بعد اگر ان میں ذرہ برابر بھی صداقت ہوتی تو ضرور وہ موت کی تمنا کر کے دکھاتے لیکن ایسا نہ ہوا۔

امام احمد بن حنبل نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ابن عباس نے بیان کرتے تھے کہ اکی زندگی کے زمانہ میں ابو جہل نے ایک دفعہ کہا تھا اگر اب میں محمد کو دیکھوں کروہ کعبہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو (العباد باللہ) میں ان کی گردن روند ڈالوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بد بخت ایسا کرتا تو خدا کی قسم (خدا کی قسم) اس کو اچک بیٹے اور ٹکڑے کر ڈالتے۔ اور اگر یہود اس اعلان خداوندی کو سنکر موت کی تمنا کر بیٹھتے تو اسی وقت سب کے سب لقمہ اجل بن جاتے اور جہنم میں ان کے جو ٹھکانے ہیں وہ دیکھ لیتے اور فرمایا اگر وہ نصاریٰ جن کو مہابہ کی دعوت دی گئی تھی اگر مہابہ کے لیے نکل آتے تو ان کے اہل و عیال اور مال و متاع کا نام و نشان بھی باقی نہ رہتا۔ (رواہ البخاری و الترمذی و النسائی۔ بحوالہ تفسیر ابن کثیر ۴/۳۷)

حضرت آدم علیہ السلام کے جنت نکالے جانے کی حکمت

حضرت حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے جانے کی حکمت بیان کرتے ہوئے اپنے ایک وعظ میں فرماتے ہیں۔ "جمعہ کی فضیلت کے بارہ میں حدیث شریف میں آیا ہے فیہا ولد آدم و فیہا ادخل الجنة و فیہا هبط الی الارض۔ اور اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ مہبوط الی الارض میں کون سی نعمت ہے جو اس کو دلائل فضیلت میں ذکر فرمایا یہ تو بظاہر نہایت درجہ تکلیف ہے تو اس شبہ کا جواب عارفین سے پوچھیے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ بھائی اگر آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلنے تو ان کی اولاد میں سے کوئی نکلنا کیونکہ جو مانعت ان کو ہوئی تھی وہی مانعت ان کی اولاد کو بھی ہوتی اور یہ ظاہر ہے کہ اس مانعت کے خلاف بہت لوگ کرتے نتیجہ یہ ہوتا کہ نکلے جاتے اور اخراج ایسی حالت میں ہوتا کہ جنت خود آباد ہوتی وہاں اس کے ماں باپ۔ بھائی بیٹے بیوی بھی ہوتے ان سب سے علیحدہ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا جاتا تو جنت میں ایک کہرام مچ جاتا تو وہ جنت مثل دوزخ ہو جاتی۔ اس لیے اللہ میاں نے حضرت آدم کو وہاں سے زمین پر اتارا تاکہ یہ اولاد زمین پر پیدا ہو۔ یہ مصلحت تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے حق میں ہے کہ جنت میں تکلیف ہونے سے بچا گیا۔ باقی حضرت آدم علیہ السلام کے حق میں جو حکمت تھی اس کو حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عارنوں کے لیے بہت بڑی نعمت معرفت ہے اور معرفت کی دو قسمیں ہیں ایک علمی اور ایک عینی۔ معرفت علمی تو یہ ہے کہ صفات کمال اور اس کے آثار کا علم ہو جائے اور معرفت عینی یہ ہے کہ اس نعمت کے اثر کا مشاہدہ ہو جائے تو اس وقت آدم کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن معرفت عینی صرف بعض صفات کی حاصل تھی جیسے کہ منعم کہ اس صفت کا اس وقت مشاہدہ ہو رہا تھا لیکن بعض صفات کا مشاہدہ اس وقت نہ تھا مثلاً "خَوَّاب" کہ اس صفت کی معرفت علمی تو حاصل تھی باقی معرفت عینی حاصل نہ تھی۔ اور معرفت عینی افضل ہے معرفت علمی سے تو جنت سے علیحدہ کر کے خدا تعالیٰ کو حضرت آدم کی تکمیل عرفان مقصود تھی۔ پس یہ اخراج حقیقت میں عقوبت نہ تھی بلکہ تکمیل تھی۔ اور بعض قرآن سے آدم علیہ السلام کو اس کا کچھ پتہ بھی چل گیا تھا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی ناک میں روح داخل ہوئی تو آپ کو چھینک آئی۔ ارشاد ہوا کہ ابو الحمد اللہ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ ابو الحمد اللہ تو بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام رونے اور کہنا دماغے رحمت سے معلوم ہوتا ہے کوئی لغزش ضرور ہوگی اور توبہ کے بعد رحمت ہوگی اور اس کمال معرفت کی صحت سے حضور کو جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا اتنا بخار چڑھانجا جتنا دو آدمیوں کو چڑھتا ہے چونکہ جس اہم کا یہ مظہر ہے اس کی معرفت حضرت کو علم و احکام عطا فرمایا تھا۔ (الذکر ص ۲۳)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ

سے ایمان والو! جب اذان ہو نماز کی

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا

دن جمعہ کے، تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو

الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹﴾ فَإِذَا

بیچنا۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔ پھر جب

قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

تمام ہو چکے نماز، تو پھیل پڑو زمین میں اور ڈھونڈو

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت سا، شاید

تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا بِالنَّفْسِ

تمہارا بھلا ہو۔ اور جب دیکھیں سودا بٹایا کچھ تماشا، کھنڈ جاویں

إِلَيْهَا وَتَرَكُوا قَلِيلًا خَيْرٌ مِّنْ

اس کی طرف اور سمجھ کو چھوڑ جاویں کھڑا، تو کہہ جو اللہ کے پاس ہے بہتر

اللَّهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱﴾

تماشے سے اور سودے سے۔ اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

ترغیب اہل ایمان برا اقامہ جمعہ تاکید سعی الی ذکر اللہ ترک بیع و شراء بر اذان

(رابط) ماقبل آیات میں یہود پر تین طرح زبرد تو بیخ کی گئی تھی۔ اول جب انہوں نے اپنے علم و فضل پر فخر کیا عرب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم جاہل کہا تو اس کے بالمقابل یہ ثابت کیا گیا کہ خود یہ لوگ گدھے ہیں اور جس علم و فضل پر یہ اتر رہے ہیں اس کا بوجھ ان پر صرف بالکل ایسا ہی ہے جیسے گدھے برکتوں کا انبار لدا ہوا ہو۔ جب انہوں نے یہ فخر کیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اس وجہ سے ہم خدا تعلقے سے زیادہ قریب ہیں بلکہ اس کے دوست اور محبوب ہیں اور یہ کہ دار آخرت کی ساری نعمتیں بس ہمارے واسطے مخصوص ہیں۔ تو ان کے اس لغو اور خلاف حقیقت دعوے کا رد اس طرح کیا گیا کہ اچھا اگر تم اللہ کے دوست ہو اور آخرت کی نعمتیں بس تمہارے ہی واسطے مخصوص ہیں تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر سچے ہو گے تو بلا جھجک موت کی تمنا کر دو گے۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ تیسری بات یہ تھی کہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے دین میں یوم السبت (ہفتہ) کا دن ہے۔ جس کی تعظیم و حرمت ہم پر واجب ہے اور اس میں بڑی برکات ہیں مسلمانوں کے پاس یہ نعمت نہیں تو اس تفاخر کے مقابلہ میں یوم جمعہ کی فضیلت اور اس کی عظمت و اہمیت کے لیے یہ آیات و احکام نازل فرمائے گئے اور یہ بتایا کہ جمعہ کا دن اہل کتاب کے سنیچر اور اتوار کے دن سے زیادہ عظمت و برکت والا ہے تو ارشاد فرمایا: لے ایمان والو! جب اذان دی جائے نماز کے لیے جمعہ کے روز تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت یہی بہتر ہے تمہارے واسطے اگر تم اس بات کو سمجھو! کیونکہ دنیوی منافع کی آخرت کے اجر و ثواب کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کے بعد عملاً اس امر کی ضرورت ہے کہ ادنیٰ کے مقابلہ میں اعلیٰ کو اختیار کرے۔ پھر جب نماز پوری کر لی جائے تو پھیل پڑو زمین میں اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہوئے اور اس کے واسطے چلو پھرو۔ اور تلاش کرو اللہ کا فضل اور اس کا رزق اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے امید ہے تم کامیاب ہو گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے برعکس اگر دنیا کی محبت اور کاروبار کی منفعت کی امید میں تم اللہ کے ذکر اور جمعہ کے خطبہ و حاضری کو چھوڑ دو گے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں دنیا و آخرت کا خسار ہے۔ ابتداءً جن افراد سے اس طرح کی چوک اور غلطی ہوئی کہ۔ اور جب انہوں نے دیکھا تجارت کو کہ ایک تجارتی قافلہ غلہ لے کر آیا ہے یا کچھ تماشا تو اس کی طرف دوڑ پڑے اور آپ کو چھوڑ دیا کھڑا ہوا خطبہ کی حالت میں اس وقت میں غلہ کی کئی اور یہ حکم معلوم نہ تھا یا نازل نہیں ہوا تھا کہ خطبہ سننا لازم ہے لوگ نقارہ کی آواز سنکر دوڑ پڑے اور آپ کو خطبہ کی حالت میں کھڑا چھوڑ گئے۔ تو یہ ایک قسم کی چوک اور غلطی تھی تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور تجارت سے اور اللہ تو بہت ہی بہتر ہے روزی دینے والا۔ جب رزق اسی کے ہاتھ میں ہے تو تلاش رزق کے ظاہری اسباب میں اس طرح مشغول ہو جانا کہ خدا سے اور اس کی یاد سے اور اس کی عبادت و بندگی سے انسان غافل ہو جائے کوئی اچھی بات نہیں ہے۔

روایات میں ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ اسی وقت باہر

شہر میں غلو کی کمی تھی اور خطبہ کے احکام بھی معلوم نہ تھے یہ خیال کیا کہ جیسے کسی دغظ و نصیحت کے دوران کسی ضرورت سے اٹھ کر پلے جانے کی گنجائش ہے اسی عرح اس وقت بھی ہم کو اس کی گنجائش ہوگی بعض اقوال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابتدا میں خطبہ بعد نماز کے ہوتا تھا جیسے کہ عیدین کا خطبہ تو اکثر لوگ مسجد سے باہر نکل گئے اور صرف چند لوگ رہ گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دیتے رہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بارہ آدمی رہ گئے جن میں خلفائے راشدین تھے اس پر آیت نازل ہوئی جس میں اس امر کی طرف اشارہ فرمائی گئی کہ انسان اسبابِ رزق میں یا کھیل تماشا میں ایسا منہک نہ ہو کہ خدا کو بھلا دے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اصل رزق کے خزانے تو اللہ کے قبضے میں ہیں اسی کی رضامندی سے سب کچھ ملتا ہے اس لیے قحط یا عارضی مشقت کے خیال سے ایسی غفلت اور غلطی نہ اختیار کرنی چاہیے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بالفرض اگر اس وقت دکانیں بند کرنے اور تجارتی لین دین روک دینے سے کچھ نقصان ہو رہا ہے تو حقیقت یہ ہے کہ اس کے بالمقابل اللہ کے یہاں کی جو نعمتیں حاصل ہوئی وہ اس عارضی اور قلیل و حقیر منفعت سے بہت زیادہ اور بڑھ کر ہے۔

اسی چیز کے باعث اللہ رب العزت نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارتی کاروبار اللہ کی یاد سے کسی بھی مرحلہ پر غافل نہیں بناتے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔

روایات میں ہے کہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بازار میں گشت لگا رہے تھے کہ مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ جو ہی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی دیکھا کہ دکاندار اور تاجر اپنی دکانوں اور تجارتی دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جلدی جلدی جانے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک نظر سے دیکھا اور فرمایا سچ ہے اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارہ میں یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔

تخلیق کا تئیسواں یوم جمعہ کی عظمت و خصوصیت اور امت محمدیہ کی فضیلت

یوم جمعہ قدیم تاریخ قبل از اسلام میں یوم العرہ کہلاتا تھا۔ اسلام نے اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا۔ یہ لفظ جمع سے مشتق ہے اس دن میں متعدد وجوہ سے جمعیت کا مفہوم پایا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی نقل کیا گیا فرمایا کہ ان فیہا جمعت طینتہ۔ بیکن آدم۔ یعنی اس روز تمہارے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی روئے زمین کے مختلف طبقوں کی جمع کی گئی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ کائنات کی تخلیق جو چھ روز میں ہوئی اسی پر مکمل ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سلمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا یا سلمان ما یومہ الجمعۃ کر لے سلمان یوم جمعہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ ما در رسولہ اعلم آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں اللہ نے تمہارے ماں باپ (آدم و حوا) کو جمع فرمایا۔ (حکماؤں کے زہنوں پر اتار دیا گیا تھا)

ایک حدیث میں ہے کہ فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنة و فیہ اخرج منها و فیہ تقوم الساعة۔ و فیہ ساعتاً لا یوافقہا عبد مؤمن یسال اللہ خیراً الا اعطاه ایتامہ کہ اسی دن ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تاکہ خلافت اللہ فی الارض کا عظیم منصب عطا ہو اور اس ادادہ البیہ کی تکمیل ہو جس کا اظہار ملائکہ کے سامنے فرمایا گیا تھا۔ اِنْفِ جَاعِلٌ رِفا الْاَرْضِ خَلِیْفَةً اور اسی منصب کی عظمت و منزلت کے ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ کو آدم کے لیے مجدہ کا حکم دیا گیا الغرض اس طرح جنت سے زمین پر اتارنا بھی ایک بڑی عظمت و منقبت کی تکمیل تھی جو جمعہ کے روز ہوئی اور فرمایا اسی روز قیامت قائم ہوگی اور اس میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں مؤمن بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگے اللہ اسکو ضرور عطا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| نحن الآخرون السابقون | کہ ہم لوگ دنیا میں آنے والوں میں آخر ہیں |
| یوم القيمة یبدانہم | لیکن قیامت کے روز ہم ہی سابقین ہیں۔ بس |
| ارتوا الکتب من | فرق ہی ہے کہ انکو کتاب ہم سے پہلے دی گئی |
| قبلنا ثم ہذا یومہم | تو اس سبقت کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا وہ قیامت |
| الذی فرض اللہ علیہم | کے روز بھی ہم سے سائق ہوں قیامت میں سبقت |
| فاختلفوا فیہ فہدانا | حاصل کرنے والے ہم ہی ہوں گے پھر آپ نے فرمایا |
| اللہ لہ الناس | یہ جمعہ کا دن وہ تھا کہ اللہ نے ان پر بھی فرض کیا تھا |
| لنا فیہ تبع الیہود | (کہ اس کو خاص عظمت اور عبادت کے لیے مخصوص |
| غدا والنصارى | کرو) لیکن وہ اس بارہ میں مختلف رہے (اور |
| بعد غد۔ عہ | بھٹکتے رہے) تو اب اور لوگ (اہل کتاب میں |

سے) ہمارے پیچھے ہیں یہودیوں کا دن کل ہے یعنی سنہجر اور نصاریٰ کا دن آئندہ کل کے بعد یعنی اتوار کہ ان دونوں کو یہود و نصاریٰ نے تعظیم اور خاص عبادت کے لیے مقرر کیا۔

یہود و نصاریٰ کے اختلاف کی مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے واسطے بھی یہ دن مقرر کیا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے اختلاف کرتے ہوئے کسی نے یوم السبت متعین کیا کسی نے یوم الاحد یعنی اتوار۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے اس کے حکم کے مطابق جمعہ مقرر کیا۔ یا بقول بعض شارحین مراد یہ ہے کہ ہفتہ کے سات دنوں میں ایک دن خاص عبادت و تعظیم کے لیے اللہ نے اپنے علم میں رکھا تھا جب اہل کتاب کو حکم ہوا کہ ایک دن متعین کرو تو یہود و نصاریٰ بھٹکتے ہی رہے اور

عظمت و فضیلت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جمعہ کی نماز ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔

ادس بن ادس الشقی بیان کرتے ہیں میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے جس شخص نے جمعہ کے روز غسل خوب نفاقت و صفائی سے کیا اور صبح جلدی ہی سجد کے لیے روانہ ہوا اور اول وقت ہی پہنچ گیا اور پیدل چلا کسی سواری پر سوار ہو کر نہیں چلا اور امام کے قریب بیٹھا اور اس کا خطبہ توجہ سے سنا کوئی لغو کام نہیں کیا تو اس شخص کے لیے ہر قدم پر جو اس نے اٹھایا ہے ایک سال کے روزوں اور قیام اللیل کا اجر ہے۔ اسی طرح دیگر احادیث میں فضائل جمعہ متعدد وجوہ سے ذکر فرمائے گئے۔

(کتب احادیث کی مراجعت فرمائی جائے)

إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ كِتَابٌ فِيهِ تَفْسِيرٌ لِمَنْ نَزَلَ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْكُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ لَمْ يَلِغْ فِيهِمْ نِجَابٌ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا لِحُجَّتِهِمْ أَذَانٌ لِيَوْمِئِذٍ يُبْعَثُ رِجَالٌ أَتَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ غَابِرَاتٍ لِيَأْخُذْنَ مِنْهُمْ سُلُوكَهُمْ فِي يَوْمِئِذٍ الصَّادِقَاتِ لِيَأْخُذْنَ مِنْهُمْ سُلُوكَهُمْ فِي يَوْمِئِذٍ الصَّادِقَاتِ لِيَأْخُذْنَ مِنْهُمْ سُلُوكَهُمْ فِي يَوْمِئِذٍ الصَّادِقَاتِ

کہ مناسب بن یزید نے فرمایا جمعہ کے روز پہلی اذان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس وقت ہوتی تھی۔ جب امام خطبہ کے لیے منبر پر بیٹھا یہی دستور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زمانہ میں رہا جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تھی تو عثمان غنی نے مقام زوراد پر ایک اذان کا اضافہ فرمایا (جو خطبہ کی اذان سے پہلے ہوتی ہے) تمام فقہاء اس پر متفق ہیں کہ حرمت بیع کا جو حکم اذان جمعہ پر نازل ہوا تھا اب وہ اسی اذان پر ہوگا جو قبل از خطبہ ہوتی ہے اور اس کو حضرت عثمان نے اضافہ فرمایا۔ کیونکہ إِذَا نُودِيَ كِتَابٌ كَامُومٍ اور اطلاق چاہتا ہے کہ نفس بند جمعہ پر حرمت بیع کا حکم مرتب ہو حضرت صحابہ ابتداء میں خود ہی اس قدر جلد مسجد میں آجاتے تھے کہ اذان خطبہ ان کی موجودگی میں ہوتی۔ لیکن جب مسلمانوں کی کثرت ہو گئی اور تجارتی کاروبار کی وسعت ہو گئی تو اندیشہ تھا کہ اذان خطبہ سن کر لوگ گھروں سے نکلیں گے یا دکانیں بند کر دیں گے تو خطبہ فوت ہو جائے گا جس کا سنا ضروری ہے اس وجہ سے ایک اذان کا اضافہ کیا گیا تاکہ خطبہ شروع ہونے سے قبل لوگ مسجد میں پہنچ جائیں اور قَاتِعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فِي لَفْظِ إِلَى (جو غایت کے معنی پر دلالت کرتا ہے) خود اس مفہوم کی تفسیر کر رہا ہے کہ سعی اور جمعہ کی تیاری ذکر اللہ تک پوری ہونی چاہیے اور وہ ظاہر ہے اس صورت میں ممکن ہے کہ خطبہ سے قبل ایک اذان کے ذریعے لوگوں کو بلایا جائے۔ گویا حضرت عثمان غنی کا اس اذان کا اضافہ کرنا قرآن کریم کے الفاظ سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ خلفائے راشدین میں سے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا حکم اور سنت شریعت کا قانون ہے علاوہ ان میں جملہ صحابہ نے اس عمل کو درست قرار دیا تو صحابہ کا اجماع بھی قانون شریعت ہے۔ نص قرآنی سے جس اذان جمعہ پر بیع دشراء ترک کرنے

عہ ائمہ محدثین نے سنن میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام ترمذی نے اس کو حدیث حسن

فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲۔

کا حکم ہے یہی اذان ہوگی جو شروع میں اضافہ کی گئی۔ اس بناء پر تمام ائمہ اور فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ پہلی اذان جمعہ کے بعد ہر قسم کا کاروبار بیع و شراء حرام ہے اور جس اہمیت و تاکید اور نصیحت کے انداز میں قرآن کریم نے دکانیں بند کر دینے کو اور خرید و فروخت روک دینے کو فرمایا ہے اس کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں کہ اذان جمعہ کے بعد کسب معاش میں مشغولی کو حلال رزق شمار کیا جائے اس وجہ سے اس کی حرمت پر امت کا اجماع ہے۔

حافظ ابن کثیر دمشقی نے عراق بن مالک ج سے نقل کیا ہے کہ جب وہ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو کر لوٹتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہوتے اور یہ کہتے اے اللہ میں نے تیری تداء پر حاضری دے دی اور تیرا فرض ادا کر چکا اور اب میں رزق کی تلاش کے لیے زمین میں چلنا پھرنا چاہتا ہوں جیسے کہ تو نے حکم دیا پس اپنے فضل سے رزق عطا فرما۔ تو خیر الرازقین ہے۔

بعض سلف سے منقول ہے کہ جو شخص جمعہ کے بعد خرید و فروخت کرے گا (یعنی جبکہ جمعہ کے لیے اس نے اپنا کاروبار بند کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ستر گنا نفع عطا فرمائے گا۔
تم بحمد اللہ تفسیر سورة الجمعة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ

یہ سورت بھی دیگر مدنی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی احکام اور شریعت کے اہم فیصلوں پر مشتمل ہے۔ سورت کے مضامین نفاق کی گندگی اور منافقین کی بدترین خصلتوں کے بیان پر مشتمل ہیں ابتداء میں منافقین کی اخلاقی برائیاں ذکر فرمائی گئیں اور یہ کہ دھوکہ فریب اور جھوٹ ان کی زندگی کا حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے ذیل کردار کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی ان کے بیہودہ اقوال اور لغو عقائد و خیالات کا بھی ذکر کیا گیا اور یہ کہ آخرت میں ان منافقوں کے واسطے نہایت شدید عذاب اور دنیا میں ذلت و رسوائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

سورت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت کی گئی کہ دنیا کی زیب و زینت میں مشغول ہو کر خدا کی یاد اور اس کی اطاعت سے غافل نہ بنیں اگر ایسا ہو تو یہ بیعت بڑی بد نصیبی ہوگی اس پر سورت ختم فرمائی گئی۔

آیاتھا ۱۱ = سورۃ المنافقون مدنیہ = ۱۰۴ = فیہا رکوعنا

سورۃ منافقون مدنی ہے، اور اس میں گیارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا جَاءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلٌ

جب آویں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں، تو رسول ہے

اللّٰهُ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهُ وَاللّٰهُ یَشْهَدُ اِنَّ

اللہ کا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے۔ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ

الْمُنٰفِقِیْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۝۱ اِخْذُوْا اٰیْمٰنَهُمْ جُنَّةً

یہ منافق جھوٹے ہیں - رکھی ہیں اپنی قسمیں ڈھال بنا کر،

فَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اِنَّهُمْ سَآءٌ مَا كَانُوْا یَعْمَلُوْنَ ۝۲

پھر روک کے ہیں اللہ کی راہ سے - یہ لوگ بڑے کام ہیں جو کر رہے ہیں -

ذٰلِكَ بِاَنْهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطَبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَمَنْ

یہ اس پر، کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے، پھر مہر ہو گئی ان کے دل پر، اب

لَا یَفْقَهُوْنَ ۝۳ وَاِذَا رَاٰیْتُمْ تَعْجِبٰکَ اَجْسَامُهُمْ وَ

وہ نہیں بوجھتے - اور جب تو دیکھے ان کو، خوش گیس تجھ کو ان کے ڈیل اور

اِنْ یَقُوْلُوْا تَسْمَعُ لِقَوْلِیْمٌ ۝۴ کَانْتُمْ خَشَبٌ مُّسْنَدًا ۝۵

اگر بات کہیں، سنے تو ان کی بات - کیسے ہیں جیسے کڑھی لکادی دیوار سے۔

یَحْسَبُوْنَ کُلَّ صٰیْحَةٍ عَلَیْهِمْ ۝۶ هُمُ الْعَدُوْۤا فَاَحْذَرُهُمْ ۝۷

تو کہتے ہیں ہر صیحت پر، ان کو، دشمن، ان سے بچتا رہ -

قَاتِلَهُمُ اللَّهُ اِذْ يُؤَفِّكُونَ ۝۴ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا

گردن مار سے اٹکی اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب کہیں ان کو آؤ :

يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارِعًا وَسَهْمًا وَرَأَيْتَهُمْ

معاف کر دے تم کو رسول اللہ کا ، سٹکاتے ہیں اپنے سر۔ اور تو دیکھو کہ

يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝۵ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

وہ روکتے ہیں اور غرور کرتے ہیں ۔ برابر ہے ان پر۔

اَسْتَغْفِرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ

تو معافی چاہے ان کی یا نہ چاہے ۔ ہرگز نہ معاف کرے گا ان کو

لَهُمْ ط اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝۶ هُمُ الَّذِيْنَ

اللہ مقرر اللہ راہ نہیں دیتا بے حکم لوگوں کو ۔ وہی ہیں جو

يَقُولُوْنَ لَا تَنْفِقُوْا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ حَتّٰی

کہتے ہیں مت خرچ کرو ان پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے۔ جب تک کہ

يَنْفِقُوْا ۝۷ وَاللّٰهُ خَزَاۤءِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ

کھنڈ جادیل اور اللہ کے ہیں خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ۔ اور لیکن

الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۸ يَقُولُوْنَ لِيْن رَّجَعْنَا اِلٰی

منافق نہیں بوجھتے ۔ کہتے ہیں ۔ ابستہ اگر ہم پھر گئے

الْمَدِيْنَةِ لِيُخْرِجَنَّ اِلَّا عَزَمْنَا الْاَذْلَ ۝۹ وَاللّٰهُ الْعَزِيْزُ

مدینہ کو ، تو نکال دے گا جس کا زور ہے بے قدر لوگوں کو ۔ اور زور اللہ کا ہے ،

وَلِرَسُوْلِهِۦ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا

اور اس کے رسول کا ، اور ایمان والوں کا ۔ لیکن منافق نہیں

يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾

سمجھتے

مذمت نفاق و منافقین و تحقیق بیہود و خصال منافقین

قال الله تعالى: إِذْ آجَأْكَكَ الْنٰفِقُونَ الى وَ لَكِنَّ الْمُنٰفِقِينَ لَا يَخْلَعُونَ
(ربطاً) سورۃ الصف اور سورۃ الجمعہ میں اسلام کی عظمت و غلبہ اور اہل ایمان کے خصوصی احوال کا بیان تھا اور یہ کر دین کے دشمن خواہ کتنی بھی سازشیں اسلام کے خلاف کریں لیکن اسلام کے غلبہ اور ظہور کو کافروں کی طاقتیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ اب اس سورت میں منافقین کی مذموم خصتیں ذکر کی جا رہی ہیں کہ وہ اسلام کے لبادہ میں کس طرح اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ مقصد بیان یہ ہے کہ ان کی یہ کوششیں اسلام کو انشاء اللہ کوئی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ ساتھ ہی منافقین کے ذلیل اور گندے کردار کو واضح کر دیا گیا تاکہ مسلمان سمجھ میں کہ نفاق کی علامات اور خصلتیں کیا ہوتی ہیں اور منافقین کا کردار کیسا ہوتا ہے اور اس طرح یہ حقیقت سمجھی جاسکے کہ ایسی خصلتوں کا حامل شخص منافق ہی ہو سکتا ہے خواہ اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو۔ فرمایا۔

لے ہمارے پیغمبر! جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں گواہی تو نام ہے اس اقرار و اعلان کا جو دل کے اعتقاد کے مطابق ہو اور منافق جب دل سے رسول خدا کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کا یہ کہنا کہ ہم گواہی دیتے ہیں جھوٹ اور دھوکہ ہوا۔ اس لیے ارشاد ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے سچے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ جب وہ واقع میں آپ کی رسالت کے قائل ہی نہیں تو پھر اس طرح کا اظہار محض دھوکہ اور فریب ہے اور اپنی اغراض حاصل کرنے کے لیے اس زبانی اقرار کو بہانہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ خود بھی ان کو اس امر کا احساس ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان منافقین نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ جب بھی کوئی گرفت ہو تو قسمیں کھا کر اپنی جان بچالیں۔ مسلمانوں کے صلہوں سے تحفظ حاصل ہو جائے کہ جس طرح دوسرے کافروں اور مشرکوں کے خلاف عزوات و جہاد کی صورت ہوتی ہے یہ ایسے عملوں سے بچے رہیں۔ اسی کے ساتھ پھر یہ بھی مذموم حرکت کہہ دیتے ہیں۔ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے یقیناً بہت ہی بُرا ہے یہ کام جو منافقین کر رہے ہیں کیونکہ ان کی جھوٹی قسموں کا ضرر صرف انہی تک محدود نہیں رہتا بلکہ دوسروں کو دھوکہ لگتا ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسرے حربے اور طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ کوئی اسلام کے قریب نہ آئے تو ظاہر ہے اس سے زیادہ بُرا کردار کیا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے پہلے ایمان کا دعویٰ کیا پھر کفر کیا تو مہر لگا

دی گئی ان کے دنوں پر اسس کا نتیجہ ہے کہ وہ اب کچھ نہیں سمجھتے جب دنوں پر مہر لگ گئی تو اندر کے کفار گندگی کے نکلنے اور دور ہونے کی توقع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی باہر سے اب کوئی بدایت و نصیحت ان کے دنوں تک سرایت کر سکتی ہے۔ دل مسخ ہیں کفر و نفاق جھوٹ اور دھوکہ کی گندگیاں اندر بھری ہیں مگر ظاہری حال انہوں نے ایسا بنا رکھا ہے کہ اسے مخاطب جب تو ان کو دیکھتے تو سمجھ کو اچھے لگیں گے ان کے اجسام ڈیل ڈول میں بہت اچھے لگتے ہوں گے، پکنے چہرے، اپنی وضع اور بیعت ایسی بنائیں گے کہ ظاہری نظر سے دیکھنے والا ان کو بڑا ہی شریف اور جھلانس سمجھے اور اگر وہ بات کریں تو ایسی لہجے دار مٹھی باتیں کریں کہ فصاحت و بلاغت اور انکی چرب لسانی کی بناء پر توہر کے ساتھ تو ان کی بات سننے لگے۔ اس ظاہری بناؤ سنوار۔ پکنی چہرے باتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہ لکڑیاں ہیں۔ جن کو سہارا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے جو دیکھنے میں موٹے تازے شہتیر نظر آتے ہیں لیکن وہ صرف دیکھنے ہی کی حد تک ہیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے اندر کچھ نہیں ایسے کھوکھلے ہیں کہ ایک لمحہ بھی وہ ہمارا نہ رہے تو گر پڑیں اسی طرح منافقین اپنے نفاق کی گندگیوں اور ایمان و صداقت کے جوہر سے عاری ہونے کے باعث محض ہمارے پر کھڑے ہیں۔ نہ ان کی کوئی بنیاد ہے اور نہ ان میں کوئی قوت ہے مضبوطی اور قوت تو ایمان و صداقت سے ہوتی ہے تو یہ اپنی کمزوری اور بزدلی میں ایسے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے اوپر ایک بلا سمجھتے ہیں بزدلی اور نامردی کا یہ عالم ہے کہ ذرا بھی کہیں شور و غلٹیں لیں تو دل و عقل جانیں اور سمجھنے لگیں کہ اب ہم پر کونی آفت آئی اور ہمہ وقت اس ڈر سے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ ہماری منافقانہ حرکتوں اور دغا بازیوں کا پردہ چاک نہ ہو اور ایسا تو نہیں ہماری ان حرکتوں کی پاداش میں ہم پر کوئی افتاد پڑ جائے خواہ وہ کتنے ہی کمزور ہوں بہر کیف اے مخاطب یا ہمارے پیغمبر ان سے بچتے رہو۔ دغا بازوں سے احتیاط متل و فطرت کا تقاضا ہے۔ خدا نہیں غارت کرے کہاں بھٹک رہے ہیں۔

منافقین اگر چہ اپنی زہودہ تسلیموں اور دنوں کے روگ سے ایمان کی دولت اور اس کی صلاحیت کھو بیٹھے تھے مگر پھر بھی بعض مرتبہ جب ان کی منافقانہ سازشیں کھل جائیں اور کذب خیانت کا پردہ فاش ہو جاتا تو کچھ لوگ ان کو سمجھانے کا ارادہ کرتے تو ایسی صورت میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آجاذہ راست پر اور اپنی گندگیوں سے تائب ہو کر رسول خدا کے پاس معافی کے لیے حاضر ہو جاؤ انسان جب تک دنیا میں زندہ ہے قبول حق اور توبہ کا دروازہ اس کے واسطے کھلا ہے تم اگر تائب ہو کر ایمان لاتے ہوئے

عہد شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانی اپنے فرائد میں یہاں ایک لطیف بات فرمائی۔ فرمایا: شک اور بیکار مکاری جو دیوار سے لگا کر کھڑی کر دی جائے محض بے جان اور لایعقل دیکھنے میں کتنی موٹی مگر ایک منٹ بھی بدون مہارے کے کھڑی نہیں رہ سکتی بال ضرورت پڑے تو جلانے کے کام آ سکتی ہے یہی حال ان لوگوں کا ہے ان کے موٹے فریب جسم اور تن و توکس سب ظاہر قبول ہیں اندر سے خالی بے جان محض جہنم کا ایندھن بننے کے لائق : ۱۲۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ گے تو استغفار کریں گے اور معافی طلب کریں گے تمہارے واسطے اللہ کے رسول تو اپنے سر ہلاتے ہیں تسخر اور استہزاء کی شکل اختیار کرتے ہوئے گردن ہلا کر اور سر مٹکا کر رہ جاتے ہیں۔ اور حال یہ کہ وہ غرور دیکر کرتے ہوئے ہیں اور انتہائی بیہودگی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ کے استغفار کی ضرورت نہیں تو ظاہر ہے کہ جو قوم خدا کی رحمت اور معافی سے اس قدر بے رحمی برتتے اس کے واسطے یہی ہے کہ لے ہمارے پیغمبر ان پر برابر ہے کہ آپ ان کے واسطے استغفار کریں یا نہ کریں۔ اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہے نافرمان لوگوں کو ایسے نافرمان جن کا حق کی طرف کوئی رخ اور ادنیٰ توجہ ہی نہ ہو بلکہ ہر مرحلہ پر وہ دین کا مذاق ہی اڑاتے ہوں۔

ان باطنی گندگیوں کے علاوہ اخلاقی معیار سے اس قدر ذلیل ہیں کہ دنیا میں اس طبقہ سے زیادہ بد اخلاق اور ذلیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ منافقین جو یہ کہتے ہیں مت خراج کرو ان لوگوں پر جو رسول اللہ کے قریب میں یہاں تک کہ وہ آپ سے دور اور متفرق ہو جائیں اور آپ کا تعلق اور مجلس میں آمد و رفت ترک کر دیں۔ اس وقت تک کسی کی کوئی امداد و اعانت نہ کرو۔ ایسے ذلیل اور بد اخلاق منافقوں سے کہہ دینا چاہیے اور اللہ ہی کے لیے ہیں خزانے زمیوں اور آسمانوں کے لیکن منافقین سمجھتے نہیں کہ جس مالک کے قبضہ میں ساری کائنات اور آسمان و زمین کے خزانے ہیں کیا وہ مالک اپنے رسول کے پاس رہنے والوں کی مدد نہیں کرے گا۔ اور کیا ان کو رزق نہیں دے گا؟ رزق تو اصل میں اللہ ہی دیتا ہے اگر کوئی صاحب مال و استطاعت شخص کسی کی دو چار مرتبہ کچھ مدد کرے گا تو یہ اس کی بے وقوفی ہوگی کہ وہ اپنے کو رازق سمجھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ میں فلاں کی مدد نہ کروں گا تو وہ بھوکا مر جائے گا تو یہ ہے وہ بد عقلی اور حماقت جس میں اس قسم کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں اسی پر بس نہیں بلکہ کہتے ہیں البتہ اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے اور وہاں پہنچ گئے تو ضرور بالفرد ہم میں سے عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال دے گا یہ بھی ایک احمقانہ تخیل اور آرزو ہے اور اس شعور و فہم سے بعید ہونے کی دلیل ہے کہ انہیں نہ عزت و ذلت کی حقیقت معلوم ہے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ عزت و ذلت کس کے قبضہ میں ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عزت و قوت تو اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے واسطے لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ اصل عزت کا مرچشمہ تو اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کے تعلق سے یہ عزت پہنچتی ہے اس کے رسول کے پاس اور چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام و پیغام اس کی مخلوق کو پہنچاتے ہیں تو پھر اس رسول پر ایمان لانے والوں اور اطاعت کرنے والوں کے لیے عزت ہے۔

امام بیہقی نے سنن کبریٰ میں حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت میں بیان کیا ہم لوگ ایک سفر جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ دوران سفر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ہاجرین میں سے ایک شخص نے ایک انصاری کے ساتھ (اور ایک اور سے) کہ جو اس کے حوٹ آئی تو انصاری نے کہا: انا انصاری ہوں اور انصاریوں کا اللہ سے

بے انصار آجاؤ میری مدد کرو) اس پر ہاجر نے آواز دی اللہ ہاجرین۔ اے ہاجر آؤ میری مدد کرو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آوازیں سنیں تو فرمایا۔ یہ کیسے جاہلیت کے نعرے ہیں ایک روایت میں ہے۔ مَا هَذَا الدَّعْوَى الْمُنْتَنَةِ كَرِهَ كَيْسَا بَدَلُو دَارَ نَعْرَهُ بِهٖ۔

عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگا اچھا یہ بات ہو گئی ہے یعنی اس پر خوش ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسی فضا باہمی منافرت اور عنصیت کی پیدا ہوئی اور کہنے لگا ہم مدینہ پہنچ گئے تو ہم میں سے عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال دے گا۔ اور اس سے ارادہ یہ تھا کہ مدینہ کے انصار ہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں گے عبداللہ بن ابی کو زیادہ ترغیب و غضب اس پر بھی تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل مدینہ کے لوگ اسی کو اپنا سردار بنانے والے تھے آپ کی تشریف آوری سے یہ سارا منصوبہ خاک میں مل گیا۔ جا بر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ میں انصار کی تعداد زیادہ تھی۔ لاکھ بعد میں ہاجرین کی تعداد زیادہ ہو گئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن ابی منافق کی بات سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا چھوڑو اس کو (اگر تم نے ایسا کیا تو لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں۔ اسی نے یہ بھی کہا لَا تَنْفِقُوا عَلٰی مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّٰهِ۔

زید بن ارقم نے سب سے پہلے جب یہ بات سُنکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو یہ منافق فوراً آکر قسمیں کھانے لگا کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ بیان کرتے ہیں تو جب ابن ابی قیس کھانے لگا اور میرے پاس کوئی ثبوت اس بات کا نہ تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات رد فرمائی اور فرمایا کہ بس ٹھیک ہے جب یہ شخص قسمیں کھا رہا ہے۔ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں مجھے اس پر اتہائی غم اور صدمہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک میں یہ تصور پیدا ہوا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے میرے چچا نے بھی مجھے ملامت کی تجھے کیا ضرورت تھی تو نے یہ بات جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی غم اور بے چینی میں تھا کہ حق تعالیٰ نے یہ سورہ منافقون نازل فرمائی۔ فوراً ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ایک آدمی بلائے کیلئے بھیجا۔ میں حاضر خدمت ہوا تو آپ نے مجھے یہ صورت پڑھ کر سنائی اور فرمایا اللہ نے تیری تصدیق کر دی۔

محمد بن اسمان امام المغازی نے اس سلسلہ میں یہ بھی روایت کیا ہے کہ اس منافق عبداللہ بن ابی کے بیٹے دو عبداللہ جو سچے مسلمان اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے نے اپنے باپ کی یہ بیہودہ بات سنی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ کی اس بیہودہ بات پر آپ ان کو قتل کر دینا چاہتے ہیں اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے میں اس

میں مجھ سے زیادہ اپنے باپ اچھا سلوک کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب میں آپ سے یہ اجازت چاہتا ہوں کہ اس کا سراپے ہاتھ سے قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں ایسا نہ ہو کر آپ اس کام کے واسطے میرے علاوہ کسی اور کو امور فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں! ہم تو اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔

عکرمہ اور ابن زبیر بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ اس منزل سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ کی طرف لوٹتے ہوئے تو عبد اللہ بن عبد اللہ صحابی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے دروازے (شہر پناہ) پر تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے جب ان کا باپ عبد اللہ بن ابی منافق آیا تو بااواز بلند فرمایا پیچھے ہٹ۔ خدا کی قسم تو ہی ذلیل ہے اور رسول اللہ عزیز ہیں جب تک وہ اجازت نہ دیں گے تو ہرگز مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔

اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عبد اللہ کو اپنے باپ کی اس یہودہ بات پر اس قدر غصہ تھا کہ جب قافلہ سفر کے لیے روانہ ہونے لگا تو تلوار نکال کر باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہا جب تک تو اقرار نہ کرے گا کہ میں ذلیل ہوں اور رسول اللہ عزت والے ہیں ہرگز تجھے زندہ نہ چھوڑوں گا اور ایک روایت میں ہے کہ اپنے منافق باپ کی گردن زمین پر رگڑنے لگے اور کہا اقرار کر کہ تو ذلیل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ

اے ایمان والو! نہ غافل کریں تم کو تمہارے مال

وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے۔ اور جو کوئی یہ کام کرے تو

فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَيْرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ

دہی لوگ ہیں نونے میں لائے۔ اور خرچ کرو کچھ ہمارا دیا۔

مِمَّنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ

اس سے پہلے کہ پہنچے کسی کو تم میں موت۔ تب کہے لے رب! کیوں

لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُّ

مِّنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ

نیک لوگوں میں ۔ اور ہرگز نہ ڈھیل دے گا اللہ کسی جی کو جب پہنچا

أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

اس کا وعدہ ۔ اور اللہ کو خبر ہے جو کرتے ہو ۔

تنبیہ و تحذیر اہل ایمان از غفلت ذکر اللہ و تاکید النفاق فی سبیل اللہ

قال اللہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(رابطہ) ابتدا سورت سے جملہ آیات من نفیقین کے کردار اور ان کی مذموم ترین خصلتوں کے بیان پر مشتمل تھیں۔ اب ان آیات میں ایسے اسباب غفلت سے مسلمانوں کو چوکنا فرمایا گیا جو انسان کو ایمان و تقویٰ کی حقیقت سے دور کر دیں اور غفلت ہی دراصل نفاق کا پیش خیمہ ہے نفاق کی اصل حقیقت جب یہ معلوم ہو گئی کہ دل میں ایمان نہ ہو اور زبان سے ایمان کا دعویٰ اور اعلان ہو تو مال و اولاد کے فتنوں میں بھی مبتلا ہونے سے ہی نوعیت قلب کی ہوجاتی ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے۔ جس میں ایمان کے مہلکات اور مضرات میں غفلت، نفاق اور امر علی المعاصی کو شمار فرمایا۔ اس لیے رشاد فرمایا جا رہا ہے۔

لئے ایمان والو! غافل نہ بناؤ تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے اور ہر شخص بھی تم میں سے ایسا کرے تو یقیناً ایسے لوگ ناکام و ذلیل ہوں گے دنیا کی ہر نعمت اور زینب و زینت محض نظر کا فریب ہے اگر اس فریب دنیا میں پھنس کر خدا کو بھلا دیا تو اس سے بڑھ کر اور کیا ذلت و خسارہ ہو سکتا ہے آخرت کا توشہ تو ذکر الہی اور اس کی یاد ہے اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے لہذا لے ایمان والو سوچو اور فکر آخرت کرتے ہوئے خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس مال سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے

اس سے قبل کہ آجائے تم میں سے کسی کے سامنے موت۔ پھر وہ یہ کہے لے میرے پروردگار کیوں نہ مہلت دے دی تو نے مجھ کو ایک قریب مدت تک کے لیے کہ میں صدقہ کر لوں اور صالحین و نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں کہ موت سامنے آچکی ہو اس قسم کی تباہی و آرزو ہرگز نہیں ہو سکتی اور کبھی بھی اللہ نفس کو مہلت نہیں دے گا جب کہ اس کی موت آچکی ہو کیونکہ خدا کا قانون ہے کہ جس انسان کے لیے موت کا ہر وقت طے کر دیا نہ اس کی موت اس وقت سے مقدم ہو سکتی ہے اور نہ مؤخر ہو سکتی ہے۔ اور لے انسانو! خوب جان

سے حاصل کیا جائے کہ اس سے دین کی تعمیر اور مخلوق خدا کی راحت رسانی کی سعادت حاصل کی جا سکے تو پھر مذموم نہیں۔

جاہ و منصب اور طلبِ عہدہ اور اس کے واسطے کوشش و درخواست وغیرہ شریعت نے اسی لیے ناجائز قرار دی کہ انسان نفس کی گمراہیوں میں پڑ کر اس کو کبر اور خلق خدا پر جوڑا استبداد کا ذریعہ نہ بنالے یاں اگر اخلاص نیت اور صدق قلب سے کسی عہدہ و منصب سے دین کی خدمت اور اعلاء کلمۃ اللہ جاہتا ہے تو جائز ہے۔

جیسے کہ حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ السلام نے عزیز مصر سے فرمایا: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ۔ لیکن ایسی طلب پر اقدام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس شخص کا حضرت یوسف علیہ السلام جیسا تقویٰ اور دیانت اور اخلاص ہو کہ حامل شدہ منصب کو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر استعمال کرے۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ المناہج فقوون

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ النَّخَابِیْنِ

سورۃ التغابن بھی مدنی سورت ہے جس کی اٹھارہ آیات اور دوہ کوٹھ ہیں۔ اگرچہ یہ سورت مدنی ہے لیکن اس کا موضوع بیان کئی سورتوں کی طرح توحید والوہیت کا اثبات اور عقائد اسلام کی تحقیق و تثبیت ہے اکثر صحابہ اور ائمہ سے یہی منقول ہے۔

سورت کی ابتدا میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و جلال اور اس کی تقدیس و تسبیح کا بیان ہے ساتھ ہی انسان کو دو قسموں میں منقسم کر کے بتا دیا گیا کہ تمام دنیا کے انسان ان دو قسموں میں بیٹے ہوئے ہیں قَسَمْتُكُمْ كَافِرًا وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنًا کہ اللہ کی نظر میں یہ دو قسمیں اس طرح تقسیم کر دی گئی ہیں ایک قوم اہل ایمان کی ہے خواہ وہ دنیا کے کسی خطر میں بھی بستے ہوں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں دوسری قوم کافروں کی ہے جو اہل ایمان سے بالکل جدا ہیں کسی ایک خطریا وطن میں بسنے والے مؤمن و کافر ہرگز ایک قوم نہیں ہو سکتے اور نہ ہی برادری کی تقسیم اور امتیاز وطن اور نسل کے لحاظ سے ہے بلکہ عقیدہ اور ایمان کی بنیاد پر دائرہ ہے اسی وجہ سے شریعت نے مسلم و کافر کے درمیان وراثت کا رشتہ بھی کالعدم کر دیا اور فیصلہ کر دیا گیا لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمًا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا خواہ وہ باپ بیٹے ہوں۔

پھر ان گزشتہ اتوار و جمعہ کی مثالیں پیش کی گئیں جو اپنے رسولوں کی تکذیب کرتی تھیں کہ ان پر خدا کا کیسا عذاب نازل ہوا۔ اسی کے ساتھ اس سورۃ میں بعثت بعد الموت کو ثابت کیا۔ اللہ کی عبادت و بندگی کا حکم دیا گیا اور اس پر بھی آگاہ کیا گیا کہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے برگشتہ کرنے والی کیا کیا چیزیں ہیں اور اختتامِ سورت پر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے ایثار و قربانی پر آمادہ کیا گیا۔

آیاتہما ۱۸ = ۶۲ = سُورَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ = ۱۰۸ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ تغابن مدنی ہے، اور اس میں اٹھارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لَهٗ

یاں بولتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کا

الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۱

راج ہے، اور اسی کو تعریف ہے اور وہ ہر چیز کو سکتا ہے۔ وہی ہے

الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كٰفِرٌ وَمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ وَاللّٰهُ بِمَا

جس نے تم کو بنایا پھر کوئی تم میں منکر ہے اور کوئی تم میں ایماندار، اور اللہ جو

تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۲ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِالْحَقِّ وَ

کرتے ہو دیکھتا ہے۔ بنانے آسمان اور زمین تدبیر سے، اور

صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوْرَكُمْ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۳ يَعْلَمُ مَا فِي

صورت کھینچی تمہاری، پھر اچھی بنان تمہاری صورت اور اسی کی طرف پھر جاتا ہے۔ جانتا ہے جو کچھ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسْرُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ وَاللّٰهُ

آسمانوں اور زمینوں کی سب سے چھپاتے ہوئے اور سب سے ظاہر

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۵﴾ الْمَرِيَاتِكُمْ نَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا

معلوم ہے جیوں کی بات ۔ کیا پہنچا نہیں تم کو احوال ان لوگوں کا جو منکر

مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶﴾

ہو چکے ہیں پہلے ۔ پھر چکھی سزا اپنے کام کی اور ان کو دکھ کی مار ہے ۔

ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَسْرُ

یہ اس پر کہ لاتے تھے ان پاس ان کے رسول نشانیاں ۔ پھر کہتے کیا آدمی

يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ

ہم کو راہ سوچھادیں گے ؛ پھر منکر ہوئے اور منہ موڑا اور اللہ نے بے پروائی کی ۔ اور اللہ بے پروا ہے

حَيْدٌ ﴿۷﴾ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ

سب خوبول نہ اے ۔ دعویٰ کرتے ہیں منکر ، کہ ہرگز انکو اٹھانا نہیں ۔ تو کہہ کیوں نہیں

وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَىٰ

قسم ہے میرے رب کی ، تم کو بیشک اٹھانا ہے ، پھر تم کو جتنا ہے جو تم نے کیا ۔ اور یہ اللہ

اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۸﴾ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا

پر آسان ہے ۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۹﴾

اور اللہ کو تمہارے کام کی خبر ہے ۔

تقسیم اولاد آدم و حوا و کافر و انکار و حد قومیہ بلحاظ وطن

قال الله تعالى... كَسَبُ قُلُوبِهِمْ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ... وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

اربطہ گزشتہ سورہ منافقون میں منافقین کے احوال اور ان کی مذموم خصلتوں کا بیان تھا۔ اس کے ضمن

میں ابن ابی منافق کی وہ بات بھی ذکر کر دی گئی تھی کہ لیخیر جنّ الاعتر منہا الا ذلّٰج جس کے ذریعے اس منافق نے دغنی عصیت کو ہوا دینی چاہی تھی اور ایمانی اخوت و وحدت جو انصار و مہاجرین میں قائم ہو چکی تھی اس کو پارہ پارہ کرنا چاہا تھا تو اس صورت میں نہایت واضح طور سے یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے اولادِ آدم اور تمام انسانوں کو صرف دو قسم میں تقسیم کر دیا ہے اور وہ تقسیم وطن اور جغرافیہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ عقیدہ کے لحاظ سے ہے ایک قسم برادری اہل ایمان کی ہے وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں خواہ کہیں رہتے ہوں اور کسی بھی خطہ میں بستے ہوں دوسری قسم اور برادری کافروں کی ہے۔ اسی طرح اس لیے اب یہ امتیاز و فرق مسلمانوں کو اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے کہ کون عرب ہے کون عجم کون ایرانی اور کون رومی دتر کستانی۔ تو فرمایا۔

پاک بیان کرتی ہیں اللہ ہی کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں۔ اسی کی بادشاہی ہے ہر عالم میں اور اسی کے لیے تعریف ہے اور ہر قسم کی حمد و ثناء اور وہی ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے تو جو پروردگار آسمانوں اور زمین کا خالق و کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے اور اسی کی ہر عالم میں بادشاہت ہے بلاشبہ اسی لائق ہے کہ ہر چیز اس کی پاکی بیان کرے اور اسی کی حمد و ثناء میں مشغول رہے۔ وہی ہے پروردگار لے انسانوں جس نے تم کو پیدا کیا پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی تم میں سے مؤمن ہے اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کو دے گا اس کو دیکھنے والا ہے۔ لہذا ایمان لانے والوں کو ان کے ایمان کی جزاء دے گا اور منکر و کافر کو اس کے کفر و نافرمانی پر عذاب دے گا۔ اسل میں تو ہر انسان کو اپنی عقل سے خالق کائنات کو پہچان کر ایمان لانا چاہیے تھا جب کہ رب العزت نے اس میں یہ جوہر بھی رکھ دیا ہے جس کو اس کی زبان میں فطرت کہا جاتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے فِطْرَةَ آدَمَ الَّذِي فِطَرْنَا نَسَبْنَا عَلَيْهِمَا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرة الا انما اس فطرت اور قبول حق کی صلاحیت کو چاہیے تھا کہ قائم رکھنا۔ حالاتِ گرد و پیش سے متاثر نہ ہوتا۔ یا اغراض و نفس کی خواہشات سے حق تعالیٰ کی حقانیت پہچان کر اپنے کسب اختیار سے گمراہی کا راستہ اختیار نہ کرتا لیکن جب اس گمراہ انسان نے اپنے ارادہ اور اختیار سے حق کو ٹھکرایا تو سزا کا مستحق بنا جو آخرت میں ضرور اس پر واقع ہو کر رہے گی اور مؤمن نے حالات کا مقابلہ کیا نفسِ شیطان کے گمراہ کن اسباب کو پامال کر کے حق پر استقامت اختیار کی تو بلاشبہ اس کا مستحق ہو کر آخرت کی نعمتوں اور راحتوں سے نوازا جائے۔ پیدا کیا ہے اس پروردگار نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک کہ ہر ایک مملوک اپنی حالت سے اس کی مناسی اور کاریگری کی گواہی دے رہی ہے پھر اس کی تدبیر بھی ایسی صحیح کہ آج تک کسی چیز میں کوئی ظل نہیں اور لے انسانوں! تمہاری صورت بنائی پھر اچھا بنایا تمہاری صورتوں کو حتیٰ کہ احسن تقویم میں انسان کو پیدا کیا کہ تمام جانوروں سے اس کی خلقت اچھی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت اور عقلی اور فکری صلاحیتوں سے نوازا اور اس امتیاز و شرف سے اس کو تمام کائنات پر برتری اور فضیلت عطا کر دی جیسے کہ ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَآدَمَ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے اس لیے انسان کو اسی کی فکر کرنی چاہیے۔ جو ایمان اور عمل صالح سے۔ وہ پروردگار جانتا ہے۔ لے انسانوں! وہ تمام جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم

ظاہر کرتے ہو اور ظاہر پوشیدہ کیا؟ اللہ تو جاننے والا ہے دل والی چیزوں کا کہ انسان کے دل میں کس قسم کے عقائد ہیں۔ کیا خیالات ہیں کیا سوچتا ہے اور کن چیزوں کی طرف میلان و رغبت ہے اور کن چیزوں سے نفرت تو جو ذات دل کی کیفیات اور احوال سے باخبر ہو وہ انسانوں کے اعمال و افعال سے کیسے بے خبر رہ سکتی ہے اور یہی اعتقاد اصلاح زندگی اور آخرت کی طرف اس کا رخ کرنے کا معیار ہے۔

اور یہ بات محض اعتقادی اور ذہنی ہی نہیں ہے بلکہ تاریخی حقائق و شواہد میں کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور ہر عمل کا بدلہ انسان کے سامنے آ کر رہتا ہے۔ خیر و شر اور ہدایت و گمراہی کے ثمرات تاریخ عالم سے ثابت ہیں کہ ضرور انسان سے مرتب ہوتے ہیں جو اس امر کی واضح دلیل ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں اور ہر عمل پر اس کا ثمرہ ضرور مرتب ہوتا ہے تو لے لوگو! کیا تم کو نہیں پہنچیں خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود وغیرہ۔ چنانچہ انہوں نے چکھی سزا اپنے عمل کی او ان کے واسطے دردناک عذاب ہے جس سے کوئی منکر اور کافر نہیں بچ سکتا۔ یہ سب کچھ اس بناء پر ہے کہ ان پہلی امتوں کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں اور معجزات لے کر آئے جس پر انہوں نے کہا کیا ایک بشر ہم کو ہدایت دے رہا ہے اور اللہ کا راستہ دکھانے اور سمجھانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو اللہ کے رسول کے بشر ہونے کی وجہ سے انکار کیا اور منہ موڑ لیا ان کا اعتقاد یہ تھا کہ بشر کی جنس سے کوئی فرد بشر رسول خدا نہیں ہو سکتا اور رسالت و بشریت میں انہوں نے تضاد سمجھا جس سے وہ گمراہی کا شکار بنے اور اللہ ان سے بے نیاز ہوا جب کہ وہ اللہ سے اپنا رخ موڑ چکے تھے اور اللہ تو ہر حال میں بڑا ہی بے نیاز قابل تعریف ہے۔ جس کی کائنات میں مخلوق حمد و ثناء کرتی ہے تو اس کو کیا پرواہ اگر کچھ انسان اپنے اس لغو تسخیل کے باعث خدا کے رسول پر ایمان نہ لائیں۔

کافروں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے اور رسالت کی طرح بعث بعد الموت کے بھی منکر ہیں لے ہمارے پیغمبر کہہ دو کیوں نہیں ضرور بالضرور تم کو دوبارہ اٹھایا جائیگا۔ پھر تم کو بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ پر نہایت ہی آسان ہے تو لے لوگو! ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے وہ قرآن کریم ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔ **وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا قَبِيْنًا**۔ اور اللہ خوب جانتا ہے وہ تمام کام جو تم کرتے ہو۔

عہ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں (کسی کا) اس آیت سے یہ ثابت کرنا کہ رسول کو بشر کہنے والا کافر ہے انتہائی جہل اور الحاد ہے اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آیت ان لوگوں کے کفر پر دلالت کر رہی ہے جو ریل بنی آدم کے بشر ہونے کا انکار کریں تو یہ دعویٰ پہلے دعویٰ سے زیادہ قوی ہوگا۔ سبحان اللہ تعبیر میں کیسی لطافت اور کس قدر نرمی ہے۔ **إِنَّ هَذَا لَعَلْمٌ** ۱۷

تو تمہارے ایمان لانے کے بعد جیسے بھی اعمال ہوں گے اسی کے مطابق قیامت کے روز جزا دینا کا معاملہ ہوگا۔

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ

جس دن تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونیکے دن۔

ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابِنِ ط وَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ

وہ دن ہے ارجحیت کا۔ اور جو کوئی یقین لادے اللہ پر اور کرے کام

صَالِحًا يَكْفُرْ عَنْهُ سَيَّأَتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي

بھلا، اتارے اس سے اسکی برائیاں، اور داخل کرے اس کو باغوں میں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ

نیچے بہتی ندیاں، رہا کریں ان میں ہمیشہ، یہی ہے بڑی مراد

الْعَظِيمُ ۙ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ

مہنی، اور جو منکر ہوئے، اور جھٹلائیں ہماری آیتیں وہ ہیں

أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۙ مَا

دوزخ والے رہا کریں اس میں، اور بڑی جگہ پہنچے، نہیں

أَصَابَ مِنْ مَّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ ط وَمَنْ يُؤْمِن

پڑتی کوئی تکلیف بن حکم اللہ کے، اور جو کوئی یقین

بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۙ وَأَطِيعُوا

لا دے اللہ پر، راہ بناوے اکلے دل کو، اور اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، اور علم مانو

اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۙ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا



الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ۱۲) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فليتوكل

یہی ہے پہنچا دینا کھول کر - اللہ! اس بن کسی کی بندگی نہیں اور اللہ پر جا بیٹے بھروسہ کریں

الْمُؤْمِنُونَ ۱۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ

ایمان والے - لے ایمان والوں! بعض تمہاری جو رو ہیں

وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا

اور اولاد دشمن ہیں تمہارے، سو ان سے بچتے رہو اور اگر معاف کرو

وَتَصَفَّحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۱۴) إِنَّمَا

اور درگزر کرو، اور بخشو، تو اللہ ہے بخشنے والا مہربان - تمہارے

أَمْوَالِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ فَفِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۱۵)

مال اور اولاد یہی ہیں جانچنے کو - اور اللہ جو ہے اس کے پاس ہے نیک بڑا

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا

سو ڈرو اللہ سے جہاں تم کو، اور سناؤ اور مانو، اور خرچ کرو

خَيْرًا إِلَّا نَفْسِكُمْ وَمَنْ يُوَقِّ شَحًّا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ

اپنے بھلے کو - اور جس کو بچا دیا اپنے جی کے لالچ سے، سو وہ لوگ وہی

الْمُفْلِحُونَ ۱۶) إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ

مراد کو پہنچے - اگر قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا، وہ دونا کر کے

لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ۱۷) عِلْمُ الْغَيْبِ

دے تم کو، اور تم کو بخشنے - اور اللہ قدر دان ہے عمل والا - جاننے والا چھپے

وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۸)



تنبیہ بر فکر آخرت و ترغیب ایمان صالح و نصیحت بر اصبر استقامت اطاعت خدوندی

قال الله تعالى: كَوْمًا يَجْمَعُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعِ... الى... الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

در ربط گذشتہ آیات میں ان نافرمانوں پر وعید تھی جو اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کی بجائے نافرمانی و بغاوت کرتے رہے اور اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے قیامت اور جزاء و سزا کے امور سے جب آگاہ کیا تو ایسے نافرمان اور گستاخ ان باتوں کا انکار و تمسخر کرنے لگے ان سفاحین کے بعد اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ نے قیامت کے احوال بیان فرمائے اور یہ کہ منکرین کا روزِ قیامت کیا حشر ہوگا اور اہل ایمان کیسی نعمتوں اور اللہ کی عنایتوں سے سرفراز ہوں گے۔ تو ارشاد فرمایا۔

جس روز کہ وہ پروردگار تم کو جمع کرے گا۔ سب انسانوں کے جمع ہونے کا دن میدان حشر میں تو وہ دن ہوگا ہرجیت کا۔ کوئی ذلیل و ناکام اور کوئی کامیاب و سر بلند پوری زندگی کی ہرجیت کا منظر انسان بس اسی روز دیکھے گا۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں تو اللہ ان کی برائیوں کو مٹا دے گا اور ان کو ایسے باغوں اور محلات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں جو ہمیشہ ان باغوں میں رہنے والے ہوں گے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیاں جھٹلائیں تو یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اور وہ بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

تو ان حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے انسانوں کو چاہیے کہ ہرجیت کے اس دن کی فکر کریں اور وہ کام کریں جس پر کامیابی اور جیت ہو۔ اور ان کاموں سے بچیں جس سے ذلت و ناکامی اور ہار ہو۔

فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ
فِي آيَاتٍ مِّنَ الْقُرْآنِ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِهَا وَلَئِن لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ فِئْتَابًا لِّلظَّالِمِينَ

مے یہ ترجمہ لفظ تغابن کا کیا گیا۔ تغابن جو عنین سے مشتق ہے۔ باسب تفاعل کی خاصیت سے اسی معنی کو ادا کر رہا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو قیامت میں ہی تمنا ہوگی کہ میں دوسرے سے بازی لے جاؤں اور اس کے مقابلہ میں میری جیت ہو جائے۔ متاع بن جیان سے منقول ہے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا ہرجیت ہوگی کہ ایک گروہ جنت کی طرف چلا جائے اور دوسرے گروہ کو جہنم میں جھونک دیا جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ یوم التغابن قیامت کا نام ہے اور قیامت کا دن یوم الجمعہ ہی ہے کہ

اس روز اولین و آخرین ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے (تفسیر ابن کثیر ۴/۱۳۷)

ایمان کی حقیقت اس بات کا بھی تقاضا کرتی ہے کہ مومن اپنی زندگی کے ہر مرحلہ پر یہ بھی یقین رکھے کہ نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے قلب کو سیدھا راستہ بتاتا ہے اور اللہ ہر چیز خوب جاننے والا ہے۔ تو جو لوگ تکلیف و راحت اور نرمی و سختی غرض ہر حالت کو اللہ کی ہی طرف سے جانتے ہوتے اسی کے حکم سے فرماں بردار و مطیع رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ان کے اعتقاد و عمل ہر حالت کا خوب علم رکھنے والا ہے اور اس پر بدلہ بھی دینے والا ہے۔ اے ایمان والو اسی پر قائم رہو اور اطاعت کرتے رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اگر تم روگردانی کرو گے تو ہمیں کوئی نقصان نہ ہوگا اس کا نقصان تو ہر اس شخص پر ہوگا جو روگردانی کرنے والا ہے بس ہمارے رسول پر تو واضح طور سے اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے جب اللہ کے رسول نے اللہ کے احکام پہنچا دیئے تو اس کے بعد عملی ذمہ داری مخاطبین پر عائد رہتی گی سو جیسا کچھ بھی عمل کریں گے اس کا ثمرہ سامنے آجائے گا عمل خیر اور سعادت کی راہ سے بھٹکا نیوالی باتوں سے انسان کو بے خبر اور بے فکر نہ ہونا چاہیے اس لیے اے ایمان والو! سن لو یقیناً تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن بھی ہوتے ہیں، سوان سے احتیاط رکھو اگر وہ تم کو راہ راست خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بھٹکانا چاہیں یا ان کی محبت و دلجوئی میں اللہ کے احکام و فریضے کو روک دے شک اس طرح کا طرز اولاد اور بیویوں کا اہل ایمان کے واسطے باعث اذیت و تکلیف ہے لیکن بجائے اس کے کہ تم ان سے قطع تعلق کر لو یا ان کو کوئی تکلیف پہنچاؤ مناسب یہ ہے کہ درگزر کرو اور اگر تم ان ایندازوں کو دل سے مشاد و اور درگزر کرو اور معاف کر دو تو بہتر ہے کیونکہ اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے اس بنا پر اگر اولاد و بیویوں میں سے ایسی کوئی بات پیش آئے جس میں تمہاری حق تلفی ہے تو اس پر بھلے برا فروختہ ہونے کے

عہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ كُفْرًا سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم علفیہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی۔ تو ان سے اس کے معنی دریافت کیے گئے۔ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی شخص کو کوئی مصیبت پہنچے تو یقین کرے کہ یہ تقدیر خداوندی سے ہے۔ اور اس پر راضی ہو ممبر و سکون اختیار کرے۔

بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہ یقین کر کے قضا الہی کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہدایت قلب کے معنی یہ ہیں کہ اس پر ثواب کی امید رکھے اور بعض ائمہ فرماتے کہ یَجْعَلْ لَهُ كُفْرًا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَرَاءًا لِلَّهِ وَنَاكَرًا لِمَا رَجَعُونَ پڑھنا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجیب حال ہے مومن کا جو بھی قضا و قدر سے اس پر پیش آتا ہے اس کو اس چیز میں اجر و ثواب ہی ملتا ہے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے اور اگر کوئی راحت و نعمت حاصل ہوتی ہے اور اس پر شکر کرتا ہے تو اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے غرض مومن ہر طرح سے خیر ہی خیر کھاتا

درگذر اور غمناک ہی بہتر ہے مگر پھر بھی یہ بات نہ بھلانا بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہارے واسطے ایک آزمائش ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو جو لوگ اس آزمائش میں کامیاب ہوں تو بس اللہ تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ اس کے یہاں بڑا ہی عظیم ثواب ہے۔ خدا کی آزمائش میں کامیاب اور اجر عظیم کا استحقاق اسی میں مضمر ہے کہ بس اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تم سے جو سکے اور اس کے احکام سنتے رہو اور اطاعت و فرمان برداری کرتے رہو اور بدنی عبادات و حقوق کی تکمیل کے ساتھ کچھ خرچ بھی کرو اللہ کی راہ میں اپنے ہی فائدہ کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ سے روکنے والی خصلت مال کی محبت و لالچ ہے جو انسان کو ایسی سعادت سے محروم کر دینے والی بدترین خصلت ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس مذموم خصلت سے اپنے آپ کو پاک رکھے اور حقیقت یہی ہے جو لوگ اپنے آپ کو نفس کی خواہش اور مال کی محبت سے سچا لیں تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ہرگز کسی کو یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ اس کے مال میں کمی آجائے گی بلکہ یہ تو اللہ کو قرضہ حسنہ دینا ہے۔ مگر تم اللہ کو دو گے اچھی قرض دینا خوش دلی اور اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا تمہارے واسطے اور مغفرت کرے گا۔ تمہارے لیے تمہاری ان کوتاہیوں کی جو عبادات اور فرائض کی ادائیگی میں تم سے ہو جاتی ہیں، اور اللہ تو بڑا ہی قدر دان ہے حلم و درگزر والا کہ معمولی چیز کو بھی نظر کرم سے قبول فرمائے اور اس قبیل مقدار پر اجر عظیم عطا فرما دے کہ ایک نیکی کو دس گنا سے سات سو تک پہنچا دے اور کبھی صدقہ کی ایک کھجور پہاڑ کے برابر بنا دے جیسے کہ حدیث میں ارشاد ہے اگر بندہ حلال اور پاک کمائی سے صدقہ دل سے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے پھر اس کو نشوونما فرماتا ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنے بچپڑے کو پالے یہاں تک کہ وہ ایک کھجور پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے کسی کی کھجور پہاڑ کے برابر ہو سکتی ہے اور کسی کی اس مقام سے کم رہتی ہے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے حوالہ ہے وہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے زبردست حکمت ظاہری اعمال اور باطنی احوال کی اس کو خبر ہے۔ اس کے مطابق ثمرات اعمال اور جزا میں بندوں کو عطا کی جاتی ہیں اور ہر ایک کو جو کچھ دنیوی اور اخروی جزا دی جاتی ہے وہ اس کی حکمت کے عین مطابق ہوتی ہے لہذا اس تصور کی گنجائش نہیں کہ کسی کو کیا بدلہ ملا اور کسی کو کیا نہیں ملا جس کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ اس کی حکمت کا عین مقتضی ہوتا ہے۔

دنیاوی زندگی میں مصائب کا راز اور ان پر صبر کی تلقین

آیت مبارکہ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ حضرت مولانا محمد رفیع علی
تھانوی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک وعظ رفیع الموانع میں عجیب حقائق اور لطائف بیان زمانے حضرت

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ یعنی اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ پس یہ وہی جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں سعی کرتا ہے اور کون نہیں یہاں تک تو حق تعالیٰ نے خاص مرض مصیبت کے مانع طریق ہونے کا ایک خاص نسخہ تجویز فرمایا وہ یہ کہ مراقبہ کیا کرو کہ ہر مصیبت اللہ کی ہی طرف سے ہے آگے ایک عام نسخہ کا ذکر ہے۔ جس میں مریض اور تندرست سب شریک ہیں یعنی دَاطِمِعُوا الدِّنَارَ وَاطْمِعُوا الرِّسُولَ اور اَطْمِعُوا كَأَكُوْنِي مُتَعَلِّقٌ ذَكَرَ نہیں فرمایا جس سے بقاعدہ بلاغت عموم مستفاد ہوتا ہے یعنی تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور امر کو سب لاؤ اور معاصی سے پرہیز کرو۔ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ یعنی ہم نے جو تمہارے مرض کا علاج اپنے رسول کی معرفت تجویز کیا ہے اگر کسی نے اس خاص یا عام نسخہ کے استعمال سے اعراض کیا تو یاد رکھو کہ ہمارے رسول کے ذمہ بجز اس کے کچھ نہیں کہ تم کو دوا اور پرہیز بتلا دیں۔ نسخہ کا استعمال اور پھر شفاء اور صحت طیب کے ذمہ نہیں طیب کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ وہ تم کو دوا بتلا دے یہ ان لوگوں کا بیان تھا کہ جنہوں نے ابھی تک نسخہ کا استعمال نہیں کیا۔ آگے ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو نسخہ استعمال کر رہے ہیں۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ آدَمَ مَا قَلَّبْتُمْ كُلَّ الْأُمُومَاتِ۔ یعنی ان لوگوں کو اپنے علاج پر بھروسہ نہ کرنا چاہیے بلکہ اللہ پر نظر رکھنی چاہیے اور نہ علاج کے ثمرات کا منتظر رہنا چاہیے بعض مرتبہ مجاہدہ اور ریاضت سے عجب اور ناز پیدا ہو جاتا ہے اس آیت میں اس کے دفعیہ کی طرف اشارہ ہے۔

یہاں تک مصیبت کے متعلق بیان تھا آگے نعمت کے متعلق ارشاد ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتَاكُمْ مِنْ أَرْزَاقِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ يَعْنِي لِيَّ الْإِيمَانَ وَالْوَالِدِيَّاتِ بِيَدِيَّوْنَ اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ پس تم ان سے احتیاط رکھو ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو اپنے اندر مشغول کر کے راہ حق سے ہٹا دیں۔ نعمتیں اگرچہ بہت ہیں۔ لیکن دنیا میں انسان کو اولاد اور ازواج بہت محبوب ہوتی ہیں اس لئے بالتحقیص ان کا ذکر فرمایا اور ان کا مانع ہونا دو طریق سے ہے اول تو یہ کہ اولاد اور ازواج ایسی فرمائش کریں جو خدا اور رسول کے حکم کے خلاف ہو اور یہ مغلوب ہو کہ ان کا ارتکاب کرے۔ دوم یہ کہ وہ خود ان کی محبت میں اس قدر مغلوب ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے رُک جائے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگا جاتا تھا تو حضورؐ نے ارشاد فرمایا۔ الشيطان يتبع الشيطانة یعنی ایک شیطان ایک شیطان کے پیچھے جا رہا ہے اس کو شیطانہ اس لیے فرمایا کہ اس کے حق میں تو اس نے شیطان ہی کا کام دیا کہ اس کو ذکر اللہ سے غافل کر دیا پس ایسے ہی وہ اولاد اور ازواج اس محبت کے حق میں بلا قصد عدو بن گئے کہ وہ ان کی محبت میں ایسا نہمک ہو کہ اپنے اصلی کام کو بھول گیا پس اصل مانع انہماک فی المحبت ہوا اور بعض مرتبہ غیر اللہ کی محبت میں انہماک شکر کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے کما قال تعالیٰ وَمِنَ اللَّسَانِ مَنْ يُتَخَذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَمْثَلًا إِذَا يُحِبُّونَ نَحْسَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اور چونکہ ایمان لانا اجبت کے اقرار کو مستلزم ہے اس لیے آگے ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ یعنی جو ایمان لے آیا وہ تو رجسٹری شدہ محب اور عاشق ہے پھر غیر اللہ پر نظر ڈالنا سراسر طہرت ایمانی کے خلاف ہے۔ اور چونکہ

مال بھی نعمت کا ایک فرد ہے اس لیے جب مال کے متعلق آئندہ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور چونکہ اولاد کا فتنہ زیادہ محنت ہے اس لیے اولاد کو مال کے ساتھ مکر فرمایا نیز یہ کہ مال کی محبت کا منشاء بھی اکثر اولاد ہی ہوتی ہے اس لیے مال اور اولاد دونوں کو ملا کر ذکر فرمایا اور محنت کے دو درجے ہیں ایک محنت لِاداءِ الحقوقِ یہ مستحسن ہے۔ دوسری محنت لِتحصيلِ المحظوظِ اگر حدودِ شریعہ کے اندر ہو تو پھر ممنوع اور مذموم نہیں اور فتنہ کے معنی یہاں وہ نہیں جس کو عام لوگ فتنہ اور نساد کہتے ہیں۔ بلکہ فتنہ کے معنی امتحان کے ہیں یعنی مال اور اولاد تمہارے لیے امتحان کی چیز ہے یعنی تمہارے دیکھنے میں ان کے ساتھ مشغول ہوتے ہو یا ہمارے ساتھ اور جو امتحان میں کامیاب ہوا تو اس کے واسطے اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

یہاں تک موانع کی فہرست مکمل ہوگئی وہ کل تین چیزیں ہیں تو میں ایک مصیبت اور نعمت کے دو فرد ایک اولاد و ازدواج اور ایک مال اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ ان کی مانعیت افراط فی المحبت اور تاثر قلبی کی وجہ سے ہے اور یہ امر اختیاری نہیں تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَضَعْتُمْ الْآیۃ یعنی بتنا پہنچنا تمہاری استطاعت اور قدرت میں ہے اس میں کمی نہ کرو یعنی جو حکم تم کو دیا جائے اس کو گوشہ ہوش سے سنو اور اس پر عمل کرو اور شریعت نے جو دستور العمل تمہارے لیے تجویز کیا ہے اس کے پابند رہو اور چونکہ مال انسان کو بالطبع محبوب ہے اس لیے تقویٰ کے افراد میں سے انفاق فی سبیل اللہ کو اہتمام شان کے لیے مستقلاً علیہ ذکر فرمایا وَاَنْفُسُكُمْ اَنْفُسُكُمْ یعنی اپنے نفسوں کے لیے مال خرچ کرو اور لَا تُفْسِدُوا اس لیے فرمایا کہ اس انفاق کا نفع تمہاری ہی طرف عائد ہوگا اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔

وَمَنْ يُوْثِقْ نَفْسَهُ فَاَوْلَادُكُمْ هُمْ اَمْفِلِحُونَ یعنی جو شخص نفس کی حرص سے بچا لیا جائے یعنی اس کے نفس میں ایسی سماحت پیدا ہو جائے کہ مال کی محبت اور غیر اللہ کا تعلق اس میں باقی نہ رہے تو سمجھ لو کہ ان لوگوں کو فلاح اور کامیابی حاصل ہوگئی اور یُوْثِقُ بصیغہ مجہول میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ وقایت یعنی نگہداشت تمہارا کام نہیں بلکہ ہمارا کام ہے۔ پکانے والے ہم میں تم اپنے اس مجاہدہ پر ناز نہ کرنا۔ مقصود تک پہنچانا ہمارا کام ہے نفس میں جب تک شح اور حرص باقی نہ رہے مجاہدہ میں لگے۔ ہر ایک لمحہ کے لیے مطمئن نہ ہو اور چونکہ نفس بالطبع حرص واقع ہوا اس لیے کسی چیز کے پیوڑنے پر اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کو کسی بڑی چیز کی حرص نہ دلائی جائے۔ اس لیے آئندہ آیت میں اُخْرٰی نعمتوں کی حرص دلاتے ہیں تاکہ دنیا کی حرص چھوڑ دے۔ اِنْ تَقْرَبُوا اللَّهَ قَرَّبْنَا حَسَنَاتِكُمْ اَعْضٰی اور دوسرے مقام پر اِنْفِاقًا كَثِيْرًا اٰیہ ہے اور حدیث میں سات سو تک مضاعفت آئی ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مطلق حرص مذموم نہیں بلکہ حرص کی دو قسمیں ہیں غیر اللہ کی حرص تو مذموم ہے اور انفعالات خداوندی کی حرص محمود ہے۔ وَاللّٰهُ شَکُوْرٌ حَلِيْمٌ اور اللہ تعالیٰ بڑے قدیر ہیں اور بہت حلم والے ہیں اور وہ عَلِيْمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ہیں اخلاص اور ریاہ اور اپنے عمل پر ناز کو ترک جانتے ہیں اس لیے وہ عزیز یعنی زبردست ہیں۔ یعنی ناز کرنے والوں کا ناز توڑ دیتے ہیں اور بعض مہربان ریاہ

اور عجب کی سزا میں تاخیر ہوتی ہے وہ حکمت پر بھی مبنی ہوتی ہے۔ اس لئے کہ وہ حکیم ہے اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس تاخیر میں بھی حکمت ہے۔

(لمخلص از رفیع الموانع وغض نمبر ۲ سلسلہ تبلیغ)

|| ازا فاضلت والد محترم قدس اللہ سرہ ||

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الطَّلَاقِ

اس سورت میں احکام طلاق اہمیت کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں اس وجہ سے اسی نام سے اس کو بارگاہ رسالت سے موعوم فرمایا گیا۔

ابتداء سورت میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ شریعت نے طلاق واقع کرنے کا طریقہ کس طرح منعین فرمایا ہے جس کے ضمن میں نفیاً طلاق بدعی اور طلاق سنی کی قسموں کا ذکر فرمایا کرتے ہیں جس سے غرض یہ ہے کہ طلاق دینے کی نوعیت ایسی ہو کہ خود اس سے ظاہر ہو جائے کہ مجبوراً اس کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے وقتی خوش یا جذبات یا محض مغلوب الغضب ہو کر طلاق نہیں دی گئی ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق ایک ظہر میں دی جائے اور ظاہر ہے کہ اتنی طویل مدت تک جذبات اور غیظ و غضب اگر عارضی ہیں تو شدت باقی نہیں رہا کرتی جس کی تفصیل انشاء اللہ آئندہ آجائے گی۔

اسی کے ساتھ احکام عدت اور نفقہ و سکنی کا بھی بیان ہے۔ طلاق و عدت اور نفقہ و سکنی کے مسائل کے درمیان بار بار اللہ کے تقویٰ کی طرف دعوت دی گئی ہے کبھی ترغیب کے رنگ میں اور کبھی ترہیب کی صورت میں تاکہ کسی طرح بھی ظلم اور حق تلفی کا ارتکاب نہ ہو اور اس پر بھی تنبیہ فرمائی گئی کہ اللہ کی حدود سے کسی صورت میں بھی تجاوز نہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ معاشرت کو ہر فریبی سے بچانے کا صرف یہی ایک راستہ ہے۔

آیاتہا ۱۲ = ۶۵ = سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ = ۹۹ = فِيهَا زَكْوَعَانِ

سورۃ طلاق مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

اے نبی! جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر۔

وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ

اور گنتے رہو عدت - اور ڈرو اللہ سے، جو رب ہے تمہارا۔ مت نکالو انکو

بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ

ان کے گھروں سے، اور وہ بھی نہ نکلیں، مگر جو کریں صریح بے حیائی۔

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ

اور یہ حدیں ہیں اللہ کی۔ اور جو کوئی بڑھے اللہ کی حدوں سے، تو

ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ

اس نے بُرا کیا اپنا۔ اس کو خبر نہیں۔ شاید اللہ نیا نکلے اس سے کچھ

أَمْرًا ① فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

کام - پھر جب پہنچیں اپنے وعدہ کو تو رکھ لو ان کو دستور سے، یا

فَارْفُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهُدُوا ذُوَى عَدْلِ مِّنْكُمْ وَ

چھوڑ دو ان کو دستور سے اور گواہ کرو دو معتبر اپنے میں کے، اور

أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

سہمہ کو گواہی اللہ کے واسطے۔ یہ بات جو ہے اس سے سمجھ جاوے گا، جو کوئی یقین

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝۲

رکھتا ہوگا اللہ پر اور پچھلے دن پر - اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، وہ کر دے اسکا گزارہ

وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

اور روزی دے اسکو جہاں سے اسکو خیال نہ ہو - اور جو کوئی بھروسہ رکھے

اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۝۳ إِنَّ اللَّهَ بِأَلْبَعَامِ أَعْلَمُ ۝۴ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ

اللہ پر، تو وہ اسکو بس ہے - اللہ مقرر پورا کر لیتا ہے اپنا کام - اللہ نے رکھا ہے

لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۵

ہر چیز کا اندازہ

احکام طلاق و عدت نفیقہ و سکنی و تاکید تقویٰ و تنبیہ بر تجنب اذ از حد و خد اوندی

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ انى لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا -

اربط (گزشتہ چند سورتوں میں عقائد و ایمانیات کا ذکر تھا۔ اللہ رب العزت کی عظمت و پاک بیان کی گئی اور اس کی ذات و صفات کا مختلف اسلوبوں سے تعارف کرایا گیا جس کے ساتھ کچھ احکام عبادت سے بھی متعلق بیان کیئے گئے تو اب اس سورت میں معاملات و معاشرت کے بعض اہم اصول و احکام ذکر فرمائے جا رہے ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ خاندانی منازعت اور جھگڑے بسا اوقات طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح کی خصومت اور جھگڑے انسان کے دین اور ایمان کو تباہ و برباد کر دینے والی چیز ہیں اس بناء پر بالخصوص اس سورہ مبارکہ میں احکام طلاق و عدت اہمیت سے بیان کیئے گئے تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک رہے فرمایا۔

اے ہمارے نبی! جب تم اور تمہاری امت کے لوگ طلاق دو اپنی عورتوں کو تو طلاق دیا کرو انکو انکی عدت پہ

عدت طلاق کا عنوان دو معنی پر مشتمل ہے ایک طلاق دینے کا وقت۔ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھیں)

اور اے مسلمانو! ڈرو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے طلاق دینے میں اور عدت کے معاملہ میں اس لیے نہ تو حیض میں طلاق دو اور نہ تین طلاقیں ایک وقت دو۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے احکام شریعت کی پابندی کرو اور نہ نکالو تم ان مطلقہ عورتوں کو اپنے گھروں سے کہ ان پر زیادتی کرو یا ان کے نان و نفقہ کی تکمیل نہ کرو جس کے باعث وہ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوں اور ظاہر ہے کہ ان کے گھر خاوند ہی کے گھر ہیں اور عدت چونکہ احکام نکاح سے متعلق ایک حکم ہے اسی وجہ سے زمانہ عدت میں عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی اور نہیں نکلیں گی یہ عورتیں اپنے گھروں سے مگر یہ کڑا نکتہ کریم کی ایک کھلی بے حیائی کا۔ کیونکہ ایام عدت میں عورت پر لازم ہے کہ گھر ہی میں رہے لہذا اس کا باہر نکلنا خدا کے صریح حکم کی نافرمانی کرنا ہوگا۔ جو ایک کھلی ہوئی بے حیائی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سکنی محض حق العبد نہیں کہ جس طرح انسان اپنی مرضی سے اپنے حقوق ساقط کر سکتا ہے قرضہ معاف کر سکتا ہے اسی طرح کوئی عورت اپنی مرضی سے یہ سمجھے کہ میرے واسطے گنجائش ہے کہ میں اپنا یہ حق ساقط کر دوں نہیں بلکہ یہ حق اللہ ہی کا ہے اور اس کو نظر انداز کر دینا بلاشبہ اللہ کی معصیت و نافرمانی بھی ہے اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود میں جن کی پابندی لازم ہے اور جو شخص اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنے اوپر بڑا ہی ظلم کیا وہ نہیں جانتا جبکہ وہ کسی داعیہ اور تقاضہ کے باعث اللہ کی حدوں سے

مذہب یہ ترجمہ اور توضیح قاضی ابوبکر جصاص کی تحقیق کے مطابق ہے۔ بعض مفسرین اس لفظ فاحشہ کو بدکاری وغیرہ جیسے معنی پر محمول کر کے یہ تاویل کرتے ہیں کہ باعتبار امکان یہ کہا گیا کہ یہ ممکن ہے کہ باہر کی آمد و رفت اگر آزاد ہو اور ادھر یہ کہ خاندان موجود نہیں مطلقہ ہو چکی ہے تو اس امر کا امکان ہے تو یہ تین کا ذکر محض امکان و احتمال کی تقدیر پر ہے لیکن اس معنی پر محمول کرنا تکلف سے خالی نہیں اسی وجہ سے پہلے ہی مفہوم کو ترجمہ کے توضیحی کلمات میں متعین کر دیا گیا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ *اَلَا اَنْ يَأْتِيَنَّ بِمَا حِشَّةٌ مُّبَيَّنَةٌ* کا استثناء *وَلَا يَخْرُجْنَ* کے مضمون سے ہے اور فاحشہ سے عرفی فاحشہ مراد نہیں بلکہ بدزبانی۔ مزاج کی تیزی اور لڑائی جھگڑا مراد ہے جیسا کہ بعض عورتوں کا مزاج ہوتا ہے تو اس تقدیر پر معنی یہ ہوں گے وہ عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں بلکہ ان کا یہ استحقاق ہوگا اور ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ اپنے خاوند ہی کے گھر میں عدت گزاریں ہاں البتہ اگر وہ بدکلامی اور بد مزاجی کا ارتکاب کریں اور لڑائی جھگڑا کرنے لگیں تو پھر ان کے واسطے سکنی اور ایام عدت میں رہائش کا مسئلہ زوج کے ذمہ ضروری نہ رہے گا یہ تو اسی صورت میں ہے کہ مطلقہ عورتیں کوئی لڑائی جھگڑا یا بدکلامی اور بد اخلاقی کی مرتکب نہ ہوں۔ تو اب انکیانِ بَعَا حِشَّةٍ کی یہ صورت ہوگی۔ -۱۲-

مذہب لاتدری کو صیغہ مخاطب پر محمول کرنا مناسب نہیں بلکہ لاتدری کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے اور مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ظالم نفس نہیں جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے واسطے کیا صورت ظاہر ہونے والی ہے یہ تو تقاضا وقت (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں)

آگے بڑھ رہا ہے۔ شاید اللہ اس کے واسطے اس طلاق دے دینے کے بعد کوئی اور صورت پیدا کر دے اس لیے یہ بات درست نہیں کہ حدودِ خداوندی کی خلاف ورزی کرے بلکہ اس کو چاہیے کہ احکامِ شریعت کی اتباع کرے خواہ اس میں کسی بھی قسم کی تکلیف کا وقتی طور پر سامنا کرنا پڑے اور اس کے ساتھ انتظار کرے اللہ کی طرف سے پیدا ہونے والی کسی اور صورت کا پھر جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنی مدت کو ایامِ عدت پر سے ہوجانے کی وجہ سے تو رکھ لو ان کو بھلے طریقہ سے اگر طلاق رجعی ہونے کی صورت میں ان سے رجوع کرنا چاہتے ہو یا ان کو چھوڑ دو بہتر طریقہ سے کہ نہ روکنے میں ستمانے کی صورت ہو اور نہ چھوڑنے میں ظلم و تعدی ہو اور گواہ بنا لیا کرو و عدل شخصوں کو اپنے میں سے اگر کسی قسم کی تہمت یا زیادتی کا امکان نہ رہے۔ رجوع کرنا جو تو اس پر گواہ بناؤ جس کے بعد اس مطلقہ رجعیہ کو رکھنے پر کوئی شخص معترض نہ ہو اور اگر بانٹ کر دیا تو اس پر بھی گواہ بنا لو تاکہ عورت عدت کے بعد جب دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ پیش آئے۔

اور صحیح قائم رکھو شہادت کو اللہ کے واسطے اس لیے گواہ جب واقعہ کی گواہی دیں تو صداقت اور صفائی سے اصل واقعہ پیش کریں اے مسلمانو! یہ ہے وہ بات جس کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ پیدا کر دے گا اس کے واسطے

(بقیہ حاشیہ) کا طے کردہ نظام ہے۔ تفسیر معالم التنزیل اور تفسیر خازن میں لَعَلَّ اللّٰهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اٰمُرًا، کی تفسیر میں یہ بیان کیا ای لو وقع فی قلب الزوج مراجعتها بعد الطلقة و لطلقتین و هذا يدل عن ان المستحب ان يفترق الطلاق الثلث ولا يوقع الثلث دفعة واحدة حتى اذا نادى امكنا اطرا جعة یعنی اس کے بعد اللہ کی طرف سے کسی امر کے پیدا ہونے کی توقع کی صورت یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں اپنی مطلقہ بیوی سے رجوع کا خیال ڈال دے جب کہ وہ ایک یا دو طلاق دے چکا ہے اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ مستحب یہی ہے کہ تین طلاقیں ایک دفعہ نہ دی جائیں بلکہ ان کو متفرق اوقات میں ایک ایک کر کے دیا جائے تاکہ وقتی جذبات کے دور ہونے پر اگر وہ نادم ہو تو رجوع کرنا ممکن رہے۔

امام بخاریؒ کی اس تفسیر سے اور قرآن کریم کے الفاظ کی صریح دلالت سے یہ ظاہر ہوا کہ تین طلاقیں دینے سے تین واقع ہوتی ہیں۔ اگر تین طلاقیں دینے سے ایک ہی واقع ہوتی تو طلاق رجعی کی طرح اس سے بھی رجوع ہو جاتا اور اس صورت میں بھی ندامت اور سچھانے کا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہوتا بہر کیف تین طلاقوں کے بعد عورت کا قطعی طور پر شوہر پر حرام ہو جانا ایک اجماعی مسئلہ ہے جس پر کل صحابہ اور ائمہ تابعین کا اتفاق ہے اور یہ کہ جب تک کسی اور سے نکاح کر کے مطلقہ نہ ہو جائے یا ایسی صورت ہو کہ اس مطلقہ ثلثہ نے جس شخص سے نکاح کیا اس کی وفات ہو جائے تو پھر عدت کے بعد پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے جیسا کہ احادیث میں اس کی تصریح ہے اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی۔ ۱۲

ان کے حقوق کا پورا پورا تحفظ کیا اور حدود متعین کر دی گئیں اور ان کی خلاف ورزی پر وعید و تنبیہ فرمائی گئی۔ جہاں اور حکیمانہ ہدایات و نصیحتیں فرمائیں ان میں ایک جامع بابنا اصول یہ بھی فرمادیا گیا فَامْسِكُوا هُنَّ بِسَعْرُوفٍ وَفَارِقُوا هُنَّ بِسَعْرُوفٍ کہ اگر رکھو تو معقول طریقہ سے رکھو اور اگر چھوڑنا ہی ہے تو معقول طریقہ اور حسن اسلوب سے چھوڑو۔ گویا کسی بھی حالت میں ظلم و تعدی ہرگز نہ ہو خدا پر ایمان اور آخرت کا یقین ہی انسان کو ظلم و عدوان سے بچا سکتا ہے اس لیے فرمادیا کہ یہ زرین نصیحتیں ان لوگوں کے لیے کارآمد ہیں جو خوفِ خدا اور آخرت کا یقین رکھتے ہوں۔ پھر ساتھ تقویٰ کے بہترین ثمرات اور برکتوں سے آگاہ فرمادیا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَنْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ کا ڈر دارین کی سعادت اور خزانوں کی کنجی اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ بے قیاس و بے گمان روزی بھی ملتی ہے اور ایک عجیب قلبی سکون نصیب ہوتا ہے جس کے بعد نہ سختی نہ سختی رہتی ہے اور نہ پریشانی، پریشانی رہتی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک آیت معلوم ہے جو سارے عالم (یعنی سارے عالم کی مشکلات) کے لیے کافی ہے دریافت کیا گیا اے عبد اللہ وہ کون سی آیت ہے تو آپ نے یہی تلاوت فرمائی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَنْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

امام احمد بن حنبلؒ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کیا کہ وہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے جا رہے تھے کہ آپ نے فرمایا۔

اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں اور یہ ہیں تو اللہ کی حدود کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا لحاظ کر تو اللہ کو اور اسکی رحمتوں اور عنایتوں کو اپنے سامنے پائے گا اور جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگ اور جب تو مدد طلب کرے تو اللہ ہی سے مدد طلب کر اور یہ بات خوب سمجھ لے کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اس چیز پر کہ تجھے کچھ نفع پہنچائے تو دنیا کے تمام انسان تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے مگر صرف وہی جو اللہ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے اور اگر دنیا کے سب لوگ جمع ہو جائیں اس پر کہ تجھے کچھ نقصان پہنچا دیں تو ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر وہی جو اللہ نے تجھ پر لکھ دیا ہے اے لکھنا تو اللہ کے قلم دانسانی تقادیر لکھ کر فارغ ہو گئے اور صحیفے

یا غلامِ رزقِ معلمک
کلمات - احفظ اللہ
یحفظک احفظ اللہ
تجدد تجاہک واذنالت
فاسأل اللہ واذ استعنت
فاستعن باللہ واعلم ان
الاممۃ لو اجتمعوا علی
ان ینفعوک لم ینفعوک
الا بشیء کتبہ اللہ لک
ولو اجتمعوا علی ان
یضروک لم یضروک
الا بشیء قد کتبہ
اللہ علیک - رفعت
الاقلام وجفت الصحف۔

قضاء و قدر کے جوڑے کر دیئے گئے ہیں وہ خلتک ہو چکے اس لیے جو بھی کچھ ہو گا وہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت کے مطابق ہو گا۔

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ

اور جو عورتیں نا امید ہوئیں حیض سے

نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ

تہاری عورتوں میں، اگر تم کو شبہ رہ گیا، تو ان کی عدت ہے تین مہینے اور ایسے ہی جن کو

يَحِيضُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

حیض نہیں آیا، اور جن کے پیٹ میں بچہ ہے ان کی عدت یہ کہ جن میں پیٹ کا بچہ

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۚ ذٰلِكَ

اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، کر دے اس کو اس کے کام میں آسانی۔

أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ

علم ہے اللہ کا، جو اتارا تمہاری طرف، اور جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، آتا ہے اس سے

سَيَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ أَجْرًا ۚ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

اس کی برائیاں اور بڑا دے اس کو نیک - گھر دو ان کو رہنے کو، جہاں

سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

تم آپ رہو اپنے مقدر کے موافق اور ایذا نہ چاہو ان کی، تاکہ بڑھ

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلْنَ فَلْيَضْحَكُوا عَلَيْهِنَّ

ان کو - اور اگر رکھتی ہوں پیٹ میں بچہ، تو ان پر خنجر کرو، جب

حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ

تو ان کے بچے کو دیکھو اور اگر دیکھو تو ان کو دیکھو

أُجُورَهُنَّ وَأَتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ

اُن کے نیک - اور سکھاد آپس میں نیکی - اور اگر آپس میں ضد کردو۔

فَسَتَرْضِعْنَ لَكُمْ أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ

تو دودھ دے رہے گی اُسکی خاطر اور کوئی عورت۔ چاہئے خرچ کرے کشائش والا اپنی

سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ

کشائش سے۔ اور جس کو یہی ملتی ہے اس کی ریزی۔ تو خرچ کرے جیسا دیا اُسکو

اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ

اللہ نے۔ اللہ کسی پر ذمہ نہیں رکھتا مگر اتنا جو اس کو دیا۔ اب کر دے گا

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

اللہ کچھ سختی کے پیچھے آسانی۔

ذکر احکام بعض مطلقات مع بیان حق سکنی و نفقہ و مسأله عت

قال الله تعالى: وَاللَّيْفُ يُسْرًا مِنَ الْمَحِيضِ... سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

(رابطہ) اگر شہ آیت میں طلاق کی عدت اور طلاق واقع کرنے کے بعض احکام بیان فرمائے گئے تھے اور ان امور میں اللہ کے تقویٰ اور حدود شریعت کی پابندی کے لئے تاکید فرمائی گئی تھی اب ان آیات میں بعض مطلقہ عورتوں کے خصوصی احکام اور ان کے حقوق کا بیان ہے بالخصوص وہ مطلقہ عورتیں جن کو حیض نہ آتا ہو یا وہ حاملہ ہوں ان کی عدت اور متعلقہ احکام اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے۔ فرمایا۔

اور جو عورتیں ناامید ہو چکی ہوں حیض سے تباہی عورتوں میں سے اگر تم کسی قسم کا شبہ کرو تو ان کی عدت تین مہینے ہے اور اسی طرح وہ عورتیں بھی جن کو حیض نہیں آیا۔ خواہ بچپن کی وجہ سے یا کسی اور علت کے باعث تو ان کی عدت بھی تین ماہ ہے اور وہ عورتیں جو حاملہ ہیں تو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں اور جو بچہ پیٹ میں ہے وہ جن لیں اور جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے واسطے اس کے کام میں سہولت پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود مشاہدہ کر لیتا ہے کہ کس طرح قدرت کی طرف سے اس کے کاموں میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔

اور کس طرح اس کے مسائل و مشکلات کا حل نکلتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے اور جو شخص بھی اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بہت بڑا کرتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلہ پر اللہ کا تقویٰ اختیار کریں انسان کو بیشک اپنے خانگی معاملات اور زندگی کے معاملات میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں بہت کچھ تکالیف اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان سب احوال میں اللہ کا تقویٰ ہی اس کو مناسب سے نکلانے پریشانیوں کو دور کرنے، مشکلات کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے اور پھر اس وصف تقویٰ سے متقی شخص کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی انعام ہے کہ اس کی جو برائیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو نور تقویٰ دور کر دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی خوب ملتا ہے یہ کیف عورتوں کے معاملات بالخصوص وہ عورتیں جو طلاق دے دی گئیں ضروری ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے خداوند عالم کا تقویٰ اختیار کیا جائے اور ڈرنا چاہیے کہ کسی طرح بھی ان پر کوئی ظلم و تعدی نہ ہو اسی سلسلہ میں یہ بھی حکم ہے۔ ان مطلقہ اور مستعدہ عورتوں کو گھروں میں رہنے کے ٹھکانا مہیا کرو۔ جہاں تم سکونت اختیار کرتے ہو اپنی قدرت و طاقت کے موافق کہ حق سخی کی وجہ سے وہ مستحق ہیں کہ تمہارے گھروں میں رہیں اور ظاہر ہے کہ رہائش کی ضروریات میں نفقہ بھی ان کا مہیا کرنا چاہیے اور تم ان کو مشقت میں مت ڈالو اس طرح کہ تم ان پر تنگی کر دو اور ان کی زندگی ان پر تنگ ہو جائے۔

عام حالات میں تو عدت کا زمانہ تین حیض یا تین ماہ میں پورا ہو جائے گا اور اگر وہ عاقلہ ہوں تو پھر یہ نہیں کہ تم وضع حمل کی مدت کا انتظار نہ کرو بسا اوقات اس کے طویل ہو جانے کی وجہ سے بلکہ تم ان پر خرچ کرو جہاں تک کہ وہ اپنا حمل وضع کر لیں۔ وضع حمل پر مطلقہ عورت کی عدت تو ختم ہو جائے گی اور عدت کے بعد چونکہ احکام زوجیت باقی نہیں رہے تو اولاد کو دودھ پلانا اب عورت کے ذمے باقی نہیں رہا تو ایسی صورت میں اگر وہ عورتیں دودھ پلائیں تو ان کو اہل کا بدلہ ادا کر دو اور طے کر لو آپس میں اپنے معاملات بھلے طریقہ سے اس طرح کہ نہ تو کوئی جھگڑا ہو اور نہ ہی کوئی کسی کی حق تلفی کرے اور اگر آپس میں تم دشواری محسوس کرو اور کسی چیز پر دونوں متفق نہ ہو سکو تو پھر بہتر ہے کہ کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی دودھ پلائے تاکہ باہمی منازعت اور خصومت کی نوبت نہ آئے۔ سچے کنی تربیت پر بہر کیف خرچ کرنا باپ کے ذمہ ہے تو چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت و فراخی کے مطابق خرچ کرے اور جس کسی پر رزق کی تنگی ہو تو خرچ کرے جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اللہ کسی کو بھی پابند نہیں بناتا مگر اسی مقدار کا جو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے اس سے زائد کا مکلف نہیں بنایا جاتا اور اگر کسی کو تنگی ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ عنقریب اللہ پیدا کر دے گا دشواری اور تنگی کے بعد آسانی اور سہولت اس وجہ سے وقتی تنگی سے انسان کو حقوق ادا کرنے میں رکاوٹ نہ کرنی چاہیے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وہی رحمت اور فراخی کے دروازے کھولنے والا ہے۔

مطلقہ عورتوں کی عدت کے بعض احکام

سورہ بقرہ میں آیت: "وَالَّذِينَ يُتَوَقَّفُونَ مِنْكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آبَاءَهُمْ بِمَا نَادَوْا بِهِمْ فَاتَّبِعُوا سَبِيلَ آبَائِهِمْ كَمَا يُنْفِقُونَ فِي حَرْبٍ" اور آیت: "وَالَّذِينَ يُتَوَقَّفُونَ مِنْكُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آبَاءَهُمْ بِمَا نَادَوْا بِهِمْ فَاتَّبِعُوا سَبِيلَ آبَائِهِمْ كَمَا يُنْفِقُونَ فِي حَرْبٍ" سے یہ حکم مطلق تھا اس میں قید نہ تھی کہ وہ کون سی عورتوں کا حکم ہے۔ حاملہ ہوں یا غیر حاملہ تو اس آیت نے یہ واضح کر دیا کہ وہ حکم غیر حاملہ عورتوں کا تھا اور حاملہ عورتوں کا حکم ہر قسم کی عدت میں یہ سب سے زیادہ وضع حمل تک ان کی عدت باقی رہے گی تو اس صورت میں کسی بھی آیت کو منسوخ قرار دینے کی نوعیت نہیں رہتی بلکہ ہر نوع کا حکم علیحدہ ہر ایک آیت نے بیان کر دیا پھر یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یہ آیت جو سورہ طلاق میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت سے بعد میں نازل ہوئی۔ ابتداء میں بعض صحابہ کا خیال تھا کہ عدت و نفاس کی صورت میں عورت اگر حاملہ ہو تو عدت کا زمانہ وہ قرار دیا جائے گا جو زندہ ہو۔ وضع حمل یا چار ماہ دس دن یعنی اگر وضع حمل خاوند کے انتقال کے بعد جلد ہی ہو جائے تو پھر چار ماہ دس دن کا انتظار کیا جائے گا اور اگر چار ماہ دس دن گزر جائیں اور وضع حمل نہ ہو تو پھر وضع حمل کی عدت کو انتہا قرار دیا جائے جیسا کہ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا گیا۔

جمہور صحابہ اور ائمہ فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ خاوند کے انتقال کے بعد اگر چند لمحے ہی گزرنے پر بچہ جن دسے تو پاک ہونے پر اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور اس وقت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما ہی وہیں بیٹھے تھے اور اس نے کہا کہ اے عبداللہ بن عباس میں ایک عورت کے بارہ میں آپ سے فتویٰ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حاملہ عورت ہے اس نے اپنے شوہر کے انتقال کے چالیس روز بعد سچے جنا ہے تو اب وہ عورت کس طرح شمار کرے؟ ابن عباس نے جواب دیا کہ دونوں مدتوں میں سے جو طویل مدت ہے وہی عدت ہوتی ہے یعنی اب اس صورت میں چار ماہ دس دن عدت کے گزارنے ہوں گے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: "وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" (آیت قرآنیہ ہے جس سے تو یہی سمجھا جاسکتا ہے کہ بس وضع حمل پر عدت پوری ہو جائے) اس پر ابوہریرہ نے کہنے لگے کہ میں تو اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے ساتھ ہوں (اور ان کی واقف کرنا ہوں) حضرت عبداللہ بن عباس نے اپنا غلام حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ سیدہ اسمیہ کے شوہر قتل کر دیئے گئے تھے اور وہ اس وقت حاملہ تھیں سیدہ نے اپنے خاوند کی موت کے

چالیس دن بعد بچہ جنا جب وہ پاک ہوئیں تو ان کے واسطے پیغام نکاح آیا۔ بعض اقرباء کے اعتراض و انکار پر انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی (امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ و دیگر ائمہ محدثین نے اس قصہ کو اجمال و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی اس بات کی تردید فرمایا کرتے تھے کہ ایسی عورت کے لیے ابعدالاجلین کو عدت قرار دیا جائے گا۔ اور سورہ طلاق کی اس آیت کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کے بعد تو کوئی آیت ہی اس مسئلہ میں نازل نہیں ہوئی حضرت مسروقؒ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابعدالاجلین کے قائل ہیں تو بڑی سختی سے ان کا رد فرمایا اور فرمایا میں اس پر طاعت کرنے کو تیار ہوں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے بعض روایات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ابی بن کعبؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیت **وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ مطلقاً** کے بارہ ہیں یا اس عورت کے حق میں جس کے خاوند کا انتقال ہو گیا ہو فرمایا یہ دونوں کے بارہ میں ہے یہ روایت اگرچہ سند ضعیف سے مروی ہے لیکن یہی مضمون متعدد مسندوں سے مروی ہونے کے باعث اصول حدیث کی رو سے قابل اعتماد اور حجت ہے مگر سببہا سلمیہ کی روایت جس کو بخاریؒ و مسلمؒ اور دیگر ائمہ حدیث نے تخریج کیا وہ متفق علیہ ہے اور حجت کے لیے کافی ہے۔

معدتہ عورت کے لیے نفقہ اور سکنی

عدت احکام نکاح اور تعلقات حقوق نکاح سے ہے۔ شریعت کے اس بنیادی ضابطہ کے پیش نظر یہ بات واضح ہے کہ مطلقہ عورت کے لیے عدت کا زمانہ گزارنے کے واسطے مرد کے ذمہ یہ ضروری ہو کہ مکان دے جس کو شریعت کی اصطلاح میں سکنی کہا جاتا ہے اور جب عورت از روئے سخن شرعاً حالت عدت میں مکان سے باہر نہیں نکل سکتی تو لا محالہ نفقہ بھی مرد کے ذمہ لازم ہوگا۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ **أَسْكِنُوهُنَّ مَنَٰسِكَ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجْدِكُمْ** اسی بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ عورت کے لیے حتی المقدور یہ انتظام کرنا ضروری ہوگا اور حتی المقدور رہائش کا بند و بست مکان نفقہ اور کپڑوں پر دلالت کر رہا ہے بعض محدثین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیف سے بیان کیا کہ وہ اس موقع پر لفظ **وَأَنْفَعُوا خَلَائِقَهُنَّ** بھی پڑھا کرتے تھے (جس کو ان کے تلامذہ نے ان کے صحیف میں بطور حاشیہ یا کلمات بین السطور لکھ بھی دیا تھا) امام ابوحنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک نفقہ کا حکم عام ہے ہر قسم کی مطلقہ عورتوں کے متعلق ہے جیسا کہ آئسہ، صفیہ اور عائشہ کی عدت کا مسئلہ کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں اسی طرح نفقہ کے حکم میں بھی کوئی تخصیص نہیں۔

فاطمہ بنت قیسؓ جن کو تین طلاقیں دی گئی تھیں ان کی روایت میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان ہی الفاظ و کلمات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واسطے نفقہ اور سکنی کا حکم نہیں فرمایا۔ نفقہ کے وجوب کی دلیل نہیں بن سکتا۔ فقہاء اور ائمہ محدثین کی تحقیق اور روایات کے تتبع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ عورت چونکہ بد زبان تھیں اور جنگرتی تھیں تو خاوند کے گھر ان کے خاندان کے لوگوں سے ان کا بناہ مشکل ہو رہا تھا اس وجہ سے یہ عورت ہونی کر ان کو سکنی نہیں دیا گیا تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اپنے مزاج کے لحاظ سے شوہر کے گھر جب نہ رہ سکیں تو ان کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا چنانچہ سنن کی روایات میں اس کی تصریح ملتی ہے اور جب سکنی کا مسئلہ نہ رہا تو نفقہ بھی نہ رہا۔ جیسے کہ نامشورہ عورت کے بارہ ہیں یہی حکم ہے۔ جو عورت نافرمانی کر کے شوہر کے گھر سے نکل جائے تو اس کا نفقہ موقوف ہو جاتا ہے۔ نیز جامع ترمذی و دیگر سنن کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو نفقہ دیا گیا تھا ان کے خاوند نے وکیل کے ذریعے وہ نفقہ بھیجا تھا مگر اس عورت نے زائد کا مطالبہ کیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور نہ فرمایا اور یہ فرمایا بس تیرے واسطے اتنا ہی نفقہ کافی ہے "الآن تکونی حاکملاً" ہاں البتہ اگر فوجا ملے ہوتی اور مدت حمل طویل ہوتی تو ایسی صورت میں بے شک تیرا نفقہ زائد کیا جاسکتا تھا تو دراصل اسی مقدار زائد کے انکار کو یہ عورت فاطمہ بنت قیسؓ کہا کرتی تھی کہ اس کے واسطے نفقہ اور سکنی کا فیصلہ نہیں فرمایا مگر فاطمہ کے اس بیان اور اس قسم کے اظہار کو حضرات صحابہ حتیٰ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ پسند نہیں فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ ما نفاطمات لا تتقی الذن۔ لقول ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعل یجعل لہا نفقۃ ولا سکنی لکہا ہو گیا فاطمہ کو یہ اللہ سے نہیں ڈرتی یہ کہتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واسطے نفقہ اور سکنی کا فیصلہ نہیں فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ

خدا کی قسم ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے محض ایک عورت کے قول پر معلوم نہیں اس نے صحیح بات سمجھی یا نہیں یا کوئی چیز بھلا دی۔

واللہ لا ندع کتاب ربنا ولا سنتہ نبینا لقول امرأۃ جہلت اوسیت۔

جس سے منافق واضح ہوا کہ مطلقہ کے لیے نفقہ اور سکنی فاروق اعظمؓ کے نزدیک کتاب اللہ کا حکم تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی طحاوی میں حضرت عمرؓ سے اس کا سنت رسول اللہ ہونا ثابت ہے اور اسی طرح دارقطنی میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں بھی اس کی تصریح ہے۔ حضرات اہل علم مراجعت فرمائیں۔

طلاق ثلاث باجماع اُمت تین طلاق ہیں

نص قرآنی نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تین طلاق کے بعد حرمت قطعاً واقع ہو جاتی ہے۔ اور رجوع کا امکان باقی نہیں رہتا جس کی تفصیل سورہ بقرہ کی آیت **فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهَا فِي سَبْعٍ مُّقْتَضٍ** اور علیحدہ دی ہوں یا بیک وقت۔ اس اجماعی فیصلہ میں کسی کا اختلاف نہیں البتہ ظاہر ہے اور بعض حنا بلہ سے اختلاف نقل کیا گیا۔ مگر خود امام احمد بن حنبلؒ اس کے قائل نہیں۔ امام ابو حنیفہؒ امام مالکؒ امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ کا یہی فتویٰ ہے اور اُمت کے کل فقہاء محدثین و مفسرین اسی کے قائل ہیں۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے بھی اس پر ایک باب باندھا ہے فرمایا: **بَابُ مَنْ اجازَ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى اَطْلَاقِي مَسْرُوحًا** امام قرظبیؒ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک دفعہ ایک ہی زبان سے تین طلاق کہہ دینے سے تین طلاق واقع ہو جاتی ہیں۔ البتہ طاووسؒ اور بعض ظاہر یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کلمہ سے تین طلاق دینے سے ایک شمار کی جائے گی۔ اس کے بعد امام قرظبیؒ نے تمام شکوک و اوہام کا جواب دیا (اصل کی مراجعت فرمائی جائے) روایات سے ثابت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف میں تمام صحابہ اور تبعاء کے مشورہ سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ جو شخص تین طلاق دے گا اس کو تین ہی شمار کیا جائے گا۔ اور کسی نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو اس کے دُڑے لگانے جائیں گے۔ حضرت عثمان غنیؓ اور حضرت علیؓ سے بھی یہی فتویٰ نقل کیا گیا ہے۔

محلّی ابن حزمہ۔ زاد المعاد۔ اغاثر اللہقان لابن القیم اور سنن بیہقی میں حضرت عمر و عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کا یہ فتویٰ باسانید صحیحہ نقل کیا گیا ہے۔ شیخ ابن ہمامؒ نے خلفائے ثلاثہ اور عبادلہ سے مراجعت اسی بات کو نقل کیا کہ بیک وقت بھی تین طلاق دینے سے عورت مغفلہ ہوتی ہے علامہ زرغانیؒ نے شرح موطا میں حافظ ابن عبد البرؒ تلمیذی ابو بکر جصاصؒ امام طحاویؒ اور حافظ عسقلانیؒ نے اس اجماعی فتویٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی مخالفت ناقابل التفات اور ناقابل اعتبار ہے۔ عت

حافظ ابن تیمیہؒ نے اگرچہ اس میں اختلاف کیا مگر ان کے خاص رفیق اور زندگی بھر ساتھ دینے والے امام حافظ ابن رجب حنبلیؒ نے بڑی شدت سے ابن تیمیہؒ کا رد فرمایا۔

۵۔ تفسیر قرظبی ج ۳ ص ۱۲۹۔

۶۔ فتح الباری ج ۹ ص ۳۱۹۔

۷۔ ملاحظہ فرمائیں معارف القرآن جلد ۱ ص ۱۳۳ تا ۱۳۴۔

مسئلہ طلاق ثلاث میں حدیث عبد اللہ بن عباس کی تحقیق

اس اجماعی مسئلہ میں اختلاف کرنے والے اس روایت کا سہارا لیتے ہیں جو حضرت عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں مگر پھر عمر فاروقؓ نے تین طلاقیں جاری کر دیں تو بعض ظاہر یہ نے اس سے استدلال کیا کہ اصل تو تین طلاقیں بیک وقت ایک ہی شمار ہوتی ہیں، ان کو تین کی حیثیت سے جاری نہ کرنا یہ عمر فاروقؓ کا کسی حکمت اور مصلحت کے باعث اپنا عمل اور فیصلہ تھا تو اس سلسلہ میں اولاً تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف اور ناقابل اعتبار ہے۔

چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ، ابن عبد البرؒ، قرطبیؒ، ابو بکر رازیؒ، جصاصؒ و دیگر ائمہ محدثین اس کی تضعیف کرتے ہیں اس حدیث کی سند میں ایک راوی صہیب ابو الصہب باد بکری واقع ہے جس کو ابو زرہؓ نے ثقہ بتایا ہے لیکن امام نسائی اس کو ضعیف فرماتے ہیں۔ بہر کیف راوی مشکم فیہ ہے اسی وجہ سے بخاری نے اس کی روایت نہیں تخریج کی۔ حافظ مارینیؒ الجوہر المنیؒ ۳۲۷ ۳۲۸ میں لکھتے ہیں۔

وابوالصہباء ممن روی عنہم مسلم دون البخاری وتكلموا فيس. قال الذهبي في انكشاف
قال النسائي ضعيف فعلى هذا يحتمل ان البخاري ترك هذا الحديث لاجل ابى الصهباء من
برعكس امام بخاری نے باب من اجاز الطلاق الثلاث لقول الله عز وجل الطلاق مكره ثم قال
بمصر ووفى او قسرت كما احسن. منعقد کر کے طلاق ثلاث کے جواز کو آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ سے ثابت کیا کہ عہد رسالت میں تین طلاقیں لازم اور نافذ تھیں۔

اس کے علاوہ سنہ اور متن میں اضطراب ہے، فی اسناد عن عبد اللہ بن طاؤس عن طاؤس
وفی اسناد آخر عن طاؤس عن عبد اللہ بن عباس اور متن کا اضطراب یہ ہے کہ کسی روایت کے متن میں یہ
ہے کہ خود ابن عباسؓ عام طور پر یہ کہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ کے عہد میں اور حضرت عمر فاروقؓ
کے زمانہ خلافت میں دو سال تک تین طلاقیں ایک ہی طلاق تھی الخ اور کسی روایت میں ہے کہ ابوالصہباء نے
اس ایک طلاق کو غیر مدخولہ کے حق میں مجھ کر ابن عباسؓ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جب آدمی اپنی
عورت کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دے دیتا ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکرؓ کے زمانہ اور عمر فاروقؓ
کے ابتدائی دور خلافت میں اس کو ایک ہی جانا جاتا تھا۔ ابن عباسؓ نے بھی اس کو غیر مدخولہ کے حق میں سمجھ
کر ہی فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے جب آدمی اپنی عورت کو صحبت سے پہلے تین طلاقیں دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم و ابو بکرؓ کے زمانہ میں اور عمر فاروقؓ کے ابتدائی دور خلافت میں لوگ اس کو ایک ہی جانا کرتے تھے تو

اس حقیقت کے پیش نظر مسئلہ کی نوعیت قطعاً ہی بدل گئی۔

حافظ ابن قیمؒ نے بھی اغاثۃ اللبغان میں اس اضطراب کو تسلیم کیا ہے۔ دیکھو عمدۃ الاسباحث ص ۳۷۔
مزید برآں یہ حدیث شاذ ہے جیسا کہ بیہقیؒ اور ابوبکر بن عربیؒ سے منقول ہے کیونکہ ابن عباسؓ سے
اس کا راوی صرف طاؤسؓ ہے اور طاؤس کے علاوہ ابن عباسؓ کے کبار تلامذہ و اصحاب مثلاً مجاہد سعید بن جبیرؒ
اور عطاء بن ابی رباحؒ، عمرو بن دینار اور مالک بن الحارث وغیر ہم یہ نہیں بیان کرتے۔

ابن عباسؓ کا فتویٰ تمام کتب سنن میں مذکور ہے۔ احمد بن حنبل سے دریافت کیا گیا کہ آپ کس
بناد پر حدیث ابن عباسؓ رو کرتے ہیں تو احمد بن حنبل نے یہی غمزہ کیا کہ ابن عباسؓ کے تمام شاگرد طاؤس
کے خلاف ان سے روایت کرتے ہیں۔

وقال الاثرم سألت ابا عبد الله احمد بن حنبل عن حديث ابن عباس كان الطلاق على
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والابوبكر وعمر واحد فبأى شيء تدفعه
فقال بروايت الناس عن ابن عباس انها ثلث. كذا في المغني (اعلام السنن ص ۵۲۷ ج ۱۱)

قال الجوزجاني هو حديث شاذ وقد عنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم
اجد له اصلا. وقال القاضي اسماعيل في احكام القرآن طاؤس مع فضله وصلاحيته
يروى اشياء منكروة فمنها هذا الحديث. وقال ابن رجب كان علماء مكة يكرهون
على طاؤس ما ينفرد به من شواذ الاقوال. (اعلام السنن ص ۵۳۰ ج ۱۱)

قاضي ابوبکر جصاصؒ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث منکر ہے۔ وبہ قال اماردینی فی الجوہرۃ۔ و ذکر
صاحب الاستذکار عن ابن عبد البر ان هذه الرواية وهم غلط لعرض جعلها
احد من العلماء۔

بہر کیف اس تمام تفصیل سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ یہ حدیث اپنی سند کے لحاظ سے قابل
اعتبار اور حجت نہیں اس وجہ سے اجماع امت اور نفس کتاب اللہ کے خلاف اس حدیث ابن عباسؓ سے تین
طلاق کو ایک قرار نہیں دیا جاسکتا ان اقوال و نقول کے بعد اس کے جواب کی کوئی ضرورت تو نہیں رہتی
تاہم اگر چاہیں تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حکم غیر مدخول کا ہے اس کی تین طلاقیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکرؓ
اور عمرؓ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی گزشتہ روایت سنن ابی داؤد
میں بایں الفاظ مروی ہے: (عمدۃ الاسباحث ص ۱۰)

امام نسائیؒ نے اپنی سنن میں باب الطلاق الثلث المتفرقة قبل الدخول بالمزوجة۔
منعقد کر کے اس حدیث کو صرف غیر مدخول عورت کے حق میں شمار کیا ہے۔ بہر کیف اس تفصیل و تحقیق کے بعد
اس تاویل کی کوئی ضرورت نہیں رہتی جو بعض علماء سے منقول ہے۔

ابتداء زمانہ میں کہ نہ شخص۔ أنت طالق۔ أنت طالق۔ أنت طالق۔ کتنا کہ انت طالق۔

تاکید ہوتی تھی نہ کہ استیناف لیکن لوگ جب کثرت سے حضرت عمرؓ کے زمانہ میں یہ صیفا استعمال کرنے لگے اور قرآن کی دلالت سے یہ معلوم ہو گیا کہ لوگ استیناف کا ارادہ رکھتے ہیں تو غالب اور معارف کو ملحوظ رکھتے ہوئے تین طلاقیں شمار کی گئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون تھا تو لوگ اس تکرار سے تاکید کا ارادہ کرتے تھے اور جو دل میں نیت کرتے تھے وہ صاف صاف زبان سے ظاہر کر دیتے تھے۔ اس وقت تک طبائع میں مکرو فریب اور حیلہ و دجل نہیں تھا لیکن عمر فاروقؓ نے جب یہ دیکھا کہ زمانہ بدل گیا ہے اور لوگوں کے احوال بھی بدل گئے اور لوگ جلد بازی میں تین طلاقیں ایک وقت دینے لگے اور معارف یہ تھا کہ لوگ نیت تجدید و استیناف کی کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد عمر فاروقؓ نے تین کو نافذ فرما دیا اور یہ گنجائش نہ رکھی کہ کس وقت بھی کوئی شخص ایسا اقدام کرنے کے بعد پھر یہ جیلہ کرنے لگے کہ میں نے تو تین نہیں بلکہ ایک ہی کا تکرار بطور تاکید کیا تھا۔ مگر سند کی تحقیق بالخصوص امام نسائیؒ کی اس وضاحت کے بعد "باب الطلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بازوجہ۔" اس طرح کی کسی تاویل یا جواب کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

وَكَأَيِّنُ مِنْ قَرْيَةٍ عَدَّتْ

اور کئی بستیوں اچھل چلیں اپنے

عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا

رب کے حکم سے۔ اور اس کے رسولوں کے پھر ہم نے حساب میں پکڑا انکو سخت حساب میں۔

وَعَدَّ بَنُهَا عَذَابًا نَكْرًا ۝ فذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَ

اور آفت ڈالی ان پر ان دیکھی آفت۔ پھر چکھیں سزا اپنے کام کی۔

كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا

آخر اس کے کام میں ٹوٹا آیا۔ رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے سخت

شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا

ہاں۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے۔ اے عقل والو۔ جن کو یقین ہے۔

عہ اس مسئلہ کی تحقیق و تفصیل حضرت والد محترم مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلویؒ کے حنفیہ

تفسیر میں سورۃ بقرہ کی آیت فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَكَ فِيهَا مَا مَلَاحِظْنَا مِنْ ۱۲

قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝۱۰ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ

اللہ نے تمہاری جے تم پر سمجھوتی ۔ رسول ہے جو پڑھتا ہے تم پر اس آیتیں

اللَّهُ مَبِينَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ

اللہ کی کھلی سنانے والی کہ نکالے ان کو جو یقین لائے ، اور کئے بھلے کام

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا

اندھروں سے آجائے میں ۔ اور جو کوئی یقین لادے اللہ پر اور کرے کچھ بھلائی

يَدْخُلْهُ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا

اس کو داخل کرے باغوں میں نیچے بہتی جن کے نہریں ، سدا رہیں ان میں

أَبَدًا ۝ قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۝۱۱ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ

ہمیشہ ۔ البتہ خوب دی اللہ نے اس کو رزق ۔ اللہ وہ ہے جس نے بنائے

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ

سات آسمان اور زمینیں بھی اتنی ، اترتا ہے حکم ان

بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ وَأَنَّ

کے بیچ ۔ تا تم جانو کہ اللہ ہر چیز کر سکتا ہے ۔ اور

اللَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝۱۲

اللہ کی خبر میں سہاٹی ہے ہر چیز کی ۔

تنبیہ و تخریر برنارانی رب العالمین و

در کس عبرت بر بیان ہلاکت قریہائے مجرمین

قال اللہ تعالیٰ - وَكَأَيِّنْ مِنْ قَوْمٍ عَتَيْتُ إِلَى لَكَ شَيْءٌ وَعِلْمًا



اہل بطنہ، گزشتہ آیات میں معاشرت اور معاملات کے احکام ذکر فرمائے جا رہے تھے جن میں عدل و انصاف کا حکم تھا اور عدل و انصاف قائم کرنے کی بنیاد خوفِ خدا ہے اس وجہ سے درمیان میں تین بار دُفَعْنِ تَبْتِقِ الدِّعَاءَ ذکر فرمایا گیا کہ اللہ کا تقویٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کرتا ہے اللہ کے تقویٰ سے دشواریاں آسانیوں سے بدل جاتی ہیں، اور اللہ کے تقویٰ سے انسان اپنی برائیوں سے پاک ہو کر مستحقِ اجر عظیم ہوتا ہے تو اس آیت میں اللہ کی نافرمانی پر وعید اور تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، اور یہ کہ تمام مباح عالم اس بات کی گواہ ہے کہ مجرمین پر خدا کا کس طرح عذاب نازل ہوا اور یہ کہ اللہ رب العزت کا یہ عظیم انعام و کرم ہے کہ اس نے اپنا رسول بھیجا تاکہ لوگ کفر کی ظلمتوں سے بچ کر ایمان و ہدایت کا نور حاصل کریں۔ ارشاد فرمایا۔

اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کی اطاعت سے سرکشی کی اور بغاوت کا طریقہ اختیار کیا تو ہم نے ان کو حساب میں پکڑ لیا بڑا ہی سخت حساب لیا اور عذاب میں ڈال دیا ان کو نہایت ہی ناگوار اور ناقابلِ برداشت عذاب میں پھر چکھ لیا ان بستیوں نے اپنے عمل کی سزا کو اور اسباب کا ان کے عمل کا خسارہ ہی تھا دنیا میں تو تباہ و برباد کیسے ہی گئے مزید برآں اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے واسطے سخت عذاب فاجر ہے کہ ایسے دردناک عذاب کے واقعات سن کر ہی عقل والوں کو ایسی برائیوں بد اعمالیوں اور خدا کی نافرمانی سے باز آ جانا چاہیے کہ کہیں اس طرح کی کوئی بے اعتدالی کر کے خدا کی پکڑ میں نہ آجائیں۔

نہ اذرتے رہو اللہ سے اے عقل والو جو کہ اللہ پر ایمان لائے۔ کیونکہ عقل انسانی اللہ کی معرفت کا باعث ہے اور اس کی قدرت خالقیت و وحدانیت پر ایمان لانے پر آمادہ کرتی ہے اس وجہ سے عقل والے کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے۔ بے شک اللہ نے اے لوگو! تمہارے تہا ہی طرف ایک نصیحت کا پیغام یعنی وہ رسول جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے جو کھول دینے والی ہیں حق اور باطل کو، تاکہ وہ نکال لے ایمان والوں اور نبی کے کام کرنے والوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ کہ کفر اور جہالت کی ظلمتوں سے بچ کر وہ نور ہدایت قبول کر لیتا ہے اور یقیناً جو شخص بھی اپنی عقل و فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کی ہدایت کو قبول کرتا ہے اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ جزاء اور اکرام کا مستحق ہے اس لئے اللہ نے اللہ پر خداوند عالم نے یہ قانون طے کر دیا ہے اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک کام کرے تو اللہ اس کو ایسے باتوں میں داخل کرے گا جن کے محلات کے نیچے نہ ہیں بہتی ہوں گی جو ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے یقیناً خوب

ہی رزق اللہ نے ایسے شخص کے واسطے عطا کی ہے کہ جنت کے رزق سے بڑھ کر اور کون سا رزق ہو گا تو یہ رزق بھی بہتر ہے اور اعمال کا بدلہ بھی بہتر ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی ایک بہترین رزق تھا جو اللہ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں عطا فرمایا۔ وہ اللہ ہی ہے کسی عظیم قدرت والا جس نے سات آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی اسی طرح سات زمینیں پیدا کیں اور تخلیق کائنات عالم حکومت السموات اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق کا ایسا عجیب اور محکم نظام مقرر فرمایا کہ دنیا کے عقلاً اور حکماء حیران میں پھر نظام کو مبنی جیسا کہ محکمہ منظم اور مرتب ہے اسی طرح اس کا تشریحی نظام بھی نہایت محکم ہے۔ چنانچہ اترتا ہے اس کا حکم ان کے اندر خواہ وہ آسمان، زمین یا زمین

نبوت کے ساتھ العیاذ باللہ کسی اور نبوت کا بھی امکان ہے اس وجہ سے مناسب ہے کہ اس کی قدر سے تحقیق کر دی جائے تاکہ اس قسم کے ادعا پر باطلہ کا کوئی امکان نہ رہے۔

امام بیہقی نے ابن عباس کی اس روایت کے راویوں کے معتبر ہونے کے باعث اسناد کو قابل اعتبار قرار دیا مگر محدثین و اصولیین کے ایک مسلمہ قانون کے پیش نظر کہ یہ حدیث دیگر احادیث معروضہ کے خلاف ہے اس وجہ سے شاذ اور معلول ہے اور احادیث شاذہ کو محدثین نے محبت نہیں سمجھی اس وقت وقوعہ پر حضرت ولد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نادر تحقیق قارئین کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں یہ تحقیق الحمد للہ ایمان و استقامت کی ضامن و کفیل ہے فرماتے ہیں۔

"اسلام کی دعوت اس زمین کے سوا دیگر طبقات ارض میں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں اگرچہ تو تشریح اس بارہ میں کوئی نص وارد نہ ہوئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کو بیان فرماتے اس بناء پر علماء نے اس اثر کو باوجود صحیح الاسناد ہونے کے شاذ بتلایا ہے اور اگر صحیح مانا بھی جائے تو اس کی مختلف تاویلیں کی جاسکتی ہیں۔"

مکن ہے مراد یہ ہو کہ زمین کے ہر طبقہ میں ایک بادی ہے جو اس طبقہ کے نبی کے ہم نام ہو۔

تاویل اول

پس ان طبقات تحتانیہ میں آدم اور نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ کے ہم نام بادی ہوتے ہیں جو حقیقت میں انبیاء نہ تھے بلکہ محض بادی تھے اور اس طبقہ کے انبیاء کے ہم نام تھے اور کسی اعتبار سے اس طبقہ کے انبیاء و رسل کے مشابہ تھے جیسا کہ حدیث میں ہے: "علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل" اور مشابہت سے مائت اور مساوات لازم نہیں آتی اس لیے کہ کلام عرب میں کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے اور تشبیہ کے لیے یہ لازم نہیں کہ مشبہہ مشبہ بہ کے مماثل اور برابر ہو۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت کرنا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی نظیر اور ہمسر ہے کسی طرح صحیح نہیں نیز حق تعالیٰ شانہ کے اس قول "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ الْإِبْرَاهِيمَ وَ آلَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْعَالَمِينَ" سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اولاد آدم کے ساتھ مخصوص ہے اور صبور علماء کا بھی یہی قول ہے کہ جنات میں سے رسول نہیں آئے تحتانی طبقات کے باشندے اسی طبقہ زمین کے پیغمبروں کے تابع رہے ہیں۔

۱ دیکھو کشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۶۱ / ج ۱

یہ بھی مکن ہے کہ حضرت ابن عباس کی مراد یہ ہو کہ جس طرح اس طبقہ زمین میں نبوت کا سلسلہ جاری رہا اس طرح زمین کے تحتانی طبقات میں بھی ہدایت کے لیے نبوت و

تاویل دوم

بعثت کا سلسلہ جاری رہا۔ اور چونکہ بدلائل عقلیہ و نقلیہ سلسلہ کا غیر مناسی ہونا باطل ہے اس لیے ضروری ہوا کہ ہر طبقہ میں ایک مبداء سلسلہ ہوگا جو ہمارے آدم کے مشابہ ہوگا اور ایک آخر سلسلہ ہو جو ہمارے خاتم النبیین کے مشابہ ہوگا پس بناء علیہ طبقات تحتانیہ کے اوخر انبیاء پر خاتم کا اطلاق درست ہوگا مگر اس کی خاتمیت اس طبقہ کے ساتھ مخصوص ہوگی عام نہ ہوگی بلکہ اضافی ہوگی اور ہمارے خاتم الانبیاء کی خاتمیت عام اور تمام مطلق اور دائم ہوگی کیونکہ آپ کی دعوت اور بعثت عام ہے کوئی فرد بشر اس سے مستثنیٰ نہیں لہذا مطابق عقائد اہل سنت

یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ کی نبوت در رسالت عام ہے اور قیامت تک تمام جن وانس پر آپ کی شریعت کی پیروی فرض اور لازم ہے پس اگر بالفرض والتقدیر آپ کے زمانہ میں کسی طبقہ زمین میں کوئی نبی ہوا بھی تو آپ ہی کے شریعت کا متبع ہوگا اور وہ صرف اپنے ہی طبقہ کا خاتم ہوگا۔ اور اس کی خاتمیت اضافی ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت عام اور تمام اور دائم ہے۔ حضور پر نورؐ جس طبقہ زمین پر مبعوث ہوئے اس طبقہ زمین پر جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مسیلمہ کذاب کی طرح بلاشبہ دجال اور کذاب ہوگا۔ مسیلمہ کذاب خواہ یمن کا ہو یا پنجاب کا سب کا ایک ہی حکم ہے۔

اور طبقات تحفاتیہ کے خواتم میں عقلاً تین احتمال ہیں اور یہ کہ وہ خواتم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت کے بعد ہوں یہ احتمال قطعاً باطل ہے اس لیے کہ حدیث لا نبی بعدی اس بارہ میں نص صریح ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ وہ دوسرے خواتم آپ سے مقدم ہوں اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ وہ آپ کے بمعصر ہوں۔ اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ ضرور بالفرض شریعت محمدیہ کے متبع ہوں گے اور ان کی خاتمیت اضافی ہوگی اور ہمارے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اور دعوت عام اور تام ہوگی بہر حال خاتمیت حقیقی جو یا اضافی ظہور خاتم کے بعد ہر طبقہ زمین میں نبوت کا دعویٰ کفر اور دجل ہوگا اور ہر طبقہ کا مدعی نبوت کذاب اور دجال اور مسیلمہ اور مسود عیسیٰ کی طرح واجب القتل ہوگا۔ اور علیٰ ہذا جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دعوت کو اسی طبقہ زمین کے ساتھ مخصوص سمجھتا ہو اور ہر طبقہ کے خاتم کو صاحب شرع جدید سمجھتا ہو وہ بلاشبہ کافر اور دجال ہے۔

یہ بھی کہا جاسکتا ہے جیسا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ کا یہ قول عالم مثال پر **تاویل سوم** محمول ہے کہ ہر طبقہ زمین میں اس طبقہ زمین کے سورہ مثالیہ اور اشباہ اور امثال موجود ہیں جیسا کہ ابن عباسؓ کی ایک روایت اس معنی کی تائید کرتی ہے۔ وہ یہ کہ ابن عباسؓ سے ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان زمینوں میں مجھ جیسا ابن عباسؓ بھی ہے اور ہر زمین میں اور ہر آسمان میں ایک خانہ کعبہ موجود ہے اس طرح زمین و آسمان میں ایک خانہ کعبہ موجود ہے اس طرح زمین و آسمان میں چودہ خانے کعبہ موجود ہیں۔ حضرات اہل کشف کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے اور عالم مثال یعنی رؤیت مثالیہ پر محمول ہے اور فتوحات کبیر میں اس قسم کی چیزیں بکثرت موجود ہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

جدید فلاسفہ کا نظریہ

قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سات آسمان ہیں اور سات زمینیں ہیں۔ فلاسفہ عصر آسمان کے وجود کے تو سرے سے قائل ہی نہیں اور زمین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک زمین ہے اور باقی چھ زمینوں کے قائل نہیں۔ فلاسفہ عصر کہتے ہیں کہ فضا میں جو نیلگوں رنگ نظر آتا ہے یہ فضاء کا یا ارتھر کا رنگ ہے اس لیے کہ بڑی بڑی نزدیک کن خوردبینوں سے سوائے کو ایک کے فضاء میں کوئی اور جسم نظر نہیں آتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا نظر نہ آنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے بعد مسافت کی وجہ سے آسمان نظر نہ آتا ہو اس لیے یہ انکار قابل التفات نہیں نیز فلاسفہ عصر کا مذہب، یہ ہے کہ اس فضا اور فلک کی کوئی انتہاء نہیں اور ظاہر ہے کہ خوردبین کی رسانی غیر محدود نہیں۔ پس ممکن ہے کہ آسمان اس غیر محدود فضا اور غیر متناہی خلا کے اندر اتنے دور فاصلہ پر واقع ہو کہ بعد مسافت کی وجہ سے دوربین کی رسانی نہ ہو سکتی ہو اور یہ نیلگوں رنگ جو ہم کو نظر آتا ہے وہ آسمان دنیا کا پلستر ہو۔ دیکھنے والے کو صل عمارت تو نظر نہیں آتی بلکہ اس کا پلستر دکھائی دیتا ہے اور علیٰ بن فلاسفہ عصر کا سات زمینوں کے وجود کا انکار بھی بالکل بے دلیل ہے جس طرح ایک زمین موجود ہو سکتی ہے اسی طرح سات زمینیں بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ سات زمینوں کا وجود عقلاً محال اور مستح نہیں اور چونکہ مخبر صادق نے ہم کو ان کے وجود کی خبر دی ہے لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور فلاسفہ عصر کی بیلیل باتوں سے قرآن وحدیث اور اللہ ورسول کی باتوں میں شکوک و اوتھام پیدا کرنا زب نہیں دیتا اس تحقیق عمیق سے اہل علم کے قلوب کو یقیناً طمانیت و سکون نصیب ہوگا اور دین اسلام کے کسی عقیدہ پر کسی طرح کا بھی شبہ پیدا نہ ہو سکے گا۔ **وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ**

تم بحمد اللہ تعالیٰ وبتوفیق اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ الطلاق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورة التحريم

اس سورت کا مضمون اپنی عظمت و اہمیت کے لحاظ سے اس بات کی راہنمائی کر رہا ہے کہ مسلمان کو اپنی گھر پر زندگی کس اعتدال و احتیاط کے ساتھ گزرنی چاہیے اور اس میں اہل بیت کے حقوق و جذبات کی رعایت کے ساتھ احکام خداوندی کی اطاعت کو بھی پوری طرح برقرار رکھا جائے اور اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ازدواج میں سے کسی کی دنیوی کی خاطر کسی دوسرے کی حق تلفی کا ادنیٰ شائبہ بھی نہ پایا جاتا ہو۔

ابتداء سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مباح چیز یعنی شہد اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کا ذکر ہے پھر ایسے جذبات جو اس امر کا داعی بنے ان کا بھی بیان ہے ساتھ ہی اس پر بھی تفسیر ہے کہ گھر پر زندگی کے نوازم میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی راز ہو تو اس کو راز ہی رکھا جائے اور یہ بھی کہ اگر ازدواج کسی قسم کی بے اعتدالی اختیار کریں تو یہ بھی فوت آسکتی ہے کہ ان کو طلاق دے دی جائے اس ضمن میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اگر عورتیں اپنی مزاجی کیفیات سے کسی قسم کی بد عنوانی یا زیادتی اختیار کریں گی تو پھر ان صالح اور نیک اطوار خاندانوں کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اختتام سورت پر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ بسا اوقات یہ بھی ممکن ہے کہ ایک مرد صالح کی زوجت میں کوئی شقی اور

بذنب عورت آجائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے صالح اور پاکباز خاتون کا شوہر عاصی و نافرمان ہو تو ایسے احوال میں عقل و فطرت کا تقاضا ہے کہ ہدایت اور حق پر پختگی کے ساتھ قائم رہے۔

آیاتہا ۱۲ = ۶۶ = سُورَةُ التَّحْرِيمِ قَدْ نَبَّأْنَا = ۱۰۷ فِيهَا زَكْوَعًا

سورۃ تحریم مدنی ہے اور اس میں بارہ آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي

اے نبی : تو کیوں حرام کرے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ چاہتا ہے

مَرْضَاتٍ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ

رضامندی اپنی عورتوں کی۔ اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان۔ ٹھہرا دیا ہے

اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ

اللہ نے تم کو کھول ڈالنا اپنی قسموں کا۔ اور اللہ صاحب ہے تمہارا اور وہی ہے سب

الْحَكِيمُ ② وَإِذْ أَسْرَأَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا

جاننا حکمت والا۔ اور جب چھپا کہ کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات،

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ

پھر جب اس نے خبر کر دی اسکی۔ اور اللہ نے بتا دیا نبی کو یہ جتنا نبی نے اس میں سے

وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ

کچھ، اور ملا دی کچھ۔ پھر جب وہ بتایا عورت کو بول تجھ کو

أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ③ إِنَّ تَتُوبَا

إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ تَظْهَرَا

جو . تو جھک بڑے ہیں دل تبارے . اور اگر تم دونوں پڑھائی

عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ

کردگیاں اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق اور جبریل اور نیک

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝ عَسَى

ایمان والے . اور فرشتے اس پیچھے مددگار . ابھی

رَبُّهُ إِنْ طَلَّقْتِ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ

اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو اس کا رب بدل میں دے انکو عورتیں تم سے بہتر

مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَيَبَّتْ عِبَادَاتٍ سَلِحَاتٍ

حکم بردار ، یقین رکھتیاں ، نماز میں کھڑی ، توبہ کرتیاں ، بندگی بجالاتیاں ، روزدار

تَيَّبَتْ وَأَبْكَرًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ

بیابیاں اور کوریاں . اے ایمان والو ! سہاڑ اپنی جان کو اور

أَهْدِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

اپنے گھروالوں کو اس آگ سے جس کی پھپھیاں ہیں آدمی اور پتھر ، اس پر مقرر ہیں فرشتے

غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ

تند خو زبردست . بے حکمی نہیں کرتے اللہ کی جو بات ان کو فرمائی ، اور وہی کرتے

مَا يُؤْمَرُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ

ہیں جو حکم ہو . اے منکر ہونے والو ! مت بہانے بناؤ آج کے دن .

إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

فقط تم کو جزا دی جائے گی جو تم نے کیا تھا .



تعلیم صبر و استقامت عدل انصاف و حقوق امور معاشرت

قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ... إلخ... إِنَّمَا نُحِبُّكَ وَإِنَّا كُنَّا لَعُمَّلُونَ

(ربطہ گزشتہ سورت میں طلاق و عدت کے بعض اہم احکام کا بیان تھا اب اس سورت میں بعض ایسے جذبات طبعیہ کا بیان ہے جن کے باعث خانگی زندگی کا اعتدال و توازن ختم ہو سکتا ہے اور اس سے تفریق و جدائی کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ اور ایک خاص واقعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج کی طرف سے پیش آیا تھا تو اس کی مناسبت سے بعض خصوصی احکام و ہدایات بھی بیان فرمائی جا رہی ہیں۔

صحیحین و دیگر کتب حدیث میں اس سورت کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر حضرت زینب بنت جحش کے پاس ٹھہرا کر رہے تھے جبکہ آپ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد تمام ازدواج کے حجروں میں تشریف لے جاتے تاکہ ان کے احوال کا علم ہو۔ اور ازدواج مطہرات کے لیے آپ کی زیارت و تشریف آوری موجب برکت و راحت ہو) اس وقت حضرت زینب کے پاس شہد آیا ہوا تھا تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو دو چار روز اس کے نوش فرمانے میں دیر لگی اور حضرت عائشہ و حفصہ کے یہاں پہنچنے میں تاخیر پورا ان کو بلے مینی ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور میٹھی چیز پسند تھی تو یہ بات ظاہر ہونے پر حضرت عائشہ اور حفصہ نے باہمی مشورہ سے یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کسی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے تو مغایر ایک قسم کے گوند کو کہا جاتا ہے، کی بدبو آ رہی ہے تاکہ آپ اس چیز کو ترک کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا بیان کرتی ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا میں تو آپ کے منہ سے مغایر کی بدبو محسوس کر رہی ہوں آپ نے مغایر کھایا ہے۔ اس کے بعد آپ حفصہ کے یہاں گئے تو انہوں نے بھی اسی طرح کہا۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو شہد پیا ہے۔ اس پر آپ نے طبعی ناگواری کے ساتھ فرمایا خدا کی قسم میں اب شہد نہیں پیوں گا تو اس طرح آپ نے اپنی قسم کے ذریعے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس کے متعلق یہ سورت نازل ہوئی اور اس سلسلہ میں جو بعض باتیں پیش آئیں ان کی طرف بھی اشارہ فرمایا گیا یہی شان نزول صحیح ہے۔ اگرچہ مفسرین نے ایک دوسرا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر کیوں حرام کرتے ہو وہ چیز جو اللہ نے آپ کے واسطے حلال کی ہے اگرچہ مصلحتاً کسی حلال چیز سے علاء پر ہیز کرنا کوئی ممنوع فعل نہیں جب کہ عقیدۃ انسان حلال چیز کو حلال ہی سمجھتا رہے مگر پھر بھی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع کے مناسب نہ تھی تو فرمایا چاہتے ہیں آپ اپنی بعض ازدواج کی خوشنودی خوش خلقی اور ازدواج کی خوشنودی بے شک اچھی چیز ہے۔ لیکن جس حد تک اس کی ضرورت نہ ہو یا کسی کی خوشنودی دوسری کے لیے دل شکنی اور رنج کا ذریعہ بنے یہ آپ کے مقام عالی کے مناسب نہیں تو اس پر درگزر ہے۔

اور اللہ غفور رحیم ہے وہ اس قسم کی خیر مناسب یا خلاف ادنی باتوں کو درگزر فرماتا ہے اور اپنی رحمت و مہربانی سے نوازتا ہے بے شک اللہ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے واسطے تمہاری قسموں کا حلال کرنا کہ کسی حلال چیز سے رُکے رہنے کے بجائے قسم کا کفارہ دے کر اس حلال کو اختیار کر دے یہ کہ عملاً اس سے اس طرح پرہیز کرتے رہو جیسا کہ حرام چیز سے پرہیز کیا جاتا ہے اور اللہ ہی تمہارا مولیٰ ہے وہی سب کچھ جاننے والا صاحب حکمت ہے چنانچہ ایسا ہی مقدر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اس وجہ سے کہ دیگر ازواج کے لیے کسی قسم کی رنجیدگی کا باعث نہ ہو قسم کھالی کہ میں اب آئندہ شہد نہ بیوں گا اور جب چھپا کر کہی پیغمبر نے ایک بات اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو اور ان سے یہ بھی کہہ دیا کہ کسی اور سے مت بتانا تاکہ کسی کو رنج نہ پہنچے لیکن پھر جب اس نے خبر کر دی اس بات کی ازواج میں کسی اور کو بھی چنانچہ حضرت عائشہؓ نے یہ بات حضرت کو بتادی کہ دیکھو حضورؐ نے شہد اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور اب آپ زینبؓ کے ہاں زیادہ دیر نہ کر سکیں گے اور اللہ نے اس پر اپنے پیغمبر کو مطلع کر دیا تو اللہ کے پیغمبر نے کچھ بات تبادلی اور کچھ سے اعراض کیا اس مصلحت سے کہ اس بیوی کو کسی قسم کا رنج یا بدگمانی نہ ہو تو جب پیغمبر نے یہ بات ظاہر کی اس بیوی سے تو اس نے پوچھا کس نے خبر دی ہے آپ کو اس بات کی کہ میں نے یہ راز کسی کو بتایا ہے۔ جواب دیا۔ بتا دیا مجھ کو اس بڑے علم رکھنے والے خبر دار نے کہ جس پر دروکار کے علم میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کو ظاہر کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں چھپا سکتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت اور وسعت اخلاق کے بارہ میں چاہا کہ یہ شہد پینے کے معاملہ کو بھی ترک کر دوں تاکہ وہ ازواج جو حضورؐ کے غایت تعلق کی وجہ سے آپ کی تشریف آوری اور زیارت کے لیے بے چین رہتیں اور اگر ذرا چند لمحوں کی بھی دیر ہوئی تو وہ دیر انکو دو بھر گزری ادھر یہ بھی چاہا کہ جو بیوی اس تعلق اور جذبہ سے آپ کی ایک مرغوب چیز (شہد) سے تواضع کرتی تھیں ان کو اس کا علم نہ ہو کیونکہ ان کو معلوم ہونے سے یقیناً رنج پہنچے گا اس وجہ سے یہ صورت کی کہ شہد حرام کر لیا اور اس کی قسم کھانے کے بارہ میں یہ بھی تاکید کر دی کہ کسی کو خبر نہ کی جائے لیکن عائشہؓ بہر کیف عورت تھیں اور عورت کے مزاج میں ضعف ہوتا ہے تو اس کو چھپانا سکیں اور حقیقت کو خبر کر دی ظاہر ہے کہ اس صورت حال کے پیش آنے پر ان دونوں کا تصور ظاہر ہوا تو حق تعالیٰ نے ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر تم دونوں اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ تو اچھا ہے کیونکہ تمہارے دل جھک پڑے تھے ان میں میلان اور بیڑھا بن گیا تھا اور جاہد اعتدال سے جھک کر ایک طرف نائل ہو چکے تھے اور لے عائشہؓ اور حفصہؓ اگر تم دونوں پیغمبر خدا پر کوئی غلبہ حاصل کرنے کا ارادہ کر دو گی تو پھر کچھ لو کہ اللہ بھی ان کا مولیٰ ہو گا اور جبریل بھی اور صالحین مومنین بھی یہ سب خدا کے پیغمبر کی مدد کے لیے ہوں گے اور یہ ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی اس کے بعد مددگار ہوں گے تو خدا اس طرح اپنے پیغمبر کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔

اور ایسی صورت میں کہ خدا اس کے فرشتے جبریل امین اور صالحین مومنین مددگار ہوں تو کوئی تدبیر اور

مید کارگر نہیں ہو سکتا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پیغمبر کی تکلیف اور رنج سے ڈرنا چاہیے خدا اپنے پیغمبر کو ہر قسم کی ذہنی الجھن سے پاک اور محفوظ فرمانے پر بڑا ہی قادر ہے اس وجہ سے لے ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت قریب ہے یہ بات کہ اگر یہ نبی تم کو طلاق دے دیں تو پھر ان کا رب ان کو دوسری بیویاں دے دے تمہارے بجائے جو تم سے بہتر ہوں فرمانبردار ہوں ایمان و یقین رکھنے والیاں خدا کی مطیع توبہ کرنے والی عبادت گزار روزہ دار ہوں بیوہ ہوں اور دوشیزہ لہذا کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے اور نہ ہی یہ تصور پیدا ہو کہ ہم سے بہتر پیغمبر کو اور کوئی نہیں مل سکتا۔ پیغمبر کے لئے اللہ جس کی بھی زوجیت مقرر فرمادے گا وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوگی اور اس میں ایمان و یقین اور باطنی کمالات و خوبیوں کے ساتھ جسمانی محاسن بھی پیغمبر کا رب ان میں جمع کر دینگا۔

انسان کی زندگی میں ایسے گھریلو واقعات اور ناگوار خاطر امور پیش آہی جابا کرتے ہیں اس وجہ سے لے ایمان والو تمہیں خاص تاکید کے ساتھ یہ ہدایت ہے کہ بچاؤ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی ایسی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس کے عذاب اور گرفت سے نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ نکل سکتا ہے جس پر فرشتے سخت مزاج نہایت مضبوط نگران ہیں جو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی جو بھی اللہ ان کو حکم دے اور وہی کرتے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے تو جس جہنم پر ایسے فرشتے نگران ہوں گے کہ ان کو مجرموں پر نہ ترس آئے گا اور نہ وہ نرم دل ہوں گے یقیناً اس کے عذاب سے کوئی مجرم نہیں بچ سکتا اور انسان کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ افراد خانہ اور اہل و عیال کی بھی اصلاح کی فکر میں لگا رہے اور یہ سب کام انسان دنیا کی زندگی ہی میں کر سکتا ہے یہ زندگی دار العمل ہے اور روز آخرت دار العمل نہیں رہے گا۔ بلکہ وہ روز جزاء ہوگا جیسا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ انكُم اَلْعَمَلُ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَ اَلْحَسَابُ وَ اَنْتُمْ عِندَ اِنِّي دَارِ الْجَزَاءِ وَ اَلْعَمَلُ**، کہ لے لوگو! تم آج دار العمل میں ہو جہاں حساب و کتاب نہیں مگر کل آنے والے دن اس جگہ ہو گے۔ جہاں حساب ہی حساب ہو گا نہ کہ عمل تو ایسے ہیبت ناک دن اعلان ہو گا لے کافر! مت عذر پیش کرو آج کے دن اب تو بس تمہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو تم کرتے تھے تو جب روز قیامت جہنم سامنے ہوگی اور اس کا دہکتا ہوا عذاب نظر آ رہا ہوگا اور مجرموں پر یہ تنبیہ ہوگی کہ اب عذر اور بہانوں کی گنجائش نہیں تو بدلہ شبہ ایسے دن سے پہلے انسان اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لے تو بہتر ہے اور بعض دفعہ معمولی جھگڑے بھی بڑی مصیبت کا سبب بن جاتے ہیں تو اس وجہ سے گھریلو منازعات اور باہمی رنجش کی باتوں سے بڑا ہی محتاط رہنا چاہیے اور ان سب باتوں کے لیے بنیادی چیز اپنے طبعی جذبات کو قابو میں رکھنا ہے ساتھ حلم اور درگزر بھی چاہیے جیسا کہ بیان کردہ واقعہ میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ

بعض مفسرین نے صالح المؤمنین کی تفسیر میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کا نام بیان کیا ہے اور ان ناموں کا ذکر کرنا حضرت عائشہ و حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیش نظر

مبارک سے معلوم ہوا۔

خطابِ خاص برائے ازواجِ مطہرات

اِنَّ تَتَّقُوا بِاللّٰهِ . کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے فرمایا کہ میں ایک عرصہ دراز تک اس فکر میں رہا اور یہ چاہتا تھا کہ عمر فاروقؓ سے یہ معلوم کروں کہ یہ دو کون ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جن کو یہ خطاب فرمایا گیا ہے کہ اگر تم دونوں اللہ کی طرف تائب ہو جاؤ تو بہتر ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں ٹیڑھاپن پیدا ہو گیا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ جب عمر فاروقؓ حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے میں بھی ان کے ہمراہ حج کے لیے روانہ ہوا (اور ہمت نہ ہوتی تھی کہ دریافت کروں) ایک دن جب وہ کسی منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ایک جانب کسی ضرورت کو گئے اور جب واپس فارغ ہو کر آئے اور میں وضو کرانے لگا تو عرض کیا لے امیر المؤمنین یہ دو عورتیں کون ہیں جن کے بارہ میں قرآن کریم نے فرمایا ہے اِنَّ تَتَّقُوا بِاللّٰهِ فرماتے ہیں میں نے یہ لفظ منہ سے نکالا ہی تھا کہ فرمایا تعجب کی بات ہے اسے بھٹھے دکرم کو اب تک اس کا علم نہیں آیا تو عائشہؓ اور حفصہؓ نہیں۔ یہ کہہ کر چہرہ تفصیل سے یہ فقہ سنانا شروع کر دیا کہ تم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب تھے جب مدینہ منورہ آئے تو یہاں کے لوگوں کو پایا کہ ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں۔ تو ہماری عورتیں بھی مدینہ آکر ان کی بائیں سیکھنے اور اختیار کرنے لگیں۔ اور فرمایا میرا مکان عوالی مدینہ میں دار امیہ بن زید میں تھا ایک روز میں اپنی اہلیہ پر کچھ ناراض ہوا اور غصہ میں کچھ کہا تو ناگہاں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے الٹ کر جواب دے رہی ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے اس کو کہا کہ اچھا تو مجھے جواب دے رہی ہے اس پر وہ کہنے لگی اے عمر تمہیں اس بارہ میں کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہیں جواب دے رہی ہوں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو رسول خدا سے مراجعت کر رہی ہیں یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو کر صبح سے شام تک علیحدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر میں فوراً حفصہؓ کی جانب پہنچا اور کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اس قسم کی بات ہے میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض صبح و شام تم سے علیحدہ رہتے ہیں۔ جواب دیا جی ہاں ایسا ہی ہے میں نے کہا یقیناً تم میں سے وہ ہلاک و تباہ ہوئی جس نے ایسا کیا۔ کیا تم اس بات سے مطمئن ہو کہ خدا ناراض نہ ہو گا تم سے اپنے رسولؐ کے غصہ اور ناراضگی کی وجہ سے۔

تو پوری تفصیل سے قصہ نقل کرتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور گفتگو کا واقعہ بیان کیا۔ اہل علم صحیح بخاری و مسلم کی مراجعت فرمائیں۔

روایات میں ہے کہ مسروقؓ نے شعبیؓ سے بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواجِ مطہرات نے حسبِ نفقہ کا زیادتی کا مطالبہ کیا تو ایک ماہ کے لیے ایلام فرمایا تھا اس پر آیت کو کفارہ کا حکم ہوا اور

آپ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔

وہ ایک واقعہ ازواجِ مطہرات کی طرف سے نفقہ کی زیادتی کی فرمائش پر تھا وہ ایک قسم تھی۔ ازواجِ مطہرات سے ایک ماہ تک ملاقات نہ کرنے کی اسی کے ساتھ یہ دوسرا واقعہ تھا جس میں شہد نہ پینے کے لیے قسم تھی مطالبہ نفقہ پر آیت تفسیر سورہ احزاب کی نازل ہوئی۔ اور شہد کی حرمت پر یہ سورہ تحریم نازل ہوئی۔
 (تفصیل کیلئے کتب سیرت و تفسیر کا مراجعت فرمائی جائے)

انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس وقت ازواجِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملہ میں جب باہم جمع ہو گئیں حیثیت و غیرت کے جذبہ میں آکر تو میں نے ان سے کہا عَسَى رَبُّهُ اَنْ طَلَقَكُنَّ اَنْ يَّبْدِلَكَ اَزْوَاجًا خَيْرًا اَمْنَكُنَّ تو کچھ ہی دیر بعد یہی الفاظ قرآن کریم میں نازل ہو گئے تو یہ آیت بھی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی موافقات میں سے ہے جس طرح آیت وَ اَجْنُذُوا مِنْ مَّقَامِ اِبْنِ هَيْمَةَ مَصْلًیٰ اور آیت حجاب ان کی موافقات میں سے ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے کہ قرآن کریم کی آیات لوح محفوظ سے اترنے سے پہلے ہی فاروق اعظمؓ کے قلب و دماغ میں الفاظ کی جا رہی ہیں اور ان کی زبان قبل از نزول ہی ان کا تلفظ کر رہی ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

اے ایمان والو! توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ۔

عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يَّكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ

شاید تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں اور داخل کرے تم کو

جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ

باغوں میں جن کے نیچے بہتی نہریں جس دن اللہ ذلیل نہ کرے گا

النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ

نبی کو، اور جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ۔ ان کی روشنی دوڑتی ہے

اَيْدِيهِمْ وَيَأْيَأَنزِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتِمِّمْ لَنَا نُورَنَا

اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ کہ ہمیں کلمہ پڑھنے سے روک دے اور ہمیں

وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

ہماری روشنی، اور معاف کر ہم کو۔ تو ہر چیز کر سکتا ہے۔ اے نبی

جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاؤْمَرٌ

لڑائی کر منکروں سے اور دغا بازوں سے اور سختی کر ان پر۔ اور ان کا گھر

جَهَنَّمَ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۹﴾

دوزخ ہے۔ اور بُری جگہ پہنچے۔

حکم توبہ و انابت الی اللہ باخلاص قلب و وعدہ
معافی خطایا و بشارت حصول نعمتہا جنت

قال اللہ تعالیٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... إِلَىٰ ... وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

(ربط) گزشتہ آیات میں انسانی زندگی کے لیے ایسی ہدایات تھیں کہ ان پر عمل کرنے سے انسان اس قسم کی برائیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے جو مزاجی عدم اعتدال یا گھریلو منازعات کی وجہ سے پیش آتی ہیں اب ان آیات میں اللہ کی طرف رجوع اور توبہ کا حکم ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنی کوتاہی پر نادام و شرمندہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور توبہ و استغفار صدق دل سے کرے اسی سے اس کی نجات کامیاب ہے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ایمان والو رجوع کرو اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اپنے کیے پر نادام و شرمندہ ہونے ہوئے اور اخلاص دل سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ پھر آئندہ ایسی غلطی نہ کروں گا اور اس عقیدہ کے ساتھ کہ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے اور وہ قادر مطلق ہے گناہ پر گرفت فرما سکتا ہے اور چاہے تو معاف بھی فرمانے والا ہے۔ امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں مٹا دے گا اپنے فضل و کرم سے اور داخل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے مہلات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں ہر قسم کی راحت اور ہر نوع کی نعمت موجود ہو گی جس دن کہ اللہ شرمندہ نہیں کرے گا اپنے پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لائے بلکہ بڑے ہی اعزاز و اکرام بلند سے بلند تر مناصب اور مقام عطا فرمائے گا۔ ان اہل ایمان کا نور دور ڈرتا ہو گا ان کے آگے اور ان کی داہنی جانبوں میں کھتے ہوں گے۔ غایت فرحت و سرور سے اور اللہ کے انعامات کا شکر ادا کرتے ہوئے۔

لے ہمارے پروردگار پوری کر دے ہمارے واسطے ہماری روشنی اور معاف کر دے ہماری وہ تمام کوتاہیاں اور غلطیاں جو ہم نے تیرا حق ادا کرنے میں کیں بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔

جہاں ایک طرف ان گزشتہ واقعات میں صبر و علم اور عفو و درگزر کی تعلیم دی گئی اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کے ساتھ ضرورت ہے کہ سختی اور قوت کا استعمال کیا جائے ان کا بھرانہ کر دیا اسی کا متقاضی ہے کہ سزا اور سرکوبی کا عمل ان کے ساتھ کیا جائے۔ برخلاف گھر، دو زندگی کے کہ اس میں نرمی اخلاق اور صبر و علم ہی زریعہ دیتا ہے تو فرمایا اسے نبی جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں سے اور ان پر سختی کیجئے۔ اور وہ اس قابل ہی نہیں کہ ان پر نرمی کی جائے کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ بہت ہی بُرا ٹھکانہ ہے تو جو لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور مجرم ہیں۔ خدا نے ان کے واسطے شدت و سختی اور عذاب جہنم طے کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ نرمی برتنے کا کوئی مطلب نہیں وہ بلاشبہ اسی کے سختی ہیں کہ ان پر سختی کی جائے اور جہاد کے ذریعے سرکوبی ہو۔ کیونکہ ان کے کفر و نافرمانی سے عالم کا امن تباہ ہوگا اور ایسے مفسدوں اور فتنہ انگیزوں کی سرکوبی ہی عالم کے لیے امن و عافیت کا موجب ہے تو پیغمبر خدا کی ایسے مجرموں کے ساتھ یہ سختی بھی دنیا میں بسنے والے انسانوں کے واسطے رحمت و مہربانی ہوگی۔

توبہ منصوحہ کی تفسیر

حافظ ابن جریر نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا فرما رہے تھے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ** **تَوْبَةً مِّنْكُمْ** کہ توبہ منصوحہ یہ ہے کہ انسان گناہ کرے تو اس سے تائب ہو اور اس طرح کہ پھر وہ گناہ دوبارہ نہ کرے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس عزم اور ارادہ کے ساتھ توبہ کرے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا اس طرح کہا **تَابِعِينَ** دائرہ سے منقول ہے اور ظاہر ہے کہ یہ عزم اور پختہ ارادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کو یکے ہوئے گناہ پر ندامت ہو اسی وجہ سے بعض روایات میں ہے۔ **التَّوْبَةُ إِذَا نَدِمْتَ** کہ توبہ ندامت کا نام ہے۔

حسن بصری فرمایا کرتے تھے توبہ منصوحہ یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کر کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگو جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب اس گناہ کا خیال آئے اس سے بارگاہِ خداوندی میں استغفار کرو۔ احادیث صحیحہ میں ہے توبہ انسان کے گناہوں کو اس طرح مٹاتی ہے جس طرح کہ اسلام اس سے قبل کے گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ احادیث میں سید الاستغفار کے کلمات اسی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں۔ بندہ حق تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے ایک طرف اس کے انعامات کا تصور کرے دوسری طرف اپنی خطاؤں اور تقصیرات کو دیکھے یقیناً اس پر ایک ندامت و شرمندگی کی کیفیت قلب میں پیدا ہوگی۔ اس ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا اور آئندہ کے لیے اپنے رعب سے

عہد کرنا کہ پھر آئندہ ————— میں حتی الامکان اس طرح کی غلطی نہ کروں گا اور اس پر خدا سے مدد مانگے اور اپنی ہمت و کوشش اسی پر صرف کرے تو انشاء اللہ یہ توبہ نصوح ہوگی اور امید ہے اس پر وہی ثمرات مرتب ہوں گے جن کا وعدہ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَأْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ رَبَّنَا اسْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔

میدانِ حشر میں اہل ایمان کا نور

نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ یہ اہل ایمان کے نور کا بیان ہے جو قیامت کے روز پلِ صراط پر بھی ہوگا ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب یہ نور دراصل اسی نور کا ثمرہ ہوگا۔ جو روزِ عہدِ است اولادِ آدم جب حضرت آدم کی پشت سے نکالی گئی تو ان پر اللہ نے اپنا نور ڈالا جس کسی کو وہاں وہ نور پہنچ گیا دنیا میں اس کو نورِ ہدایت حاصل ہوا۔ اسی نور کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا گیا۔ اللَّهُ وَبِئْسَ الَّذِينَ امْتَنُوا يُخْرِجُوكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو فرمایا گیا۔ فَخَمَقَ شَرْحُ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ یہی نورِ نومن کی قبر میں ہوگا اور پھر بھی نورِ میدانِ حشر میں اس کے ساتھ ہوگا جس کو اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا گویا بدو تخلیق سے لے کر عالم حشر تک نورِ ہدایت کا سلسلہ اس طرح مربوط ہے۔ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

انا اول من يوذن لنا
بالسجود يوم القيمة و
اول من يوذن له بسفع
راسه فانظر بين يدي
فاعرف امتي بين الامم
وانظر عن يميني فاعرف
امتي بين الامم۔ وانظر
عن شمالي فاعرف امتي
من بين الامم فقال رجل
يا رسول الله كيف تعرف
امتك من بين الامم۔
قال غرر محجلون من
كرو قیامت کے روز میں ہی سب سے
پہلا وہ شخص ہوں گا جس کو سجدہ کی اجازت دی
جائے گی اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو سجدہ
سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی تو پھر میں
دیکھوں گا اپنے سامنے تو اپنی امت کو پہچانوں گا
دوسری تمام امتوں کے درمیان۔ پھر دائیں طرف
دیکھوں گا تو بھی تمام امتوں کے درمیان اپنی
امت کو پہچانوں گا پھر اپنے بائیں جانب
دیکھوں گا تب بھی اپنی امت کو دوسری تمام
امتوں کے درمیان پہچانوں گا تو ایک شخص
نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس طرح تمام
امتوں کے درمیان پہچانیں گے آپ نے فرمایا

أَثَارِ الْمَوْضُوعِ وَلَا يَكُونُ
أَحَدٌ مِنَ الْأَسْمَاءِ كَذَلِكَ
غَيْرُهُمْ وَأَعْرَفَهُمْ يَتُونَ
كُنْبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ - وَأَعْرَفَهُمْ
سِيمَاهُمْ فِي وَجْهِهِمْ مِنْ
أَثَرِ السُّجُودِ وَأَعْرَفَهُمْ بِنُورِهِمْ
لِيَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ -

میری اُمت کے لوگ روشن پیشانیوں اور سفید
قدم والے ہوں گے وضو کے آثار سے۔ اس قسم
کی شان کسی بھی قوم کی نہ ہوگی تمام امتوں میں سے
اور میں ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ ان کے
دائیں ہاتھ میں ان کے نام ہائے اعمال دینے
جائیں گے اور میں ان کو اس طرح بھی پہچانوں گا کہ
ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا۔

اور اس طرح بھی پہچانوں گا کہ ان کی پیشانیوں پر عہدوں کے نشان ہوں گے

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْهُمْ بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَارْزُقْنَا
شَفَاعَةَ حَبِيبِكَ وَنَبِيِّكَ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَاتٍ نُورًا وَامْرَأَاتٍ

اللہ نے بتائی ایک کہادت منکروں کے واسطے، عورت زوج کی اور عورت

لُوطٍ كَانَتْ تَحْتَهُ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ

لوط کی - گھر میں تھیں دونوں دو نیک بندوں کے ہمارے بندوں میں سے .

فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغَيِّرْ عَنَّمَا مِنْ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا

پھر ان سے جوڑی کی ، پھر وہ کام نہ آنے انکو اللہ کے ہاتھ سے کچھ اور حکم ہوا کہ جاؤ

النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۰ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا

دوزخ میں ساتھ جانے والوں کے۔ اور اللہ نے بتائی ایک کہادت ایمان والوں کو

امْرَأَاتٍ فِرْعَوْنُ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا

عورت فرعون کی ، جب بولی اے رب! بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر

فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ

جنت میں اور بچاؤ مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے اور

نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱ وَ مَرِيَمَ ابْنَتَ

سچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے ۔ اور مریم بیٹی

عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ

عمران کی ، جس نے روکی اپنی شہوت کی جگہ ، پھر ہم نے پھونک دی ایک

دُوحًا وَ صَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَ كَتَبْنَا وَ كَانَتْ

اپنی طرف کی جان ۔ اور سچ جانی اپنے رب کی باتیں اور اس کی کتابیں اور تھی

مِنَ الْقَانِتِينَ ۝۱۲

بندگی کرنے والوں میں ۔

نمونہ ایمان و کفر و ہدایت و شقاوت برائے خواتین عالم

قال اللہ تعالیٰ صَدَّقَتْ الذَّاهُ مَثَلًا الی وَ كَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

(رابطہ، گزشتہ آیات میں تو بہ کا حکم اور قلب کی تطہیر و پاک کا بیان تھا اور یہ کہ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر اور ان کے ساتھ جو جانے والوں کو قیامت کے روز ذلت اور شرمندگی سے بچائے گا۔ اب ان آیات میں یہ ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر خدا کے ساتھ وہ نسبت جو آخرت میں کام آتی ہے وہ اس کے ساتھ ایمانی رشتہ ہے۔ اسی رشتہ پر نجات آخرت کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے اگر اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہ ہو تو کوئی بھی قرابت اور رشتہ کام نہیں آتا۔ اس مضمون کو ثابت کرنے کے لیے ایک طرف حضرت نوحؑ اور حضرت لوطؑ کی بیویوں کا ذکر ہے دوسری طرف اسراءؑ فرعون اور ساتھ ہی حضرت مریمؑ کا بھی ذکر ہے اصل تقابل تو اسراءؑ نوحؑ و لوطؑ کے ساتھ فرعون کی بیوی کا تھا لیکن ایمانی معرفت اور استقامت و تقویٰ کے وصف میں شریک ہونے کے باعث مریم بنت تمیم کا ایمانی شرف اور فضل و کمال بھی بیان کر دیا اور ان دونوں کو بحیثیت نمونہ ایمان و ہدایت ہونے کے پیش کیا گیا۔ اور ان دونوں نمونوں کو بیان کر کے اسی حقیقت پر آگاہ کرنا ہے فرمایا۔

مقرر کر دیا ہے اللہ نے مثال اور نمونہ کافروں کے لیے نوحؑ کی بیوی اور لوطؑ کی بیوی کو جو زوجیت میں تھیں دو بندوں کی ہمارے نیک بندوں میں سے بچائے اس کے کہ وہ دونوں اللہ کے ان نیک بندوں اور صالح بندوں اور پیغمبروں پر ایمان لائیں۔ انہوں نے ان دونوں سے خیانت کی تو یہ دونوں ان عورتوں کو اللہ کے

عذاب سے بچانے کے لیے کچھ کام نہ آئے اور کہہ دیا گیا ان کو داخل ہو جاؤ تم آگ میں ابھی لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں داخل ہونے والے ہیں حالانکہ یہ دونوں بیویاں تھیں مگر چونکہ ایمان کے رشتہ اور تعلق سے محروم تھیں تو یہ نسبتی رشتہ اور علاقہ کچھ کام نہ آیا اور اس نفاق کی بدولت عام کفار کے ساتھ جہنم میں دھکیلی دی گئیں۔

اور اس کے بالمقابل ایک نمونہ ایمان والی عورتوں کا ہے جس کو اللہ نے مثال بنا دیا ہے ایمان والوں کے واسطے فرعون کی بیوی بنتیٰ کو جب کہ اس نے اپنے پروردگار سے التجا کرتے ہوئے کہا ہے میرے پروردگار بنا دے میرے واسطے ایک گھر اپنے پاس بہشت میں اور نجات دیدے مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل کفر سے اور نجات دے مجھے قائم قوم سے جس دقت کہ فرعون کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو سخت ترین عذاب دینا شروع کیا چاروں ہاتھوں پاؤں میں میخیں ٹھونک کر ایذا میں دیں اس حالت کرب میں کمال استقامت پر ایمان پر قائم رہتے ہوئے اپنے رب سے آخرت کی نعمتیں مانگتی رہیں۔ اور مثال بنا دیا ہے اللہ نے مریم عمران کی بیٹی کو جس نے پاک رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو بغیر اس کے کہ کوئی بشر اس کو چھوئے۔ پھر ہم نے فرشتہ کے ذریعے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے ایک روح کو اور سچائی تسلیم کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی اور وہ تھی عبادت گزار بندوں میں سے تو اس طرح یہ دو عورتیں دنیا میں ایماندار عورتوں کے واسطے نمونہ ہیں۔ ان کے ایمان و تقویٰ کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر پیش کیا جاسکتا ہے اور دنیا کی عورتوں کو دعوت دی جاسکتی ہے کہ تم مریم بنت عمران اور آسیہ امراۃ فرعون جیسا ایمان و تقویٰ اور سچائی اختیار کرو اور یہ بھی ظاہر ہے کہ فرعون کی بیوی اگرچہ ظاہری رشتہ میں اس کی بیوی تھی لیکن جب وہ ایمان لے آئی تو اب اس کا کوئی تعلق فرعون سے نہ رہا اور فرعون

علی مقصد یہ کہ پیغروں کے ساتھ یہ رشتہ بھی ایمان کے بغیر بیکار رہا۔ حضرت شاہ صاحب اپنے فراموش فرماتے ہیں یعنی "اپنا ایمان درست کر دہ فائدہ بچا کے نہ جو رو یہ قانون سب کو سنا دیا" بہر حال حضرت نوح اور نوط کی بیویوں کو جو منافق تھیں جہنم میں دھکیلی دیا گیا ان کے برعکس فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم بھی ایماندار عورت اور ولی کامل تھی اور اس کا شوہر فرعون تھا مگر ایمان کی بدولت جنت کی بشارت دیا ہی میں انکو مل گئی۔ ۷

علی روایات سے یہ ثابت ہے کہ فرعون کی بیوی وہ تھی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی جب کہ ان کو دریا میں بہتے ہوئے تابوت سے نکالا گیا۔ جس کی تفصیل سورہ قصص میں گذر چکی۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایمان لے آئیں تو طرح طرح سے ستانا شروع کیا۔ ایسی ایذا میں دیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا مثلاً چو بیٹھا کر دینا۔ آخر فرعون نے ان کو قتل کر ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کامل ایمان ہونے کی شہادت دی۔

نیز حضرت مریم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں گزر چکا انکی عفت و پاکدامنی اور ایمان و تقویٰ پر مشتمل آیات کی تفسیر گزر چکی ہے ۱۲


مترۃ البہدالی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كَمُلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ
وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ
إِلَّا أَسِيَّةُ امْرَأَةِ فِرْعَوْنَ
وَمَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ
وَحَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ۔

کہ مردوں میں سے تو بہت سے لوگ باکمال
ہوئے لیکن عورتوں میں کمال اور ایمانی عظمت
حاصل کرنے والی صرف آسیہ فرعون کی بیوی
اور مریم بنت عمران اور ام المؤمنین حضرت
حدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔

وَاللَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ قَدِّمْتُ تَفْسِيرَ سُورَةِ التَّحْرِيمِ

المحمد لفظاً تمنا بمسواں پارہ کمال ہوا



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمَلِكِ

احادیث سے اس سورت کے متعدد نام ثابت ہیں سورۃ تبارک - مالعہ - دافعہ - واقیہ اور منجیہ تبارک تو اس وجہ سے کہ اسکی ابتدا اسی لفظ سے ہوتی - مالعہ - دافعہ اور منجیہ اس وجہ سے کہ یہ عذابِ آخرت کو دفع کرنے والی ہے اور اس سے نجات کا ذریعہ ہے دنیا میں گمراہی سے اور آخرت میں عذابِ آخرت سے بچانے والی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں یہ تیس آیات ہیں کہ انہوں نے اپنے تلامذت کرنے والے کی شفاعت کی اور اس وجہ سے وہ بخشا گیا فرمایا وہ تیس آیات تَبَّأَنَّكَ الَّذِي يَبْدُءُ الْمَلَكُ هُوَ مَعَهُ۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے لاطمی میں کسی قبر پر خیمہ لگایا اس نے سنا کہ کسی شخص نے سورۃ تبارک الذی کی تلامذت شروع کی یہاں تک کہ ختم سورت تک اس نے بڑھ ڈالا انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا آپ نے فرمایا کہ یہ سورت مالعہ ہے منجیہ ہے اپنے بڑھنے والوں کو عذابِ قبر سے نجات دلاتی ہے مالعہ۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہ تھے یہاں تک کہ ام شریل سجدہ اور سورۃ تبارک الذی اول سے لے کر آخر تک بڑھ کر ختم نہ فرمایتے مالعہ۔

ملاعہ - ترمذی - ابن ماجہ - ابوداؤد و نسائی -

ملاعہ - جامع ترمذی -

ملاعہ - ایٹ بن سعد طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ سورۃ ام شریل اور سورۃ تبارک الملک قرآن کریم کی ہر سورت سے ستر درجہ بڑھ کر ہیں۔

عکرمہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا یہ قول نقل کیا کرتے تھے کہ - نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میری امت کے ہر شخص کے سینہ میں محفوظ ہو (وقال هذا حدیث غریب) اور عکرمہ نے یہ بھی بیان کیا کہ عبداللہ بن عباسؓ نے ایک شخص سے کہا کہ کیا میں تجھے ایک حدیث کا ایسا نسخہ نہ دیدوں جس سے تو خوش ہو جائے اس نے کہا بے شک آپ نے فرمایا تَبَّأَنَّكَ الَّذِي يَبْدُءُ الْمَلَكُ پڑھا کر اور اپنے گھر والوں اور سب بچوں کو سکھا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اسلئے کہ یہ سورت منجیہ نجات دلائے والی ہے یہ سورت قیامت کے روز خدا کے یہاں اپنے بڑھنے والے کیلئے جھکڑے گی اور اسکو عذابِ نار سے نجات دلائے گی (تفسیر ابن کثیر ج ۲)۔

یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے ابن عباس فرماتے تھے کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی اسکے بعد سورہ حاقہ اور معارج نازل ہوئیں اگرچہ حسن بصری سے اسکا مدنی ہونا منقول ہے لیکن اسکے سوا کسی سے یہ منقول نہیں ہے نیز طرز کلام اور انداز مضامین سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ ہی اسی وجہ سے قرطبی نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورت رحمانیات میں سے ہے کیونکہ لفظ رحمان نہایت ہی عظمت کے ساتھ اول و آخر سورت میں استعمال کیا گیا دیگرہ سورتیں جن میں لفظ سرب استعمال کیا گیا انکو ربانیات کہا گیا۔

مضامین قرآن کریم از اول تا آخر حق تعالیٰ شانہ کی خالقیت و قدرت اور توحید اثبات حشر و نشر اور مستدر رسالت پر مشتمل ہیں بالخصوص مکی سورتوں میں اصلاح عقائد کے اصول بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے جب کہ مدنی سورتوں میں معاملات اور اصلاح معاشرت سے متعلق مسائل کو زیادہ وضاحت سے ذکر فرمایا گیا تو اس سورت میں بھی پہلے حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و خالقیت کو بیان فرمایا گیا اور یہ کہ اسی کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات کا نظام ہے وہی موت و حیات کا مالک ہے پھر تخلیق سمادات اور اسکو ستاروں سے مزین کرنے کا بیان ہے اسی کے ساتھ اثبات رسالت کے بھی مضامین ہیں پھر ان مجرمین کی سرکوبی کا ذکر ہے جو اللہ کی اطاعت و فرماں برداری سے سرتابی کرتے ہیں۔ عظمت و قدرت خداوندی کے دلائل بیان کرتے ہوئے اختتام سورت پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے والے مجرمین کو عذاب خداوندی کی وعید سنائی گئی اور یہ کہ خدا کے عذاب کو کوئی ٹھلانے والا نہیں اختتام سورت پر وعید کا انداز اس قدر ہیبت ناک ہے کہ اس پر غور کرنے والے کا دل لرز جائے۔

آیاتھا ۳۰ = ۶۷ = سُوْرَةُ الْمَلِكِ مَكِّيَّةٌ = ۷۷ = فِيهَا رُكُوْعٌ

سورہ ملک مکی ہے اور اسکی تیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

تَبٰرَكَ الَّذِیْ بِيَدِهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِیْرٌ ①

بڑی برکت ہے اسکی، جس کے ہاتھ ہے راج اور وہ سب چیز کر سکتا ہے

يَا الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ

جس نے بنایا مرنا اور جینا ، کہ تم کو جانچے ، کون تم میں اچھا کرتا ہے

عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝۲۱ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ

کام اور وہ زبردست ہے بخشنے والا جس نے بنائے سات آسمان

طَبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفْوُتٍ فَارْجِعِ

ہم ہر تہہ کیا دیکھتا ہے رحمن کے بناتے میں کچھ فرق ؟ پھر دہرا کر

الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ۝۲۲ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ

نگاہ کر کہیں دیکھتا ہے دڑاڑ پھر دہرا کر نگاہ کر دو دو بار

يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ۝۲۳ وَلَقَدْ زَيَّنَّا

انہی آدے ترسے پاس تیری نگاہ رہ ہو کر تھک کر اور ہم نے رونق

السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَ

دی درلے آسمان کو چراغوں سے اور ان سے رکھی پھینک مار شیطانوں کی اور

أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ۝۲۴

رکھی ہے ان کو مار دہکتی آگ کی

شان عظمت و قدرت خداوندی مع بیان جزائے

اہل سعادت و تنبیہ و تہدید بر اہل شقاوت

قال الله تعالى تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

(ربط) سورۃ تحریم کا اختتام اس امر پر تھا کہ دین کی حفاظت کے لیے جہاد مع الکفار ضروری ہے اور ایمان و تقویٰ ہی انسان کی سعادت و کامیابی کی رُوح ہے تو اب اس مناسبت سے سورۃ تبارک الذی کی

ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و قدرت کے بیان سے ہو رہی ہے اور یہ کہ اہل ایمان اور اہل سعادت کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا جائے گا اور منکرین و اثنیساہ کیسے بولناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہ بھی اشارۃً ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر ایک گھر کا سر پرست اپنے اہل خانہ کی کسی بے اعتدالی سے اس قسم کی اذیت محسوس کر سکتا ہے اور قلب پر گرانی واقع ہوتی ہے تو کائنات کے رب کو اپنی مخلوق کی بے راہ روی اور خلاف ورزی سے کس قدر اذیت ہوتی ہوگی اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر صاحب فہم انسان سعادت و شقاوت کا راز اور اس کا انجام بخوبی سمجھ سکتا ہے ارشاد فرمایا بڑی ہی عظمت و برکت والا ہے وہ پروردگار جس کے ہاتھ میں ہے سلطنت و حکمرانی تمام کائنات کی اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے نہ اس کے ملک سے کوئی نکل سکتا ہے اور نہ قدرت و گرفت سے بچ سکتا ہے اور نہ کوئی چیز اس کے علم سے دور ہو سکتی ہے وہی پروردگار ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون ہے بہتر اپنے عمل کے لحاظ سے موت و حیات کا یہ تمام سلسلہ اسی تھے ہے کہ انسان کی پہلی زندگی میں پتہ چل جائے کہ کس کے عمل اچھے ہیں اور کس کے برے اور پہلی زندگی کے اس امتحان کا نتیجہ دوسری زندگی میں مکمل طور پر دکھلا دیا جائے تاکہ وہی تو اچھے برے کا علم نہ ہوتا اور موت نہ ہوتی تو نیکی اور بری کا نتیجہ ظاہر نہ ہوتا اور وہی بڑی عزت والا بخش کرنے والا ہے کہ وہ اپنی عزت و غلبہ کی وجہ سے قادر ہے کہ بندوں پر جزا و سزا جاری کرے اور وہ اسی کے ساتھ بڑی مغفرت بھی فرمائے والا ہے کہ بہت سے برے کاموں کی مغفرت بھی فرماتا رہتا ہے جس پروردگار نے سات آسمان پیدا کیے تہہ بر تہہ بنا کر اسے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو رحمن کے بنانے میں کوئی فرق نہ کرے ایک چیز اچھی بن گئی اور دوسری چیز کی تخلیق دیکھ کر میں کچھ کمی رہ گئی نہیں بلکہ جو بھی کچھ اس رحمن نے بنایا وہ اسکی عظیم شانِ خلاق کا پیکر اور ثبوت ہے اگر ایک مرتبہ کے دیکھنے سے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ سرسری نظر سے دیکھا تھا تو کچھ عجیب نظر نہیں آیا تو پھر دوبارہ نگاہ کو لوٹا۔ اور خوب غور کر پھر بنا کر کیا نظر آتی ہے تجھ کو کوئی دراز اور پھٹن ان آسمانوں میں اگر اس پر بھی ایمان یقین کی کیفیت قلب و دماغ میں نہ رہے تو پھر دو دو بار لوٹا نگاہ کو کسی نہ کسی طرح اللہ کی مخلوق اور اس کے بنائے ہوئے ان آسمانوں میں اور ان میں جو کو اکب و سیارات ہیں ان میں کوئی عجیب نظر آجائے تو اس تلاش و تجسس کی بار بار نگاہ کو کچھ بھی کمی نظر نہ آسکے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نگاہ واپس لوٹے گی تیری طرف اس حال میں کہ وہ ذلیل ہوگی

مسحہ جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک آسمان سے اوپر بغا صمد دراز دو سرا آسمان ہے پھر اس سے اوپر اسی طرح اس سے اوپر اور آسمان یہاں تک کہ آپ نے سات آسمان بیان فرمائے حدیث سراج میں ساتوں آسمان کا ذکر ہے اور اس تفصیل کے ساتھ کہ پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام کو پایا چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔

اور تھکی ہوتی ہوگی مہ دنیا کے مفکرین و فلاسفہ اور محققین ایک بار نہیں کئی کئی مرتبہ مدتوں بھی غور کرتے رہیں۔ دیکھتے رہیں لیکن اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق آسمانوں، چاند، سورج اور ستاروں میں باوجود سرور مدت طویل کوئی بھی رنزا اور کسی نہیں پائیں گے اور بے شک ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان دنیا کو اور نزدیک دالے آسمان کو جو انسانوں کی نظروں کے سامنے ہے روشن چراغوں سے کہ نظر آنے والے ستاروں کی جگمگاہٹ کیسی حسین اور شاندار معلوم ہوتی ہے یہ قدرتی چراغ ہیں اور انکو بنایا ہے ہم نے پھینک مارنے کا ذریعہ شیاطین کے واسطے کہ بسا اوقات کوئی ستارہ ٹوٹ کر کسی شیطان کو جلا کر خاک کر دیتا ہے جیسے کہ فرمایا **الْمَنْ اشْتَرَقَ السَّمْعَ فَابْتَعَهُ** و **شَهَابٌ نَّاقِبٌ** اور ہم نے تیار کر رکھا ہے انکے واسطے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ ایسے مجرمین کو عذاب خداوندی سے بے فکر نہ ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کے عذاب سے نہ شیاطین بچ سکتے ہیں اور نہ وہ لوگ جنکو شیاطین گمراہ کرتے ہیں۔

توحید ذات و صفات خداوندی ایمان کی اساس ہے

اس سورہ مبارکہ میں حق تعالیٰ شانہ کی عظمت و کبریائی اسکی قدرت و خالقیت کے ضمن میں اس کی وحدانیت والوہیت کو ثابت کیا گیا اور یہ کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور اسکی قدرت قدرت کاملہ ہے وہی ہر چیز کا خالق ہے اسی کی بادشاہت و حکمرانی ساری کائنات میں چل رہی ہے قرآن کریم اور جملہ کتب سماویہ نے اسی مضمون کو بڑی ہی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی اپنی قوموں کو دعوت رہی ہے **لِقَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ عِندَهُ** اس کے ساتھ آخرت کا مسئلہ بھی بیان کر دیا گیا اور یہ کہ جزا و سزا کا مرحلہ ہر انسان کو بلاشبہ پیش آنا ہے قرآن حکیم نے یہ مضامین از اول تا آخر بیان کیئے لیکن یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہر مرتبہ ایک نئے اسلوب سے ان مضامین کو بیان کیا جاتا ہے واضح مثالوں، عام محاورات اور مستعملہ واقعات کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تاکہ ہر شخص اپنے مذاق کے موافق ان حقائق کو ذہن نشین کر سکے جو مقصود بیان ہے اس موقع پر عالم موجودات و محسوسات کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ **وَهُوَ عَلِيمٌ فَلْيَدْرِكْ**

عہ حضرت والد محترم قدس اللہ سرہ کے ایک قصیدہ کا شعر اسی آیت کا ترجمہ ہے فرمایا ہے

لقد سافرت فيك العقول فما

ربحت الا العنا والتسرا

کہ اے پروردگار تیرے بارہ میں انسانی عقول نے بہت ہی سفر کیا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا سوائے

تکان و عاجزی اور حسرت کے ۰۱۲

فرما کر یہ ظاہر کر دیا کہ جو عالم انسانوں کے ادراک و احساس میں ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے بے شمار عالم پیدا فرما سکتا ہے۔

لفظ شئیء کی بحسب مشروع میں گزر چکی۔ از روئے لغت ہر اس چیز کو شئیء کہا جاتے گا جس کے وجود کا ارادہ کیا جائے گا لہذا اس سے حق تعالیٰ کی ذات اور اسکی صفات خارج رہیں گی اسی طرح اس کا اطلاق محالات پر نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ان میں مقدر ہونے کی صلاحیت نہیں لہذا جملہ ممکنات شئیء ہوا مصداق ہیں اور اس لحاظ سے یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا کہ کیا ذات خداوندی اسکی صفات اور محالات بھی تحت القدرت آسکتے ہیں تو واجب و متمنع دونوں شئیء کا مصداق ہونے سے خارج ہیں۔

مَخْلُوقِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ یعنی اس نے موت جو عالم عدم اور حیوۃ جو عالم موجود ہے کو پیدا کیا گویا اس صفت کو ذکر کر کے تبارک الذی کی دلیل بیان فرمادی پہلی دلیل تو یہ تھی کہ اسکے ہاتھ میں تمام کائنات کی بادشاہت ہے اسی کا حکم اور تصرف کائنات پر جاری ہے دوسری دلیل ہر شئیء پر کمال قدرت کو بیان کر کے پیش کر دی گئی تیسری دلیل اسکی عظمت و کبریائی کی: "مَخْلُوقِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ" سے ظاہر فرمائی گئی اس میں عالم آخرت کی نعمتوں کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ موت سے مراد دنیا کی موت اور حیات سے مراد حشر کی حیات ہے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ پہلے جملہ میں دنیا کی بادشاہت کا بیان تھا اب اس جملہ میں آخرت کی بادشاہت بھی بیان فرمادی تو جو ذات دونوں جہان کا بادشاہ ہو اس سے بڑھ کر برکت اور عظمت والی ذات کون ہو سکتی ہے لہذا ہر حالت میں انسان کو اللہ کی طرف ملتی ہونا چاہیے اس تفسیر کی رو سے مَخْلُوقِ الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ میں لفظ موت کو مقدم کرنے کی حکمت ظاہر ہوتی کہ موت دنیوی حیات اخروی سے مقدم ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ برکات الہیہ میں سے یہ بھی ہے کہ حق تعالیٰ نے انسان کو اپنی صفات کا مظہر بنا کر علم و ادراک سے مزین بنایا خلافت الہیہ کا شرف اسکو بخشا اور اس عظمت و برکت کی تکمیل اس طرح مقدر کی گئی کہ عالم باقی کیلئے وہ نیک کام کرے اور بُرے کاموں سے پرہیز کرے اس وجہ سے ضروری تھا کہ نیک کاموں پر آمادہ کرنے والی باتیں اور بُرے کاموں سے بچانے والی چیزیں نازل کی جائیں اور اسی کے لیے موت و زندگی بنائی اور اگر حیات سے دنیوی حیات مراد لی جائے تو پھر موت کی تقدیم اس غرض سے ہو سکتی ہے کہ اس کی فکر اور تیاری سے انسان غافل نہ ہو اور اس کی طرف پوری توجہ رکھے نیز اس وجہ سے بھی کہ حیات عارضی اور چند روزہ ہے اور موت ذاتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ چند روزہ زندگی کو بیچ سمجھے تو اس وجہ سے بھی موت کو حیات پر مقدم ہی کرنا چاہیے تھا۔ کیونکہ ذاتی کو امر عارضی پر تقدم ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت سے وہ حالت مراد لی جائے جو قبل از وجود سے وہ حالت نطفہ سے ہے وہ چیز ہے جو سورۃ بقرہ کی آیت میں فرمائی گئی وَكُنْتُمْ اَمْوَئًا فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّنْكُمْ ثُمَّ يَحْيِيكُمْ۔ تو حالت موت کے بعد عطا حیات کا ذکر کیا اور پھر اس حیات کے بعد موت کا اور

پھر موت کے بعد حیات کا جو ظاہر ہے کہ آخری حیات حشر کی حیات ہے نیز ایسے بھی یہاں موت کو مقدم اور حیات کو موخر فرمایا گیا یہاں مقصد کلام ”وَلْيَسْلُواكُمْ أَتَيْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا“ ہے اور اس آزمائش کا ثمرہ اور نتیجہ موت کے بعد اسی حیات میں ظاہر ہوگا جو حشر کی حیات ہے۔

آسمانوں کے وجود پر قرآن کریم اور الہامی کتابوں کا فیصلہ اور حکماہر یونان و فلاسفہ کے خیالات

متعدد آیات قرآنیہ اور تمام آسمانی کتابوں سے آسمانوں کا وجود ثابت ہے اور یہ ستارے جو آسمان کی زینت بنائے گئے ان ہی کو مصابیح فرمایا گیا اور جو کام اللہ رب العزت ان سے لیتا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جنات و شیاطین پر انکو پھینک کر انہیں جلا یا جاتا ہے جیسے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں گزر چکا۔ اِنَّا نَسْفِكُ السَّمَكِ الْذَّيْبِ بِرِيحِنَا مِنَ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسْمَعُونَ اِلَى الْمَلَائِكِ الْاَعْلَىٰ وَ يَقْدِرُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُخُوٰنًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ اِلَّا مَن حَظِيَ الْخَطْفَةَ فَاتَّبَعَهَا شَهَابٌ ثاقِبٌ۔ تو اس آیت میں ستاروں سے متعلق دو باتوں کا ذکر کیا گیا کہ آسمانوں کی زینت اور جو جنات و شیاطین ملا برا علیٰ کی طرف کان بکھریں انکے واسطے شہاب ثاقب اور جلا کر خاک کر دینے والے تیسری بات جو ستاروں سے متعلق ہے وہ آیت مبارکہ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ میں فرمادی گئی۔


یہاں آیت جَعَلْنَا هَا كِي ضَمِيرٌ جِنْسٌ مَّصَابِيحٌ كِي طَرَفٌ رَاجِعٌ هِيَ ذِكْرٌ عَيْنٌ مَّصَابِيحٌ كِي طَرَفٌ حَافِظٌ اِبْنٌ كَثِيرٌ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ شیاطین پر یہ ستارے نہیں پھینکے جاتے جو آسمان پر ہیں تو اصل یہ ہے کہ لفظ مصابیح یا کوکب و نجوم ان ستاروں پر بھی بولا جاتا ہے جو آسمان پر ہیں اور ان ادخز اور شعاعوں کو بھی کہا جاتا ہے جو ستاروں کے ساتھ ہیں یہی ادخز اور شعاعیں ٹوشتی ہیں اور ان ہی کو پھینکا جاتا ہے زمین سے جو دخانی مادے اُٹھ کر فضا میں اوپر چڑھ جاتے ہیں تو کُرَّه نَارِ كَيْ قَرِيبٌ پھینچ کر ان میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ جلتا ہوا کوئی شعلہ پھینکا جا رہا ہے یہ ادخز ستاروں ہی کی طرح ہو جاتے ہیں اس وجہ سے انکو بھی کوکب و نجوم کی جنس سے شمار کیا گیا مگر بہر کیف یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے جس مادہ دخانی کو اللہ تعالیٰ اپنے ارادہ سے اس طرح چلنے اور بکھرنے کا حکم دے گا وہی ایسا ہوگا ورنہ نہیں یعنی ان کا یہ ٹوٹنا اور بکھرنا خود انکا کوئی طبعی تقاضا نہیں اور چونکہ یہ بھی ستاروں کی ایک قسم ہو گئے اس وجہ سے پھٹنے کے بعد زمین پر نہیں گرتے حالانکہ ان کا میل طبعی زمین کی طرف ہونا چاہیے تھا بلکہ ایک جانب سے دوسری جانب اس طرح بکھر جاتے

ہیں جیسا کسی نے پھینک مارا اس قسم کے مشاہدوں سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّبَعَهُ مِثْقَاتُ ثَابِتٍ اور فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ الغرض قرآن کریم میں جگہ جگہ آسمانوں کے بنانے کا ذکر ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اسی طرح فرمایا إِنَّا كَرَّمْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْكَبِ کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اَھْلَمُ يَنْظُرُ وَآ إِلَى السَّمَاءِ فَوَقَّهْمُ كَيْفَ بَيْنَهَا وَرَبَّتْهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ کیا نہیں دیکھا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو کس طرح بنایا ہم نے اسکو اور کیسی زینت دی اور ان میں کوئی درز بھی نہیں الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي سَعْلِقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَوَيْتٍ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فَأَنْتَ أَهْلٌ بِالسِّبْرِ اس نے سات آسمانوں کو اوپر تلے بنایا اسے دیکھنے والے مجھ کو خدا کی پیدائش میں کچھ تفاوت نہ معلوم ہوگا دوبارہ نظر آسمانوں کی طرف پھرا تیری نگاہ تھک کر خیرہ ہو کر رہ جائے گی وغیرہا من الآيات پس اس سے وہی اخیر معنی مراد ہیں کہ جسکو ہماری زبان میں آسمان کہتے ہیں اور ہر زبان میں اسکا نام ہے اور جسکو تمام عرب و عجم ہند و روم اہل یورپ قدیم زمانہ سے اب تک ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ خدا نے آسمانوں کو بنایا ہے ہم اسکو دیکھتے ہیں ان میں کوئی شکاف نہیں کہ جو خدا کی صنعت میں قصور ثابت کرے اور یہ ستارے آسمان پر لگے ہوتے ہیں اگر کسی پڑھے ہوتے سے پوچھیں گے تو وہ بھی یہی کہے گا اور ان پڑھ بلکہ جنگل کے رہنے والے وحشیوں سے دریافت فرماتے گا تو وہ بھی یوں ہی کہیں گے جس سے معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ بھی سمجھنا ان مسائل کے ہے جس کا علم انسان کی فطرت اور جبلت میں یکساں رکھا گیا ہے اور اسی فطری علم پر خدا نے تعسفاً اپنے کلام میں انسان کو مخاطب کر کے اپنے عجاہبات قدرت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام بھی اسی نہج پر کلام کرتے چلے آتے ہیں چنانچہ تورات اول کے پہلے باب میں یہ لکھا ہے "ابتداء میں خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا" پھر اسی کتاب کے باب میں طوفان نوح کے بیان میں یہ جملہ بھی ہے جب نوح کی عمر چھ سو برس کی ہوئی دوسرے مہینے کی سترہویں تاریخ کو اسی دن بڑے سمندر کی سب سوتیں پھوٹ کر نکلیں اور آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور یہ باب میں یہ جملہ ہے اور آسمان کی کھڑکیاں بند ہو گئیں اور آسمان سے پینہ قہم گیا انجیل متی کے باب میں ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے اصطباغ یعنی دریا میں غوطہ لگا کر باہر آتے تو انکے لیے آسمان کھل گیا اور مکاشفات روحنا کے باب اور دیگر ابواب سے صاف آسمان پر ستاروں کا ہونا اور انکے دروازے کھلنا اور وہاں سے آواز آنا وغیرہ وہ باتیں مذکور ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں اسی طرح ہنود کے وید اور پارسیوں کے دساتیر سے بھی آسمانوں کی بابت اس طرح کے مضامین مفہوم ہوتے ہیں الغرض ہزار ہا برس سے الہامی اور غیر الہامی کتابوں اور انبیاء علیہم السلام اور دیگر لوگوں کا اس امر میں اتفاق ہے

لیکن یونان کے فلسفیوں نے جس طرح اور چیزوں کی حقیقت اور ماہیت دریافت کرنے میں عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جو باتیں انکو اپنے قیاس اور تخمین یا تجربہ اور آلاست رصد وغیرہ سے دریافت ہوئیں تو انکو قلمبند کیا اور اس کا نام حکمت رکھا جسکی شاخیں ہیئت اور طبیعیات اور الہیات وغیرہ علوم ہیں کہ جن پر بہت سے کوتاہ بینوں کو ناز ہے مگر آسمانوں کی تحقیق میں انکے دو فریق ہو گئے ایک گروہ کے پیشوا کا نام ہے فیثاغورس "وہ کہتے ہیں آسمانوں کا وجود نہیں یہ ستارے بذات خود قائم ہیں کسی میں جڑے ہوتے نہیں پھر خود اس فریق کے بھی دو قول ہیں بعض کہتے ہیں ستارے اور ثوابت متحرک نہیں صرف زمین حرکت کرتی ہے اسکی وجہ سے یہ چیزیں حرکت کرتی ہوتی دکھائی دیتی ہیں جس طرح کہ دیل گاڑی میں درخت اور پتھر حرکت کرتے معلوم ہوتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ زمین بھی متحرک ہے اور ستارے بھی۔ آفتاب کو مدار ٹھہرا کر اسکے گرد حرکت کرتے ہیں ہاں چھوٹے چھوٹے ستارے کہ جن کو ثوابت کہتے ہیں وہ حرکت نہیں کرتے انکی حرکت زمین کی حرکت سے معلوم ہوتی ہے اور جس طرح ستارے آفتاب کے ایک فاصلہ معین پر حرکت ڈڈری کرتے ہیں اسی طرح زمین بھی اپنے بعد معین پر اسکے ارد گرد پھرتی ہے اور ستارے صرف یہ زحل، مشتری، مریخ عطارد، زہرہ، شمس، قمر ہی نہیں انکے سوا اور بھی رصد سے ثابت ہوتے ہیں یہ مذہب فیثاغورس ایک مدت تک تو حکما کے نزدیک اسکے دیگر اقوال کی طرح مردود اور معذرا مگر اس صدی میں اس نے یورپ میں بڑا دواج پایا اور یورپ کے بڑے بڑے محقق اسی کے مقلد ہو کر ان ہی باتوں کو الہامی اور لوح محفوظ کی باتیں سمجھنے لگے بلکہ اپنی تحقیقات سے اس پر اور کچھ بڑھایا اور چاند اور سیاروں میں پہاڑ اور دیگر اجرام عنقریب بلکہ حیوانات کے وجود کے بھی بعض لوگ قائل ہو گئے۔

دوسرے گروہ کے سر دفتر حکیم بطلیموس ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین گول گردی ہے کسی قدر یعنی تخمیناً چوتھائی حصہ اس کا ناہمواری کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا ہے باقی اس کے گرد پانی پھلا ہوا ہے جس کو سمندر کہتے ہیں پانی کے ارد گرد کڑھ ہوا پھلا ہوا ہے اس کے اوپر آگ کو سول تک ہر طرف سے لپٹی ہوئی ہے یہ چار کڑھنا صر کے ہوتے اس پر جس قدر زمین پانی سے اوپر اٹھی ہوئی ہے اس پر سب لوگ بستے ہیں ان چاروں کڑوں کے چاروں طرف پہلا آسمان ہے جسکو فلک القمر بھی کہتے ہیں یعنی اس آسمان میں چاند ہے جیسا کہ نیلے جسم پر ایک سفید گول نشان ہو جاتا ہے اسکے اوپر فلک العطارد ہے اسکے اوپر فلک زہرہ اسکے اوپر فلک شمس ہے یعنی چوتھا آسمان یہاں آفتاب ہے اسکے اوپر فلک مریخ کہ جہاں مریخ ستارہ ہے اسکے اوپر فلک مشتری کہ جہاں مشتری ستارہ ہے اس کے اوپر فلک زحل کہ جہاں زحل ستارہ ہے اسکے اوپر فلک الثوابت کہ جہاں یہ ستاروں ان گنت ستارے ہیں کہ جو از خود حرکت کرتے معلوم نہیں ہوتے یعنی ایک جگہ ہمیشہ ثابت رہتے ہیں چونکہ نیچے کے آسمان بلکہ کل آسمان نہایت شفاف اور صاف ہیں وہ اوپر کے ستارے سب

نظر آتے ہیں اسکے اوپر فلک الافلاک ہے کہ جسکو فلک اطلس کہتے ہیں یعنی سادہ اسس پر کوئی تارہ نہیں وہ دن رات میں مشرق سے مغرب کی طرف ایک جگہ چرخ کی طرح پھر کر دورہ تمام کرتا ہے اور اسکی وجہ سے سب آسمان اور تارے دورہ تمام کرتے ہیں کہ جس سے رات اور دن پیدا ہوتے ہیں یعنی جہاں سامنے آفتاب آگیا وہاں دن ہو گیا اور جہاں سامنے سے بالکل ہٹ گیا وہاں رات ہو گئی اور تمام ستارے از خود بھی ایک حرکت مغرب سے مشرق کی طرف کر کے دورہ تمام کرتے ہیں چاند تو ہمیشہ بھر میں اس دورہ کو تمام کر لیتا ہے دراصل گھٹنا بڑھنا نہیں بلکہ جس قدر وہ آفتاب کے مقابلہ میں آتا ہے اور اسی قدر اس پر روشنی پڑتی ہے اتنا ہی ہم کو دکھائی دیتا ہے ورنہ وہ گول بڑا بھاری جسم ہے زمین سے کہیں زائد ہے اور آفتاب اپنے دورہ کو دائرہ منقطع البروج پر برس میں تمام کرتا ہے اسی لیے مختلف فصلیں سردی اور گرمی کی پیدا ہوتی ہیں یہ کل تیز کرے ہوتے جن میں نو آسمان ہیں سات تو یہ کہ جن کو شرع نے سبح سلوٰت کہا ہے اور دو وہ کہ جن کو عرش و کرسی کہا ہے کرسی۔ فلک الثوابت عرش۔ فلک الافلاک ہے اس صورت پر اور آسمانوں کا کوئی رنگ نہیں کہو کہ اگر رنگ ہوتا تو اوپر کی چیزیں دکھائی نہ دیتیں اور یہ جو نیلگوں



معلوم ہوتا ہے یہ آسمان کی شغاف اور غبارت کی تیرگی سے پیدا ہوا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جب سفیدی اور سیاہی ملتی ہیں تو نیلی رنگت پیدا ہو جاتی ہے یا یوں کہو کہ اجزاء شغاف میں اجزائے بخاری جو کہ سیاہ ہیں انکے ملنے سے یہ نیلگوئی پیدا ہو گئی یا یہ کہو کہ اجزاء شغاف میں جب انکو دیکھتے ہیں تو نظر میں ایک تیرگی پیدا ہوتی ہے ان دونوں کے ملنے سے نیلگوئی پیدا ہوتی ہے جیسا کہ سمندر کا پانی نیلا دکھائی دیتا ہے اسکے علاوہ اور بہت سے مسائل اس حکیم اور اسکی جماعت کے ہیں اور چونکہ یہ مسائل کسی قدر الہامی کتابوں کے موافق ہیں اس لیے اس حکمت کا جس طرح حکماء یونان میں رواج ہوا اسی طرح جب حکمت یونانیہ عربی میں ترجمہ ہو کر آئی تو اہل اسلام نے بھی اسکو پسند کیا چنانچہ اب تک شرح چینی اور تذکرہ وغیرہما اسی حکمت کی کتابیں درس میں داخل ہیں بلکہ ایشیائی ملکوں میں ہندو اور ایرانی وغیرہما سب لوگ اور قدیم عیسائی اور یہودی بھی انہی مسائل کے معتقد ہیں لیکن اسلام کو اس بیعت سے کچھ بحث ہے نہ اس سے کہ اگر یہ غلط ہو تو اسلام کی صداقت میں کیا نقصان آتا ہے؟ اور جو وہ سراسر غلط ہو تو کیا نقصان ہے البتہ آسمانوں کی بابت علی سبیل فکر آیات قدرت جو کچھ قرآن یاد گیر کتب الہامیہ میں مذکور ہے اسکے تمام بنی آدم قائل ہیں وہ علم فطری ہے جب بطیموس اور فیثاغورس نہ تھے جب بھی لوگ ان باتوں کو مانتے تھے ہر کیف الہامی کتابوں بالخصوص قرآن مجید کے یہ ثابت ہے کہ آسمان کوئی مجسم چیز ہے کہ جو قیامت کو پھٹ جاوے گی عام ہے کہ وہ کوئی جسم اور کسی قسم کا ہو قال اللہ تعالیٰ

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَقَالَ تَعَالَىٰ إِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ — وَقَالَ تَعَالَىٰ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ - وَقَالَ تَعَالَىٰ ذَلِكُمْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

الآیۃ اگر آسمان فضا یا بعد موم کا نام ہوتا جیسا کہ بعض مقلدین یورپ کا قول ہے تو وہ ایک عدنی چیز ہوتا اس کا پھٹنا اور اسکے چھلکوں یعنی طبقات کا اکھڑنا اور اسکو پیدا کرنا اور بنانا جس طرح کہ زمین اور اسکی چیزیں بنائیں یا اس کی کھڑکیاں کھلنا جسکا کہ تواریت میں ذکر ہے اسکو سقف محفوظ کہنا چہ معنی دارد البتہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ وغیرہ اکابر سے جو کچھ آسمان کے باہمی فاصلہ کی نسبت مروی ہے اور یہ کہ فلاں آسمان چاندی کا اور فلاں زبرد کا اور فلاں اس کا اگر بسند صحیح ثابت ہے تو تشبیہ اور مجاز پر محمول ہے نہ حقیقت پر پھر اس پر اعتراض محض بیجا ہے۔

کذافی تفسیر الحقائق ج ۲ للعلامہ ابو محمد عبدالحق الحنفی الدہلویؒ

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ

اور جو منکر ہوتے اپنے رب سے

عَذَابُ جَهَنَّمَ ط وَيَسَّ الْمَصِيرُ ۖ اِذَا الْقَوُوفُ فِيهَا سَمِعُوا

انکو جسے مار دوزخ کی اور بڑی جگہ پہنچے جب اس میں ڈالے جاویں نہیں

لَهَا شَهِيْقًا وَهِيَ تَفُوْرٌ ۗ تَكَادُ تَمِيْزُ مِنَ الْغَيْْظِ ط كَلِمًا

اس کا دھاڑنا، اور وہ اچھلتی ہے ابھی لگتا ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے جس بار

اُلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلْتَهُمْ خَزَنَتُهُمَا الْمُرِيَاتِكُمْ نَذِيْرٌ ۗ قَالُوا

پڑا اس میں ایک ڈل، پوچھا ان سے اسکے داروغوں نے کیا نہ پہنچا نکو کوئی ڈرسانے والا وہ بولے

بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ ۗ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ

کیوں نہیں ہم یا اس پہنچا تھا ڈرسانے والا پھر ہم نے جھٹلایا اور کہا کوئی نہیں اتاری اللہ نے

شَيْءٍ ۗ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۙ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ

کچھ چیز تم بڑے بڑے بہکاوے میں اور بولے، اگر ہم ہوتے سنتے

اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۗ فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ

یا بوجھتے نہ ہوتے دوزخ والوں میں سو قائل ہوئے اپنے گناہ کے

فَسَحَقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۗ

اب دغ ہوں دوزخ والے

عقوبت و تنبیہ بر انکار لو حیدر رب العالمین

قال الله تعالى. وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اَعْدَاۤءٌ لِّمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ... الى ... فَسَحَقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ
در ربط، گزشتہ آیات میں خداوند کریم کی عظمت و کبریائی کا بیان تھا اور اسکی قدرت و خالقیت
دلائل و شواہد سے ظاہر فرمائی گئی تو اب ان آیات میں ان لوگوں پر وعید ہے جو اسکی الوہیت سے انکار
کرتے ہیں اور اسکی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے فرمایا

اور جن لوگوں نے کفر کیا اپنے رب کا انکے واسطے عذاب جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے

جس کی شدت و ہیبت اس سے معلوم ہو سکتی ہے کہ جب بھی یہ لوگ اس میں ڈالیں جائیں گے نہیں گے اس کے دھاڑنے کی آواز جو نہایت ہی ہولناک ہوگی اور وہ جہنم سمندر کی طوفانی موجوں کی طرح تھپیڑے مارتی ہوئی ہوگی قریب ہوگا کہ وہ جہنم اپنی لپٹوں اور بھاپ کی شدت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پھٹ پڑے اسکے جوش اور شدت اشتعال کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا کہ اب بھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو اسکے درد و غم پوچھیں گے ان سے کہ کیا تمہارے پاس نہیں آیا تھا کوئی عذاب خداوندی سے ڈرانے والا کہ تم کو اس عذاب جہنم سے ڈراتا اور تم اب اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوتے کہیں گے کیوں نہیں بے شک ہمارے پاس ڈرانے والا آیا مگر ہم نے اسکو جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور بجائے اسکے کہ انکی تصدیق کرتے ان پر ایمان لاتے ہم تو اپنی بدنحی سے یہ کہنے لگے تم تو بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ جہنمی یہ بھی کہیں گے نہایت ہی حسرت اور طلال کے ساتھ اے کاش اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے اللہ کے پیغمبر کی باتوں اور انکی نصیحتوں کو تو ہم نہ ہونے جہنیوں میں سے مگر نہ تو ہم نے کبھی کان لگا کر انکی بات سنی اور نہ عقل سے سوچا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ہم جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو گئے تو اس طرح وہ اعتراف کریں گے اپنے جرم کا۔ لیکن اس وقت حسرت و افسوس اور اعتراف گناہ کے کچھ فائدہ نہ ہوگا اس لیے اعلان ہوگا بس دھکے دو جہنم والوں کو اس طرح ملائکہ انکو دھکیں کر اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے سورۃ زمر میں ان مضامین کی تفصیل گزر چکی۔

اہل جہنم کے ساتھ اس طرح کی گفتگو صرف ان پر رحمت قائم کرنے کے لیے ہوگی اور یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ خداوند عالم کسی کو بغیر جرم کے عذاب نہیں دیتا اور جرم ایسا کہ خود مجرم بھی اس کا اعتراف کریں ابوالبختری الطائی بعض صحابہ سے نقل کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لن يهلك الناس حتى يعذروا
من انفسهم وفي حديث آخر لا
يدخل النار آخذ الا وهو يعلم
ان النار اولى به من الجنة
جان نے گا کہ واقعی جہنم ہی اس کے واسطے درست ہے۔

کماذ تَصَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ کے الفاظ جہنم کا منظر سمندر کی موجوں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح دیکھنے والا سمندر میں پانی کی موجیں اور تھپیڑے دیکھتا ہے بس یہی جہنم میں آگ کے تھپیڑوں کا ہوگا۔

اِنَّ اَنْتُمْ لَخم بعض مفسرین کی رائے ہے کہ کلمہ اِنَّ اَنْتُمْ اِلَّا فِیْ حَنَکَلِیْ کَبِیْرٍ۔ جہنم کے داروغہ اور فرشتوں کا ہونگا جو اہل جہنم کو توڑیخ اور دھمکی کے طور پر کہتے ہوں گے۔

فَلَمَّا بَسَّأْکَ تَفْسِیْرَہِیْ ہے جو سورہ یسین میں آیت یَحْسُرُوْہُ عَلٰی الْعِبَادِہِ کی گزر چکی اور تکذیب کو صرف رسول ہی کی تکذیب تک محدود رکھنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں ان ہادیان امت کی تکذیب بھی شامل ہے جو امت کو جزاء و سزا کی باتیں سنائیں اللہ اور اسکے رسول کا پیغام پہنچاتیں لیکن اچھی بات ماننے کی بجائے کفر و نافرمانیوں پر قائم رہنا بدکاریوں کفر و شرک جیسے کاموں میں مبتلا رہنا عملاً تکذیب ہے اسی طرح قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق اور زمانہ کے انقلابات سے عبرت حاصل نہ کرنا بھی تکذیب ہے عالم جادوئی سے غفلت دلا پرواہی اور عالم محسوس یعنی دنیا کی لذتوں اور نفس کی خواہشات پر مفتون ہو جانا روح کے تقاضوں کو فراموش کر دینا غرض یہ سب شعبے تکذیب ہی کے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایسے افراد زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اور ان کا عمل اسکی تردید و تکذیب کرتا ہے گویا ان لوگوں کی عملی زندگی بنی اسرائیل اور یہود کی طرز زندگی کا پیکر ہوتی ہے مَسُوْعِنَا وَّ عَصٰیْنَا کہ سن لیا ہے ہم نے مگر ہم نافرمانی ہی کریں گے۔

فَلَمَّا بَسَّأْکَ تَفْسِیْرَہِیْ میں موت کے مناظر بھی دیکھنا ہے کہ مرنے والوں کو مرنے ہوتے دیکھ کر بھی ہمیں آخرت کی فکر نہ ہوتی تھی اور اسی طرح دنیا میں مہمک رہتے تھے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ یُخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

جو لوگ ڈرتے ہیں اپنے رب سے

بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ اَجْرٌ کَبِیْرٌ ﴿۱۲﴾ وَاَسْرُوْا قَوْلَکُمْ اَوْ

بن دیکھے انکو معافی ہے اور نیک بڑا اور تم چھپی کہو اپنی بات یا

اَجْہَرُوْا بِہٖ اِنَّہٗ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۱۳﴾ اَلَا یَعْلَمُ مَنْ

کھول کر وہ جانتا ہے جیوں کے بھید بھلا وہ نہ جانے جس

خَلَقَ وَہُوَ اللّٰطِیْفُ الْخَبِیْرُ ﴿۱۴﴾ ہُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الرِّضَیْنَ

نے بنایا؟ اور وہی ہے بھید جانتا خبردار وہی ہے جس نے کیا تمہارے آگے زمین



ذِكْرًا فَاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِ

کو بہت اب پھر داس کے کندھوں پر اور کھاتے کچھ روزی دی اسکی اور اسی کی

النُّشُورِ ۱۵ ؕ اَمْنتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمْ

طرف جی اٹھنا ہے کیا نڈر ہوتے اس سے جو آسمان میں ہے؟ کہ دھسا دے تم کو

الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُورٌ ۱۶ ؕ اَمْ اَمْنتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ اَنْ

زمین میں ، پھر دیکھو وہ لرزتی ہے یا نڈر ہوتے ہو اس سے جو آسمان میں ہے؟

يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ۱۷ ؕ وَلَقَدْ

پھوڑ دے تم پر پتھراؤ باز کا سواب جانو گے، کیسا ہے میرا ڈر کا اور جھٹلا

كذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاِذَا هُمْ يُنذَرُونَ ۱۸ ؕ اَوَلَمْ يَرَوْا

چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، پھر کیسا ہوا میرا بگاڑ؟ اور کیا نہیں دیکھے

اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفْتٍ وَيَقْبِضْنَ مِمَّا يَمَسُّنَ اِلَّا

اڑتے جانور اپنے اوپر پر کھولے اور بھیکتے ان کو کوئی نہیں تھام رہا رحمن

الرَّحْمٰنُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ۱۹ ؕ اَمْ اَمْنتُمْ هٰذَا الَّذِي هُوَ

کے سوا اسکی نگاہ میں ہے ہر چیز بھلا وہ کون ہے؟ جو

جُنْدًا لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنْ الْكٰفِرُوْنَ اَكٰ

فوج ہے تمہاری مدد کرے گی تمہاری رحمن کے سوا منکر بڑے ہیں نرسے

فِي غُرُوْرٍ ۲۰ ؕ اَمْ اَمْنتُمْ هٰذَا الَّذِي يَرِزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهُ

بھکا دے میں بھلا وہ کون ہے؟ جو روزی دے گا تم کو اگر وہ رکھ چھوڑے اپنی روزی

بَلْ لَّجُوْا فِيْ عِتْوٰ وَّنَقُوْرٍ ۲۱ ؕ اَفَمَنْ يَّمْسِيْ مِكْبًا عَلٰی وَّجْهَةٍ

کون نہیں! پراڑ رہے ہیں شرارت اور بدگنتی پر بھلا ایک جو چلے اونرھا اپنے منہ پر

أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمِثِّي سَوِيًّا عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۳﴾

وہ سیدھی راہ پاد سے یا وہ جو چلے سیدھا ایک سیدھی راہ پر

بیان انعام بر اہل تقویٰ و احاطہ علم خداوندی باحوال فریقین

قال اللہ تعالیٰ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ..... إِلَى..... صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ .
 اربطہ گذشتہ آیات میں مسکین و مجرمین پر عذاب خداوندی کا بیان تھا اور یہ کہ روز قیامت جب کفار عذاب خداوندی کا مشاہدہ کریں گے تو ان پر کس طرح حسرت و ملال ہوگا اب ان آیات میں اہل ایمان و تقویٰ اور رب العالمین سے خشیت رکھنے والوں کی جزا اور انعام کا بیان ہے ارشاد فرمایا۔
 بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں غیب کی حالت میں انکے واسطے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جب کہ وہ عالم آخرت سے دور تھے جنت و جہنم بھی نظروں سے اوجھل تھی پھر بھی ایمان و تقویٰ اختیار کیا بلاشبہ وہ انعامات اور اعزازات کے مستحق ہیں یہی خشیت بحالت غیب کام آنے والی چیز ہے ورنہ خدا کی بارگاہ میں حاضری پر اور جنت و جہنم کا جب انسان مشاہدہ کرنے لگے تو ہر ایک ہی ڈرے گا اور عذاب جہنم سے کانپے گا لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت کا ڈر اور خشیت کسی صورت میں بھی کام نہ آئے گی اس وقت یہ فرمان خداوندی جاری ہوگا اور اسے لوگو! تم خوارہ بات چھپاؤ یا اسکو پکار کر رکھو اور ظاہر کر دو خداوند عالم کی بارگاہ میں کوئی فرق نہیں وہ تو دونوں دالی بات کو جانتے والے ہیں اور سوچنا چاہتے کیا وہ پروردگار نہیں جانتے گا جس نے پیدا کیا وہ تو بہت ہی لطیف باریک بین اور مخلوقات کے احوال سے پورا باخبر ہے اسی لیے کہ وہ مخلوقات کا خالق ہے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خالق کو اپنی مخلوق کا علم نہ ہو دلی خیالات بھی مخلوق ہیں گو وہ دل میں پھپھے ہوتے ہیں مگر وہ تو چونکہ لطیف ہے اور لطافت دلیل ہے علم و انکشاف کی لہذا وہ دل کے خیالات سے بھی باخبر ہے حکمرانے متعدد دلائل سے ثابت کیا ہے اور یہ بات خود کرنے پر سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جسمانیت ایک حجاب ہے بہت سی چیزوں کے علم و ادراک سے یہی جسمانیت دکنافت مانع بنتی ہے اسی لیے ملائکہ چونکہ اجسام نوریر اور لطیف ہیں اور ان میں روحانیت و لطافت ہے انکے بعد جنات جو مخلوق ناری ہیں اور نار میں بھی لطافت ہے گو نور سے کم ہو اس وجہ سے ملائکہ اور جن ان چیزوں کا ادراک کر لیتے ہیں جو ہمارے علم اور حواس سے بعید ہوتی ہیں اسی پر خواب کو بھی محمول کر لیا جائے کہ اس میں انسان بسا اوقات وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے جو بیداری میں نہیں دیکھ سکتا اسی بنا پر حضرات متکلمین نے بحالت خواب جنت و جہنم کو دیکھنا اور دیدار خداوندی کو تسلیم کیا ہے کیونکہ

بحالت خواب جسمانی حجابات کمزور ہو جاتے ہیں اور مدارکات حسیہ کے بجائے قلب کے مدارکات کام کرنے لگتے ہیں تو جب نفس خواب میں انسان کو ان باتوں کا انکشاف ہو جاتا ہے جن کا بحالت بیداری مشاہدہ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ قیامت کے روز جب عالم مادیت سے بالکل ہی منقطع ہو چکا ہوگا اور مادی حجابات مرتفع ہو چکے ہوں گے نہ معلوم وہ کیا کچھ دیکھے گا جس کا دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو انسان جب تک دنیا میں ہے گویا وہ عالم غیب میں ہے اور احوال آخرت سے اسکے تو اس بے خبر ہیں تو اس عالم میں خدا سے خوف و خشیت ایمان ہے ورنہ آخرت میں تو سب کچھ نظر آنے لگے گا اور ہر ایک ہی خدا کی عظمت و کبریائی سے کانپتا ہوگا۔

دہی پروردگار ہے جس نے تہارے واسطے زمین کو مسخر بنا دیا کہ اس پر جس طرح چاہو تصرف کرو چلو بھرو مکانات کا رخاںے تعمیر کرو یا نرم بنا دیا جس پر تم بیٹھ سکتے ہو اسکو کھود سکتے ہو ایسا سخت سنگ خارا نہیں کہ انسان سے نہ بیٹھا جائے نہ اس پر چلا جائے اور نہ کھودا جاسکے پھر عجیب قدرت ہے کہ اس نرزی کے باوجود ناخن سے کرید لو اس قدر مضبوط اور قوی کہ بڑے سے بڑے وزن سے نہ دبے اور نہ پھٹے تو چلو اے لوگو! تم اسکے کاندھوں یعنی راستوں میں اور کھاؤ خدا کے رزق سے جو اس نے زمین سے پیدا کیا اور یہ رزق اور جملہ نعمتوں کو کھاپی کر خدا کا شکر بھی ادا کرو اور یہ یاد رکھو کہ اسی کی طرف دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا اور جمع ہونا ہے میدان حشر میں خدا کی پیدا کی ہوئی رزقی اور نعمتوں سے مغرور نہ ہو اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا نہیں ہے تم اس حشر و نشر اور بعث بعد الموت کو زمین سے اگنے والی کھیتوں کو دیکھ کر کچھ سکتے ہو کہ کس طرح یہ تخم اور بیج زمین میں دبائے کے بعد پھر زمین سے ابھر رہے ہیں جب کہ یہ مٹی میں مل کر خاک بن گئے تھے اور پھر کچھ عرصہ بعد اسی شکل و صورت میں رونما ہو رہے ہیں جیسے کہ پہلے تھی تو حشر اور بعث بعد الموت کا یہ نمونہ دنیا کی نظردوں کے سامنے ہے جس طرح کہ انسان کو حشر و نشر اور آخرت سے بے خوف نہ ہونا چاہیے اسی طرح اس بات سے بھی بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ انسان کی بد اعمالیوں اور نافرمانیوں پر کسی وقت بھی عذاب نازل ہو سکتا ہے تو اسکے لئے فرمایا۔

کیا تم نڈر ہو گئے ہو اس ذات سے کہ جو آسمان میں ہے اس چیز سے کہ تمہیں زمین میں دھنسا

۱۷ "مناکب" کا ترجمہ راستوں سے کیا چلنے کی مناسبت سے مقصود تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے انسانوں کے لئے مسخر کر دیا ہے صاحب کشف کہتے ہیں یہ ایک تمثیل اور محاورہ ہے جو مسخر کہتے جانے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے تناوہ صفاک اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کے کاندھے پہاڑ اور ٹیلے ہیں انکی بلندی کی وجہ سے انکو مناکب الارض کہا جاتا ہے ۱۷

دے جب کہ وہ زلزلہ سے لرزے گئے تو وہی زمین جو تمہارے واسطے مسخر تھی تم اس سے منافع حاصل کرتے تھے اسی سے تمکو رزق ملتا تھا وہی زمین تمہارے واسطے عذاب و قہر بن جائے گی اور تم اس میں دھنسا دیتے جاؤ گے پھر کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے اس بات سے کہ وہ ایک سخت آندھی تم پر چھوڑ دے جو پتھر برسائے والی ہو غرض اس طرح زمین و آسمان سے عذاب خداوندی واقع ہو گا۔ پھر تو تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا اور دنیا کی نعمتوں اور نفس کی لذتوں نے تمکو فکر آخرت اور خوف خدا سے جو دور کر دیا ہے یہ سب ختم ہو جائے گا اور چاہو گے کہ اس وقت ایمان لے آؤ لیکن ظاہر ہے عذاب خداوندی نازل ہونے پر ایمان لانا معتبر نہیں انسان کو اس امر سے کسی بھی وقت غافل نہ ہونا چاہیے کہ خدا اور اسکے رسول کی بات جھٹلانے کا کیسا انجام ہوتا ہے چنانچہ ظاہر ہے اور بہت سی قوموں نے ان سے پہلے جھٹلایا اللہ کی باتوں کو تو پھر کیسا ہوا میرا انکار کرنا اور اس پر کیسا ہونا عذاب نازل ہوا جیسے کہ قوم عاد و ثمود کی تاریخ اہل عرب کے سامنے موجود ہے خداوند عالم کی شان کبریائی اور اسکی قدرت آسمان و زمین میں ظاہر ہونے کے ساتھ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی اسکی قدرت و عظمت کی گواہی دے رہے ہیں تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ ان کے اوپر کس طرح پر کھولے ہوئے ہیں اور پر جھپکتے بھی ہیں کوئی نہیں ہے انکو روکے ہوئے بجز رحمن کے وہی پروردگار رحمن درحیم اپنی قدرت سے انکو فضا میں سعلق روکے ہوئے ہے پرندوں کی یہ حالت خداوند عالم کی کبریائی کی بڑی ہی عظیم دلیل ہے۔

بے شک وہ پروردگار جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے بھلا وہ کون ہے جو لشکر مددگار ہو کر آجائے تمہارے واسطے رحمن کے سوا مدد کرے اور کسی بھی عذاب و مصیبت سے تم کو بچالے ہرگز ایسا ممکن نہیں کا فر تو بس دھوکہ ہی میں بڑے ہوئے ہیں انکو یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ اگر کوئی عذاب نازل ہوا جس سے ڈرایا جا رہا ہے تو انکے یہ معبود عذاب سے بچالیں گے یہ انکا کھلا ہوا دھوکہ ہے سو چنا چاہیے۔ بھلا وہ کون ہے جو تم کو روزی دے اگر وہ پروردگار اپنا رزق روک

عہ۔ استاذ محترم حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فائدہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ شاید پرندوں کی مثال بیان کرنے سے یہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب بھیجنے پر قادر ہے اور کفار اپنے کفر و شرارت سے اس کے مستحق بھی ہیں لیکن جس طرح رحمن کی رحمت نے پرندوں کو جو میں روک رکھا ہے عذاب بھی اس کی رحمت سے رکا ہوا ہے، کوئی بعید نہیں اسی لطیف اشارہ کے باعث اس موقع پر اللہ کی صفت رحمن ذکر فرمائی گئی ہو حالانکہ یہ امر قدرت سے متعلق ہے تو ظاہر کا تقاضا ہو سکتا تھا کہ صفت قدرت و عظمت کا ذکر ہوتا۔

نے دنیا کی طاقت مل کر بھی ایک دانہ زمین سے پیدا نہیں کر سکتی یہ سب باتیں ہر صاحب فہم انسان بڑی سہولت سے سمجھ سکتا ہے لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے بلکہ یہ تو اور زیادہ مضبوطی سے چپٹے رہے اپنی سرکشی پر اور خدا کی اطاعت سے بدکننے پر یقیناً اس گمراہی اور سرکشی کا انجام ہلاکت و تباہی کے سوا کیا ہو سکتا ہے بھلا کیا وہ شخص جو چل رہا ہو اوندھا منہ اپنے سر کے بل راہ راست پر ہے یا وہ شخص جو چل رہا ہے ٹھیک ٹھیک ایک ایسے راستہ پر جو نہایت ہی سیدھا ہے ظاہر ہے کہ صراطِ مستقیم پر سیدھا چلنے والا انسان ہی کامیاب ہے اور حق پر ہے اور جو اوندھے منہ سر کے بل گھسٹ رہا ہو وہ کیونکر فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اسی سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جو شخص قانونِ الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوۂ مبارکہ کی پیروی کرے گا وہی منزل مقصود کو پہنچے گا اور وہی تو من صالح ہے اور جو شخص ہوائے نفس میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول سے باغی ہو جائے وہ تھوکر بن کھاتا رہے گا اور ایک خاردار راستہ پر چلتے ہوئے ایسے عمیق اور گہرے گڑھے میں گرے گا کہ اس سے نکلنے کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ

تو کہہ وہی ہے جس نے تم کو نکال کھڑا کیا اور بنا دیتے تمکو کان اور آنکھیں اور

الْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ

دل تم تھوڑا حق مانتے ہو تو کہہ وہی ہے جس نے کھنڈایا تمکو

فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۳۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا

زمین میں اور اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور کہتے ہیں کب ہے یہ

الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ

دعدہ اگر تم سچے ہو تو کہہ خبر تو ہے اللہ ہی

اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهَا زُلْفَةً سَيِّئَتْ

پاس اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں کھول کر پھر جب دیکھیں گے وہ پاس آنگا

وَجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ

بڑے بن جاویں گے منہ منکروں کے اور کہے گا یہی ہے جس کو تم

تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ

مانگتے تھے تو کہہ، بھلا دیکھو تو! اگر کھیا دے مجھ کو اللہ اور میرے ساتھ والوں

أَوْ رَحْمَنَا لَفَنَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِينَ مِنْ عَذَابِ اَلَيْمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ

کو یا ہم پر ہر کرے پھر کون ہے جو بچا دے منکروں کو دکھ کی مار سے تو کہہ

هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهٖ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ

دہی رحمن ہے، ہم نے اسکو مانا اور اسی پر بھروسہ کیا سو اب جان لو گے کون

هُوَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَا وَاكُمْ

بٹرا ہے صبح بھکاوے میں تو کہہ بھلا دیکھو تو! اگر ہو رہے صبح کو پانی تمہارا

غَوْرًا فَمَنْ يَّاتِيكُمْ بِمَآءٍ مُّعِيْنٍ ﴿۳۰﴾

شک پھر کون ہے جو لا دے تمکو پانی نتھرا؟

دلائل قدرت رب العالمین و تنبیہ و تہدید بر مجرین و منکرین

قَالَ اللهُ تَعَالَى . قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَاَكُمْ ... اِلَى ... فَصَنَ يَّاتِيكُمْ بِمَآءٍ مُّعِيْنٍ

(ربط اگر مشہد آیات میں اہل ایمان و تقویٰ پر العامات خداوندی کا بیان تھا اور یہ کہ زمینیں مطیعین اور کفار و مجرین ہر دو ذریعہ کا خداوند عالم کو پورا پورا علم ہے انکا کوئی قول و عمل اللہ سے مخفی نہیں کوئی بھی اس کے احاطہ علم و قدرت سے باہر نہیں ہو سکتا تو اب ان آیات میں مزید دلائل قدرت بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ کہ جب خداوند تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور عطا کیا آنکھیں دیکھنے کے لیے دیں اور کان سننے کے واسطے تو پھر یہ بات فطرت سے بعید ہے کہ انسان نہ عقل و فکر سے کام لے نہ آنکھوں سے دلائل قدرت کا مشاہدہ کرے اور نہ کانوں سے حق ہدایت کی بات سنے۔ ارشاد فرمایا۔

کہہ دیجیئے وہی ہے خداوند عالم وحدہ لا شریک کہ جس نے تمکو پیدا کیا اور اسکی خالقیت کی بے شمار دلیلیں خود انسانی وجود میں ودیعت رکھی ہوتی ہیں اور تمہارے واسطے کان بنائے اور آنکھیں تاکہ آنکھوں سے دیکھو اور کانوں سے رشد و ہدایت کی باتوں کو سناؤ اور دل تاکہ عقل و فطرت کے تقاضے دلوں

میں سمانے والی باتوں کو قبول کر دیکر اسے انسانو! افسوس کہ تم میں سے بہت سوں نے ان چیزوں سے کام نہ لیا تو بہت ہی کم ہو کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اگر اس پر بھی یہ منکرین توجہ نہیں دیکھیں اور قبول حق کی طرف مائل نہیں ہوتے پھر کہہ دیجیئے کہ وہی تو ہے جس نے زمین میں بکھیرا اور اپنی قدرت سے کس طرح تم کو زمین کے مختلف خطوں اور علاقوں میں آباد کیا اور کس طرح اسباب معیشت اور سلمان راحت پیدا کیا اور یہ سب چیزیں اپنے تغیر و انقلاب اور وجود و فنا اور بقا و زوال سے اس امر کا واضح ثبوت ہیں کہ تم سب اسی کی طرف اٹھاتے جاؤ گے۔ ان حقائق و دلائل اور مشاہدات کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ خدا پر ایمان لاتے مگر ذرہ برابر بھی ان پر اثر نہیں اور بلکہ یہ کہتے ہیں یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو کب ہم زندہ ہوں گے اور کب قیامت آئے گی تو آپ کہہ دیں اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف ڈرانے ہی والا ہوں کھلم کھلا خدا کے عذاب سے اور روز قیامت کے واقع ہونے سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کو کوئی بھی مٹانے والا نہیں چنانچہ جب وہ لوگ دیکھیں گے اسکو قریب کہ عذاب خداوندی سامنے ہے قیامت برپا ہو رہی ہے تو بگڑ جائیں گے کافروں کے چہرے شدت غم اور بدحواسی کی وجہ سے اور کہا جائے گا یہی تو ہے وہ جس کو تم طلب کرتے تھے اور اللہ کے پیغمبر اور اہل ایمان سے کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر کافروں پر خدا کا عذاب آنے والا ہے تو لے آؤ کہاں ہے وہ عذاب تو اس طرح یہ منکر اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وہ بطور استہزاء مطالبہ اور جلدی کرتے تھے اور جنوں ہی وہ عذاب قریب آنے کا بڑے بڑے سرکشوں کے منہ بگڑ جائیں گے اور جہروں پر ہوا تیاں اڑنے لگیں گی۔

خداوند عالم کے عذاب کو کون مٹا سکتا ہے اسکے قہر و جلال کا تو یہ عالم ہے کہ اسے ہمارے پیغمبر انکو کہہ دیجیئے بھلا دیکھو تو اور مجھے یہ بتاؤ اگر بالفرض خدا مجھے ہلاک کرے اور انکو جو میرے ساتھ ہیں یا ہم پر رحم کرے جیسا کہ وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے تو پھر وہ کون ہے جو منکروں کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ یقیناً کسی میں جرأت نہیں کہ خدا کی کس بھی بات کو مٹا سکے اس لیے اس کا وہ عذاب جو کافروں اور منکروں پر واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی دفع نہیں کر سکتا اور اسکی وہ عنایات و رحمتیں جو اسکے رسول پر اور رسولِ اصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ہونے والی ہیں انکو کوئی نہیں روک سکتا اس شانِ عظمت و کبریائی کا ادراک و مشاہدہ کرنے والوں کو کہہ دیجیئے کہ وہی رحمن ہے جس پر ہم ایمان لاتے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس پر بھروسہ سہی ہدایت و کامیابی ہے اور اے کافرو! تم ان دونوں سے محروم ہو نہ ایمان ہے نہ توکل اس وجہ سے بس عنقریب تم جان لو گے کہ کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے ہم یا تم، آخر اے منکر و! کہاں تک تم خدا کی قدرت و خالقیت کا انکار کرتے رہو گے تو کہہ دو بھلا بتاؤ اگر تمہارا یہ پانی خشک ہو جائے تو کون لاتے گا تمہارے پاس چشموں سے پتا ہوا صاف ستھرا پانی۔ وہ پانی جس پر ہر جاندار کی زندگی اور ہر چیز کا بقا موقوف ہے چشموں کو دلوں اور نہروں سے خشک ہو جائے تو یہ موتی کی طرح صاف ستھرے قطرے لے آنے کی کمی میں قدرت

نہیں ہے۔

تَعْرِيفُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْرَةُ الْمَلِكِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُوْرَةُ الْقَلَمِ

اس سورت کا اصل موضوع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اثبات ہے اور منکرین و کفار کے شبہات و اعتراضات کا رد اور جواب ہے سورت کی ابتداء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت اور اسکی عظمت و رفعت سے کی گئی اور جو لغو قسم کی باتیں کفار مکہ کہا کرتے تھے انکار دہے ساتھ ہی ایسی لغو اور بے ہودہ باتیں کرنے والوں کی مذمت کا بیان ہے اور ان کی وہ بے ہودہ اور ذلیل خصلتیں ذکر کی گئیں جن میں وہ مبتلا تھے اور یہ کہ ایسے منکرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسا عذاب ہے اور کس قسم کی ذلت و سوائی انکے مقدر میں لکھی ہوئی ہے پھر اس موضوع کو واضح اور ثابت کرنے کیلئے ان باغ واول کا قعہ بیان کیا گیا جو اللہ کی نافرمانی کے باعث ان تمام نعمتوں کے محروم ہو گئے جو انکو حاصل تھیں اور قدرت خداوندی نے انکے جرم کا کیسا انتقام لیا تو یہ سب کچھ عبرت کا سامان ہے اہل مکہ اور وہ لوگ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے اور نافرمانی و سرکشی انہوں نے اپنا شیوہ بنالیا ہے انکو ایسے عبرتناک واقعات سے عبرت حاصل کرنی

۴۰ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں ہمیں سے یہ بھی سمجھ لو کہ جب ہدایت کے سب چشمے خشک ہو چکے اس وقت ہدایت و معرفت کا خشک نہ ہونے والا چشمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کی صورت میں جاری کر دینا بھی اسی رحمان مطلق کا کام ہو سکتا ہے جس نے اپنے فضل و انعام سے تمام جانداروں کی ظاہری و باطنی زندگی کے سامان پیدا کیے۔ اگر بغرضِ خال یہ چشمہ خشک ہو جائے جیسا کہ اشقیاء کی تمنا ہے تو کون ہے جو مخلوق کے بیٹے ایسا پاک و صاف نتھرا پانی پیدا کر سکے "حضرات مفسرین نے بیان کیا کہ اس آیت کو بعض متکبرین نے سنا تو بڑی ہی گستاخی سے کہا "ہم زمین سے کھود کر نکال لیں گے" اس وقت خدا نے انکی آنکھوں کی رطوبت اور پانی جذب کر لیا اور غیب سے ندا سنائی دی اے گستاخ تو زمین کی تہوں سے پانی کیا نکال کر لائے گا تو اپنی آنکھ ہی کا پانی لے آ لیا ذبالہ شان خداوندی میں گستاخی سے اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین

چاہیے ساتھ ہی قیامت اور احوال قیامت کا بھی ذکر آگیا اور یہ کہ روز قیامت نہایت ہی شدید دن ہوگا
جرمیں اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو انہی ذلت و بد حالی کی کوئی حد نہ ہوگی اختتام سورت پر آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش کی اذیتوں پر صبر و تحمل کی تلقین فرمائی گئی۔

❖ ❖ ❖

آیاتھا ۵۲ = ۶۸ = سُورَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ = ۲ فِيهَا ذِكْرُ عَمَّا

سورۃ قلم مکی ہے اور اس میں ہادوں آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ

قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں تو نہیں اپنے رب کے فضل سے

بِجَنُونَ ۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ

دیوانہ اور تجھ کو نیک ہے بے انتہا اور تو پیدا ہوا

لَعَلَّ خُلِقَ عَظِيمٍ ۴ فَسَتَبْصِرُ وَيَصْبُرُونَ ۵ يَا أَيُّكُمْ

ہے بڑے خلق پر سواب تو بھی دیکھ لے گا اور وہ بھی دیکھ لینے کون ہے کہ

الْمُفْتُونَ ۶ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

بچل رہا ہے تیرا رب وہی بہتر جانے جو بہکا اسکی راہ سے

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۷ فَلَا تَطِعِ الْمَلَكِدَّ بَيْنَ ۸ وَدُوًّا

اور وہی بہتر جانتا ہے راہ پانے والوں کو سو تو کہا نہ مان جھٹلانے والوں کا وہ چاہتے ہیں

لَوْ تَدَّ هُنَّ فَيَدُّهُنَّ ۹ وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۱۰

کسی طرح تو جھیلنا ہو تو وہ بھی ڈھیلے ہوں اور کہا نہ مان کسی قسم کھانے والے کا بے قدر

هَمَّا زَمَسَاءٍ بِيَمِينِهِ ۱۱ مَنَاءٍ لِّلْخَيْدِ مَعْتِدِ اٰتِيْمٍ ۱۲ عَتَلٌ ۱۳

ٹھننے دیتا، چغلی لیتے بھرتا ، بھلے کام سے روکتا، حد سے بڑھتا، گنہگار ، اجڑ

بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۱۳ اَنَّ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِيْنَ ۱۴ اِذَا

اس سب کے پچھے بدنام ، اس سے کر رکھتا ہے مال اور بیٹے جب

تَتَلٰى عَلَيْهِ اٰتِنَا قَالَ اَسَا طِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۱۵ سَنَسِيْمُهُ

سناتی ہے اسکو ہماری باتیں کہے یہ نقلیں ہیں پہلوں کی اب داغ دینگے ہم

عَلَى الْخُرُطُوْمِ ۱۶

اسکو سونڈ پر

بیان عظمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و تلقین صبر استقامت

قال الله تعالى لَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ الخ سَنَسِيْمُهُ عَلَى الْخُرُطُوْمِ
(ربط) گزشتہ سورت میں خداوند عالم کی خالقیت کے دلائل ذکر کیے گئے اور یہ کہ اس کی
قدرت کائنات کو محیط ہے اسکے احاطہ علم و قدرت سے کوئی مجرم نہیں نکل سکتا تو اب اس سورت
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ثابت فرمایا گیا اور یہ کہ آپ کی شان میں گستاخی
کرنے والے مجرمین خدا کے عذاب سے ہرگز نہیں بچ سکتے اور جو کچھ وہ آپ پر اعتراض کرتے
ہیں وہ سب لغو اور بے ہودہ باتیں ہیں کوئی صحیح النقل انسان ایسی بے ہودہ باتیں تصور
بھی نہیں کر سکتا ارشاد فرمایا۔

ن۔ خدا تعالیٰ ہی اسکی مراد بخوبی جانتا ہے قسم ہے قلم کی اور قسم ہے اُنھی جو کھتے ہیں آپ نہیں

عہ یہی مسلک اہل حق اور محققین کا ہے اگرچہ بعض عارفین اس حرف لون کو ناصر یا ناصر کا
مخفف قرار دیکر یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ یہ تسلی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو کہ ہم آپ کے مددگار ہیں یا ہم آپ کی مدد کریں گے بعض مفسرین نے اور بھی معانی
بیان کیے ہیں واللہ اعلم۔ ۱۳

ہیں اپنے رب کے فضل سے دیوانہ بلکہ دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ علم و حکمت اور عقل دنانا کی کے مالک ہیں جس توحید اور مکارم اخلاق کی دنیا کو تعلیم دی وہ اس کا واضح ثبوت ہے کہ دنیا کے سادہ حکماء اور فلاسفہ کو حکمت دنانا کی آپ کے چشم فیض سے ملی ہے آپ کی حکمت دنانا کی اہل مکہ کے نزدیک کوئی عجب چیز نہیں قریش اور ان کے علاوہ اطراف و اکناف عرب میں اس کا چرچا تھا یہ بات تو کیسے ممکن ہے کہ آپ دیوانہ ہوں بلکہ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے واسطے تو ایسا اجر عظیم ہے کہ جو کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں کیونکہ آپ کی ذات سے دنیا میں توحید و مکارم اخلاق رواج پائیں گے خدا پرستی جب مشرق و مغرب میں پھیلے گی تو بلاشبہ اس سب کا اجر و ثواب آپ ہی کو ملتا رہے گا اور بے شک آپ تو بڑے ہی اچھے اور بلند پایہ خلق پر ہیں یہ ایسے اخلاق عمیدہ اور پسندیدہ اخلاق کہ دنیا میں ان اخلاق و اعمال نے مسلمانوں کو عزت و حکومت اور سر بلندی عطا کی۔

تو عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ کون تم میں سے وہ ہے جو بھٹک رہا ہے اور کون وہ ہے جو پیکر

۵۵ خلق خاں اور لام کے ضمہ کے ساتھ عادت کو کہا جاتا ہے اچھی عادت کو خلق حسن اور بری عادت کو خلق سؤر یعنی بد اخلاقی سے تعبیر کریں گے تو خلق حسن یا خلق عظیم انسان میں اس طبعی ملکہ کو کہا جاتا ہے جس کے باعث انسان پسندیدہ کام سہولت سے کر سکتا ہے بہر کیف عملی اور اخلاقی ہیئت عملیہ کو خلق کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے مثلاً حیا، کرم، سخاوت، شجاعت، ہمدردی و احانت، وصلہ رحمی، صبر و حلم۔ اور ہر بری بات اور بے ہودہ خصلت سے پرہیز اور نفرت کرنا تو اس طرح کا وصف انسان کی فطرت میں رچا ہوا ہو کہ یہ تمام باتیں بے تکلف اس سے واقع ہوتی رہیں تو ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم ان جملہ اخلاق حسنہ اور پسندیدہ خصلتوں سے نہ صرف یہ کہ متصف ہیں بلکہ دنیا نے ان باتوں کو صرف آپ سے ہی سیکھا۔

ابوالدرداءؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا گیا کہ آپ کا خلق کیا تھا جواب دیا آپ کا خلق قرآن کریم تھا ام المؤمنین حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش خلق نہ تھا جب بھی کسی نے کام کے لئے بلا یا آپ نے اس کا کام کر دیا عمر بھر آپ نے کسی کو گالی نہ دی نہ برا بھلا کہا انس بن مالکؓ فرمایا کرتے تھے میں نے دس برس آپ کی خدمت کی اس طویل مدت میں آپ نے کبھی مجھے کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا اور اگر کوئی کام غلط کر لیا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا " ۱۳۔

علم و حکمت اور عقل و فراست ہے کون عاقبت اندیش ہے اور کس کی عقل ماری گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پانگلوں جیسی باتیں اور حرکتیں کرتا ہے بلاشبہ آئندہ کی تاریخ اسکا فیصلہ کر دے گی بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے اسکو کہ جو بھٹکا ہوا ہے اسکے راستے سے اور وہی خوب جانتا ہے ان کو بھی جو راہ راست پر ہیں اس کا علم ہر عمل اور ہر عامل کو محیط ہے اس وجہ سے ہدایت اور نیکی پر چلنے والوں کا انجام فلاح و کامیابی اور عزت و غلبہ ہوگا اور گمراہوں کا انجام ہلاکت و تباہی ہے کفار و مشرکین تو اسی کوشش میں لگے رہیں گے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں انکی کچھ رعایت کریں اور کفر و گمراہی اور معبودان باطلہ کے رد میں سخت رویہ کو ترک کر دیں۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے ہی ہو سکتا ہے کہ حق و باطل اور توحید و شرک میں امتیازی ختم ہو جائے گا اس لیے آپ کو تاکید ہے ہرگز ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانئے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو پھر وہ بھی آپ کے ساتھ نرمی برتیں ہرگز آپ ایسا نہ کریں۔ انکو نرمی اور خوش خلقی کی طبع میں احقاق حق اور تردید باطل میں کسی طرح کی نرمی اور کمزوری مقام رسالت کے ساتھ ذریعہ نہیں دیتی ایمان حق پرستی کا تقاضا ہی ہے کہ حق کی آواز بلا جھجک کے بلند کی جائے دشمن خواہ سختی اختیار کریں یا برا بھلا کہیں اہل باطل کی خوشنودی کی طرف مائل ہونا کسی بھی حق پرست کے لیے قابل برداشت بات نہیں ہے اور آپ ہرگز بات نہ مانیں کسی ایسے شخص کی جو خوب قسمیں کھانے والا حقیر و ذلیل انسان ہو۔ طعن و تشنیع کرنے والا ہو پھل خوردی کرتا پھرتا ہو ہر پھلے کام سے لوگوں کو روکتا ہو حد سے زیادہ سرکش بڑا ہی گناہگار ہو نہایت ہی بدخود بے ہودہ ان سب باتوں کے بعد بدنام رسواستے زمانہ بھی ہوئے اس شخص کا غرور و تکبر اور سرکشی اور ہر خیر سے لوگوں کو روکتا اس وجہ سے تھا کہ وہ بہت مالدار اور بیٹوں والا تھا وہ اپنی سرکشی اور غرور میں اس حد تک پہنچا کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہے یہ تو پہلے گزرے ہوتے لوگوں کی کہانیاں ہیں اس مغرور و تکبر کو اس بات کا احساس تک نہ رہا کہ دنیا میں کسی شخص کا دولت مند یا صاحب اولاد ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اسکی بات حق ہے اور وہی کامیاب بھی ہے اصل عزت و کامیابی تو انسان کے اخلاق و عادت اور کردار کی خوبی اور شرافت و خوش اسلوبی پر موقوف ہے تو ظاہر ہے کہ ایسے اہل فریب انسان کی باتوں کی طرف نہ کوئی التفات کرنا چاہیے اور نہ ہی اس سے متاثر ہونا چاہیے۔

۱۔ رسواستے زمانہ اور بدنام لفظ "زیم" کا ترجمہ ہے جس کو حضرت شیخ الہند نے اپنے ترجمہ میں اختیار فرمایا بعض حضرات سلف اور اہل لغت نے زیم کے معنی ولد الزنا اور "حرام زادے" کے کہتے ہیں اور جس کافر کے بارہ میں یہ آیات نازل ہوئیں وہ اہل مکہ میں اسی حیثیت کے ساتھ معروف تھا اور وہ ولید بن مغیرہ تھا۔ ۱۲

ایسے نالائق اور بدبخت انسان کے لیے تو ہم نے یہ طے کر لیا ہے اور ہم داغ دیں گے اسکی سونڈ پر اسکی وہ ناک جو سونڈ کی طرح ہے نہایت ہی بے ڈول اور چوڑی بڑی بھدی نظر آتی ہے یہ شخص قریش کا ایک سردار ولید بن مغیرہ تھا جس میں یہ تمام اوصاف بنیام و کمال موجود تھے اور ناک پر داغ میں ذلت و رسوائی کا داغ تھا جو اس پر لگ کر رہا علاوہ انہیں جس طو پر بھی دنیا میں یہ داغ لگ کر رہا جسکی صورت یہ ہوتی کہ ہڈ کی لڑائی میں ایک انصاری کی تلوار کا اسکی ناک پر چرکا لگا اور اس سے وہ زخمی ہوتی مگر مکرہ آکر اسکی سر ہم پٹی کی مگر یہ زخم کسی طرح اچھا نہ ہوا بلکہ ایک نمایاں داغ پڑ گیا اور اس زخم کی سختی اور تلخی سے نجات نہ پاسکا حتیٰ کہ اسی حالت میں جہنم رسید ہو گیا۔

ناک ہی انسان کے غرور و تکبر کا نشان ہے عرف میں ناک عزت و آبرو کو کہتے ہیں اور ذلت و رسوائی کو محاورات میں ناک کٹ جانا کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے غرور و خود بینی کے نشان پر داغ لگایا جانا تکبر اور سرتابی کی مناسب سزا ہوتی اس میں ایک لطیف رمز اور اشارہ یہ بھی ہے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے والے ہاتھیوں کے لشکر کا انجام قریش مکہ نے دیکھ بھی لیا تھا اب یہ ہاتھی جیسی ناک والا بھی اپنی ذلت و ہلاکت کا انجام دیکھ لے گا۔

قلم اور تحریر قلم تاریخ عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و حقانیت کا ثبوت اعظم

دنیا میں علوم کے نقل اور اشاعت کا ذریعہ قلم ہے۔ اور قلم کے ذریعہ علم و معرفت کے خزانے ایک قرن سے دوسرے قرن اور ایک قلب سے دوسرے قلب تک منتقل کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آغاز وحی پر جب اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ کا خطاب ہوا اور آپ نے فرمایا ما انا بقارئ کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ پڑھا ہوا ہوں تو قرأت اور علم و حکمت کے حصول کے اس واسطہ اور ذریعہ کا اس طرح ذکر فرمایا گیا۔ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَكُنْ يَكْتُبُ۔ کہ قلم کے ذریعے انسان تک وہ علوم پہنچتے ہیں جن کو وہ پہلے نہیں جانتا ہوتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ قلم سے تقدیر الہی کا قلم مراد ہو جیسے کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے اول قلم پیدا فرمایا اور پھر اسکو فرمایا ادأ کتب، یعنی لکھ اے قلم۔ قلم نے کہا اے پروردگار کیا لکھوں جواب ملا لکھ لے ہر وہ چیز جو موجود ہے اور وہ بھی جو قیامت تک ہونے والا ہے بہر کیف قلم کی عظمت ظاہر ہے اور اسی عظمت کے پیش نظر قلم اور قلم سے لکھے جانے والے علوم و معارف کی قسم کھاتی گئی جو نہ کہ قسم اور جواب قسم

میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہوتی ہے تو مآ آنت بتعمصہ ربک بجمحتون یعنی اس اعلان دو کہ آپ اپنے ہر دروگار کے فضل و انعام کی وجہ سے مجنون یا دیوانہ نہیں ہیں، کے ثابت کرنے کے لئے قلم اور قلم سے تحریر کیے جانے والے علوم کی قسم کھاتی کیونکہ علوم اور حکمتیں لکھی جاتی ہیں اور ایسی حکمتیں کہ دنیا کے حکماء ان پر حیران ہوں ان اسرار و حکم سے لوگوں کو فہم و شعور کا ایک حصہ ملے تو بلاشبہ اس قسم پر یہ مضمون مرتب کرنا اور کفار مکہ کے اس بے ہودہ و لغو اعتراض کا جواب نہایت ہی لطیف ہوا جیسے کہ کسی تاریکی اور ظلمت کے الزام کو رد کرنے کے لئے سورج اور سورج کی تابناک شعاعوں کی قسم کھاتی جاتے اس وجہ سے اس اعتراض کے بالمقابل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف خلق عظیم کا ذکر فرمایا جو دنیا کی تمام حکمتوں اور دانائی کے رموز کے لئے ایک جامع اساس ہے کہ کہاں ان بے ہودہ لوگوں کا یہ کہنا کہ آپ مجنون ہیں اور کہاں آپ کا یہ مقام کہ لعلی خلق عظیم کہ جملہ کمالات عقلیہ و عملیہ کا سرچشمہ ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ بہترین اخلاق والے تھے (فرمایا) اور میں نے کبھی کوئی ریشم و دیباچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کوف مبارک (بتھیلی) سے زائد نرم و لطیف نہیں چھوا اور کبھی کوئی مشک و عنبر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پسیدہ مبارک سے زائد خوشبودار نہیں پایا ایک روایت میں براہ بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرمایا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجمہا واحسن الناس خلقا تھے یعنی جس طرح آپ ظاہر جسم چہرے کے لحاظ سے پیکر حسن و جمال تھے باطنی اخلاق کے لحاظ سے حسن خلق کا پیکر اعظم تھے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ریشم اور مشک و عنبر کا ذکر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے آپ کے اخلاق کی نرمی و لطافت کے سامنے ریشم کی نرمی بیچ تھی اور آپ کے اخلاق مبارک کی ہنک اور خوبو کے سامنے برعطر اور مشک و عنبر شرماتے تھے۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد قرآن کریم میں فرماتے ہیں، "دنیا میں بہت دیوانے ہوتے ہیں اور کتنے عظیم الشان مصلحین گزرے ہیں ابتداء قوم نے دیوانہ کہہ کر پکارا ہے مگر قلم نے تاریخی معلومات کا جو ذخیرہ بطون اوراق میں جمع کیا ہے وہ بہانگ دہل شہادت دیتا ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے حالات میں کس قدر زمین و آسمان کا تفاوت ہے آج آپ کو (العیاذ باللہ) مجنون کے لقب سے یاد کرنا بالکل وہی رنگ دکھتا ہے جس رنگ میں دنیا کے جلیل القدر اور اولو العزم مصلحین کو ہر زمانہ کے شریروں اور بے عقلوں نے یاد کیا لیکن جس طرح تاریخ نے ان مصلحین کے اعلیٰ کارناموں پر لقا و دوام کی ہر ثبوت کر دی اور ان مجنون کہنے والوں کا

مگر ان کا مفہوم ایک قانونِ کلی اور عمومی مفہوم کے درجہ میں ہوتا ہے کہ جو بھی ان احوال سے مستصف ہو یہ آیات اسی پر منطبق ہیں۔

إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ

ہم نے ان لوگوں کو جانچا ہے جیسے جانچا اس باغ والوں کو جب

أَقْسَمُوا لِيَصْرَمَهَا مَصْبِحِينَ ۱۶ وَلَا يَسْتَنْوْنَ ۱۸ فَطَافَ

سب نے قسم کھائی کہ اسکا میزہ توڑینگے صبح کو اور انصار اللہ نہ کہا پھر پھر اگر گ

عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ۱۹ فَاصْبَحَتْ

اس پر کوئی پھیرنے والا تیرے رب کی طرف سے ادرہ سوتے رہے پھر صبح تک ہوا

كَالضَّرِيمِ ۲۰ فَتَنَادُوا مَصْبِحِينَ ۲۱ إِنِ اغْدُوا عَلٰی حَرْثِكُمْ

جیسے ٹوٹ چکا پھر آپس میں پکارے صبح ہوتے کہ سویرے چلو اپنے کھیت پر

إِن كُنْتُمْ صَرْمِينَ ۲۲ فَانطَلِقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۲۳ أَلَا

اگر تم کو توڑنا ہے پھر چلے اور آپس میں کہتے تھے چکے چکے کہ

لَا يَدْخُلُهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۲۴ وَغَدُوا عَلٰی حَرْثِ

اندر نہ آئے ہاؤسے اس میں آج تمہارے پاس کوئی محتاج اور سویرے چلے چکے

قَدِيرِينَ ۲۵ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ۲۶ بَلْ لَنْ

زور پر پھر جب اسکو دیکھا بولے ہم راہ بھولے نہیں! ہماری

مُحْرَمُونَ ۲۷ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

قسم نہ ہوتی بولا ان میں بیچ کا میں نے تم کو نہ کہا تھا کیوں نہیں پاکی بولتے اللہ کی

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۲۸ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ

بولے پاک ذات ہے ہمارے رب کی ہم ہی تقصیر وار تھے پھر منہ کر کر ایک دوسرے کی

عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَامُونَ ﴿۳۱﴾ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ ﴿۳۲﴾

طرف گئے اور لاہنا دینے بولے اسے خرابی ہماری! ہم تھے حد سے بڑھنے والے

عَسَىٰ رَبَّنَا أَن يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۳۳﴾

شاید ہمارا رب بدل دے ہم کو اس سے بہتر۔ ہم اپنے رب سے آرزو رکھتے ہیں

كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْأَخِيرَةُ أَكْبَرُ مَرَلَوْكَانُوا

یوں آتی ہے آفت اور آخرت کی آفت سوسب سے بڑی اگر ان کو

يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾

سمجھ ہوتی

عبرت ناک انجام غرور و تکبر بر دولت دنیا و محرومی از سعادت آخرت

قال الله تعالى - إِنَّا بَدَّلْنَاهُمْ كَمَا بَدَّلْنَا آصْحَابَ الْجَنَّةِ... الخ... لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
 (ربط) گزشتہ آیات میں اہل مکہ کے ان مغرور و متکبر انسانوں کا ذکر تھا جنہوں نے محض اپنے مال و دولت اور اولاد و خاندان کے نشہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی انکار و کفر کے منکب ہوئے تو اب ان آیات میں ایک باغ والوں کا قصہ بیان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو دنیا کے مال و منال پر بھروسہ کر کے مغرور و حکیر نہ ہونا چاہیے دنیا کی حقیقت بس اتنی ہی ہے اور غرور کا انجام ایسا ہی ہے جیسے کہ اس باغ کی تباہی اور باغ والوں کی بربادی سے ظاہر ہو رہا ہے یہ باغ والے چند بھاتی تھے جنہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ اس باغ کی آمدنی اور پیداوار کو صدقہ و خیرات کر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے اور باپ کی یہ روش کہ وہ غریبوں اور یتیموں کو خوب صدقہ کرتا تھا ہم باقی نہیں رکھیں گے تو یہ باغ کس طرح قہر خداوندی سے جل کر خاک ہو گیا اور یہ لوگ حسرت و افسوس ہی کرتے رہ گئے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے انکو آزمایا ہے۔ جیسا کہ آزمایا تھا ہم نے باغ والوں کو جب کہ انہوں نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد مال کی محبت میں صدقہ و خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل کیا اور اسکی یہ عادت کہ باغ کا پھل توڑنے پر غریبوں پر پہلے صدقہ کرتا ان لوگوں کو ناگوار گزری

اور اس وجہ سے یہ طے کیا اور سب نے قسمیں کھاتیں کہ ہم ضرور بالضرور اس باغ کا پھل توڑیں گے صبح ہوتے وقت اور انشاء اللہ نہیں کہہ رہے تھے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کہتے اگر اللہ نے چاہا۔ کیونکہ خدا کے ارادہ کے بغیر انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تو گھوم گئی اس باغ پر ایک گھوم جانے والی چیز آپ کے رب کی طرف سے جو آگ کے شعلے برسانے والی ہوا تھی اور وہ سوتے سوتے تھے تو وہ باغ صبح تک ایک پتھر کی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا رات کے بگولوں نے باغ اور کھیت سب صاف کر ڈالا پھر ایک دوسرے کو پکارنے لگے جب کہ وہ صبح کے وقت اٹھے تاکہ علی الصباح جیسا کہ طے کیا تھا کہ اندھیرے اندھیرے باغ میں جا کر پھل توڑ لیں اور اس وقت تک فیر دل اور سکینوں کے آنے کی نوبت نہ آئے کہ سویرے ہی چلے چلو اپنے کھیت پر اگر تم کھیتی کاٹنا چاہتے ہو اور پھل توڑنا چاہتے ہو پتھر بھر یہ لوگ روانہ ہوتے اور حال یہ کہ ڈر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے ایسا نہ ہو کہ آج کوئی سکین تم پر داخل ہو جائے اور تدبیر یہ ہونی چاہیے کہ ہرگز کوئی سکین آہی نہ سکے اور یہ باتیں آہستہ کر رہے تھے کہ کہیں کوئی سکین سن ہی نہ لے اور صبح ہی صبح چلے پکٹتے ہوئے اس یقین کے ساتھ اب سب کچھ اپنے قبضہ میں کر لینے والے ہوں گے اور قادر ہوں گے اس پر کہ سارا پھل اور کھیتی اپنے قبضہ میں لے لیں اور کسی سکین کو باغ کے قریب بھی نہ آنے دیں لیکن جب وہاں پہنچے اور اس باغ کو دیکھا تو یہ سوچ کر کہ ہمارا باغ تو نہایت ہی سرسبز و شاداب تھا یہ تو ہمارا باغ نہیں ہو سکتا ہم راستہ بھٹک کر کسی اور جگہ آگئے ہیں تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھٹک گئے ہیں مگر کچھ قرآن اور محل وقوع اسی طرح دوسری نشانیوں کو دیکھ کر یہ یقین کر لیا کہ نہیں یہ تو ہمارا ہی باغ ہے جو جل کر خاک ہو گیا تو بولے نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی اور ہم اپنی بد نصیبی کی وجہ سے محروم ہو گئے ہیں ان میں سے درمیانہ اور معتدل درجہ کا بھائی بولا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کیوں نہیں تم اللہ کی پاکی بیان کرتے اور اسکی حمد و ثناء اور تسبیح زبان و عمل سے کیوں نہیں ادا کرتے یعنی میں تمکو پہلے ہی کہتا تھا کہ اپنے رب سے غافل نہ ہو اسکا شکر ادا کرتے رہو اور اسکے ساتھ اپنی زندگی کا رابطہ اسکی نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوتے باقی رکھو لیکن افسوس کہ تم نے میری بات نہ مانی اس پر وہ شرمندہ ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوتے اور کہنے لگے پاکی ہے ہمارے پروردگار کی بے شک ہم بڑے ہی

یہ لفظ بڑھا کر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ بھائی صرف باعتبار عمر ہی کے درمیانہ نہ تھا اور نہ اس معنی کو قطعی سمجھنا چاہیے بلکہ بہت ممکن ہے کہ اسکو اوسط اسکے اعتدال اور میانہ روی کے باعث کہا گیا ہو اور عباسؓ مجاہد اور سعید بن جبیرؓ سے بھی منقول ہے۔

اول درمیانہ درجہ اس وجہ سے کہ نہ تو یہ ان بھائیوں کی طرح سکینوں پر صدمہ و خیرات سے بچ رہا تھا اور نہ ہی اس میں اس قدر ہمت و قدرت تھی کہ اپنے بھائیوں کی غلط روش کا مقابلہ کرنا اس لئے یہ درمیانہ درجہ کا ہوا۔

ظالم ہیں پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے ملامت کرنے لگے اور کہتے تھے ہاتھ ہماری بربادی! بے شک ہم تو بہت ہی سرکش اور تعدی کرنے والے ہو گئے کہ اسکی کوئی حد ہی نہ رہی ہم نے اپنے آپ کو بھی فراموش کیا اور خدا کے احکامات کو بھی نہیں پہچانا اب ہم ندامت و شرمندگی کے ساتھ تائب ہوئے اور اپنے خدا ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے بہتر کوئی نعمت عطا کر دے بس ہم تو اپنے رب کی طرف رجعت و آرزو قائم کر چکے ہیں وہی ہماری آرزو کا ماویٰ و ملجا اور اسی کی طرف ہمارا اس ہے اے سنے والو! سن لو بس اسی طرح ہے خدا کا عذاب جب آتا ہے تو دنیا میں بھی انسان کو تباہ و برباد کر ڈالتا ہے اور یقیناً عذابِ آخرت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے جس کا دنیا میں کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کاش کہ یہ نازمان لوگ اس حقیقت کو جان لیں کہ یہ دنیا کے عذاب کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا جسکو کوئی طاقت اور تدبیر مٹا نہ سکی تو عذابِ آخرت کو کون مٹا سکتا ہے جسکی عیبیت و عظمت سے آسمان و زمین کا پتہ ہیں۔

غرور و تکبر سے سرسبز و شاداب باغ کی تباہی

حافظ ابن کثیر قرطبی اور علامہ آلوسی نے بیان کیا ہے کہ یہ باغ والے جن کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے اہل یمن میں سے تھے سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ صنعاء میں یمن سے تقریباً چھ میل دوری کی مسافت پر ایک قصبہ خروان تھا یہاں کے باشندے اصل میں حبشہ کے تھے وہاں ایک شخص نہایت ہی کریم النفس اور سخی تھا جس کا یہ باغ تھا مذہباً یہ اہل کتاب تھا نہایت ہی خدا ترس۔ اس شخص نے اپنے باغ اور کھیت کی آمدنی سے غزبارہ دمساکین یتیموں اور یتیموں کے حصے اور وظیفے مقرر کر رکھے تھے یہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا تھا اس شخص کے انتقال کے بعد اسکے بیٹوں نے ان تمام باتوں کو قطعاً ترک کر ڈالا ان کے دل میں نفس اور شیطان نے یہ ڈالا کہ ہم تو عیال دار ہیں اخراجات اور مصارف ہی پورے نہیں ہوتے ہم نے اگر باپ کی طرح غزبارہ دمساکین کو دینا شروع کر دیا تو ہم کہاں سے کھائیں گے اور جب فصل کٹنے یا پھلوں کے توڑنے کا وقت آیا تو ان سب نے باہم مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ پھلوں کو توڑنے کے لیے ہم صبح سے پہلے اندھیرے اندھیرے پہنچ جائیں اور ان مسکینوں کے آنے سے پہلے جو باپ کے زمانہ میں پھل توڑنے کے وقت آتے تھے سارے پھل گھر لے آئیں تاکہ انکو کچھ دینا نہ پڑے ان میں سے ایک بھائی تو جس کو قرآن کریم نے قَالَ اَوْسَطُّكُمْ فرمایا ہے انکو سمجھاتا رہا اور منع کرنے لگا کہ ایسا نہ کرو بلکہ مساکین پر خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں صدقہ سے تو اور برکت ہوتی ہے اسکی مزید رحمتیں اور عنایات واقع ہوتی ہیں مگر اس کی کسی نے نہ سنی اور نہ مانی اور جس طرح طے کیا تھا صبح سے پہلے اندھیرے وقت باغ کی طرف چلے وہاں جا کر دیکھا تو خدا کے قہر و عذاب نے اسکو جلا کر خاک کر ڈالا تھا جس پر حسرت و دھمکے سے ہاتھ ملتے رہ گئے اس

حسرت و ملال کی کیفیت کو قرآن کریم نے تفصیل سے بیان کیا۔

یہ قصہ چونکہ اہل عرب میں مشہور ہو چکا تھا حتیٰ کہ عوام و خواص میں قرآن بعد قرآن اسکو بیان کیا جاتا تھا اس وجہ سے قرآن کریم نے کفار مکہ کی عبرت و تنبیہ کیلئے ذکر فرمایا اور یہ کہ انسان کو دنیا کے مال و دولت پر ہرگز غور نہ کرنا چاہیے۔

امام بیہقی نے جعفر بن محمد کی سند سے ایک روایت نقل کی ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا کہ آپ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص رات میں اپنی کھیتی کاٹے یا باغ کے پھل توڑے بظاہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اسی قصہ کے پیش نظر ہے کیونکہ مجرمین کی مشابہت سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک بیان کرتے ہیں فرمایا اِنَّا كُنْهُمُ وَالْمَعَايِنُ اِنَّ الْعَبْدَ لِيَذْنُبُ ذُنُوبًا فَيَحْتَمِ بِهَا رِزْقًا قَدْ كَانَتْ هِيَ لَكَ۔ یعنی اسے لوگو! تم مہمسی اور گناہوں سے بچو بے شک بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ کوئی گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس رزق سے محروم ہو جاتا ہے جو اسکو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَكَاتَبَ عَلَيْهَا كَاتِبٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ كَاثِمُونَ تَتَنَافَى شَانَهُ اِٰنِیْ نِعْمَتُوْنَ كَا حَتٰی اُوْر شُكْرَا اِذْ كَرْنٰی كِی تُوْفِیْقِ عَطَا فَرَمٰی اُوْر نَا شُكْرٰی كِی نَحْوَسْتِ سِی بَحَا نٰی۔

رَبِّ اُوْر عَنَا اِن نَشْكُرْ نِعْمَتَكَ الَّتِیْ اَنْعَمْتَ عَلَیْنَا وَاِن لَّنَعْمَلْ صَالِحًا تَرْضَاكَ وَاَدْخَلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصَّالِحِیْنَ اٰمِیْنِ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ

اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِیْمِ ۝۳۷

البتہ ڈر والوں کو اپنے رب کے پاس باغ ہیں نعمت کے

اَفَجَعَلُ الْمَسْلِیْمِیْنَ كَالْمُجْرِمِیْنَ ۝۳۵ مَا لَكُمْ ذِكْرًا كَیْفَ

کیا ہم کریں گے حکمرانوں کو برابر گنہگاروں کے ؟ کیا ہوا تمکو کیسی بات

تَحْكُمُونَ ۝۳۶ اَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِیْهِ تَدْرُسُونَ ۝۳۷ اِنَّ لَكُمْ فِیْهِ

ٹھہراتے ہو ؟ کیا تم پاس کوئی کتاب ہے جس میں پڑھ لیتے ہو اس میں ملتا ہے

لَمَّا تَخِیْرُونَ ۝۳۸ اَمْ لَكُمْ اٰیْمَانٌ عَلَیْنَا بِالْغَیْبِ اِلٰی یَوْمِ

تمکو جو پسند کرو کیا تم نے ہم سے کوئی قسمیں لی ہیں پوری قیامت کے دن

الْقِيَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ﴿۳۹﴾ سَأَلْتُمُ اللَّهَ بِذَلِكَ

تک پہنچتی کرتی کو ملے گا جو ٹھہراؤ گے : پوچھ ان سے کون سا ان میں

زَعِيمٌ ﴿۴۰﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا

اسکا ذمہ لیتا ہے کیا انکے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہتے لے آئیں اپنے شریک اگر وہ

صَادِقِينَ ﴿۴۱﴾ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

سچے ہیں جس دن کھول جاوے پنڈلی اور بلائے جاویں سجدہ کو

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۴۲﴾ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذِلَّةٌ

پھرن کر سکیں۔ نوریں ہیں انکی آنکھیں چڑھی آتی ہے ان پر ذلت

وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿۴۳﴾

اور پہلے انکو بلائے تھے سجدہ کو اور وہ چنگے تھے

فَذَرْنِي وَمَنْ يُكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ

اب چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلانے والوں کو اس بات کے کہ ہم سیرھی سیرھی اتاریں گے

حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾ وَأَقْبَلِي لَهُمْ إِنْ كِيدِي مَتِينٌ ﴿۴۵﴾ أَمْ

انکو جہاں سے یر نہ جانیں گے اور انکو ڈھیل دیتا ہوں بیشک میرا داد پکا ہے کیا

تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴿۴۶﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ

تو مانگتا ہے ان سے کچھ تنگ سو ان پر چھٹی بوجھ پڑتی ہے کیا ان کے پاس

الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۴۷﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ

خبر ہے غیب کی سودہ لکھ لاتے ہیں اب تو ٹھہرا راہ دیکھ اپنے رب کے حکم کی اور مت ہو

كَصَاحِبِ الْحَوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۴۸﴾ لَوْلَا أَنْ تَدَارَكُ

جیسے بھلی والا جب پکارا اور وہ غصہ میں بھرا تھا اگر نہ سنبھالتا اس کو

نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبْذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ۝۳۹ فَاجْتَبِهْ

احسان ترے رب کا تو پھینکا گیا ہی تھا چٹیل میدان میں الزام کھا کر پھر نوازا اسکو

رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۴۰ وَإِن يَّكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا

اپنے رب نے پھر کر دیا اسکو نیکیوں میں اور منکر تو لگے ہی ہیں کہ ڈکا دیں

لَيُزِلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ

تجھ کو اپنی نگاہوں سے جب سنتے ہیں سمجھوتی اور کہتے ہیں وہ

لَمَجْنُونٌ ۝۴۱ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۴۲

باؤلا ہے اور تو ہی سمجھوتی ہے سارے جہان والوں کو

بشارت اہل ایمان و تقویٰ بنعمہ جنت و تذلیل و توہین کفار و مشرکین در روز آخرت

قال الله تعالى: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ الخ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
 (ربط گذشتہ آیات میں ان منکرین و مکذبین کا ذکر تھا جو دولت کے نشہ میں مست ہو کر اللہ کی
 نافرمانی پر پھر بستے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل کی تو انکی نافرمانی اور غرور کا انجام
 ہلاکت ایک تادمحی واقعہ کی شکل میں بیان فرمایا گیا اب ان آیات میں اہل تقویٰ و ایمان کا اعزاز و اکرام
 اور جنت میں حق تعالیٰ شانہ ان کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے گا بیان فرمایا جا رہا ہے پھر اسی کے ساتھ
 تشبیہ کے طور پر غیرین و منکرین کا قیامت کے روز کیسا بڑا انجام ہو گا ذکر فرمایا گیا اور اس ذلت و خواری کا منظر
 پیش کیا گیا جس میں وہ مبتلا ہوں گے۔

فرمایا بے شک تقویٰ والوں کے لئے اسکے پروردگار کے یہاں باغات ہوں گے نعمتوں کے یہ دنیا
 والے کیا اپنے باغ و بہار پر غرور و تکبر کرتے ہیں متقیوں کو آخرت میں جو باغات اور نعمتیں دی
 جائیں گی وہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے قلب و دماغ میں اس کا تصور
 گزرا ظاہر ہے کہ ان نعمتوں سے یہ کفار و مجرمن محروم ہوں گے اور کیوں نہ ہوں تو کیا ہم فرماں برداروں

کو جرین کے برابر کریں گے، نہیں ہرگز نہیں اور یہی بات عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے مطابق ہے اور یہ کہ مسلم دنیا، بردار اور مجرم دنیا فرما کر برابر ہوں عقل و فطرت کے خلاف ہے اگر اسے کافر! تم اس قسم کا فیصلہ کرتے ہو تو بڑے ہی افسوس کی بات ہے کیا ہو گیا تم کو تم یہ کیسے فیصلے کرتے ہو کیا تمہارے پاس اس دعوے پر کوئی لکھی ہوئی چیز ہے جس کو تم بطور دلیل سنا سکو اور پڑھتے ہو یا ایسی کوئی قابل اعتبار کتاب ہے کہ جسکو بطور سند پیش کیا جاسکے کیا اس میں کوئی ایسی چیز ہے یعنی کہ تم اسکو اپنے واسطے پسند کر لو کہ تمہیں وہی ملے گا جو چاہو اور تمہاری من مانی خواہشات پوری ہوں اچھا تو کیا تمہارے واسطے ہم پر قسمیں ہیں اور تم نے ہم سے قسموں کے ساتھ کوئی عہد و پیمانہ لے رکھے ہیں جو قیامت تک پہنچنے والے ہوں اور ان قسموں کی وجہ سے ہم قیامت کے روز مجبور ہوں کہ وہ چیزیں تم کو دیں اور مطیعین و فرمانبرداروں کی طرح تم جرین کو بھی اپنے انعامات سے نوازیں اور اسکی رو سے تم کو وہی کچھ ملے جو تم فیصلہ کرو اور جس طرح تم دنیا میں عیش و عشرت میں ہو قیامت تک اسی حال میں رہو گے جو شخص اس قسم کا دعویٰ کرے اسے ہمارے پیغمبر! آپ ان سے پوچھیے کون ہے ان میں سے ایسا جو اسکا ذمہ دار بنے ذرا ہم دیکھیں تو یہی وہ کون ہے اور کیسا ذمہ لیتا ہے ان لوگوں کے پاس دلیل تو کیا ہوتی نہ عقلی اور نہ نقلی شخص جو سٹے معبودوں پر بھروسہ کر رکھا ہے! تو ان کے واسطے کچھ خرابی ہے تو پھر انکو چاہیے کہ وہ اپنے شر کار لیکر آئیں اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں ظاہر ہے جو معبود خود عاجز ہیں اور انکا وجود ہی انکے عابدوں کی عبادت پر قائم ہے تو وہ کیا خاک اپنے عابدوں کی مدد کریں گے قیامت کے روز فریب کا یہ پردہ چاک ہو جائے گا اور مشرکین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ زندگی بھر جن معبودوں کی پرستش کی وہ بیکار اور عاجز شخص ہیں اس دن کی عظمت وہ نسبت سے تو لوگوں کے ہوش و حواس اڑے ہوں گے۔

یہ دن وہ ہوگا جب کہ کشف ساق فرمایا جائے گا اور اس طرح اللہ رب العزت اپنی ایک خاص تجلی ظاہر فرماتا ہوگا اور انکو سجدہ کی طرف بلایا جائے گا تو یہ طاقت نہ رکھیں گے کہ سجدہ کر سکیں ہزار کوشش کریں گے کہ جھکیں اور تجلی الہی کے ظہور پر اسکے سامنے سز سجدہ ہو جائیں لیکن انکی کمزوری ایک تختہ کی طرح ہوگی اور کسی طرح بھی سجدہ نہ کر سکیں گے اس حالت میں انکی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت و خواری انکو ڈھانکے ہوئے ہوگی حالانکہ ان کو سجدہ کی طرف بلایا جاتا رہا جب کہ وہ صحیح و سالم تھے دنیا کی زندگی میں اور قدرت رکھتے تھے کہ سجدہ کر لیں لیکن عناد و بغاوت میں اس طرح بدست رہے کہ کبھی خدا کو سجدہ نہ کیا اب روز قیامت جب کہ انکی پشت لکڑی کا تختہ ہوگی اور دل سے چاہیں گے کوشش کریں گے کہ سجدہ کر لیں مگر نہ سکیں گے یہی ایک بات عبرت و ہدایت کے لئے کافی ہے کہ وہ پیغمبر خدا پر ایمان لے آئیں لیکن اس پر اگر وہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو پھر اسے ہمارے پیغمبر بھوڑ دو تھو کو اور اسکو جو اس بات کو جھٹلا رہا ہے میں خود ایسے بد بختوں سے نمٹ لوں گا اور انکی نافرمانی کی سزا پوری طرح انکو مل کر رہے گی ابھی تو ہم انکو ہدایت دے رہے ہیں اس طرح کہ ان کو

معلوم ہی نہیں کہ محض حکمت خداوندی کے انکو ڈھیل دی جا رہی ہے اور میں انکو ہمت دے رہا ہوں اور یہ ہمت اس وجہ سے نہیں کہ ابھی انکو عذاب دینے کا سامان میرے پاس فراہم نہیں بلکہ یہ محض ایک حکمت ہے اور یہ قانون حکمت خداوند عالم نے پہلی قوموں میں جاری دکھا مگر جب بھی میں مجرموں کو پکڑوں گا اس سے کوئی مجرم بچ نہیں سکے گا بے شک میری پکڑ بڑی ہی سخت ہے یہ تمام باتیں ایک صحیح الفکر انسان کے سمجھنے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے واسطے کافی ہیں مگر پھر بھی ان لوگوں کا ایمان نہ لانا قابل حیرت اور باعث افسوس ہے تو کیا آپ ان سے کوئی معاذ خدا مانگتے ہیں کہ وہ اس تاوان سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ایمان لانے کے واسطے تیار نہیں ہوتے نہیں ہرگز نہیں جیسا کہ ظاہر ہے تو پھر کیا انکے پاس غیب کی خبر ہے کہ وہ اسکو لکھتے ہیں اور وحی الہی کی طرح اسکو محفوظ کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انہیں ایمان لانے کی ضرورت نہیں اور اللہ کے پیغمبر پر نازل ہونے والی اس وحی اور کلام الہی کے مستفید اور بے نیاز ہیں آخر اس بہت دھرمی اور انکار کا کوئی تو سبب اور وجہ ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی وجہ میں سے کوئی وجہ بھی ممکن نہیں راہیسی حالت میں اللہ کے پیغمبر پر بے چینی اور گھبراہٹ کا واقع ہونا امر طبعی تھا تو فرمایا جا رہا ہے تو بس آپ تو صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے وقت کا اور استقلال دہمت سے صبر کرنے ہوتے انتظار کیجیے کہ ایسے مجرموں کے واسطے خدا کا کیا فیصلہ نافذ ہوتا ہے اور نہ ہو جاتیے پھلی والے کی طرح بے چینی اور گھبراہٹ میں یا عجلت و جلد بازی میں یعنی حضرت یونسؑ ذوالنون کی طرح جب کہ وہ اپنی قوم کی مسلسل نافرمانی پر غم و غصہ کی حالت میں برداشت نہ کرتے ہوتے نکل کھڑے ہوتے اور قوم کے حق میں عذاب کی دعا بلکہ پیش گوئی بھی کر بیٹھے تو قدرت خداوندی سے ایک پھلی نے انکو نکل لیا تھا جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا "لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ" کہتے ہوتے درآنحالیکہ وہ گھسے ہوتے تھے غم و غصہ اور پریشانیوں کے ایک غم و غصہ تو قوم کی نافرمانی اور انکی سرکشی اور ایمان نہ لانے کا ایک ایسے مجرموں سے عذاب ٹل جانے کا پھر پیغمبر خداوند عالم کی صریح اجازت اور وحی شہر چھوڑ دینے کا ان سب باتوں کے علاوہ پھلی کے بیٹ میں مہوس ہو جانے کا تو مجموعی طور پر یہ کتنے غم اور کس قدر انواع و اقسام کی گھٹن تنگی اور ظلمتیں تھیں لیکن خداوند عالم کس قدر کریم اور مہربان ہے کہ ان سب بے چینیوں اور گھبراہٹوں سے نجات دی یہ بلاشبہ اللہ کا عظیم انعام تھا تو اگر انکے رب کی طرف سے یہ نعمت دہر بانی انکو نہ سنہالتی تو وہ پھینکے ہوتے ہوتے ایک چٹیل میدان میں اس طرح کہ ہمت ہی بد حال ہوتے یہ اللہ کا کس قدر انعام عظیم ہے کہ قبول توبہ کے بعد اپنی گراں قدر نعمتوں سے نوازا اور نہ تو پھلی کے بیٹ سے نکل کر بڑی ہی بڑی حالت میں ایک چٹیل میدان میں بڑے ہوتے ہوتے نہ کوئی کرامت ہوتی اور نہ کوئی فضل و کمال باقی رہتا لیکن ان کے رب نے انکو پھر نوازا اور انکو پھر بنا دیا نیک اور برگزیدہ

لوگوں میں سے اور اس ابتلا یا آزمائش یا ان مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے انکے مراتب و درجات مزید بلند کر دیئے تو اسی طرح آپؐ بھی صبر و برداشت کریں اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کریں اسکے فیصلہ سے قبل کوئی بے چینی اور گھبراہٹ مقام نبوت کی عظمت و بلندی سے گری ہوئی چیز ہے رہا منکرین و کافران کا انکار و مقابلہ اور دشمنی تو ظاہر ہے کہ اس کا سلسلہ تو کبھی منقطع نہیں ہو سکتا اور ان کافروں کے غیظ و غضب کا یہ عالم ہے کہ قریب تھا کہ یہ کافر آپؐ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے جب کہ انہوں نے قرآن اور ذکر الہی کو سنا اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں مالا کہ یہ قرآن تو ایک پیغام نصیحت ہی ہے تمام جہانوں کے لئے جس کی ایک ایک آیت حکمتوں اور خوبیوں سے بھر پور ہے بھلا ایسے کلام کو پیش کرنے والا دیوانہ ہو سکتا ہے نہیں ہرگز نہیں یقیناً وہی سب سے بڑا پاگل اور دیوانہ ہے جو ایسا کہتا ہے ۱۵۔

۱۵۔ اس واقعہ کی تفصیل مختلف اور متعدد موقوفوں پر گزر چکی اور واقعہ کے اجزاء کچھ نہ کچھ تفصیل کے ساتھ حضرات قارئین کے سامنے آچکے۔

غالباً یہی وہ اجتساب اور کرامت کا مقام ہے جس کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقولوا انا خیر من یونس بن متی کہ مت کہا کرو کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں ۱۶

۱۶۔ لغت عربیہ میں زلق کے معنی پھسلا دینے کے ہیں

اکثر مفسرین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ اور منکرین کو قرآن کریم سے اس قدر عداوت تھی کہ سن کر غیظ و غضب سے مشعل ہو جاتے اور زہر آلود نگاہوں سے گھور گھور کر دیکھتے اور یہ امر طبعی ہے کہ ایسی غضب آلود نگاہوں کو دیکھ کر انسان متاثر یا خوف زدہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں امر رسالت کی تبلیغ اور احکام خداوندی کے اظہار و بیان میں قدم ڈگمگانا طبع بشری کے آثار میں سے ہو سکتا ہے تو اسکو فرمایا جا رہا ہے کہ قریب تھا کہ یہ کافر آپؐ کو ڈگمگادیں اور پھسلا دیں تو اس پر فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں آپؐ استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پر جمے رہتے اور تنگ دل ہو کر کسی معاملہ میں عجلت و جلد بازی نہ کیجیے۔

بعض روایات مفسرین سے یہ بھی مفہوم ہوا جیسا کہ بیان کیا گیا کفار مکہ نے بعض لوگوں کو جو نظر لگانے میں مشہور تھے اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ آپؐ کو نظر لگائیں چنانچہ ان میں سے ایک آیا جس وقت کہ آپؐ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے اور پونکاً قوت و ہمت سے نظر لگانے کی کوشش کی آپؐ نے فوراً لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا اور وہ ناکام و ذلیل ہو کر واپس ہو گیا۔

شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قواعد میں فرماتے ہیں نظر لگنے یا لگانے کے مسئلہ پر بحث کا یہ موقع نہیں اور آج کل جب کہ مسریم ایک باقاعدہ فن بن چکا ہے تو اس میں مزید رد و کد کرنا بیکار سا معلوم ہوتا ہے۔

کشف ساق اور تجلی خداوندی کے ظہور کا مفہوم

صحیح بخاری اور مسلم کی روایات میں ہے حق تعالیٰ میدان قیامت میں اپنی ساق (پنڈلی) ظاہر فرمائے گا اور اس وقت تمام لوگوں کو دعوت دی جائے گی کہ پروردگار کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ تو اس وقت صرف وہی سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں ایمان لا کر اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے لیکن کافر اور منافق کہ انکی پشت لکڑی کے تختہ کی طرح کر دی جائے گی اور وہ چاہیں گے کہ سجدہ کریں لیکن نہ کر سکیں گے (بعض حدیث میں صرف منافق کا لفظ آیا ہے اور بعض سندوں سے کافر اور منافق دونوں منقول ہیں) یہ سب کچھ ایسے ہوگا کہ میدان حشر میں اہل ایمان و اخلاص کا ایمان و اخلاص ظاہر ہو جائے اور منافق دریا کا دریا رکھل کر تمام انسانوں کے سامنے آجائے۔

لفظ ساق عربی میں پنڈلی کو کہا جاتا ہے اس مقام پر کشف ساق کا مفہوم اور اسکی حقیقت کیا ہے یہ حقیقت پر محمول ہے یا حجاز اور کنایہ ہے یہ عنوان اور صفت بھی صفات متشابہات میں سے ہے بعض لوگ جن کو فرقہ مشبہہ کہا جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کے واسطے جسم جیسے احوال کو ثابت مانتے ہیں وہ اسکو حقیقت پر محمول کرتے ہیں مگر جمہور ائمہ متکلمین اشاعہ اور ماترید یہ اس پر متفق ہیں کہ اللہ رب العزت ہر اس چیز اور حالت و صفت سے منزہ اور پاک ہے جو مخلوق اور اجسام کی صفات میں سے ہو تو اسکو بھی *عَلَى الثَّوْنِ عَلَى الْعَرْشِ الْمُنْتَوَى*، اور ایسی ہی دیگر صفات کو ظاہر پر محمول کرنے کے بجائے استعارہ پر محمول کرتے ہیں اور پھر اس میں متقدمین ظاہر پر ایمان و یقین کے ساتھ تشبیہ و تمثیل سے پرہیز کرتے ہیں یہ کہتے ہوتے *كَمَا هُوَ يَلِيْقُ بِشَانِهِ* کہ جس طرح اسکی شان کبریاء کے لائق و مناسب ہو اسی طرح لفظ *يَدُ* (ہاتھ) *ذِمَّة* (چہرہ) کا مفہوم مانتے ہیں اور بعض ائمہ ان *ثَوْنِ* احوال کی نادیل کر لیا کرتے ہیں جیسا کہ بیان کیا ہے چکا کہ استواء کا مفہوم غلبہ اور حکومت ہے تو یہاں بھی اسی طرح بلا کیف و تشبیہ ایمان و یقین کے ساتھ یہ معنی بیان کیے گئے کہ کشف ساق اللہ رب العزت کی ایک خاص تجلی کا ظہور ہے جس کو دیکھ کر تمام مومنین سر بسجود ہو جائیں گے۔

عمر بن حفص حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں فرمایا کشف ساق قیامت کے روز کا کرب اور وہ شدت دے چینی ہے جو ہر ایک پر طاری ہوگی ابن جریرؒ کشف ساق کے معنی امر عظیم اور ہیبت ناک حالت بیان کرتے تھے بعض دیگر روایات میں ابن عباسؓ ہی سے دوسرے معنی یہ منقول ہیں جس وقت حقائق کھل جائیں گے اور ہر ایک انسان کا عمل روشن و ظاہر ہوگا۔

حافظ عماد الدین ابن کثیر نے ابو بردہ بن ابی موسیٰؓ فرموا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت

معہ تفسیر ابن کثیر ج ۴ تفسیر قرطبی

کیا ہے قال یَوْمَ یُکْشَفُ عَن سَاقٍ یعنی عن نور عظیم
بعض روایات میں ہے کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے اس کے معنی دریافت کیے تو آپ نے
شدت اور کرب کی تفسیر کی اور فرمایا جب تم کو کسی لفظ قرآنی کے معنی واضح نہ ہو سکیں تو شعراء عرب کے اشعار اور
اہل عرب کے لغزات کو دیکھ لیا کرو اور یہ ایک شعر پڑھا۔


سَقْنَا قَوْمَكَ ضَرْبَ الْإِعْنَاقِ وَقَامَتِ الْخُرَيْبُ بِنَا عَلِيٍّ سَاقٍ
اسی طرح مجاہد نے بھی اس معنی کے ثبوت کے لیے ابو عبید اور جریر کے چند اشعار پڑھے ابن قتیبہ
کہتے ہیں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کام پر ہمت باندھ کر محنت صرف کرنا چاہتا ہے تو پانچے
چوڑھاتا ہے اور پنڈلی کھول دیتا ہے اسی وجہ سے شدت کے موقع پر کہا جاتا ہے۔ فلان کشف
عن ساقه ۴۔

ائمہ متکلمین اور حضرات مفسرین کے کلام سے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ذات
واحد ہے وہ تو صرف ایک ہی ذات ہے جس میں تعدد اور کثرت کا امکان ہی نہیں اس کا ادراک ممکن نہیں
جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُبْصَرُ وَهُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ لِّشَيْءٍ غَيْرِهِ
کے ساتھ صفات خداوندی میں جو صفات کمال ہیں وہ صفات کمال منفرد اور تنہا نہیں ہوتیں۔ بلکہ عالم میں انکا ظہور
ایک دوسرے کے ساتھ مقرون اور مجتمع ہونے کی صورت میں ہوتا ہے مثلاً صفت علم قدرت کے بغیر
قدرت غیر علم کے اور یہ دونوں بغیر حیات کے ظاہر نہیں ہو سکتیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ صفات تابع ذات
ہیں ذات کے بغیر کسی صفت کا استقلال نہیں۔

ان دو چیزوں کے بعد جہات کمال کا درجہ ہے جنکو حقائق الہیہ بھی کہا جاتا ہے وہ ہیں ہیں ہیں
نہ صفات کی طرح تابع ذات اور محض غیر مستقل اور نہ ذات کی طرح محض مستقل، تو جہات کمال
کو اس عالم میں انسان کے اعضاء کے ساتھ مشابہت اور ایک خاص نسبت ہے کیونکہ انسان
کے اعضاء اسکے ہاتھ پاؤں منہ پنڈلی وغیرہ نہ تو اسکے صفات کی طرح غیر مستقل محض ہیں اور نہ ذات
انسان کی طرح مستقل محض بلکہ انسان کے کمالات کے مظہر ہیں کہ انسانی کمالات ان مظاہر
سے ظہور پذیر ہوتے ہیں چنانچہ شریعت نے کمالات الہیہ کو ظاہر و بیان کرنے کے لیے ان مظاہر
کو متعدد نصوص میں ظاہر فرمایا آیات قرآنیہ اور احادیث میں وہ مظاہر وجہ، عین، ید، یمین
اصابع، حقو، ساق، قدم کے الفاظ سے بیان کیے گئے ہیں تو درحقیقت ان کلمات میں بطور استعارہ
حقائق کمالات الہیہ کو بیان کیا جا رہا ہے باقی یہ سمجھ لینا کہ اللہ کے لیے چہرہ ہے اسکی آنکھ ہے
اسکے واسطے انگلیاں، کمر، پنڈلی۔ اور قدم ہے غلطی ہے اور محض کم عقلی ہے جس کا ارتکاب

مشبہ اور ظاہر یہ نے کیا اور انکا انکار کر دینا یا ایسی تاویل کرنا جو انکار ہی کے درجہ میں ہو جیسا کہ معتزلہ اور فلاسفہ نے کیا محض غلطی ہے اہل سنت اور علماء متکلمین نے افراط و تفریط سے بعید رہتے ہوئے ان تھاق و شون کو تسلیم بھی کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی متعین کر دیا کہ ذات خداوندی مخلوق کے احوال و اوصاف سے منزہ اور پاک ہے چنانچہ کہا گیا کہ خداوند عالم سمیع ہے لیکن وہ ہماری قوت سامع کی طرح کسی آلہ کے ذریعہ سمیع نہیں وہ بصیر ہے لیکن وہ ہماری طرح بصیر ہونے میں آنکھ اور آنکھ کی پتلی اور شعاع بصیرہ کا محتاج نہیں تو جس قدر بھی لغوی قرآن و حدیث میں ایسے عنوانات سے وارد ہوتی ہیں اہل حق اور علماء متکلمین نے انکا ہی مفہوم اختیار کیا الغرض محشر میں اللہ رب العزت کی ایک خاص قسم کی تجلی ظاہر ہوگی جس کی حقیقت کے ادراک سے انسانی انکار و عقول عاجز ہیں جسکو کشف ساق سے تعبیر کیا گیا اور اس وقت ہر ایک کو سجدہ کے لئے پکارا جائے گا تو جو بندہ دنیا کی جہات میں ایمان و اخلاص سے سجدہ کرتا تھا اسکو وہاں سجدہ نصیب ہو جائے گا اور جو دنیا میں نفاق دریاہ کے ساتھ سجدہ کرتا تھا اس کو ممکن نہ ہوگا کہ وہ سجدہ کر سکے خواہ ہزار کوشش کر لے کیونکہ دنیا میں تو ظاہر و باطن کا اختلاف ہو سکتا ہے مگر آخرت میں یہ ممکن نہیں وہاں تو جو حقیقت ہوگی وہی ظاہر ہو سکے گی مع

تقریباً اللہ العزیز تفسیر سورۃ القلم



مع مقبس من تحقیقات الائمة المفسرین والمتکلمین من الاشاعرة والما ترید یفہم
من کلام امام الحرمین وعبدالکریم شہرستانی ۱۲۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُوْرَةُ الْحٰقَّةِ

اس سورت کا مضمون بھی مکی سورتوں کے مضامین کی طرح عقیدہ توحید اور تحقیق ایمان پر مشتمل ہے جس میں بالخصوص قیامت اور قیامت کے ہولناک احوال کا ذکر ہے اور مجرم و نافرمان قوموں جیسے عاد و ثمود اور قوم لوط و فرعون کی ہلاکت و تباہی کا ذکر ہے اور ان سب مضامین کو قرآن حکیم نے اپنی صداقت و حقانیت کی اساس کی نوعیت سے پیش کیا اور یہ واضح فرمایا کہ اہل سعادت و شقاوت کا انجام کیا ہوتا ہے ساتھ ہی ان لغو اور بے ہودہ الزامات و اعتراضات کو بھی رد کیا گیا جو کفار مکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لگاتے تھے۔

سورت کی ابتداء قیامت کے ہولناک منظر کے بیان سے کی گئی اور یہ کہ خداوند عالم کس طرح اہل کفر و اپنا قدر و عذاب مسلط فرماتا ہے نفع صور اور اس پر جو حالت ہوگی اس کا بیان ہے اور یہ کہ جس وقت قیامت برپا ہوگی تو زمین شمشیر ہو جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔

انہی میں قرآن کریم کی صداقت و حقانیت پر برہان قائم کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و امانت کو واضح فرمایا اور اس کا انکار کرنے والے پر وعید و تنبیہ فرمائی گئی۔

ایاتہا ۵۲ = ۶۹ = سُوْرَةُ الْحٰقَّةِ مَكِّيَّةٌ = ۷۸ = فِيْهَا رُكُوْعَانِ

سورة حاقہ مکی ہے اور اس میں باون آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْحٰقَّةُ ۱ مَا الْحٰقَّةُ ۲ وَمَا اَدْرٰکُ مَا الْحٰقَّةُ ۳ ط

وہ ثابت ہو چکی۔ کیا ہے وہ ثابت ہو چکی؟ اور تو نے کیا بوجھا کیا ہے؟ وہ ثابت ہو چکی

کَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌ بِالقَارِعَةِ ۴ فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاهْلٰکُوْا

جھٹلایا ثمود اور عاد نے اس کھڑکے والی کو سودہ جو ثمود تھے سو کھاتے گئے

بِالطَّائِفَةِ ۵) وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ

ادھیال سے اور وہ جو عادتھے سو کھپائے گئے ٹھنڈی سناٹے کی باد سے ہاتھوں

عَاتِيَةٍ ۶) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِنَةَ أَيَّامٍ ۷)

سے نکلی جاتی تینوں کی ان پر سات رات اور آٹھ دن

حَسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى ۸) كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ

جڑ کاٹنے والے پھر تو دیکھے لوگ ان میں پھٹ گئے جیسے وہ ڈھنڈ ہیں کھجور کے

خَاوِيَةٍ ۹) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ ۱۰) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ

کھوکھرے پھر تو دیکھتا ہے کوئی ان کا بچ رہا ؟ اور آیا فرعون اور

مَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۱۱) فَعَصَا رَسُولُ رَبِّهِمْ

جو اس سے پہلے تھے اور الٹی بستیاں تقصیر کرتے پھر حکم نہ مانا اپنے رب کے رسول

فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ۱۲) إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ

کا پھر بکڑی ان کو پکڑ دم پھر مٹھی ہم نے جس وقت پانی اُبلنا لادیا تم کو

فِي الْبُجَارِيَةِ ۱۳) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أذُنٌ وَأَعْيَةٌ ۱۴)

بہتی ناز میں تار کھیں اسکو تمہاری یادگاری کو اور سینتے (بٹھلے) انکو کان سینتے (بٹھلے) دلا

فَإِذَا نَفَخْنَا فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً ۱۵) وَجَمَلَتِ الْأَرْضُ وَ

پھر جب پھونکتے زینگے میں ایک پھونک اور اٹھاتے زمین اور

الْجِبَالُ فَذُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۱۶) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ

پہاڑ پھر پٹھے جاویں ایک جوت پھر اس دن ہو پڑے ہو

الْوَاقِعَةُ ۱۷) وَأَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۱۸)

پڑنے والی اور پھٹ جاوے آسمان پھر وہ اس دن یکس (بودا ہو) رہا ہے

وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ

اور فرشتے ہیں اس کے کناروں پر اور اٹھا رہے ہیں تخت تیرے رب کا اپنے اوپر

يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةٌ ﴿١٤﴾ يَوْمَئِذٍ تَعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ

اس دن آٹھ شخص اس دن سامنے جاؤ گے بھپ رہے گام میں کوئی

خَافِيَةٌ ﴿١٥﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَٰؤُم

پھینے والا سو جس کو ملا اس کا لکھا داہنے ہاتھ میں وہ کہتا ہے سبحاناً!

أَقْرَأْ وَاكْتَبِيهِ ﴿١٩﴾ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْقٍ حِسَابِيهِ ﴿٢٠﴾ فَهُوَ

پڑھو میرا لکھا میں نے خیال رکھا کہ مجھ کو ملنا ہے میرا حساب سو وہ

فِي عَيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٢١﴾ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿٢٢﴾ قَطُوفُهَا

ہے گدران میں من مانی اونچے باغ میں جسکے میوے جھک

دَانِيَةٍ ﴿٢٣﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ

رہے ہیں کھاؤ اور پیو رنج سے بدلہ اس کا جو آگے بھیجا تم نے پہلے

الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي

دنوں میں اور جس کو ملا اس کا لکھا بائیں ہاتھ میں وہ کہتا ہے کسی طرح

لَمْ أُوْتِ كِتَابِيهِ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهِ ﴿٢٦﴾ يَلَيْتَهَا

مجھ کو نہ ملتا میرا لکھا اور مجھ کو خبر نہ ہوتی کیا ہے حساب میرا کسی طرح

كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيهِ ﴿٢٨﴾ هَلَاكَ

دہی موت بشر جان ! کچھ کام نہ آیا مجھ کو مال میرا کھپ گئی

عَنِّي سُلْطَانِيهِ ﴿٢٩﴾ خَذُوهُ فَغْلَوْهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمِ

مجھ سے حکومت میری اس کو پکڑو پھر طوق ڈالو پھر آگ کے ڈھیر میں

صَلْوَةٌ ۳۱) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا

اسکو پینٹھاؤ (پہنچاؤ) پھر ایک زنجیر میں جس کا ماپ ستر گز ہے اس کو

فَأَسْأَلُكُمْ ۳۲) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۳۳) وَ

پر دو دو وہ تھا یقین نہ لانا اللہ پر جو سب سے بڑا اور

لَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۳۴) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ

تاکید نہ کرتا فقیر کے کھانے پر سو کوئی نہیں اس کا آج

هُنَا حَمِيمٌ ۳۵) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۳۶) لَا يَأْكُلُهُ

یہاں دوستدار اور نہ کچھ کھانا مگر زخموں کا دھوون کوئی نہ کھاوے

إِلَّا الْخَاطُونَ ۳۷)

اس کو مگر وہی گنہگار

ذکر احوال قیامت و بیان انجام مکذبین و منکرین

قال الله تعالى . الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ الْحَاقَّةُ إِلَّا الْخَاطُونَ
 (در ربط گذشتہ سورت کا موضوع بیان آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی عظمت و حقانیت کو ثابت کرتے ہوئے غرور و تکبر اور نافرمانی کا عبرت ناک انجام تاریخی واقعات کی روشنی میں بیان فرمایا گیا تھا اب اس سورت میں قیامت کے احوال اور میدان حشر کی بے چینی تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی یہ کہ جن قوموں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا اور نافرمانی کی وہ کس طرح ہلاک و تباہ ہوئے۔

ارشاد فرمایا وہ چمٹ جلنے والی چیز کیا ہے وہ چمٹ جانے والی چیز اور اسے مخاطب تو نے کیا سوچا کیا ہے وہ مسلط ہو جلنے والی ہے کسی کی سوچ اور فکر نہیں اندازہ کر سکتی کہ وہ مسلط ہو جلنے والی چیز یعنی قیامت کی گھڑی جس کا وقوع علم الہی ازلی سے طے ہو چکا اس قدر ہیبت ناک اور عظیم ہے اور وہ بے شک واقع ہو کر رہنے والی ہے اور جب واقع ہوگی تو کوئی اس کو مٹلا نہیں سکتا اس وقت حق و باطل بالکل جدا جدا نظر آتے گے اور ہر اثنا باہ اور شک و شبہ دور ہو جائے گا اور ہر حق ایسا ثابت درآسے گا کہ اس میں خصومت

دیکھ کر اُکرنے والے مقہور و مغلوب ہو جائیں گے۔

ظاہر ہے کہ ایسی برحق اور ثابت حقیقت کو ماننا چاہیے اس سے انکار اور اس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہ کرنا چاہیے اور اس بات کو فراموش نہ کرنا چاہیے اس انکار و تکذیب کا انجام کوئی اچھا نہیں چنانچہ جھٹلایا نمود اور عادی نے اس کھڑکھڑانے اور کوٹ ڈالنے والی چیز کا تو پھر اسے سننے والا! سو اس کا انجام کیا ہوا بہر حال نمود تو ہلاک کر دیتے گئے ایک اچھا لکھ کر رکھ دینے والی ہلاکت سے اور وہ جو عادی کے لوگ تھے سو وہ ہلاک کیتے گئے ایک تیز و تند اندھی سے جو ہاتھوں سے نکل جانے والی تھی جو اس قدر شدید اور سخت تیز و تند تھی کہ کسی مخلوق کا اس پر قابو نہ تھا حتیٰ کہ جو فرشتے ہوا کے نظام پر مسلط تھے اور ہواؤں کو قابو میں رکھنے پر مامور تھے گویا انکے ہاتھوں سے بھی نکلی جا رہی تھی۔ جس کو مقرر اور مسلط کر دیا تھا ان پر سات راتوں اور آٹھ دن تک لگاتار جس پر تباہی اور بربادی کا یہ عالم تھا کہ اسے مخاطب اگر تو اس منظر کو دیکھے تو دیکھے گا قوم کو اس حال میں پکھڑے پڑے ہیں گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں جو اکھاڑ کر پھینک دیتے گئے جب کہ یہ قوم اپنی توانائی اور ڈیل ڈول میں تو مند ہونے کی وجہ بڑے ہی غرور اور نخوت سے کہا کرتے تھے **هَنْ اَمْسَدُ مِنَّا قُوَّةٌ** کہ ہم سے زیادہ کون ہے طاقت و درجہ اپنی تمام قوتوں کے باوجود اس طرح ہلاک کر دیتے گئے کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا تو اسے مخاطب بتاؤ کیا تو دیکھ رہا ہے ان میں سے کوئی بچا ہوا نشان۔

اور فرعون آیا اور اس سے پہلے والے بھی اور وہ الٰہی ہوتی بستیوں والے بھی خطا و نافرمانی کے ساتھ پھراہوں نے جب اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو پکڑ لیا انکو ان کے رب نے بڑی ہی سخت پکڑ سے جس نے انکو ریزہ ریزہ کر ڈالا اور دنیا کی کوئی طاقت اور لیکھے پہاڑوں کے تراشے ہوئے محفوظ قلعے بھی انکو خدا کی گرفت سے نہ بچا سکے یعنی عاد و ثمود کے بعد فرعون نے خوب سرکشی کی اور بڑھ چڑھ کر باتیں کرنا رہا تو وہ اور اسی طرح قوم شعیب اور قوم لوط تباہ کر دی گئی اور قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں کیونکہ ان سب قوموں نے اپنے اپنے ذمہ داریوں کی نافرمانی کی تھی اور خدا کے ساتھ مقابلہ کیا تو سب ہی کو خدا نے اپنی سخت پکڑ سے پکڑا اور ہلاک کر ڈالا اور قوم نوح کو بھی ایسے طوفان سے تباہ کر ڈالا کہ ظاہر اسباب میں کسی کے بھی بچ جانے کا امکان نہ تھا حتیٰ کہ وہ نافرمان بیٹا جو کہنے لگا کہ **سَادِحِي اِلٰى جَبَلٍ يَغْفِرُ لِمَنِي** **جِبْتِ الْمَاءِ** کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر تباہ سے لوں گا مجھے سفینہ نوح میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں وہ بھی ہلاک ہوا اور کسی کو بھی اس طوفان نے باقی نہ چھوڑا خواہ وہ پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر چڑھ گیا ہو۔ تو بے شک ہم نے ایسے طوفان کے وقت جب کہ پانی ابل رہا تھا کہ زمین کے چشمے بھوٹ بڑے تھے اور آسمان

۴۴ ان الفاظ میں لفظ الٰہی قر کے لغوی معانی کے تنوع اور کثرت کے پیش نظر وہ متعدد معانی ظاہر کر دیتے گئے ہیں جو اس مقام پر مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ۱۲۔

کے دروازے کھلے ہوتے تھے تو اسے باقی رہنے والے انسانوں نے ایک چلنے والی کشتی میں تمکو سوار کر لیا جو ان طوفانی تھپیڑوں میں تھپیں لیتے جا رہی تھی تاکہ بنا دیں ہم اسکو تمہارے واسطے یادگار اور عبرت کا نمونہ اور محفوظ رکھیں اسکو وہ کان جو واقعات کو سننے اور محفوظ رکھنے والے ہیں تو یہ واقعہ خداوند عالم کی قدرت اور حکمت کا کیسا عظیم نمونہ ہوا کہ حضرت فوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس طوفان سے بچالیا اور نافرمان قوم کو غرق کر ڈالا تاکہ رہتی دنیا تک یہ عبرت ناک نمونہ قائم رہے اور لوگ اس واقعہ سے خدا کے احسان و کرم کو بھی سمجھیں اور نافرمان و مجرموں کے واسطے اسکے قہر و عذاب کو بھی جان لیں تو دنیا میں بیش آنے والے یہ واقعات اور ہلاکت و تباہی کے نمونے ہر انسان کو اس پر متوجہ کرنے ہیں کہ وہ قیامت کی شدت اور اس پر عالم کی تباہی و ہلاکت کا بھی تصور کرے اور اس پر ایمان بھی لائے چنانچہ جب صور بھونکا جاتے گا ایک بار پھونکا جانا اور اٹھالی جاتے گی زمین اور پہاڑ پھر کوٹ دیا جاتے گا انکو ایک ہی دفعہ اور زمین باوجود اپنی قوت و مضبوطی اور پہاڑ باوجود اپنی عظمت و تنگی کے ریوریزہ کر دیتے جائیں گے تو بس اسی دن واقع ہو جائے گی وہ واقع ہونے والی گھڑی جو روز قیامت ہے اور پھٹ جاتے گا آسمان پھر وہ اس دن بکھر رہا ہوگا نہایت ہی ہلکی بکھرنے والی چیز کی طرح اور روٹی کے گالوں کی طرح اڑنا ہوگا۔ اور جس وقت کہ آسمان درمیان سے پھٹنا شروع ہوگا تو فرشتے ہوں گے اسکے کناروں پر اور اٹھاتے ہوتے ہوں گے۔ اسے مخاطب تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر آٹھ فرشتے۔ عرش عظیم کی یہ عظمت دشان ہوگی جسکو ایسے آٹھ فرشتے اٹھاتے ہوں گے جو پہاڑوں کو اٹھاتے رکھتے ہیں ہواؤں کو قابو کرتے ہیں سمندروں اور سمندر کے طوفانی تھپیڑوں کو روکتے ہیں وہ آٹھ فرشتے عرش الہی اٹھاتے ہوتے ہوں گے تو ایسے دن اے انسانو! تم پیش کیے جاؤ گے اپنے رب کے سامنے حال یہ ہوگا کہ کوئی بچی چیز چھپی نہ رہے گی اس پروردگار عظیم و خمیر سے پھر ایسی صورت میں رب العالمین اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوگا اور میدان حشر میں اولین و آخرین جمع ہوں گے اور اس عظیم و خمیر اور قادر مطلق کی عدالت میں پیشی ہو رہی ہوگی اور میزان عدل و انصاف قائم کرنے والے رب کی عدالت میں لوگوں کے نامہ اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیدیا جائے گا جو اسکی کامیابی اور نجات کی علامت ہوگی تو وہ فرط مسرت اور کمال خوشی سے کہتا ہوگا لے لوگو! آجاؤ میرا نامہ اعمال یعنی نتیجہ کامیابی پڑھ لو میرے رب نے مجھ پر کیسا عظیم انعام و احسان فرما دیا میں تو پہلے ہی سے گمان کرتا تھا کہ میں اپنے حساب کے وقت پر پہنچنے والا ہوں اور میرے اعمال کا حساب ہوگا اور خدا کی رحمت پر مجھے بھر دے گا کہ وہ مجھے اپنے فضل و کرم سے نوازے گا مجھے حیات جاودانی اور ابدی نعمتیں ملیں گی اور جب مجھے یہ خیال تھا تو میں اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ میں خدا کا یہ انعام و اکرام دیکھ رہا ہوں اور اسی کے فضل و کرم سے میرا حساب پاک و صاف ہے تو وہ نہایت ہی خوشی اور عیش و عشرت والی زندگی میں ہوگا اور من مانی ہر نعمت و راحت اسکو ملتی ہوگی نہایت

بلند و عظیم المرتبہ باغ میں ہوگا جس کے خوشے اور میوے اس پر جھکے ہوتے ہوں گے اس حالت میں اہل صنت کو کہا جا رہا ہوگا کھاؤ یہ خوب رُح کر جتنا چاہو بڑی خوشگواری کے ساتھ ان اعمال صالحہ کی وجہ سے جو تم کرتے تھے گزرے ہوتے دلوں اور دنیوی زندگی میں تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے نفس خواہشات کو روکا جو دنیا کی تکلیف برداشت کی صبر و قناعت کو اختیار کیا تو یہ اسی کا بدلہ ہے کہ بے روک ٹوک اللہ نے تم پر یہ ساری نعمتیں پھیلا دی ہیں۔

یہ تو حال ہے ان لوگوں کا جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا اور جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑی حسرت اور پشیمانی کے عالم میں کہے گا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجھ کو میرا فوٹو نامہ اعمال ہی نہ ملتا اور میں نہ ہی جانتا کہ میرا حساب کیا ہے اسے کاش وہی موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی اور میرا نام و نشان ہی مٹ جاتا اور یہ عذاب و ہلاکت کی نوبت دیکھنی نہ پڑتی افسوس میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا جس پر مجھے بڑا ہی بھروسہ اور گھمنہ تھا اور میں سمجھتا تھا کہ خواہ کوئی بھی مصیبت سامنے آئے میں اپنی دولت کے ذریعہ اس سے بچ جاؤں گا مجھے اپنی قوت پر زعم تھا افسوس کہ میری قوت و حکومت بھی برباد ہوتی اب نہ میری دولت کام آ رہی ہے اور نہ قوت و حکومت اور نہ حجت بازی جو دنیا میں کیا کرتا تھا اسی پشیمانی اور حسرت کے عالم میں ہوگا کہ ہر ایسے مجرم کے لیے فرمانِ خداوندی جاری ہوگا پکڑو اسکو پھر طوق ڈال دو اس کی گردن میں پھر گھسیٹو اسکو آگ میں جو جہنم میں دہک رہی ہو پھر ایک زنجیر میں کہ جس کا طول ستر گز عم یا ستر ہاتھ ہو اسکو جکڑ دو تاکہ جلنے کی حالت میں ذرا بھی حرکت نہ کر سکے کیونکہ آگ میں جلنے والا انسان کبھی ادھر ادھر حرکت کر کے آگ کی سوزش سے بچنے یا اسکو کم کرنے کی کوشش کیا کرتا ہے تو اسکی بھی کوئی گنجائش نہ رہے یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ یہ شخص دنیا میں رہتے ہوئے ایمان نہیں رکھتا تھا خدا سے برتر پر جب نہ خدا پر ایمان و یقین تھا تو خدا کے احکامات سے بھی نافرمانی کرنا تھا نہ خدا تعالیٰ کے حق ادا کرتا تھا اور نہ ہی بندوں کے حقوق پہنچاتا تھا چنانچہ نہ ترغیب دیتا تھا محتاج و مسکین کے کھانے پر خود تو کیا کھلاتا اور مدد کرتا زبان سے بھی کسی دوسرے کو اس پر آمادہ کرنے اور ترغیب دلانے کی توفیق نہ ہوتی تھی سو ایسے نافرمان کے لیے آج یہاں نہ کوئی دوست ہے اور نہ اسکے واسطے کوئی چیز کھانے کی ہے بجز زخموں کے دھوون کے اور ان میں سے بہتے ہوئے راد پرپ کے جس کو کوئی نہیں کھا سکتا بجز ان خطا کاروں اور مجرموں کے اور وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو کر یا اس دھوکہ میں کہ شاید یہ بھی کوئی کھانے اور پینے کی چیز ہے

اعاذنا اللہ و بنا من سائر النواع العذاب فی الدنيا والاخرۃ

عہ گز سے عالمِ آخرت کا گز یا ہاتھ مراد ہے جس کی حد اور مقدار کا اندازہ عالمِ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا واللہ اعلم بالصواب ۱۱۳

فرشتوں کا عرش الہی اٹھانا

اس آیت مبارکہ میں عرش الہی کو اٹھانے والے آٹھ فرشتوں کا بیان ہے تفسیر قرطبی اور تفسیر البحر المحیط میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ فرشتوں کی آٹھ صفیں ہوں گی جن کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں بعض روایات میں حاملین عرش کے بیان میں چار کا عدد آیا ہے۔ تفسیر مظہری میں بیان کیا کہ روز محشر سے قبل حاملین عرش چار فرشتے ہوں گے مگر نوحؑ، صورا اور محشر کے وقت اسکی عظمت کی وجہ سے ان پہلے حاملین کو مزید چار حاملین کے ذریعہ قوی کر دیا جائے گا تاکہ عرش الہی کو سنبھال سکیں۔ بظاہر اس وجہ سے اس وقت حق تعالیٰ شانہ کے جلال و ہیبت سے عرش الہی زیادہ دزنی اور اسکا اٹھانا گراں ہوگا۔

اس آیت مبارکہ جس میں عرش الہی کے اٹھانے کا ذکر ہے اسی طرح ایسے مضمون کی دیگر آیات کی فلاسفہ، معتزلہ اور صوفیہ حقیقت پر محمول کرنے کے بجائے تاویل کرتے ہیں چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ عرش و کرسی کے معنی بطور مجاز و استعارہ تسلط اور غلبہ کے ہیں اور خداوند عالم کی شان حاکمیت کو بیان کرنا ہے اور فرشتوں کے اٹھانے سے مراد انکے ذریعہ اسکا ظہور ہے قاضی بیضاویؒ جیسا کہ بعض مواقع پر فلاسفہ اور معتزلہ کی رائے اور خیال سے متاثر ہوتے ہیں یہاں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح فرمایا کہ یہ تمثیل ہے کہو کہ خدا تعالیٰ تو نہ جسم ہے اور نہ اجسام و حوادث کی صفات و احوال میں سے کسی چیز سے متصف ہو سکتا ہے اور نہ وہ مخلوق کی طرح کسی مکان اور جہت میں سمائے والا ہے کہ کسی تخت پر بیٹھا ہو اور اس تخت کو حقیقی طور پر کوئی اٹھاتے ہوتے ہو یہ چیزیں تو مخلوق اور حادث کی صفات میں سے ہیں اس بنا پر محض تمثیل کے طور پر اسکے غلبہ اور شان حکمرانی اور عدل و انصاف اور مخلوقات کے فیصلوں کے نفاذ کو اس تعبیر سے بیان فرمایا گیا۔

اسی طرح حضرات صوفیہ بھی تاویل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ عرش مجید حق تعالیٰ شانہ کی صورت، جہانداری اور بادشاہت ہے اور قیامت میں یہ بصورت عرش یعنی تخت شاہی ظاہر ہوگی اور اسکی جہانداری اور شان حاکمیت دنیا میں چار صفات کے ساتھ قائم ہے کہ موجودات کا کوئی ذرہ بھی اس سے خالی نہیں اور وہ سب کو محیط ہے وہ چار صفات یہ ہیں اول علم، دوم قدرت سوم ارادہ چہارم حکمت آخرت میں یہ چار صفات مزید چار صفات کے ساتھ جمع ہو کر آٹھ ہو جائیں گی تاکہ دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی جہانداری اور حاکمیت میں امتیاز ہو جائے وہ چار صفات جو آخرت میں زائد ہوں گی ان میں اول انکشاف تام کہ اس عالم میں کوئی چیز بھی مخفی، مبہم، پوشیدہ اور ملبس نہ رہے گی بلکہ ہر چیز کی اصل حقیقت ظاہر ہو جائے گی تاکہ کسی قسم کا دھوکہ شبہ اور مغالطہ باقی

نہ رہے اسی وجہ سے اس عالم میں جاہل و عالم اور کافر و مومن سب پر حقائق خفیہ برابر ظاہر ہو جاتیں گے، ہر ایک کو ہر بات کی حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا اور معرفت تامہ حاصل ہو جائے گی جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یَوْمَ تُبْلَى السِّرَاتُ اَمْ يَسْمَعُ بِيَهُمْ كَا لْبَصَرِ يَوْمَ يَأْتُوْنَكَ كَسْ قَدْرٍ سَمِنًا اور دیکھنے والے ہوں گے جس دن کہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور فرمانِ خداوندی فَلَکَشْفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ لَكَ فَبَصُرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا۔ اے انسان آج ہم نے تیری آنکھ کا پردہ ہٹا دیا ہے تو آج کے دن تیری نگاہ بڑی ہی تیز ہے الغرض پہلی صفت انکشاف تامہ کی ہوگی دوسری صفت کمال بلوغ کہ ہر چیز مرتبہ نقصان سے اپنے حد کمال کو پہنچ جائے گی۔ استعداد و قابلیت علم و فہم احساس و شعور حتیٰ کہ جو لوگ دنیا میں بے وقوف و کم عقل ہوں گے وہ نہایت ہی فہیم و ذکی اور کامل العقل ہوں گے اور جو لوگ ضعیف و ناقص حتیٰ کہ لنگڑے لٹے ہوں گے وہ توانا و مند رست اور صحیح و سالم اٹھیں گے یہی حال قرآنے باطنیہ کا بھی ہو گا یہی وجہ ہے کہ دارِ آخرت میں ہر چیز کے لیے خلود و بقا ہو گا۔ کیونکہ فناء و صفی ایمان ہے اسکو اس عالم میں وصف کمال سے بدل کر دوام اور خلود عطا کر دیا جائے گا جیسے کہ آیت مبارکہ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَیْسِیَ الْخَیْرٰنَ لِمَنْ کَانَ لُوْا یَعْمَلُوْنَ۔

تیسری صفت تقدیس کہ کسی شے میں کسی قسم کی کدورت و ملاوٹ باقی نہ رہے گی ہر چیز خالص ہوگی اگر نعمت و راحت ہے تو اس میں نعمت و کلفت کی قطعاً آمیزش نہ ہوگی اور عذاب و کلفت ہے تو اس میں ادنیٰ سکون و آرام یا سختی کا اسکان نہ ہوگا کیونکہ عالم دنیا میں تو حقائق پر مجاز کے پردے اور چھلکے چڑھے ہوتے ہو سکتے ہیں جو آخرت میں سب کے سب اثر کر اصل حقائق واضح اور نمایاں ہوں گے اور غلاف و چھلکوں سے اصل جو ہر دمغز نکل کر صاف نظر آتا ہوگا۔

چوتھی صفت عدل اور انصاف کہ پورا پورا انصاف ہوگا اور ہر ایک کو عدل و انصاف کے پیمانے سے تول کر اس کا حق ادا ہوتا ہوگا خواہ نیکی ہو یا بدی خیر ہو یا شر ایمان ہو یا کفر عمل صالح ہو یا معصیت غرض ہر چیز کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔

تو حق تعالیٰ کی شانِ حاکمیت اور جہانداری کی ان صفات کے ساتھ جو پہلے سے تھیں یہ مزید چار صفات مل جاتیں گی تو ظاہر ہے کہ عرشِ الہی کی عظمت اور اس کا ثقل بھی زائد ہو جائے گا تو جو عرشِ جہانداری دنیا میں چار فرشتوں پر تھا وہ آخرت میں آٹھ فرشتوں پر ہو جائے گا اس طرح چار صفاتِ الہیہ کے ساتھ آخرت میں مزید چار صفات کا ظہور آٹھ فرشتوں کا عرشِ الہی کو اٹھانا ہوا۔

بہر کیف صوفیاء اور فلاسفہ نے اس طرح کی تاویلات بیان کی ہیں مگر اکثر ائمہ متکلمین اور اہل سنت کا موقف اس قسم کی آیات میں یہی ہے کہ حقیقت پر محمول کرتے ہوئے اور اس کی کیفیات اور جملہ احوال کو خداوند عالم کے علم کے حوالہ کر دینا جیسے کہ امام مالکؒ نے فرمایا الاستواء معلوم و الکیف

مجہول والا یحسان بہ لازم والسوال عنہ بدعت کہ خدا کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے جیسے کہ نص قرآنی نے بتا دیا مگر کیفیت مجہول اور غیر معلوم ہے اور اس پر ایمان لانا لازم ہے اور سوال و تحقیق کہ کیسے اور کس طرح عرش پر متمکن ہے بدعت ہے کیونکہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور نہ ہی صحابہ نے کبھی اسکی تحقیق کی گویا انکا یہی رنگ رہا جو حق تسلط نے اس طرح کے متشابہات میں فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا۔

انہوں کو رادماغ کر پر مدز باغبان ببل چہ گفت صبا چہ کر دو گل چہ شیند

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَلْمِ تَاوِيْدُهُ اِلَّا اللّٰهَ وَاَمَّا بِمَا اَمَرْنَا اللّٰهَ فَاَرْبَابُ الْكُتُبِ مَعَ الشّٰهِدِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ هٰذَا مَا فَهَمْتُ مِّنْ تَفْسِيْرِ الْكَبِيْرِ وَالْبَحْرِ الْمَحِيْطِ وَتَفْسِيْرِ الْعَلَامَةِ الْوَسْمٰى وَتَفْسِيْرِ الْعَزِيْزِيْ وَتَفْسِيْرِ الْحَقٰنِي وَالْكَلِمٰتِ الَّتِي سَمِعْتَهَا مِّنْ شَيْخِيْ وَاسْتَاذِيْ شَيْخِ الْاِسْلَامِ الْعَلَامَةِ شَبِيْرٍ اَحْمَدَ عَثْمَانِيْ وَمَا ضَبَطْتُ وَحَفَلْتُ مِّنْ كَلِمٰتِ حَضْرَتِ الْوَالِدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ اَدْرِيسِ الْكَاذِهَلَوِيْ مَتَعْنَا اللّٰهُ تَعَالٰى مَعْتَمِدًا فَيَوْضِعُهُمْ وِبَرَكَاتِهِمْ اٰمِيْنَ يَا رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۔

فَلَا اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ وَمَا لَا

سو قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو دیکھتے ہو اور جو چیزیں

تُبْصِرُوْنَ ۙ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ

نہیں دیکھتے یہ کہا ہے ایک پیغام لانے والے سردار کا اور نہیں یہ کہا کسی

شَاعِرٍ ۙ قَلِيْلًا مَّا تُوْمِنُوْنَ ۙ وَلَا يَقُوْلُ كَاٰهِنٍ قَلِيْلًا

شاعر کا تم تھوڑا یقین کرتے ہو اور نہ کہا پر یوں دلے کا تم تھوڑا

مَّا تَذْكُرُوْنَ ۙ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ وَلَوْ تَقُوْلُ

دھیان کرتے ہو یہ اتارا ہے جہاں کے رب کا اور اگر بنا لاتا

عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ لَا خِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ

ہم پر کوئی بات تو ہم پکڑتے اس کا داہنا ہاتھ

ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۖ ﴿۳۶﴾ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ

پھر کاٹ ڈالتے اس کی ناز پھر تم میں کوئی نہیں اس سے

حِجْرِينَ ۖ ﴿۳۷﴾ وَإِنَّهُ لَتَذِكْرٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۖ ﴿۳۸﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ

ردکنے والا اور یہ بھوتی ہے ڈر والوں کو اور ہم کو معلوم ہے

أَنَّ مِنْكُمْ مُّكذِّبِينَ ۖ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ ۖ ﴿۴۰﴾

کہ تم میں بعضے جھٹلاتے ہیں اور وہ جو ہے پچھتاوا ہے منکر دل پر

وَإِنَّهُ لِحَقِّ الْيَقِينِ ۖ ﴿۴۱﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ ﴿۴۲﴾

اور وہ جو ہے قابل یقین کرنے کے ہے: اب بول پاکی اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑا

بیان عظمت کلام الہی وحقانیت وصدقیت قرآن کریم

قال اللہ تعالیٰ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ... الخ ... فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
 (ربط) گذشتہ آیات میں اہل سعادت و شقاوت اور انکے احوال کا ذکر تھا اور بالخصوص برہمن کی سزا
 اور قیامت کی شدت اور عرش الہی سے تمام فیصلوں کے نفاذ کا بیان تھا تو ممکن تھا کہ کوئی ملحد اور منکر
 ان باتوں کو سن کر یہ کہنے لگے کہ یہ تو شاعرانہ مبالغہ آرائی یا کاہنوں کی باتیں ہیں تو اسکے ازالہ اور رد کے لیے اب
 ان آیات میں قرآنی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ جو کچھ وحی الہی سے کہا گیا وہ رسول کریم کا قول اور اللہ
 کا پیغام ہے اس میں ذرہ برابر مبالغہ یا استعارہ و مجاز کا احتمال نہیں اس پر ایمان لانا چاہیے اور اسکی صدقیت و
 حقانیت پر یقین کرنا چاہیے تو ارشاد فرمایا۔

سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنکو تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے کہ بیشک
 یہ پیغام و قول ہے اس رسول عظیم کا جو بڑی ہی کرامت و عظمت والا ہے اور یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے
 کہ تم جنت و جہنم کے احوال کو شاعرانہ مبالغہ آرائی سمجھنے لگو یا کاہنوں والی اشکل و تخمین کی باتیں گمان کرنے
 لگو بلکہ یہ تو اللہ کا پیغام ہے جو اسکے رسول کریم نے اسکے بندوں کو پہنچایا، چاہیے کہ اس پر ایمان لایا
 جائے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ بہت ہی کم ہے کہ تم یقین کرو اور ایمان لاؤ اور نہ ہی یہ کاہن
 کی بات ہے مگر بہت ہی کم ہے کہ اسے لوگو! تم غور و فکر کرو اور نصیحت قبول کرو بلکہ یہ سب

کچھ اتارا ہوا کلام ہے رب العالمین کی طرف سے خدا کا پیغمبر صرف اللہ کی وحی اور اس کا پیغام ہی لوگوں تک پہنچایا کرتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی اللہ کا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر سنا دے بالفرض اگر وہ رسول ہم پر کوئی بات گھڑ کر لے آتا ایسی من گھڑت باتوں میں سے تو ہم پکڑ لیتے اسکو دائیں ہاتھ سے اور اسکو اپنی سخت گرفت میں لے لیتے کیونکہ انسان بالعموم کسی گرفت اور پکڑنے کے وقت مدافعت کے لیے زور دیتا ہے ہاتھ سے زائد لگایا کرتا ہے تو جب ہم دائیں ہاتھ سے اسکو پکڑ لیں گے تو اسکے بعد وہ کیا طاقت آدمائی کرے گا ہم سے بچنے کے لیے پھر ہم کاٹ ڈالتے اسکی رگ گردن پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا اس چیز سے اسکو بچانے والوں میں سے کیونکہ حکم الحاکمین پر جھوٹ بات لگانا کوئی معمولی جرم نہیں بلاشبہ ایسا مجرم اس پر درد گار کی گرفت اور اسکی سزا سے کسی حال میں بھی نہیں بچ سکتا اور بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں تقویٰ والوں کے واسطے کہ جس کسی میں ادنیٰ درجہ بھی خوف خدا ہو گا وہ ان باتوں سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا اور چونکہ دنیا میں تقویٰ والے بہت کم ہوتے ہیں ایسے ہم بے شک جانتے ہیں کہ تم میں سے بہت سے وہ ہیں جو جھٹلانے والے ہیں ہماری یہ باتیں مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مکذبین و منکرین خدا کے عذاب اور گرفت سے بچ جائیں گے نہیں ہرگز نہیں بلکہ بے شک یہ تو حسرت ہے کا زوں پر اور افسوس کا مقام ہے کہ منکر و کافر ان باتوں کا انکار کر کے خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں اور اپنی عاقبت تباہ و برباد کر رہے ہیں اور بے شک یہ جو کہا جا رہا ہے قطعی اور یقینی امر ہے جس پر ایمان و یقین ہر اہل عقل و فکر کو لازم ہے اسے ہمارے پیغمبر اگر کوئی ان حقائق کو نہیں مانتا اور ان پر ایمان و یقین نہیں رکھتا تو آپ عمگین نہ ہوں بلکہ بس ایسی صورت میں پاکی بیان کرتے رہتے اپنے رب عظیم کے نام کی اسکی تحمید و تسبیح ہی سے سارے غم بھی دور ہوں گے اور قلب و دماغ کو سکون و تقویت بھی نصیب ہوگی جیسا کہ ارشاد ہے **وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ يٰسَيِّدُكَ بِمَا يَكْفُو لُؤُنَ هَسْبِجٍ بِحَمْدٍ رَبِّكَ وَكَوْنُكَ الشَّجِدِيْنَ** تو اس طرح آپ کو تسلی دی گئی اور سکون قلب کیلئے علاج بھی بیان فرمادیا۔

روایت میں ہے کہ آپ نے اس آیت کے نازل ہونے پر فرمایا اجعلوہا فی دکو حکم کہ اس کو اپنے رکوع میں مقرر کرو اور جب آیت **سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰی** نازل ہوتی تو آپ نے فرمایا اجعلوہا فی سجود کم اس وجہ سے رکوع میں تسبیح سبحان ربی العظیم مقرر ہوتی اور سجود میں سبحان ربی الاعلیٰ میرے استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی قدس اللہ سرہ اپنے

مہ یہ دتین کا ترجمہ کیا گیا۔ اصل تو یہ رگ انسان کے قلب سے نکلتی ہے جس سے سارے جسم میں رُوح پھیلتی ہے اور یہی رگ حیوان یا انسان کے حلقوم اور گردن تک پہنچتی ہے اس وجہ سے گردن کی رگ ترجمہ کیا گیا ۱۲۔

فوائد میں تحریر فرماتے ہیں "عالم میں دو قسم کی چیزیں ہیں ایک جن کو آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دوسری وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی عقل وغیرہ سے ایسے تسلیم کرنے پر مجبور ہے مثلاً ہم کتنا ہی آنکھیں پھاڑ کر زمین کو دیکھیں وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن جب حکما اپنے دلائل و براہین پیش کریں گے تو ہم عاجز ہو کر اپنی آنکھ کی غلطی تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے اور اپنی عقل یا دوسرے عقلا کی عقل کے ذریعہ سے جو اسکی ان غلطیوں کی تصحیح و اصلاح کر لیتے ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کی عقل بھی غلطیوں اور کوتاہیوں سے محفوظ نہیں۔ آخر اسکی غلطیوں کی اصلاح اور کوتاہیوں کی تلافی کس سے ہو؟ بس تمام عالم میں ایک وحی الہی کی قوت ہے جو خود غلطی سے محفوظ اور معصوم رہتے ہوئے تمام عقلی قوتوں کی اصلاح و تکمیل کر سکتی ہے جس طرح کہ جو اس جہاں پہنچ کر عاجز ہو جاتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے ایسے ہی جس میدان میں عقل مجرد کام نہیں دیتی یا ٹھو کر میں کھاتی ہے اس جگہ وحی الہی اسکی دستگیری کر کے ان بلند حقائق سے روشناس کراتی ہے شاید اسی لیے یہاں مَا تَبْصُرُونَ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ کی قسم کھاتی۔

یعنی جو حقائق جنت و دوزخ کے پہلے بیان ہوتے اگر دائرہ محسوسات سے بلند ہونے کی وجہ سے تمہاری سمجھ میں نہ آتیں تو انشیاں میں مبصرات و غیر مبصرات یا بالفاظ دیگر محسوسات و غیر محسوسات کی تقسیم سے سمجھ لو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے جو بذر لیبہ وحی الہی دائرہ حس و عقل سے بالاتر حقائق کی خبر دیتا ہے جبکہ ہم بہت سی غیر محسوس بلکہ مخالف حس چیزوں کو اپنی یا دوسروں کی تقلید سے مان لیتے ہیں تو بعض بہت اونچی چیزوں کو رسول کریم کے کہنے سے ماننے میں کیا اشکال ہے؟

الغرض عالم کائنات میں مرنی و غیر مرنی یعنی مبصرات و غیر مبصرات پر اجمالی نظر اور ابتدائی غور و فکر اس بات کی گواہی دے گا کہ رسول کریم کی بنائی ہوئی ہر بات سچی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے مگر یہی دمکنزین کا ایسی باتوں میں تردد یا ان پر تسخر خود انکی بے عقلی کی دلیل ہے

وَلَوْ لَقَوْلٌ عَلَيْنَا بَعْضُ الْقَائِلِينَ. کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں "یعنی اگر جھوٹ بنا تا اللہ پر تو اول اس کا دشمن اللہ ہوتا اور ہاتھ پکڑتا یہ دستور ہے گردن مارنے کا جلا داسکا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھتا ہے تاکہ حرکت نہ کر سکے۔"

حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ "قَوْلٌ" کی ضمیر رسول کی طرف لوٹتی ہے یعنی اگر رسول بالغرض کوئی حرف اللہ کی طرف منسوب کر دے یا اسکے کلام میں اپنی طرف سے ملا دے جو اللہ نے نہ کہا ہو تو اسی وقت اس پر یہ معاملہ عذاب کا کیا جاتے (العیاذ باللہ) کیونکہ اس کی تصدیق اور سچائی آیات بیانات اور دلائل و براہین کے ذریعہ سے ظاہر کی جا چکی ہے اب اس قسم کی بات پر فوراً عذاب اور سزا نہ کی جاتے تو وحی الہی سے امن اٹھ جاتے گا اور ایسا التباس و اشتباہ بڑھ جائے گا جس کی اصلاح ناممکن ہو جائے گی جو حکمت تشریح کے منافی ہے بخلاف اُس شخص کے جس کا رسول ہونا آیات و براہین سے ثابت نہیں ہوا بلکہ کھلے ہوئے قرآن و دلائل علانیہ اسکی رسالت کی نفی کر چکے ہیں تو اس کی بات

بھی بے ہودہ و خرافات ہے کوئی عاقل اسکو درخور اعتنا نہ سمجھے گا اور نہ دین الہی میں بحمد اللہ کوئی التباس و اشتباہ واقع ہوگا ہاں ایسے شخص کی معجزات وغیرہ سے تصدیق ہونا محال ہے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو جھوٹا ثابت کرنے اور رسوا کرنے کے لیے ایسے امور بردے کار لائے جو اسکے دعوائے رسالت کے مخالف ہوں اور اسکو جھوٹا ثابت کر دیں، اسکی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح بادشاہ ایک شخص کو کسی منصب پر مامور کرے اور سند فرمان دیکر کسی طرف روانہ کرے اب اگر اس شخص سے اس خدمت میں کوئی خیانت ہوئی یا بادشاہ پر جھوٹ باندھنا اس سے ثابت ہوا تو اسی وقت بلا توقف اس کا تدارک کرتے ہیں لیکن اگر سڑک کوٹنے والا مزدور یا جھاڑو دینے والا بھنگی بکتا پھرے کہ گورنمنٹ کا میرے لیے یہ فرمان ہے یا میرے ذریعہ سے یہ احکام دیتے گئے ہیں تو کون اسکی بات پر کان دھرتا ہے اور کون اس کے دعوؤں سے تعرض کرتا ہے (سبحان اللہ یہ الہامی کلمات پوری طرح مرزا غلام احمد کذاب پر منطبق ہوتے ہیں) بہر حال آیت ہذا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال نہیں کیا گیا بلکہ یہ بتلایا گیا ہے کہ قرآن کریم خالص اللہ کا کلام ہے جس میں ایک حرف یا ایک شوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے شامل نہیں کر سکتے اور نہ باوجود پیغمبر ہونے کے آپ کی یہ شان ہے کہ کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دیں جو اللہ نے نہ کہی، ہوتی

تورات سفر استثنائے کے اٹھارہویں باب میں بیسواں فقرہ یہ ہے۔

”لیکن وہ نبی ایسی گستاخی کرے کہ کوئی بات میرے نام

سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اسے حکم نہیں دیا اور مجھوں

کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔“

خلاصہ یہ کہ جو نبی ہوگا اس سے یہ ممکن نہیں کہ ایسا کرے یہ بات تقریباً وہی ہے جو سورۃ بقرہ میں فرمائی

كُنَّ وَلِيًّا مِّنْهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ
وَلَا نَصِيرٍ عَمَّا كَذَبُوا لَكَ مِنَ الْحَقِّ لَوْلَا إِذْ سَأَلْتَهُمْ لَاحِجَةً مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ لَشِئْبٌ طَائِفَةٌ لَّا يُفْقَهُونَ كِتَابَ اللَّهِ الَّذِي كُتِبَ لَهُم مَّا يُبَيِّنُ لَكُمُ الْآيَاتِ

ڈالنے والے بے ہودہ استدلال کا رد ہو گیا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمُنَّة

تم تفسیر سورۃ الحاقہ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ

(ربط) گزشتہ سورت کی طرح اس میں بھی خصوصیت سے قیامت اور قیامت کے احوال شدیدہ کا بیان ہے اور یہ کہ آخرت کی سعادت و شقاوت کا اصل مدار و معیار کیا ہے اور وہاں کی راحتیں اور کلفتیں کس امر پر مرتب ہوتی ہیں اسی کے ساتھ مؤمنین و مجرمین کے احوال اور انکے درمیان تقابل بھی بیان فرمایا تاکہ ایک نظر میں نور و ظلمت اور حرارت و برودت کی طرح تو من و کافر کا فرق واضح ہو جائے بالخصوص اس سورت میں جو چیز زائد اہمیت اور توجہ کے ساتھ ذکر کی گئی وہ کفار مکہ کی مخالفت اور انکے تمسخر و اتہام کا رد ہے جو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام رب العالمین کے ساتھ کرتے تھے

سورت کی ابتدا کفار مکہ کی سرکشی اور لغو قسم کے سوالات کے ذکر سے فرمائی گئی اور یہ کہ وہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف دروگردانی کرتے تھے اس پر ان کے انجام ہلاکت کا بھی بیان ہے۔

اخیر میں مجرمین و کفار قیامت کے روز کیسی شدت و بے چینی میں مبتلا ہوں گے اسکو بھی بیان فرمایا گیا اور اہل ایمان پر انعامات اور انکی راحتوں کو اسکے بالمقابل پیش کر دیا گیا ساتھ ہی انسانی فطرت کی کمزوری کا بھی ذکر ہے تاکہ انسان اس عیب اور کمزوری کے ہلک نتائج سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھ سکے۔

÷ ÷ ÷

آیَاتِهَا ۲۴ = سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ بَكِيَّةٌ = ۷۹ = فِيهَا رُكُوْعَاتٌ

سورة معارج بکئی ہے اور اس میں چوالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝

مانگا ایک مانگنے والے نے، عذاب پڑنے والا منکر کے واسطے کوئی نہیں اسکو ہٹانے والا

مَنْ اللَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ ۲۰ تَعْرِجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ

اللہ کی طرف کا، جو بڑھتے درجوں کا صاحب پڑھیں گے اسکی طرف فرشتے اور روح اس

فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۲۱ فَاصْبِرْ

دن میں جس کا نباد پچاس ہزار برس ہے سو تو صبر کر

صَبْرًا جَمِيلًا ۲۲ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۲۳ وَنَرَاهُ قَرِيبًا ۲۴

بھلی طرح کا صبر کرنا وہ دیکھتے ہیں اسکو دور اور ہم دیکھتے ہیں اسکو نزدیک

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالرَّهْلِ ۲۵ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۲۶ وَ

جس دن ہوگا آسمان جیسے تانبا پگھلا اور ہوں گے پہاڑ جیسے اون رنگی اور

لَا يُسْئَلُ جِمِيمٌ جِمْيَا ۲۷ يَبْصُرُونَهُ يَوْمَ يَكُونُ السَّمَاءُ كالدُّخَانِ

نہ پوچھے دو سردار دو سردار کو سب نظر آجادیں گے انکو سناوے گا گناہگار کسی طرح چھڑوائے

مَنْ عَذَابٍ يُومِئِدُ بِبَنِيهِ ۲۸ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۲۹ وَ

میں دے اس دن کی مار سے اپنے بیٹے اور ساتھ والی اور بھائی اور

فَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ۳۰ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ

اپنا گھرانا جس میں رہتا تھا اور جتنے زمین پر ہیں سارے پھر

يُنَجِّيهِ ۳۱ كَلَّا إِنَّهَا لَأُظْفَىٰ ۳۲ نَزَّاعَةً لِّلشَّوْىٰ ۳۳ تَدْعُوا مَنْ

آپ کو بچاوے کوئی نہیں وہ تپتی آگ ہے کھینچ لینے والی کلیجہ پکارتی ہے اسکو

أَدْبُرًا تَوَلَّىٰ ۳۴ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ۳۵ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ

خسے پیٹھ دی اور پھر گیا اور اٹکھا کیا اور سینتا (سنبھالا) بے شک آدمی بنا ہے جی

هَلُوعًا ۳۶ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۳۷ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ

کا کچی جب لگے اسکو بڑائی تو گھبرا اور جب لگے اسکو بھلائی

مَنْعًا ۲۱) إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۲۲) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ

توان دیوا (دربینے والا) مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر

ذَائِمُونَ ۲۳) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۲۴) لِلسَّائِلِ

قائم ہیں اور جن کے مال میں حقہ ٹھہر رہا مانگنے کا

وَالْمَحْرُورِ ۲۵) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۲۶)

اور ہارے کا اور جو یقین کرتے ہیں انصاف کے دن کو

وَالَّذِينَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۲۷) إِنَّ

اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک

عَذَابِ رَبِّهِمْ غَيْرِ مَأْمُونٍ ۲۸) وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ

انکے رب کے عذاب سے نڈر نہ ہوا جاوے اور جو اپنی شہوت کی بگڑ

حَافِظُونَ ۲۹) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

تھامتے ہیں مگر اپنی جو زوجوں سے یا اپنے ہاتھ کے مال سے

فِي أَنفُسِهِمْ غَيْرِ مَلُومِينَ ۳۰) فَمِنَ ابْتِغَايَٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

سوال پر نہیں اولاد بنا پھر جو کوئی ڈھونڈے اسکے سوا سو رہی ہیں

هُمْ الْعَادُونَ ۳۱) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ

ہد سے بڑھتے اور جو اپنی دھڑ دھڑیں (امانتیں) اور اپنا قول

رِعُونَ ۳۲) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۳۳) وَالَّذِينَ

نہاتے ہیں اور جو اپنی گواہی پر سیدھے ہیں اور جو اپنی

هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۳۴) أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ

نماز سے خبردار ہیں وہ ہیں باغوں میں

مُكْرَمُونَ ﴿۲۵﴾

عزت سے

مجازات عناد و سرکشی کفار و شدت کرب و اضطراب روز قیامت

قال اللہ تعالیٰ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ الخی فی جَنَّتِ مُكْرَمُونَ
(ربط) گذشتہ سورت کا مضمون اہل جہنم کے احوال پر مشتمل تھا اور یہ کہ مجرموں کو کس ذلت کے ساتھ خدا کے عذاب اور قہر کی گرفت میں لیا جائے گا اب اس سورت میں ایسے مجرمین کی معاندانہ روش بیان کر کے اس پر مذمت اور سزا کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ روز قیامت ایسے سرکشوں کی بے بسی کا کیا عالم ہو گا جو دنیا میں غرور و نخوت کا پیکر بنے ہوتے تھے ارشاد فرمایا۔

مانگا ہے ایک مانگنے والے نے ایسا عذاب جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے واسطے جس کو کوئی تملانے والا نہیں وہ عذاب ہر حال میں منکروں پر واقع ہو کر رہے گا مانگا ہے یہ عذاب اس اللہ سے جو بڑے اونچے درجوں والا ہے جس کی عظمت و برتری اور درجات کی بلندی کا یہ عالم ہے جڑھیں گے اسکی طرف فرشتے اور روح اس دن میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے کہ فرشتے اور فرشتوں کی رو میں تمام آسمانوں کو درجہ بدرجہ طے کرتے ہوئے اسکی بارگاہِ قرب تک چڑھتی ہیں یا آس کے بندے اسکے احکام کی پیروی کرتے ہوتے جان و دل سے کوشش کر کے اچھی خصلتوں سے آراستہ ہو کر قرب وصول کے مدارج روحانی طے کرتے ہیں اور ترقی کر کے اسکی حضوری سے مشرف ہوتے ہیں اور وہ درجات مسافت کے قرب اور بعد میں مختلف اور متفاوت ہوتے ہیں بعض ایسے کہ ایک پلک جھپکنے میں ایک منزل سے ترقی کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں جیسے کلمہ اسلام کا اقرار کر لینا کہ ایک ہی لمحہ میں کفر کی ذیلیں ترین منزل سے ایمان کے اعلیٰ درجہ پر پہنچا دیتا ہے بعضے ایک ساعت میں جیسے نماز بعضے پورے ایک دن میں جیسے روزہ بعضے پورے ایک ہینہ میں جیسے پورے ماہ رمضان کے انوار و برکات سے اعلیٰ ترین درجات حاصل کر لینا بعضے ایک سال میں جیسے زکوٰۃ اور حج بیت اللہ و علیٰ ہذا القیاس

۷۰ یہ الفاظ اس تحقیق کے پیش نظر اضافہ کیے گئے جو بعض ائمہ مفسرین آیت کے اعراب میں فرماتے ہیں کہ ہون اللہ ذی المعارج میں یہ بھی احتمال ہے کہ جملہ مستانف ماقبل سے منقطع ہو اور بجائے دافع سے متعلق کرنے کے ایک عامل مقدر کے متعلق اسکو کہا جائے وہ لفظ سائل ہے یعنی سائل ہون اللہ ذی المعارج ۔

اور اسی طرح فرشتوں اور رُوحوں کا عروج ہے اور خود اس خدادند قدوس کی تربیت اور اتار چڑھاؤ بھی بے شمار درجے رکھتا ہے۔

مع از فوائد شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔

حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر میں ابن عباسؓ سے نقل کرتے ہیں انہوں نے معارج کی تفسیر میں درجات کا مفہوم ذکر کیا کہ پروردگار عالم فضائل اور بلند یوں والہے مجاہد نے معارج سے آسمانوں کے معارج مراد لیتے ہیں روح سے جنس روح اور مراد تو مین کی رو میں ہیں جیسا کہ ابوداؤد دلسائی کی ایک روایت میں ہے۔ برابریں عازب مومن کی قبض رُوح کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں فَكَلَّا يَصْعَدُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى يَنْتَهَى بِهَا إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ۔ یعنی جب مومن کی روح قبض کر لی جائے گی تو اس کو چڑھایا جائے گا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچا دیا جائے گا اور بعض مفسرین کی راستے ہے کہ روح سے روح الایمن یعنی حضرت جبریلؑ مراد ہیں۔

یَوْمَ كَانَ وَعْدُ الرَّحْمَنِ الْفَتْحَ سَنَةً كِي مَرَادِیْل حَافِظِ ابْنِ كَثِيْرٍ فِي حَادِثَاتِ اَنْوَاعِ نَقْلٍ كَيْتِي اَيْتِي كِي مَرَادِ اَسْفَلِ سَافِلِيْنَ سِي لِي كِي عَرْشِ تِكِ كِي مَسَافَتِ هِي جُو سَاوِيْنَ زِيْزِيْوَ كَا سَتَقْرَبِيْ جِنَا نَجْمِ اِس قِسْمِ كَا مَضْمُونِ ابْنِ اَبِي ثَيْبِيْهِ نِي كِتَابِ «وَصِفَةِ الْعَرْشِ» فِيْ بَيَانِ كِيَا هِي دَسْرَا قَوْلِ يَرِي كِي يَرِي مَدْرَتِ بَعَارِ دُنْيَا هِي كِي جَبِ سِي اللّٰهِي نِي دُنْيَا كُو پِيْدَا كِيَا اِس وَتَمْتِي سِي قِيَامَتِ تِكِ كِي يَرِي مَدْرَتِ هِي جِنَا نَجْمِ جَاهِذِ اِس اَيْتِي كِي تَفْسِيْرِ فِيْ كِيَا كَرْتِي تَحِي عَمْرَهَا خَمْسُوْنَ اَلْفَ سَنَةً۔ تِي سَرِ اَقْوَلِ يَرِي كِي وَهِي وَتَمْتِ فَاصِلِ هِي دُنْيَا وَآخِرَتِ كِي دَرْمِيَانِ مَكْرَا اِس قَوْلِ كُو مَضْمُونِ نِي غَرِيْبِ وَشَاذِ كِيَا هِي جُو تَحَا قَوْلِ يَرِي هِي كِي يَرِي رُوْزِ قِيَامَتِ كِي مَدْرَتِ هِي جُو دُنْيَا كِي اِيَامِ كِي طَاظِ سِي پِچَاسِ هَزَارِ بَرَسِ كِي بَعْدِ هُوْگِي جِنَا نَجْمِ عَكْرِ مَرْمِ ابْنِ عَبَّاسِؓ سِي بَا سَنَادِ صِيحِ نَقْلِ كَرْتِي فِيْ هُوْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اُوْر اَيْتِي فِيْ هِي كِي اللّٰهِي نِي اِس دِنِ كُو كَا فَرُوْنَ كِي وَاسْطِيْ پِچَاسِ هَزَارِ سَالِ كِي بَرَابَرِ بِنَايَا هِي اَنْحَضْرَتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي يَرِي بَا تِ اِرْشَادِ فَرَمَاتِي جَبِ كِي سِنْفِي وَوَالُوْ نِي كِيَا اللّٰهُ اَكْبَرِي كِي سِ قَدْرِ طَوِيْلِ دِنِ هُوْگَا تُو اَسْپِي نِي اِرْشَادِ فَرَمَا يَرِي كَا فَرِ كِي يَتِي هُوْگَا لِيكِنِ مَوْتَمِنِ كِي لِي لِي اللّٰهُ تَعَالَى اِس دِنِ كُو اَتْسَا اَسَانِ فَرَمَا دِي كَا جَبْتَنَا وَتَمْتِ كِي وَهِي لَرَضِ نَمَازِ فِيْ لِكَا تَا هِي بَكَا اِس سِي بِي كِي مَالِ كِي زَكْوَتِ نِي دِيْنِي وَوَالُوْ كِي دِيْعِدِ فِيْ جُو مَدْرِيْتِ هِي كِي وَهِي مَالِ اِس شَخْصِ يَرِي جَهَنَمِ كِي اَكِ بِنَا كَرِ دَاغِ دِيَا جَاتَا رِي هِي كَا اِس دِنِ فِيْ كِي جَبِ كِي مَقْدَارِ پِچَاسِ پِچَاسِ هَزَارِ بَرَسِ هِي اِسْكِي تَا يَدِ كَرْتِي هِي

(تفسیر ابن کثیر ج ۴)

بعض ائمہ مفسرین کی راستے ہے کہ پچاس ہزار برس کی مدت ظاہری اور حقیقی معنی کے لحاظ سے نہیں

تسخیر اور استہزاء کرنے والوں کا وہ بے شک دلخراش ہے اور اس پر رنج و غم طبعی تقاضا ہے مگر ہمارے پیغمبر صبر کیجئے بھلے طور پر صبر کرنا یہ منکرین اور کفار مکہ اگرچہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں مگر اچھا اگر یہ دین برحق ہے اور ہم اسکو قبول نہیں کرتے تو آپ آسمان سے پتھروں کی بارش ہم پر کروا دیجئے یا آپ ہم کو جس قیامت سے ڈرا رہے ہیں وہ کہاں ہے اور کب آئے گی اسکو لے آئیے تو اے ہمارے پیغمبران منکرین کی ایسی لغو باتوں سے آپ مغموم نہ ہوں۔

بے شک یہ لوگ تو اسکو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسکو قریب دیکھ رہے ہیں نہ عذاب خداوندی آنے میں کوئی در ہے نہ ہی روز قیامت آنے میں وہ قیامت کا دن تو ایسا دن ہوگا کہ آسمان ہو جائے گا بنگھلے ہوئے تانبے کی طرح اور پہاڑ ہو جائیں گے روتی کے گالوں کی طرح جو مختلف رنگوں کے ہوں ہوا میں اڑ رہے ہوں اور پریشانی دہتراسی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی دوست نہیں پوچھے گا کسی دوست کو حالانکہ سب ایک دوسرے کو نظر آتے ہوں گے لیکن اسکے باوجود ہر ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا کوئی کسی کی مدد تو درکنار حال بھی نہ پوچھ سکے گا ایسے وقت گناہ گار تمنا کرے گا کاش آج کے دن کے عذاب سے وہ نذیر دے دیتا اپنے بیٹوں کا اور بطور نذیر دیدیتا اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے اس کنبہ کو جس کا ٹھکانہ وہ حاصل کرتا تھا اور حتیٰ تک

ہے بلکہ وہ غم اور کرب ہے جس کے باعث یہ دن اس قدر طویل ہوگا اسی وجہ سے مومنین کے لئے غدا کے وقت کے بقدر ہلکا فرمایا گیا اور اس تقدیر پر سورۃ سجدہ کی آیت مَقْدَارًا كَأَنَّ مَسْجِدًا وَمَا أَقْدَرًا جس میں ایک ہزار برس مقدار میان کی گئی کوئی تعارض نہ رہے گا، (قرطبی)

بعض ائمہ مفسرین کے کلام سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں پچاس ہزار برس ہوں گے اور ہر موقف اور حاضری کا مقام ایک ہزار برس کے بقدر ہوگا تو اس لحاظ سے ایک ہزار برس نفس مجموعہ دن کی مدت ہوتی اور اس کے پچاس موطن کے اعتبار سے پچاس ہزار ہو گئے جس کو بیان فرمایا گیا (روح البیان)

سَأَلْنَا سَائِلًا فِي تَفْسِيرِهِمْ بَعْضَ حَضْرَاتٍ فِي نَفْسِ حَادِثِ كَانَتْ بَيَانًا لِمَا هُوَ مَعْنَى لَيْتَ كَرِيهٌ ذَلِيلٌ اِسْ قَابِلٌ نَحْوًا كَرِيمٌ فِي اِسْ كَانَتْ لِيَا جَائِئِي تُو مَبْهَمٌ رَكَّاهُ نِيْزَ لَعِيْنٌ نَزَّ كَرْنِيْ فِيْ رِيْ خَوْلِيْ هِيْ كَرِ اِسْ سَائِلِ كِيْ لَعْدُوْ جُوْ هِيْ اِسْ قَسْمِ كَا سَوَالِ كَرِيْ كَا اِسْ بِرِ اَيْتِ مَنطَبِقِ هُوْ كِيْ.

بعض مفسرین کہتے ہیں سائل سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ اشارہ ہے اس دعا اور درخواست کی طرف حج آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کی سرکشی اور انکے تسخیر سے رنجیدہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں فرمائی تھی کہ ان پر کوئی عذاب مسلط کیا جائے چنانچہ ان پر سات برس کا وہ جگر خراش قحط برسا کہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے کی نوبت آگئی پھر کیف ان متعدد معانی پر ائمہ مفسرین نے ان کلمات کو محمول کیا ہے ہم نے اسی وجہ سے ترجمہ میں لفظ مانگا ہے مانگنے والے نے اختیار کیا تاکہ ہر دو معنی پر منطبق ہو سکے (واللہ اعلم بالصواب)

اگر اسکے امکان میں ہوتا ہر اس شخص اور کل اس مال و دولت کا جو روئے زمین میں بستا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا لیتا تو وہ ضرور وہ ہر چیز کو فدیہ کے طور پر دینے کے لئے تیار ہو جاتا مگر نہیں ہرگز نہیں وہ تو ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جو کھال اتار دینے والی ہے اور اس طرح کہ وہ اندر سے جگر کو بھی جلا کر رکھ دے گی پکارتی ہوگی یہ آگ ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیری اور ردگردانی کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری سے اور مال و دولت کی محبت اس قدر غالب آئی خوب جمع کیا اور سمیٹ کر رکھا کہ اس میں سے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ کسی مسکین و محتاج کی کوئی مدد کی بے شک انسان بہت ہی کمزور طبیعت پیدا کیا گیا اس کا حوصلہ اور دل نہایت ہی کمزور واقع ہوا ہے جب اسکو کوئی تکلیف پہنچے تو بے قرار ہو جاتے اور جب اسکو بھلاتی پہنچے اور اللہ رب العزت اپنی نعمتوں سے نوازے تو روکنے والا ہو جاتا ہے اور خیر کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے یہ بری خصلت ہر انسان میں ہوتی ہے جو اللہ کے تعلق سے دور ہو مگر وہ نمازی بندے جو اپنی نماز پر پابندی کرنے والے ہیں اور وہ لوگ جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل کے لئے اور محتاج و مسکین کے لئے اور وہ لوگ جو ایمان و یقین رکھتے ہیں بدلہ اور انصاف کے دن یعنی قیامت پر اور جو لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اس لئے کہ بے شک انکے رب کا عذاب ایسا ہے کہ کسی کو اس سے مطمئن نہ ہونا چاہیے اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں یا اپنی باندیوں کے جن کے وہ مالک ہیں کیونکہ ان پر تو کوئی گرفت نہیں اس لیے کہ وہ نفس کا تقاضا صحیح محل میں اور حلال طریقہ پر پورا کر رہے ہیں لیکن جو شخص اسکے علاوہ کوئی راستہ اپنے نفس کا تقاضا پورا کرنے کا تلاش کرے گا تو بلاشبہ ایسے لوگ تعدی اور سرکشی کرنے والے ہوں گے اور جو لوگ اپنی اساتذوں اور اپنے عہد و پیمان کی رعایت رکھنے والے ہیں کہ امانت میں کوئی خیانت نہیں کرتے اور جو عہد و پیمان کیا اسکو پورا کرتے ہیں اور جو لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں کہ گواہی بھی سچی دیں اور کسی لالچ و طمع سے اس گواہی سے انحراف بھی نہیں کرتے بلکہ اسی پر قائم رہتے ہیں اور جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح خلل نہیں آنے دیتے وقت کی پابندی جماعت کی بھی پابندی پائی گی احتیاط شتوع و شتوع اور اسی حالت کے ساتھ اس پر دوام تو بے شک ایسے ہی لوگ جو ان پاکیزہ خصلتوں اور پسندیدہ افعال سے متصف ہیں ہمیشہ کے باغوں میں ہوں گے جن کا بڑا ہی اعزاز و اکرام ہوگا۔

ظاہر ہے کہ اسکے بالمقابل جو شخص اللہ کی نافرمانی اور سرکشی پر تیار ہوگا اس کی ذلت و تباہی ایسی عبرتناک ہوگی کہ انسان اسکا تصور نہیں کر سکتا۔

اس موقع پر اہل جنت کے یہ آٹھ اوصاف بیان کیے گئے جن کی تفصیل و تشریح سورۃ
ف المؤمنون میں گذر چکی یہاں ان صفات کے ذکر اور ترتیب میں عجیب لطافت و خوبی
 اختیار کی گئی کہ **إِلَّا الْمُصَلِّينَ** کے عنوان میں ابتداء بھی وصف صلوة سے فرمائی اور ان اوصاف کی

تکمیل بھی علیٰ سداً قہم یحافظون بر کی گئی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ان اوصاف اور خوبیوں سے انصاف نمازی کی برکت سے ہو سکتا ہے اور جو تو من ان صفات سے مستفہ ہوگا وہی نماز کا محافظ بھی ہوگا اور وہی بلوغ جیسی مذموم صفت سے محفوظ رہ سکے گا ورنہ تو اس جہک اور خطرناک بیماری میں بالعموم انسان مبتلا ہو کر ہی رہتا ہے۔

✽ ✽ ✽

فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلِكَ مَهْطِعِينَ ۝۳۶

پھر کیا ہوا ہے منکروں کو تیر کی طرف دوڑتے آتے ہیں

عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ ۝۳۷ اَيْطَعُ كُلُّ امْرِيٍّ

داہنے سے اور بائیں سے جٹ کے جٹ کیا لالچ رکھتا ہے ہر ایک

مِنْهُمْ اَنْ يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ۝۳۸ كَلَّا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا

ان میں کہ داخل کرینے نعمت کے باغ میں کوئی نہیں ہم انکو بنایا ہے جس سے

يَعْلَمُونَ ۝۳۹ فَلَا اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اِنَّا

جانتے ہیں سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں مغربوں کے مالک کی ہم

لَقَادِرُونَ ۝۴۰ عَلٰى اَنْ نَّبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَاَمَّا نَحْنُ

سکتے ہیں کہ بدل کر لے آویں ان سے بہتر اور ہم سے بہتر (بڑھ)

بِمَسْبُوقِينَ ۝۴۱ فَذَرَهُمْ يَخوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يَلْقَوْا

د جا رہیں گے سو چھوڑ دے انکو باتیں بناویں اور کھیلیں جب تک بھڑیں

يَوْمَ الَّذِي يُوْعَدُونَ ۝۴۲ يَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ

اپنے اس دن سے جسکا ان سے وعدہ ہے جس دن نکل بریں گے قبروں سے

سِرَاعًا كَاَنْهُمْ اِلٰى نَصِيبٍ يُوْفِضُونَ ۝۴۳ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ

دوڑتے جیسے کسی نشانے پر دوڑے جاتے ہیں نوریں ہیں ان کی آنکھیں

تَرَهَقُمْ ذَلَّةٌ ذَلِكِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۳۳﴾

جوڑھی آتی ہے ان پر ذلت یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ ہے

حیرت و استعجاب بر حال اہل عناد و تنبیہ و تہدید بر خود فریبی ایساں

قال اللہ تعالیٰ فَصَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا... الخ... كَانُوا يُوعَدُونَ
 (ربط) گزشتہ آیات میں مجازات اعمال کا بیان تھا اور یہ کہ مجرمین قیامت کے روز کیسی شدید
 بے چینی اور اذیت میں مبتلا ہوں گے اب ان آیات میں ان معاندین کی حالت میں حیرت و تعجب
 کا اظہار کیا جا رہا ہے تو اپنی مذموم اور بے ہودہ روش سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے
 اور دین کا مذاق اڑاتے تھے اور پھر عجیب تر امر یہ ہے کہ اس دل آزار اور بے ہودہ روش کے باوجود
 اپنے بارہ میں یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ آخرت میں بڑے نعمات سے نوازے جائیں گے اس ضمن
 میں پھر اس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ سعادت اور شقاوت انسان کے عقائد اور اعمال پر موقوف
 ہے محض دعوے اور آرزوں سے سعادت کا میابی نہیں ملا کرتی ہے۔

ارشاد فرمایا تو ان تمام حقائق کے واضح اور ثابت ہو چکنے کے بعد عجیب بات ہے کیا ہو گیا ان
 کافروں کو آپ کی طرف آرہے ہیں دایں طرف سے اور بائیں طرف سے غول کے غول ہو کر چاہتے
 تو یہ تھا کہ ان مضامین کو من کر خود کرتے اور ان حقائق پر غور کرتے اور ان حقائق پر ایمان لانے لیکن
 بجائے ایمان لانے کے بطور استہزاء مذاق غول کے غول آپ کی طرف چلے آرہے ہیں اور ان
 باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں پھر اس سے بھی عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ
 ہے کہ اگر قیامت آتی تو وہ بڑی آسائش و آرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا تو کیا ان میں سے ہر
 شخص اس بات کی طمع کر رہا ہے کہ وہ نعمتوں کے باغ میں داخل کیا جائے گا خبردار ہرگز نہیں یہ کیسے
 ممکن ہے کہ وہ نافرمان جو قیامت جنت و جہنم اور جزا و سزا کا منکر ہو وہ اپنی ان تمام نافرمانیوں کے
 باوجود جنت کے باغات میں داخل کیا جائے گا بے شک ہم نے انکو پیدا کیا ہے اس چیز سے جو وہ بھی
 جانتے ہیں اور وہ مٹی جیسی حقیر چیز اور ایک ناپاک پانی کا قطرہ ہے لہذا صرف اس سے پیدا کیا ہوا انسان
 تو محض اپنے انسان ہونے کی وجہ سے اس لائق نہیں ہے کہ بہشت کے باغات اسکو ملیں یہ نعمتیں
 تو ایمان اور اعمال صالحہ ہی پر مل سکتی ہیں جس سے یہ لوگ عاری ہیں سو میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور
 مغربوں کے مالک کی کیشک ہم قادر ہیں کہ انکو بھرتے انہیں اور ہم ایسے نہیں کہ ہم کو عاجز کیا جاسکے کسی بھی ایسی بات جسکو ہم کرنے کا ارادہ کریں اور جب
 ہم انکو بھرتے ان سے بہتر پیدا کر سکتے ہیں تو کیا ہم انکو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے جسکا وہ انکار کرتے ہیں اور جب وہ ہمارے قابو سے

نہیں نکل سکتے تو پھر اس بارہ میں کیا تعجب و حیرت کی گنجائش ہے نیز یہ کہ اگر یہ لوگ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں تو کیا ہوا ہم ان سے بہتر اپنے پیغمبر کے واسطے اعلان انصار پیدا کر سکتے ہیں چنانچہ ہجرت مدینہ کی صورت میں اللہ نے منکرین قریش کے بجائے انصار مدینہ کا گروہ آپ کا ناصر مددگار اور مطیع فرما لیا۔ بردار بنا دیا تو اے ہمارے پیغمبر آپ انکی کوئی پرواہ نہ کیجیے اور انکو چھوڑ دیجیے کہ وہ اپنی باتوں میں منہمک رہیں اور کھیل تماشے میں لگے رہیں یہاں تک کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دل سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس وقت خود حقیقت کھل کر انکی نظروں کے سامنے آجاتے گی یہ دن وہ ہوگا کہ نکل رہے ہوں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے اس طرح کہ گویا کسی نشان کی طرف دوڑ لگا رہتے ہوں حال یہ ہوگا کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان پر چڑھی جا رہی ہوگی جیسے کہ کوئی غلاف کسی چیز کو ڈھانک رہا ہو بس یہی ہے وہ دن جس کا ان مجرموں سے وعدہ کیا جاتا تھا اور اس وقت کسی مجرم اور منکر کو عذاب خداوندی سے بچنے کا کوئی بھی امکان نہ ہوگا اور اس طرح قدرت خداوندی ان حقائق کو انکی نگاہوں کے سامنے لے آئے گی جس کا انہوں نے دنیا میں انکار کیا اور اس کا مذاق اڑایا

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَلَهُ الْكُفْرٰتُ
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ
تقر تفسیر سورۃ المعارج والحمد لله على ذلك

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُوْرَةُ نُوْحٍ

سورۃ نوح بھی مکی سورت ہے جسکی اچھائیس آیات اور دو رکوع ہیں (ربط) اس سورت کا مضمون بھی مکی سورتوں کی طرح عقیدۃ توحید کی ترجمانی اور اثبات ہے اور شرک و بت پرستی کی تردید۔ بالخصوص اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کے جذبۂ تبلیغ اور دعوت الی اللہ میں جو دن رات جدوجہد فرماتے رہے اس کا بیان ہے اور یہ کہ اس بد نصیب قوم کی یہ کس قدر بد نصیبی تھی کہ ہادی حق اور داعی توحید سے دور بھاگتے رہے حتیٰ کہ نفرت و بغض کی کوئی حد باقی نہ رہی کہ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہ ہوا اور اپنے کا ٹھکانے حق سننے سے بھی ہند کر لیں پیغمبر بہر کیف اولادِ آدم اور جنس بشر سے ہیں طبعی تاثرات سے کہاں تک بچ سکتے ہیں تو قوم کی اس بیزاری اور تنفر پر مغموم درنجیدہ ہوتے ہوئے ایسے بد نصیب مجرموں کیلئے عذاب خداوندی کی

طلب والتجسس کے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں۔

ظاہر بات ہے کہ نوح بچاس برس کی طویل ترین مدت جب اس طرح گذر جاتے کہ قوم اللہ کے پیغمبر کی دعوت توحید کے بالمقابل نہایت ہی گستاخی اور ڈھٹائی سے کہنے لگے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ كَمَا سَاءَ لَكُمْ مَرِغَزًا اِسْمَعِلْنِي لِقَوْلِكَ رَبِّ تَتَّخِذُ الْاَشْرَافَ عَدُوًّا لِّمَنْ اٰمَنَ مِنْكُمْ وَيَسْتَفِزُّ الْاَشْرَافَ يَوْمَئِذٍ بِرِغَزٍ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

ان مضامین کو یہاں بیان فرماتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مغفرت برسورت کو ختم فرمایا گیا۔

⋮ ⋮ ⋮

آيَاتُهَا ۲۸ = ۷۱ = سُورَةُ نُوحٍ مَكِّيَّةٌ = فِيهَا اَرْبَعُونَ آيَةً

کوردہ نوح مکی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو کروع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰی قَوْمِهٖ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ

ہم نے بھیجا نوح کو اسکی قوم کی طرف کہ ڈرا اپنی قوم کو اس سے پہلے

اَنْ يَّاتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۱ قَالَ يَقَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ

کہ پہنچے ان پر دکھ والی آفت بولا اے قوم میری! میں تم کو ڈرسانا ہوں

مَّبِيْنٌ ۲ اِنْ اَعْبَدُوْا اللّٰهَ وَاتَّقَوْهُ وَاَطِيعُوْا ۳ لِيَغْفِرَ

کھول کر کہ بندگی کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو کہ بخشنے

لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُوْخِرْكُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ اَجَلَ

تمکو کچھ گناہ تمہارے اور ڈھیل دے تمکو ایک ٹھہرے وعدہ تک وہ جو وعدہ رکھا

اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۴ قَالَ رَبِّ

اللہ نے جب آپہنچے اسکو ڈھیل دہوگی اگر تم کو سمجھ سے بولا اے رب

إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۝ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي

میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن پھر میرے بلائے سے اور زیادہ

إِلَّا فِرَارًا ۝ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا

بھاگتے ہی رہے اور میں نے جس بار ان کو بلایا تا انکو تو معاف کرے ڈالنے لگے

أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَ

اپنی انگلیاں کانوں میں اور اوپر لپیٹے اپنے کپڑے اور ضد کی اور

اسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۝ ثُمَّ

غزور کیا بڑا غزور پھر میں نے انکو بلایا اجاگر پھر میں

إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۝ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا

نے انکو کھول کر کہا اور چھپ کر کہا چپکے سے تو میں نے کہا گناہ بخشو اور

رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۝ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ

اپنے رب سے بیشک وہ ہے بخشنے والا چھوڑ دے آسمان کی تہ پر

مِدْرَارًا ۝ وَيُبَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ

دھاریں اور بڑھتی دے تمکو مال اور بیٹوں سے اور بنا دے تمکو

جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ

باغ اور بنا دے تمکو نہریں کیا ہوا ہے تمکو کیوں نہیں امید رکھتے الا

وَقَادَرًا ۝ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ

سے بڑائی کی اور اسی نے تمکو بنایا طرح طرح سے کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بنائے

اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۝ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَ

اللہ نے سات آسمان تہ بر تہ ۶ اور رکھا جانے ان میں اجمالا اور

جَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۱۶ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

لکھا سورج چراغ جلتا اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے

نَبَاتًا ۱۷ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۱۸ وَاللَّهُ

جما کر پھر دہرا کر ڈالے گا تم کو اس میں اور نکالے گا تم کو باہر اور اللہ نے

جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ سَبِيلًا ۱۹ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا

بنادی تم کو زمین بچھونا تاکہ چلو اس میں کشادہ

فِيهَا سُبُلًا ۲۰

رستے

بعثت رسول ہادی حق و داعی توحید نوح علیہ السلام و تہمرد و سرکشی
قوم و نفرت و استکبار از صدر ایمان و توحید خالق ارض و سما

قال الله تعالى إنا أنزلنا نوحًا إنا قوم مہمہ إنا سُبُلًا فِیْهَا سُبُلًا

(ربط) اس سے قبل سورہ معارج میں قیامت اور قیامت کے احوال شدیدہ کا ذکر تھا اور یہ کہ اس روز مجرمین اور نافرمانوں کی پریشانی اور بد حالی انسان کے تصور سے بھی بڑھ کر ہوگی تو اب اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جن کو حق تعالیٰ نے عالم میں سب سے پہلا وہ رسول بنا کر بھیجا جو شرک و بت پرستی کا رد کرنے والے تھے انکی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ قوم کی یہ کس قدر بدنصیبی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور بڑی ہی گستاخی کے ساتھ شرک و بت پرستی پر ڈٹے رہے ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے بھیجا نوح کو انکی قوم کی طرف یہ پیغام دے کر کہ اے نوح ڈراؤ اپنی قوم کو انکی بت پرستی اور نافرمانی پر قبل اسکے کہ پہنچ جستے ان پر دردناک عذاب کیونکہ خدا کی نافرمانی کا انجام یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ قوم عذاب خداوندی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہے چنانچہ نوح نے کہا اے میری قوم میں تمکو کھلے طوفان پر ڈرانے والا ہوں اللہ کے عذاب سے اور اس بات کی تمکو ہدایت

کرتا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اللہ کی عبادت و بندگی کا جو راستہ میں بتاتا ہوں تم اس پر چلو۔ اسی ایک رب پر ایمان لاؤ اگرچہ اب تک تم مشرک اور نافرمانی کرتے رہے لیکن جب تم میرے بتائے ہوئے راستہ پر چلو گے اور اس خدا سے وعدہ لا کر ایک لڑ پر ایمان لے آؤ گے تو وہ تمہارے گناہوں میں سے کچھ معاف فرمادے گا۔ اور تم کو جہالت دے گا ایک معین وقت تک کہ تم اس طبعی سقر و متعین کردہ وقت تک زندگی گزارو گے اور سابق کفر و مشرک اور بغاوت پر جو عذاب خداوندی آیا کرتا ہے اور آن کی آن میں ایسے عذاب قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ تم سے ایک مدت تک کے لیے مل جائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آجائے تو پھر وہ تو مگر نہیں ہوتا تو بھی اللہ نے کسی انسان یا جاندار کے لیے موت کا مقرر کر دیا ہے یا جو وقت بھی قیامت اور جزا و سزا کا متعین کر دیا گیا ہے وہ بہر کیف آکر رہے گا اور اس میں کوئی تاخیر نہ ہوگی اگر تم اس بات کو جان لو تو پھر میری باتوں پر عمل کرنے اور میرے بتائے ہوئے راستہ پر چلنے میں تمکو کسی قسم کی رکاوٹ محسوس نہ ہوگی۔

نوح علیہ السلام قوم کو اسی طرح سمجھاتے رہے اسی پیغام توحید کو ان لوگوں کے سامنے ہر حال میں ہر زمان و مکان میں قوم کے سامنے دہراتے رہے لیکن جب امید کی کوئی جھلک باقی نہ رہی تو بالواسوسہ تنگ دل ہو کر اپنے رب کی اپنی قوم کی بے رخی و نافرمانی کا شکوہ کہتے ہوئے کہا اے میرے پروردگار بے شک میں اپنی قوم کو بلاتا رہا تیری توحید و بندگی کی طرف رات اور دن اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا رات کی تار بکلی ہو یادن کا اجالا برابر انکو تیری طرف بلاتا رہا لیکن یہ بد نعمت و بد نصیب ایسے ہیں میرے بلاسنے ان میں کسی چیز کی بھی زیادتی نہیں کہ بجز بھاگنے کے جس قدر شفقت و دلسوزی کا معاملہ کر سکتا تھا وہ کیا لیکن ان کی نفرت و بیزاری کا یہ عالم کہ اور جب کبھی بھی میں نے انکو بلایا ایمان و توحید کی جانب تاکہ تو انکے گناہ معاف کر دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے کپڑوں میں لپیٹ گئے اور اپنے چہرے چھپاتے کہ وہ میری صورت بھی نہ دیکھ سکیں اور میں بھی انکو نہ دیکھ سکوں جو خدا کے پیغمبر سے نفرت و بیزاری کی آخری منزل تھی اور بڑا ہی غرور و تکبر کیا اور اپنی روش سے قطعاً نہ پھرے اگرچہ ایک طویل مدت گذر گئی کہ اے اللہ میں انکو تیری طرف بلاتا رہا اور وہ اسی طرح نفرت و بیزاری کرتے رہے۔

اسے پروردگار بھر میں نے انکو بلایا تیری توحید و بندگی کی طرف برکلا کہ علی الاعلان مجھوں میں جا کر انکو دعوت دی اور انکے جلسوں میں انکو تیرا پیغام پہنچایا پھر میں نے انکو واضح طور پر کھول کر بتایا کہ خدا کی توحید و بندگی ہی میں نجات ہے اور خاموشی سے خفیہ طور پر بھی ناصحانہ انداز میں یہی انکو کہا ہر طرح اور ہر حال میں خلوت و جلوت اور اجتماعی و انفرادی خضوع برحالت میں انکو بس میں نے یہی کہا معافی طلب کرو اپنے رب سے وہی گناہ بخشنے والا ہے جو اپنی رحمت و مغفرت سے تم پر آسمان کے دروازے رحمتوں اور برکتوں کے کھول دے گا جس کے بعد وہ تم پر بہائے گا آسمان سے رحمتیں اور برکتیں بہا دینا یعنی ایمان و استغفار کی برکت سے قحط اور خشک سالی جس میں وہ قوم برسوں سے مہلتا تھی دور ہو جائے گی اور اللہ

رب العزت دھواں دھار برسنے والا بادل بھیج دے گا جس سے کھیت اور باغ میرا اب ہو جائیں گے غلے پھلوں اور میوے کی افراط ہوگی مویشی فر بہ ہونے کی وجہ سے دودھ گھی بڑھ جائے گا اور عورتیں جو قوم کی بد اعمالیوں کے باعث بائجھ ہو گئی تھیں زینہ اولاد دینے لگیں گی اور اسی طرح اللہ بڑھادے گا تمکو مختلف انواع کے مالوں اور بیٹوں سے اور سادے گا تمہارے واسطے باغات اور بنادے گا تمہارے واسطے نہریں تو ایمان و استغفار کی برکت سے وہ قحط سالی بھی دور ہو جائے گی جو برسوں سے ان پر مسلط ہے اور بارش کی کثرت سے انکے کھیت سرسبز و شاداب ہو جائیں گے غلے اور پھلوں کی کثرت سے دودھ گھی بڑھ جائے گا اور شامت اعمال سے عورتیں جو بائجھ ہو چکی تھیں وہ زینہ اولاد دینے لگیں گی غرض اسی طرح استغفار تو بہ کی برکت سے آخرت کی نجات کے ساتھ دنیا کی خوشحالی بھی نصیب ہوگی اور دنیوی عیش و بہار کا ایک دافر حصہ مل جائے گا اسے پروردگار میں نے ان سے یہ بھی کہا کیا ہو گیا تم کو تم امید نہیں رکھتے اللہ سے عظمت ڈرائی کی

۷۱ ان نعمتوں کا خاص طور پر اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ طباہ عامہ انکی طرف راغب ہوتی ہیں استغفار کی واقعی یہی خاصیت ہے کہ جو بھی سچے دل سے عجز و نیاز کے ساتھ اپنے پروردگار سے معافی مانگتا ہے اسکے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے بلائیں اور قحط سالی دور ہوتی ہے اور زمین کی پیداوار میں برکت ہوتی ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ حضرت صن بصریؒ سے کس نے قحط سالی کی شکایت کی تو آپ نے کہا کثرت سے استغفار کرو کسی اور نے اگر اپنی تنگدستی کا شکوہ کیا تو فرمایا استغفار کرو ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے کوئی زینہ اولاد نہیں جواب دیا استغفار کرو کوئی آیا اور اس نے کہا کہ میرا کھیت خشک ہو رہا ہے اور پیداوار نہیں تو فرمایا استغفار کرو پھر ایک اور آیا اور اس نے عرض کیا اسے امام میرے کنوئیں کا پانی سوکھ چکا ہے اس میں پانی نہیں تو فرمایا استغفار کرو بعض حاضرین کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس مجلس میں مختلف لوگ مختلف حاجتوں کے واسطے آئے اور صن بصریؒ نے سب کو ایک ہی جواب دیا ایک ہی علاج بتایا تو سوال کیا گیا جواب میں فرمایا میں نے ان سب کو کوئی بات اپنی طرف سے نہیں بتائی میں نے انکو وہی بتایا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے اور یہ آیت تلاوت فرمائی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُصَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ فِي بَيْنَيْنِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا استغفار صرف زبان سے فقط استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنے کا نام ہے اس عہد اور دل کے پختہ ارادے کے ساتھ کہ میں پھر یہ گناہ نہیں کروں گا ہر صبح و شام استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الھی القیوم والتوب الیہ پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت احادیث میں آئی ہے۔

حالانکہ اسی نے تو تمکو پیدا کیا ہے مختلف احوال کے ساتھ کہ اصل مادہ سے طرح طرح کے اتار چڑھاؤ طے کرتے رہے طرح طرح کے رنگ بدلے پھر ولادت تک مختلف اطوار بدلتے ہوئے دنیا میں آنا ہوا پھر اسی طرح پیدائش سے لیکر موت تک پلٹیاں کھاتے رہو گے کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے کس طرح سات آسمانوں کو پیدا کیا جو ہمہ برس ہمہ ہیں کہ ایک آسمان کے اوپر دوسرا ہے اور بنایا ہے ان آسمانوں میں چاند کو اجالا اور سورج کو بنایا ایک دیکھتا ہوا چراغ علیہ کہ اسکی روشنی پھیل کر تمام روئے زمین کو روشن کر دیتی ہے اور اسکی شعاعوں کی نمازت گرمی فراہم کرتی ہے اور اللہ ہی نے اگایا ہے تم کو زمین سے بڑی حکمت کے ساتھ اگانا کہ اول انسانوں کے باپ حضرت آدمؑ کو جو سب بنی آدم کی اصل ہیں مٹی سے پیدا کیا پھر نسل بعد نسل انسان بتوسط لطف کے پیدا ہوتے رہے جو غذا کا خلاصہ ہے اور ہر غذا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی پیدا کی تو اس طرح نسل انسانی مٹی ہی سے اگائی جا رہی ہے وہی غذا پھر تمکو اسی میں لوٹا دے گا کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں دفن ہونا ہے اور اس کا تمام جسم مٹی میں مل کر خاک ہو جانا ہے پھر اس مٹی میں مل جانے کے بعد باہر نکال لے گا بڑی ہی سہولت اور عجلت کے ساتھ نکال لینا اور تم سب قیامت کے روز میدانِ حشر میں جمع ہو گے جہاں تمہاری زندگی کے تمام افعال و احوال کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔

اور بنا دیا اللہ نے تمہارے واسطے زمین کو فرش نہ زیادہ سخت نہ لیٹ بیٹھ نہ سکو اور نہ زیادہ نرم کہ اس میں دھنستے چلے جاؤ بلکہ نرم بھی بنایا اور مضبوط بھی تاکہ تم چلو اسکے کشادہ راستوں میں اور اس طرح مسائل زندگی کی تکمیل آسان بنا دی کہ کوئی شخص چاہے تو ساری زمین کے گرد گھوم سکتا ہے اور اس میں وہ کوئی رکاوٹ نہیں محسوس کر سکتا۔

علیہ سورج کی روشنی چونکہ تیز اور گرم ہوتی ہے اس وجہ سے سورج کو سراج اور دیکھتے ہوئے چراغ کے عزائم سے تعبیر کیا اور چاند کو نور تھنڈا اور دھیمہ ہوتا ہے اس بنا پر نور فرمایا گیا یہی وہ چیز ہے جو دوسری آیت **هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا** میں شمس کے ساتھ ضیاء اور قمر کے ساتھ نور ذکر فرمایا گیا کیونکہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں چمک اور تیزی ہو اسکے برعکس نور اس روشنی کو کہتے ہیں جس میں تھنڈک ہو ۱۲

مُسَبَّبًا فِی الْجَا۔ کشادہ راستوں کو کہا جاتا ہے حسی طور پر تو انسانوں کی نقل و حرکت کے لینے اللہ نے روئے زمین پر کشادہ راستے بناتے ہی ہیں ان کشادہ راستوں سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ حلال و مباح اور خدا پرستی کے راستے بڑے ہی کشادہ ہیں جنکو ایک موقع پر سبیل السلام کہا گیا ان پر انسان بڑی ہی سہولت اور آسانی سے چل سکتا ہے بالمقابل کفر و بدکاری کے راستے کہ وہ بہت تنگ اور پرخطر ہیں انسان کو چلبیتے کہ تنگ اور پرخطر راستوں کو چھوڑ کر کشادہ اور روشن راستوں پر چلے۔

قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُوا مَنْ لَمْ

کہا نوح نے اسے رب میرے! انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور مانا ایسے کا جس کو

يَزِدُهُ مَالَهُ وَوَلَدًا إِلَّا خَسَارًا ۝۲۱ ۝ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْمَسْئَلَةِ ۝۲۲ ۝

اسکے مال اور اولاد سے اور بڑھاؤں اور داؤ کیا ہے بڑا داؤ

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا ۝۲۳ ۝

اور بولے نہ چھوڑو اپنے تھاکروں کو اور نہ چھوڑو وڈ کو اور نہ سواع کو

وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ۝۲۴ ۝ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۝۲۵ ۝

اور نہ یغوث کو اور یعوق اور نسر کو اور بہکا دیا بہتوں کو

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ۝۲۶ ۝ مِمَّا خَطَبْتُمْ أَغْرَقُوا ۝۲۷ ۝

اور نہ تو بڑھاتو بے انصافیوں کو مگر بہکا دیا کچھ وہ اپنے گناہوں سے ڈبا تے گئے

فَادْخُلُوا نَارًا ۝۲۸ ۝ فَلَمْ يَجِدُوا لَهَا دُونَ اللَّهِ أَنْصَارًا ۝۲۹ ۝

پھر بیٹھائے (ابھیختے) گئے آگ میں بھر نہ پاتے اپنے واسطے اللہ کے سوائے کوئی مددگار

وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرُ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝۳۰ ۝

اور کہا نوح نے اسے رب! نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر

دِيَارًا ۝۳۱ ۝ إِنَّكَ أَنْتَ تَذَرُهُمْ يُضِلُّوكَ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا ۝۳۲ ۝

بسنے والا مگر اگر تو چھوڑ دے انکو بہکاویں تیرے بندوں کو اور جو جنیں

إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝۳۳ ۝ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ

سو ڈھینچھ حق نہ سمجھتا اسے رب! معاف کر مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو

دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۝۳۴ ۝ وَلَا

آدے میرے گھر میں ایمان دار اور سب ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو اور

تَزِدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ۝

گنہگاروں پر نہ بھی بڑھتا رکھ، مگر برباد ہونا

شکوہ نوح علیہ السلام ببارگاہِ خداوندی بر نافرمانی و سرکشئی قوم

قال الله تعالى . قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ كَانُوا عَلٰى سَفَاہٍ مُّبٰنٍ اِلٰى اِلَّا تَبَارًا .
 (ربط) ابتداء صورت سے حضرت نوح علیہ السلام کے جذبہ تبلیغ اور دعوت الی اللہ کا ذکر تھا کہ کیسے انہماک اور دل سوزی سے دن رات اپنی قوم کو خدا کی طرف بلا تے رہے ہدایت و سعادت کا پیغام دیتے رہے کوئی حالت اور کوئی مجلس ایسی نہ چھوڑی جس میں ایسی گن اور ولولہ سے قوم کو راہ حق کی طرف لانے کی کوشش نہ کرتے ہوں اب ان آیات میں اسکے بالمقابل انکی قوم کا کردار ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جس قدر نصیحت و ہمدردی بڑھتی گئی، اسی قدر قوم کی شقاوت و گستاخی بڑھتی چلی گئی حتیٰ کہ اس پر حضرت نوح آزرده و مایوس ہو کر بارگاہِ خداوندی میں اپنی قوم کی بد نصیبی و سرکشئی کا شکوہ فرماتے لگے ارشاد فرمایا۔

کہا نوح نے اسے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی اور کسی طرح بھی میری بات سننے کو تیار نہ ہوئے اور پیروی کی پہلے سکی جس نے انکے مال اور اولاد میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا بجز خسارہ اور نقصان کے وہ اپنے رؤساء اور سرداروں ہی کی بات مانتے رہے جس کے نتیجہ میں خدا کی عنایات اور رحمتوں سے محروم ہو کر مال و اولاد کے خسارہ ہی میں مبتلا ہوئے اور مکر کیا بہت ہی زبردست قسم کا سکر کرنا اور اپنی انتہائی خطرناک سازشوں کے ساتھ نوحؑ کے مقابلہ اور انکی ایذا رسانی پر ڈٹے رہے اور کہنے لگے ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے اے لوگو! ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور ہرگز کبھی بھی نہ چھوڑو ناد کو اور نہ شواح کو اور نہ یعوش و یعوق اور نہ کو؛ الغرض اس طرح سرکشئی پر آمادہ رہے گمراہ کیا بہت سوں کو ممکن تھا کہ اگر ان لوگوں کی یہ سازش کارفرمانہ ہوتی تو قوم کے بہت سے لوگ ایمان لے آتے تو اے پروردگار بس اب تیری ہی بارگاہ میں شکوہ ہے اور دعا ہے اسے پروردگار تو ایسے ظالموں کے واسطے اضافہ نہ دے مگر ابھی کے اور کسی چیز کا تاکہ انکی گمراہی کے اضافہ سے عذابِ خداوندی میں اضافہ ہو اور ان پر خداوندِ عالم کا قہر و عذاب بڑا ہی شدید ہو۔

غرض حضرت نوحؑ اپنی قوم کو دعوت ایمان دیتے رہے اور قوم کا سواستے نافرمانی اور سرکشئی کے کوئی بھی رد عمل نہ ہوا حالت کی تبدیلی یا اصلاح تو درکنار اور زائد ہی سرکشئی بڑھتی رہی اور اس پر سینکڑوں برس گزر گئے اور دَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيْلٌ کہ سوائے چند لوگوں کے اور کوئی ایمان نہ لایا اس پر بارگاہِ رب العزت سے قوم پر عذاب کا فیصلہ جاری ہو گیا کہ اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ کہ اسے

نوحؑ اب یہ لوگ سب کے سب غرق کر دیتے جاتیں گے۔

آسمان سے پانی کے دروازے کھل گئے اور زمین شق ہو کر پانی اُبلنے لگا اور آسمان و زمین کا پانی ایک دوسرے میں مل گیا فَفُتِحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّسْتَسْقِمٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أُمَّرٍ قَدْ قُدِرَ۔

بہر کیف انکے گناہوں ہی کی وجہ سے انکو غرق کر دیا گیا دنیا کے اس عذاب نے تباہ و برباد کیا پھر آخرت کا یہ عذاب متردع ہوا داخل کر دیتے گئے جہنم کی آگ میں بس اللہ کے سوا انہوں نے اپنے واسطے کوئی مددگار دہمدر دنا پاتے اور عذابِ خداوندی کے فیصلہ پر نوحؑ نے کہدیا کفر اور کافروں کے ساتھ شدتِ عدوت اور نفرت کے جذبہ میں اسے پروردگار زمین پر کسی کافر کو بسنے والا نہ بھجوزا اس لیے کہ اگر تو نے انکو بھجوزا تو یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ نہیں جنیں گے مگر صرف نافرمان اور کافر ہی کیونکہ کفر و جنائست انکی فطرت میں داخل ہو چکی ہے لہذا انکی نسل اور اولاد بھی انہی کی طرح خبیث و نافرمان ہوگی اور اولاد کے علاوہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اسس لیے بس دل پہی چاہتا ہے کہ تو زمین کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک فرما دے۔

۷۱ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ کی تفسیر میں حضرت شاہ جہد القادر فرماتے ہیں کہ یعنی بھٹکتے ہی رہیں کوئی تدبیر سیدھی بن نہ بڑے اور حضرت شاہ عبدالعزیزؒ لکھتے ہیں کہ استدراج کے طور پر اسے اللہ انکو اپنی مغفرت سے آشنا کر عام مفسرین نے ان آیات کے ظاہری معنی مراد لیتے، ہوتے یہ فرمایا کہ اسے اللہ ان ظالموں کی گمراہی کو اور بڑھا دیکھئے تاکہ جلد شقاوت کا پیمانہ لبریز ہو کر عذاب الہی کے مورد بنیں ظاہر ہے کہ یہ دعا انکی ہدایت سے قطعی طور پر مایوس ہونے کے باعث کی خواہ یہ مایوسی تو ربنا ایک ہزار سال کے تجربے سے ہوتی یا اللہ کی رحمتی اَنْتَ لَمْ تَكُنْ يَتُوبُ مِنْكَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ، سے ہو ایسی حالت میں تنگدل و مایوس ہو کر ایسی دعا کرنا کوئی مستبعد بات نہیں ہے۔

حضرت شاہ عبدالعزیزؒ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص یا جماعت کے راہ راست پر آنے کی طرف سے قطعاً مایوسی ہو جائے اور نبی انکی استدراج پوری طرح جانچ کر سمجھ لے کہ خیر کے نفوذ کی ان میں مطلقاً گنجائش نہیں بلکہ ان کا وجود ایک عضوِ فاسد کی طرح ہے جو یقیناً باقی جسم کو بھی مسموم اور فاسد کر ڈالے گا تو اس وقت انکے کاٹ ڈالنے اور صفحہ ہستی سے محو کر دینے کے سوا دوسرا کیا علاج ہے اگر قتال کا حکم ہو تو قتال کے ذریعے انکو فنا کیا جائے یا قوت توڑ کر انکے اثر بد کو مستعدی ہونے سے روک دیا جائے ورنہ پھر آخری صورت یہی ہے کہ اللہ سے دعا کی جائے کہ وہ انکے وجود سے دنیا کو پاک کر دے اور ان کے لرہیلے جراثیم سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے بس یہی وہ چیز ہے جس کو دعائے نوح علیہ السلام بتا رہی ہے اِنَّ تَذَكُّرَهُمْ يُغْنِيكَ وَاَعْمَالُكَ وَلَا يَلْدُوْا اِلَّا فَاجِرًا اَكْفَارًا مَّرُوْبُوْسًا

باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

حضرت نوح علیہ السلام کی دعا بارگاہ رب العزت میں قبول ہوئی عذاب خداوندی نافرمان قوم کی طرف متوجہ ہوا پھر الہی اور اسکے غضب کے شعلے بلند ہوئے تو عظمت و جلال خداوندی کا اثر نوح کے قلب پر غالب آیا اور اسکی شان کبریائی سے خوف زدہ ہو کر اپنے اور اپنے والدین اور متبعین کے لئے خدا کی مغفرت اور مہربانی طلب کرنے لگے اور فرمایا اسے پروردگار بخش دیجیتے مجھے اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی بشری تقصیر کے باعث سرزد ہوئی ہو اور میرے ماں باپ کو بھی اور جو بھی میرے گھر میں داخل ہوا ایمان دار مردوں اور ایمان دار عورتوں میں سے اور اسے اللہ ان ظالموں کے واسطے ہلاکت کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہ فرمادہ اسی قابل ہیں کہ انکو پوری طرح ہلاک و برباد کر ڈالا جائے چنانچہ طوفان نوح آیا اور اس وقت انسانی آبادی بس وہی تھی تو کل عالم اس میں غرق کر دیا گیا بجز ان چند اہل ایمان کے جو بامر خداوندی سفینہ نوح میں سوار ہو گئے جس کی تفصیل گزر چکی۔

مورخین بیان کرتے ہیں کہ یہ طوفان تمام دنیا پر اس وجہ سے آیا کہ اس وقت دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کے سوا اور کوئی نسل نہیں بستی تھی اس طوفان میں بچنے والے افراد سے ہی آئندہ دنیا میں نسل انسانی کا سلسلہ چلا۔

(تفصیل کے لئے سورہ ہود میں اس مضمون کی مراجعت فرمائی جلتے)

دنیا میں شرک کا آغاز کیونکر ہوا

قرآن کریم کی آیت کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ نے اس امر کی تصریح کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ایک طویل عرصہ تک دنیا کے انسان صرف ایک ہی اُمۃ اور ایک ہی ملت رہے پھر کفر و ایمان اور ہدایت و گمراہی کا اختلاف پیدا ہوا تو انبیاء علیہم السلام مبعوث فرمائے گئے جو مبشرین و منذرین ہوتے تھے اہل ایمان کو نجات و جنت کی بشارت سناتے اور اہل کفر کو جہنم اور عذاب خداوندی سے ڈراتے۔

مورخین نے اپنی کتب تاریخ میں اس امر کو ظاہر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دس قرن حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت تک گزرے یہ تمام قرن ایمان و توحید پر قائم تھے سب سے پہلے وہ رسول جو کفر کے مقابلہ کے لئے مبعوث فرمائے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و بعثت اور وحی کو حضرت نوح کی بعثت اور وحی کے ساتھ تشبیہ دی گئی مثلاً فرمایا گیا مَشْرَعًا لَكُمْ مِنْهُ الدِّينَ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِينَ

میں حضرت موسیٰ کی دعا كُنَّا اٰطِيسَ عَلٰى اٰمُوٰلِهِمْ وَاَشَدُّ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتّٰى يَرُوْا الْعٰزَابَ الْاَلِيْمَ، اسی جذبہ برصینی ہے - ۱۲

أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَحَّيْنَا بِمِهِ إِبْرَاهِيمَ إِخْرَجَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ الْيَحْيَىٰ وَأَرْشَادًا بَعَثْنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن قَبْلِهِ ۗ

علامہ ابو الفکور مسلمی نے اپنی کتاب التہبید میں بیان کیا کہ شرک اور کفر کی ابتداء حضرت اخنوخ علیہ السلام جن کو ادریس علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے کے زمانہ میں ہوئی اس سے قبل کل دنیا دین واحد اور توحید پر قائم تھی جزوی طور پر معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب تو آدم کے بیٹے قابیل نے ہی کیا تھا کہ بائبل کو قتل کیا لیکن یہ نوعیت کفر و شرک کی نہ تھی بلکہ ارتکاب معصیت اور نافرمانی کی تھی شرک کا آغاز حضرت ادریس یا اخنوخ کے بعد سے حضرت نوح تک کے زمانہ میں ہوا حضرت نوح اس وقت مبعوث ہوئے جب کہ دنیا شرک میں مبتلا ہو چکی تھی اسی کے باعث حضرت نوح کو پہلا رسول کہا گیا کہ شرک کے مقابلہ کے لیے دنیا میں پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام مبعوث فرماتے گئے۔

حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس اس وجہ سے ہوا کہ وہ کثرت سے کتب سماویہ کا درس دیتے تھے تو درس و تدریس کی کثرت اور شغف کی وجہ سے انکا نام بالقب ادریس ہو گیا بعض روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ادریس علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھاتے گئے اخنوخ یا ادریس علیہ السلام سے علوم حاصل کرنے والے انکے خاص تلامذہ میں پانچ تھے جنکے نام دذ، سواع، یعقوت، یعوق اور نسر تھے جب ادریس علیہ السلام دنیا سے گزر گئے یا انکو آسمان پر اٹھایا گیا تو ان کے تلامذہ اور خدام میں سے باقی پانچ رہ گئے جو اخنوخ علیہ السلام کے ذاق پر انتہائی عملگین اور رنجیدہ ہوتے یہ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اللہ کے دین اور ایمان و توحید کی تعلیم دیتے رہے اب کچھ عرصہ گزرنے پر یہ لوگ بھی دنیا سے گزر گئے تو ان سے علم اور دین حاصل کرنے والے لوگ متوجہ اور پریشان ہونے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کریں اور اس امر پر انکو انتہائی بے چینی طاری ہوئی کہ اب علم اور دین کس سے حاصل کریں اسی عرصہ میں ایک گروہ کے دل میں ایک خیال پید ہوا اور اس نے لوگوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ کیوں نہ ایسا کیا جلتے کہ ہم ان پانچوں حضرات کے جو ہمارے راہنما اور ہادی تھے جیسے بنالیں تاکہ انکو دیکھ دیکھ کر انکی یاد تازہ ہوتی رہے اور ہم ان کی تعلیمات کو یاد کرتے رہیں اور اب تو ان حضرات کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بس اسی پر قناعت کی جاسکتی ہے اور اسی طرح ان حضرات کے جہسوں کو دیکھ کر ہم انکی یاد تازہ کرتے رہیں اور عبادت میں مشغول رہیں چنانچہ ان پانچوں کے جیسے تیار کر لئے گئے اور ہر مجسمہ یا بت کا نام ان ہی ناموں پر رکھ دیا گیا یہ لوگ تو صرف اسی حد تک رہتے ہوتے اپنے دین پر قائم رہے اور اللہ کی توحید و عبادت کرتے رہے حتیٰ کہ ایمان و توحید ہی پر یہ لوگ دنیا سے گزر گئے اب انکی اولاد اور نئی نسل کے زمانہ میں ابلیس لعین آیا بعض روایات سے معلوم ہوا کہ اس نے ان مجسموں کے ذریعہ یہ آواز لگائی اَنَّا رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ کہ میں تمہارا معبود اور رب ہوں اور تمہارے آباؤ اجداد کا رب ہوں ہر ایک مجسمہ سے یہ آواز سنائی دی کہ تمہارے بزرگ میری عبادت کرتے تھے ان لوگوں نے اتنی بات تو دیکھی ہی کہ یہ مجسمے بڑی

تعظیم و تکریم سے مخصوص جگہوں پر نصب کیے جوتے تھے اور اپنے بزرگوں کو دیکھا بھی تھا کہ وہ انکی تعظیم بھی کرتے تھے اس نئی نسل کو یہ فرق نہ معلوم ہوا کہ تعظیم کیا ہے اور عبادت کیا ہے اور ابلیس یہ بات انکے دماغوں میں رچانے میں کامیاب ہو گیا کہ واقعی تمہارے بزرگ انکی عبادت کرتے تھے یا وہ جو کچھ کرتے تھے وہ عبادت ہی تھی تو اس طرح یہ نسل ان جھوٹوں کو سمجھ کر عبادت کرنے لگی اور پھر انکے مجسے بہتلی، سونے اور چاندی کے بنائے گئے اور یہ بات اس حد تک ترقی کرتی چلی گئی کہ شرک و بت پرستی اور ان بتوں کی سارے عالم میں خوب کثرت ہو گئی اور لوگ پوری قوت اور شدت سے انکی عبادت پر جم گئے یہاں تک کہ اب حضرت نوح اس شرک کا مقابلہ کرنے اور توحید کے اعلان و دعوت کے لیے مبعوث فرمائے گئے تو جب حضرت نوح نے قوم کو توحید و ایمان کی دعوت دی اور بت پرستی سے روکنا شروع کیا اور اسی جذبہ میں دن رات ایک کر ڈالا تو اس قوم نے جس کے رگ و ریشہ میں شرک و بت پرستی سرایت کیے ہوئے تھے وہی جواب دیا لَا تَدْرُونَ كَذٰلِكَ سَوَآحَا ۙ لَا يَخْتَفٰٓئُ وَاَيُّكُمْ يَكْتُمُ سِرًّا ۙ اس حالت پر حضرت نوح علیہ السلام اس قوم میں ساڑھے نو سو سال تک توحید و ایمان کی دعوت دیتے رہے اور عذاب خداوندی سے ڈراتے رہے مگر وہ ایمان نہ لائے جب ہر طرح کی کوشش کر کے تھک گئے اور قوم سے مایوس ہو گئے اور وحی الہی نے یہ بتا دیا کہ اے نوح اِنَّكَ لَنْ يُّؤْمِنُوْا مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنٌ كَذَّبَ اَمْرًا ۙ تو مایوس و افسردہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں غیر اختیاری طور پر دُعا و التجار جاری ہو گئی رَبِّ لَا تَذَرْنِيْ اَلَا ذَرِيَّةً مِّنْ اَلْكَافِرِيْنَ ۙ دُعا کا اسے پروردگار میں اب تو زمین پر کوئی کافر بیٹے والا باقی نہ چھوڑ جنانچہ اللہ کی وحی آئی کہ اے نوح کشتی تیار کرنا شروع کر دو اب خدا کا عذاب اس قوم کو عرق کرنے والا ہے تم اور تمہارے ساتھ جو ایمان لا چکے وہ اس کشتی میں سوار ہو جانا تو اللہ تعالیٰ تم کو اور تمہارے ساتھ اہل ایمان کو نجات دے دے گا عذاب خداوندی آیا اور اس کشتی میں اسی نعرہ سواتھے جن کو اللہ نے نجات دی چالیس مرد اور چالیس عورتیں پھر انکے انتقال کے بعد حضرت نوح کی اولاد میں سے صرف تین باقی رہ گئے سَام، حَام اور يٰٓاٰثُ اور انکی بیویاں تو پھر انسانی آبادی کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ان ہی سے جاری فرمایا اس طرح طوفانِ نوح کے بعد کل انسان اولادِ نوح میں سے سَام، حَام اور يٰٓاٰثُ کی اولاد میں ہیں واللہ اعلم بالصواب

ترجمہ محمد اللہ تفسیر سورۃ نوح



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ سُوْرَةُ الْجِنِّ

اس میں بھی دیگر سورتوں کی طرح اصول توحید کا بیان اور شرک کا رد ہے اہم موضوع بیان جنوں کا قرآن کریم سن کر قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان لانا اور پھر اپنی قوم کی طرف ناصح اور ہادی بن کر جانا اور انکو ایمان کی دعوت دینا۔

چنانچہ سورت کی ابتداء ہی اس امر سے فرمائی گئی کہ جنات کے گردہ نے قرآن کریم سنا اور قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کا اقرار کیا اسی ضمن میں یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو کس طرح محفوظ فرما رکھا ہے کہ کسی جن کی مجال نہیں ملکوت سموات کی کوئی چیز سن سکے اور یہ کہ جن بھی انسانوں کی طرح مؤمن و کافر کی دو قسموں میں بستے ہوتے ہیں پھر یہ بھی بیان ہے کہ ایمان و توحید کا انجام نجات کا میاں اور آخرت کی نعمتیں ہیں اور کفر و نافرمانی عذابِ جہنم کو دعوت دینا ہے۔

سورت کے اخیر میں اللہ رب العزت کی ذات و صفات میں وحدانیت کا بیان ہے اور یہ کہ جیسے اسکی ذات اور الوہیت میں کوئی شریک نہیں اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اسکی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں آنحضرت کی لعنت سے قبل جنات کا بعض آسمانی خبروں کو سن کر کاموں تک پہنچا دینا علم غیب نہیں غیب کا علم بس خدا ہی کو ہے۔

ایاتھا ۲۸ = ۴۲ = سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ = ۲۰ = فِيهَا ۱۱۰ آيَاتٌ

سورة جن مکی ہے اور اس میں اٹھائیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہرمان نہایت رحم والا

قُلْ اَوْحٰی اِلَیَّ اَنَّہُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنْ اِجْنٍ فَقَالُوْا اِنَّا

تو کہہ مجھ کو حکم آیا کہ سن گئے تھے کہتے لوگ جنوں کے پھر کہا ہم نے

سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ۱ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَ

سنا ہے قرآن عجیب سوچاتا نیک راہ پھر ہم اس پر یقین لائے اور

لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۲ وَأَنْتَ تَعْلَىٰ جَدُّ رَبِّنَا مَا

ہرگز نہ شریک بتاویں گے اپنے رب کا کسی ایک کو اور یہ کہ اونچی ہے شان ہمارے رب کی نہیں

اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۳ وَأَنْتَ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا

لکھی اُس نے جو رو نہ بیٹا اور یہ کہ ہمارا بے دقوف کتاب ہے اللہ

عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۴ وَأَنَا ظَنُّنَا أَنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ

پر بڑھا کر باتیں اور یہ کہ ہم کو خیال تھا کہ نہ بولیں گے اس

وَاجِبُنَّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۵ وَأَنْتَ كَانَ رِجَالٌ مِّنْ

اور جن اللہ پر جھوٹ اور یہ کہ تھے کہتے مرد

الْإِنْسِ يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِّنْ أَجْنٍ فزَادُوهُمْ رَهَقًا ۶

آدمیوں کے بناہ پکڑتے کہتے مردوں کی جنوں میں پھرانکو بڑھا اور سرچڑھنا

وَأَنْتُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۷

اور یہ کہ انکو بھی خیال تھا جیسا تم کو خیال تھا کہ ہرگز نہ اٹھا دے گا اللہ کسی کو

وَأَنَا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلَأْتَ حَرَسًا شَدِيدًا

اور یہ کہ ہم نے سون ڈالا آسمان کو پھر پایا اُسکو بھر رہے اس میں چوکیدار سخت

وَشُهَبًا ۸ وَأَنَا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ

اور انگارے اور یہ کہ ہم بیٹھتے تھے آسمان کے ٹھکانوں میں سننے کو پھر جو

يَسْمِعُ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَّصَدًا ۹ وَأَنَا لَا نَدْرِي

کوئی اب سننے پاوے، پاوے اپنے واسطے ایک انگارا لگھات میں اور یہ کہ ہم نہیں جانتے

أَشْرَأْرِدِيدِبَسْنَفِىِ الْاَرْمِضِ اَمْرَادَادِبِهِمْ رَبَّهُمْ رَشْدًا ۱۰

کہ کچھ بُرا ارادہ ٹھہرا ہے زمین کے رہنے والوں پر یا چاہا کہ حق میں انکے رہنے راہ پر لانا

وَ اَنَا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ط كُنَّا طَرٰٓئِقَ

اور یہ کہ کوئی ہم میں نیک ہیں اور کوئی اس کے سوا ہم تھے کئی راہ پر

قَدَادًا ۱۱ وَ اَنَا ظَنَنَّا اَنْ لَّنْ نَّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْمِضِ وَلَنْ

پھٹ رہے اور یہ کہ ہمارے خیال میں آیا کہ ہم پھیرا (بڑھ) نہ جاویں گے اللہ سے زمین میں اور نہ

نَعْجِزُهُ هَرَبًا ۱۲ وَ اَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰى اَمْتَابِهٖ ط فَمَنْ

تھکا دیں گے انکو بھاگ کر اور یہ کہ جب ہم نے سنی راہ کی بات ہم نے اسکو مانا پھر جو کوئی

يُّؤْمِنُ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّ لَا رَهَقًا ۱۳ وَ اَنَا مِنَّا

یقین لاوے اپنے رب پر سو نہ ڈرے گا نقصان سے اور نہ زبردستی سے اور یہ کہ کوئی ہم میں

الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ط فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا

حکم بردار ہیں اور کوئی بے انصاف سو جو حکم میں آئے سو انہوں نے انکلی

رَشْدًا ۱۴ وَ اَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۱۵ وَ اَنْ

نیک راہ اور جو بے انصاف ہیں وہ ہوتے دوزخ کا ایندھن اور یہ

لَوْ اَسْتَقَامُوْا عَلٰى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا ۱۶

حکم آیا کہ اگر لوگ سیدھے رہتے راہ پر تو ہم پلاتے انکو پانی بھر کر

لِنَفِيْنَهُمْ فِيْهِ ط وَّمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْأَلْهُ عَذَابًا

تاکہ اُن کو جا پھیں اس میں اور جو کوئی منہ موڑے اپنے رب کی یاد سے وہ پینھا دوڑے

صَعْدًا ۱۷ وَ اَنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۱۸

انکو چڑھتے عذاب میں اور یہ کہ مسجد کے ہاتھ پاؤں حق اللہ کا ہے سو مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ

اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اسکو پکارنا لوگ ہونے لگتے ہیں اس پر

طع
لِبَدَأِ ①۹

تختہ -

تائیر حقایق قرآن بر قوم جن و قبول ایمان

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فُلْ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَن تَدْعُ اسْمُكَ لَقَرًا مِّنَ الْجِبْتِ... إِلَىٰ... يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَأِ
 (ربط) گذشتہ سورہ نوح میں یہ بیان تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کس قدر طویل مدت تک اپنی قوم
 کو ایمان دتو حید کی دعوت دیتے رہے لیکن بد نصیب قوم بجاتے اسکے کہ بدایت قبول کرتی اور شقاوت
 و بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا رہا اب اس سورت میں قوم جن کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان میں
 سے ایک گروہ قرآن سن کر اسکی حقانیت کا گردیدہ ہو گیا کلام الہی کی معرفت نصیب ہوتی اور حق پہچان کر
 اس پر کھیلے دل سے تیار ہو گئے صرف یہی نہیں کہ خود انہوں نے حق قبول کیا بلکہ وہ تو داعی حق بن کر دوسروں
 کو بھی ایمان دتو حید کی دعوت دینے لگے۔

اس سورت کے شان نزول کے بارہ میں امام بخاری و مسلم امام احمد ترمذی و صہم اللہ اور دیگر
 محدثین نے احادیث تخریج فرمائی ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک عرصہ
 دراز تک اہل مکہ کو ایمان کی دعوت دیتے رہے پھر آپ طائف بھی تشریف لے گئے لیکن وہاں
 کے سردار عبد یاسیل ستود و حبیب نے جو بدسلوکی اور بے تمیزی کا برتاؤ کیا اس کا آپ کے قلب مبارک
 پر کافی اثر تھا آپ واپسی پر جب مقام نخلہ پر ٹھہرے اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے تو شہر
 نصیبین کے نوحہ دجن وہاں سے گذرے جو اس تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ اب آسمان کی خبریں کیوں
 بند ہو گئیں پہلے جن آسمانوں تک پہنچ کر وہاں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لیتے تھے اور آسمانوں میں جو ٹکڑی
 باتیں فرشتوں کے درمیان ہوتیں انکو سن کر زمین کی طرف آتے اور کاهنوں کو بتایا کرتے تو آنحضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ قدرت خداوندی سے بند کر دیا گیا اور آسمانوں کو اس طرح کے
 استراق سمع سے محفوظ کر دیا گیا تھا تاکہ وحی الہی پوری حفاظت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر تک پہنچے اب جو
 جن آسمان کا رخ کرتا شہاب ثاقب اسکو جلا کر خاک کر دیتا اس کے بعد کوئی امکان نہ رہا کہ کوئی جن یا
 شیطان آسمان کی کوئی بات اچک سکے تو اس پر جنوں میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی اور یہ طے پایا

تھا کہ روئے زمین کا کوئی نہ چھان ڈالو اور تلاش کرو کہ کیا نئی چیز ایسی پیش آئی ہے کہ اب ہم آسمان کی کوئی بات نہیں سن سکتے تو ایک جماعت شہر نصیب کے جنوں کی بھی جو اس تلاش میں نکلے ہوئی تھی اس کا گذر اس مقام سے ہوا جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے جیسے ہی ان کے کان میں قرآن کریم کی آواز پڑھی اس پر فریفتہ ہو کر سچے دل سے ایمان لے آئے اور پھر اپنی قوم کو جا کر سب ماجرا سنایا اور بیان کیا کہ ہم نے ایک کلام سنا ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت اور حسن السلوب قوت تاثیر شہیریں بیانی طرز موعظت و حکمت میں اور علوم و معارف کی بلندی میں عجیب و غریب اور بے مثال ہے معرفت ربانی اور رشد و فلاح کی طرف رہبری کرتا ہے اور طالب خیر کو سعادت و تقویٰ کی اعلیٰ منزل تک پہنچاتا ہے اس وجہ سے ہم تو سنتے ہی بلا توقف و تردد اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم کو یقین کامل حاصل ہو گیا ہے کہ ایسا کلام اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں ہو سکتا ہم اسکی تعلیم و ہدایت کے مطابق عمل کرتے ہیں اپنا عقیدہ اور عمل قطعاً اسکی ہدایت کے مطابق بنائیں گے اور اپنے رب کے ساتھ جو دھدہ لا شریک لہ ہے تنہا کائنات کا خالق و مالک ہے کسی کو اسکی عبادت و الوہیت میں شریک نہیں کریں گے تو ان جنوں کا یہ تمام بیان اور مضمون اللہ نے وحی کے ذریعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ نے اس سورت کی تفسیر میں مفصل اور مبسوط بحث فرمائی اور عربی میں اس موضوع پر جامع تر کتاب ہو آ کام المسوجان فی احکام الجنان تالیف فرمائی گئی ہے غرض اس طرح اس واقعہ اور جنوں کے کلام الہی پر گرویدہ و ذلیفہ ہونے کی تفصیل اس طرح فرمائی جا رہی ہے ارشاد فرمایا۔

کہہ دیجیے میری طرف یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ کان لگا کر سن گئے ہیں جنوں میں کچھ جب کہ آپ قرآن کریم کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے اور وہ جماعت گشت کرتی ہوئی ادھر سے گذر رہی تھی جس پر انہوں نے قرآنی فصاحت و بلاغت پر فریفتہ ہوتے ہوئے کہا ہے بے شک ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا جو راہنمائی کرتا ہے نیکی کے راستہ کی طرف جو ہدایت و تقویٰ اور سعادت و فلاح کی منزل تک پہنچا دینے والا کلام ہے اور وہ یقیناً صرف اللہ ہی کا کلام ہے سو ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور اس کلام الہی نے جس طرح تو عید خداوندی حقائق و دلائل کی روشنی میں بتاتے ہیں ہم انکو سن کر خدا کی وحدانیت پر ایمان لے آئے اب ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے اور ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ بے شک ہمارے پروردگار کی شان تو بہت ہی اونچی ہے ظاہر ہے کہ اس نے نہ تو اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی کسی کو بیٹا بنایا اس لیے یہ خیالات نہایت ہی ہصل اور خلاف عقل ہیں خدا کا کوئی بیٹا ہے جیسا کہ نصاریٰ کہتے ہیں

۱۲۔ سورۃ احناف میں یہ مضمون گذر چکا ہے مراجعت فرمائی جائے ۱۲۔

اور جب کسی کا بیٹا تجویز کیا جاتے تو ظاہر ہے اسکے واسطے بیوی بھی مانی جائے گی اور یہ بات قطعاً عقل اور فہم کے خلاف ہے اور محال ہے اور یہ تو ہم میں سے کوئی بے وقوف ہی تھا جو اللہ پر اس طرح کی زیادتی کی باتیں کرتا تھا اور نازیبا چیزیں منسوب کیں اور ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف لغو باتیں منسوب کرنے سے زیادہ اور کیا بے وقوفی ہو سکتی ہے اور ان میں سب سے بڑا بے وقوف ابلیس ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ جنوں نے اپنے اس قول **وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا** سے ابلیس ہی مراد لیا ہو اور یہ بھی نہایت ہی تعجب اور افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ تھے انسانوں میں سے ایسے کہ جو قوم جن کے کچھ لوگوں کی پناہ حاصل کرتے تھے جب بھی انکا کسی جنگل دیبا بان میں گذر ہوتا وہاں کے جنوں کے سردار کی پناہ طلب کرتے اور کہتے کہ اس وادی کے جنوں کے سردار ہم ہر موذی اور شر ہر چیز کے شر اور ایذا سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ کھلا شرک تھا کیونکہ ہر شر اور ایذا سے تو پناہ اللہ ہی کی حاصل کی جاسکتی ہے مع تو اس طرح ایسے انسانوں نے ان جنوں کو اور زیادہ سرکش بنا دیا اور یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی اور بے وقوفی کی کہ انہوں نے

تفسیر مظہری میں موآلف الجن کے حوالہ سے باسناد سعید بن جبیر بیان کیا ہے حضرت رافع بن عمر اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ایک رات میں کسی ریگستان میں سفر کر رہا تھا نیند کا غلبہ ہوا تو اپنی اونٹنی سے اترا اور اپنی قوم کی عادت کے مطابق سوتے وقت یہ الفاظ کہہ لیے **اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِعَظِيمِ هَذَا الْوَادِي مِنْ الْجِنِّ** اے اللہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ لیتا ہوں بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں ہتھیار سے میری ناک کے سینہ پر رکھنا چاہتا ہے گھبرا کر اٹھا دائیں بائیں دیکھنے پر کچھ بھی نظر نہ آیا سوچا کہ یہ شیطان دوسرے سو گیا تو پھر اسی طرح دیکھ رہا ہوں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ناک کو دیکھا کہ وہ کانپ رہی پھر سو گیا تو اسی طرح پھر دیکھتا ہوں اور اونٹنی کو اب دیکھا کہ تڑپ رہی ہے اور پھر دیکھا کہ وہی نوجوان جس کو خواب میں دیکھا تھا ہاتھ میں نیزہ لیے ناک پر حملہ کر رہا ہے اور ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ پڑے مجھے روک رہا ہے اسی حالت میں میں گورخر سلمنے سے آئے اور بوڑھے شخص نے کہا میں سے کوئی ایک لے لے اور اس شخص کی ناک چھوڑ دے چنانچہ وہ نوجوان ایک گورخر لے کر روانہ ہو گیا پھر بوڑھے شخص نے میری طرف دیکھا اور مجھ کو اس بات سے منع کیا کہ میں کسی جنگل میں ٹھہر دوں تو یوں کہوں کہ اس وادی کے جنات کے سردار کی پناہ حاصل کر لیا بلکہ تجھے چاہیے کہ یہ کہا کرے **اعوذ باللہ رب محمد من هول هذا الوادی**۔ بیان کرتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہیں اس نے بتایا یہ نبی عربی ہیں بصر کے روز مبعوث ہوتے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں جواب دیا یہ شرب میں جو کعبوروں کی بستی ہے صبح ہوتے ہی میں مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا اس سے قبل کہ میں آپ سے کچھ کہتا آپ نے خود ہی مجھ سے یہ قسم دریافت فرمایا اور اسکے

ایسا ہی ایک گمان کیا جیسا کہ تم خیال کرتے ہو کہ ہرگز دوبارہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اور نہ کوئی قیامت ہوگی اور نہ ہی مشر و نثر ہوگا یا یہ کہ اللہ کسی کو مبعوث اور رسول بنا کر نہیں اٹھائے گا بس جو رسول پہلے آچکے وہ آگئے لیکن اے لوگو! تم سن لو یہ سب کچھ غلط ہے اب اللہ نے ایک عظیم رسول بھیج دیا ہے اور اس رسول نے یہ بتا دیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور ہم نے تو آسمان کو ہر طرف سے ٹٹول کر دیکھ لیا ہے تو ہم نے آسمان کو پایا ہے کہ وہ بھر دیا گیا ہے بڑے سخت پیروں اور رسنے والے انگاروں سے کہ جو بھی جن اب آسمان کا رخ کرتا ہے ایک شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسکو جلا کر خاک کر ڈالتا ہے اس صورت حال کے باعث کسی شیطان یا جن کو اب قدرت نہیں کہ غیب کی خبریں اور آسمان کی باتیں سن سکے یا معلوم کر لے اور بے شک ہم تو پہلے جایا کرتے تھے آسمان کے ٹھکانوں پر باتوں کے سننے اور کان لگانے کے لیے اور اس طرح کچھ نہ کچھ باتیں سن لیتے تھے لیکن اب تو جو بھی کان لگانا چاہے تو پاتا ہے ایک انگارہ جو اسکی تاک میں لگا رہتا ہے اور جوں ہی وہ آسمان کا رخ کرتا ہے یا اس طرف کان لگاتا تو وہ شہاب ثاقب اس پر لپک کر ٹوٹتا ہے اور جلا کر خاک کر ڈالتا ہے یہ جدید انتظامات اور ناکہ بندیاں معلوم نہیں کہ کس لٹے کی گئی ہیں اور انکا انجام ہمارے حق میں کیا ہونے والا ہے

* بارہ میں بتایا مجھے اسلام کی دعوت دی اور الحمد للہ میں مشرف باسلام ہو گیا اسی قسم کی بات عمر بن الخطاب کو بھی پیش آئی جس پر وہ مشرف باسلام ہوئے صحیح بخاری میں ہے عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ میں جاہلیت کے زمانہ میں اپنے بتوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے اگر بت پر ایک گائے ذبح کی تو اس بت کے پیٹ میں سے آواز سنائی دی جو بہت سے لوگوں نے سنی یا جلیح امر نجیح رحل یصیح بقول لا الہ الا اللہ یعنی اسے مرد قوی ایک بات بڑی ہی کامیابی کی ظاہر ہوئی ہے وہ یہ کہ ایک شخص با آواز بلند کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یہ آواز سن کر بھاگ گئے میں اسی جگہ بیٹھا رہا کہ معلوم کروں یہ آواز کیا ہے دوبارہ پھر یہی آواز بلند ہوئی پھر میں نے توقف کیا حتیٰ کہ تیسری مرتبہ بھی یہ آواز بلند ہوئی میں انتہائی حیران ہوا اسی حال میں تھا کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک بیخبر ظاہر ہوئے ہیں جو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں

اسی طرح بہت ہی نے سواد بن قارب سے نقل کیا ہے بیان کیا کہ ایام جاہلیت میں ایک جن میرا دوست تھا مجھے آکر کچھ آنے والی باتیں بتایا کرتا تھا میں لوگوں کو بتاتا اور اسکے ذریعے خوب حلوامائد حاصل کرتا ایک رات اس نے میرے خواب میں آکر کہا اٹھ اور ہو شیار ہو جا اگر کچھ شعور ہے ایک بیخبر لوی بن غالب کی نسل سے پیدا ہو گئے ہیں اور پھر کچھ اشعار پڑھے جن کا حاصل یہ تھا کہ اب جنوں میں بڑا ہی اضطراب برپا ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے اڑوں سے واپس ہونے کے لیے اپنے اونٹوں پر کجا دے کئے شروع کر دیتے ہیں۔

اور ہم نہیں جانتے کہ زمین پر بسنے والوں کے لیے کیا کوئی بڑا ارادہ کیا گیا ہے یا یہ کہ انکے رب نے انکے بارہ میں رشاد و ہدایت اور سیدھے راستہ پر لانے کا ارادہ کیا ہے اور یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ اسکے علاوہ ہیں اور اس سے کم درجہ کے ہیں ہم تھے متفرق طریقوں پر بسے ہوئے اگرچہ یہ بات نزول قرآن سے قبل تھی لیکن اب بھی اس بات کی توقع نہیں ہے کہ سب ایک ہی راستہ حق و ہدایت کا قبول کر کے اسی کو اختیار کر لیں اب بھی خیال یہی ہے کہ لامحالہ اختلاف رہے گا اور ہمت سے وہ ہوں گے جو اللہ کی ہدایت اور حق کا راستہ نہیں اختیار کریں خدا پر ایمان لانے کے بجائے اس کی نافرمانی کریں گے اور اس صورت حال میں کہ خدا کا راستہ اور حق ظاہر ہو گیا ہے اس پر درگاہ کی قدرت و حاکمیت ہر طرح سے ثابت ہو چکی ہے ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ ہم اللہ کو اسکی زمین میں رہتے ہوئے عاجز بنے ہی نہیں کر سکتے اور نہ اسکو مغلوب کر سکتے ہیں اس سے بھاگ کر کیونکر نہ تو ہم اسکی سلطنت سے نکل سکتے ہیں اور نہ اسکے علم اور قدرت سے باہر نکل سکتے ہیں تو جب کوئی مجرم اپنے آقا سے نہ چھپ سکتا ہے نہ اسکی حدود سلطنت اور قدرت سے باہر ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے رب اور آقا کو نہ مغلوب کر سکتا ہے اور نہ اس کی گرفت سے نکل اور بچ سکتا ہے نہ زمین میں چھپ سکتے ہیں اور نہ ہوا میں اڑ کر راہ فرار اختیار کر سکتے ہیں اور جب کہ ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ایک لمحہ بھی ہم نے دیر نہیں کی اور بلاشبہ یہ بات ہماری سعادت اور فخر کی ہے بس ہم تو سمجھ چکے ہیں کہ جو بھی شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا اسکو کوئی ڈر نہ ہوگا نقصان کا اپنے رب کی طرف سے اور نہ کسی قسم کی زیادتی کا بلکہ پورے اطمینان و سکون سے اپنی زندگی گزارے گا نہ اسکو آخرت کے نقصان کا کوئی ڈر ہوگا اور نہ اس بات کا کہ اسکو وہاں کوئی تکلیف ہوگی یا اس پر کسی طرح کی ظلم و زیادتی ہو سکے گی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم میں سے کچھ فرماں بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ظالم و جاہل اور نافرمان ہیں تو جو بھی اللہ کے مطیع و فرماں بردار ہوں بس وہی ایسے ہیں کہ جنہوں نے نیکی کا راستہ سوچ سمجھ کر طے کر لیا ہے تو بے شک ایسے لوگ کامیاب ہیں لیکن جو لوگ ظالم اور ناانصاف ہیں پس وہ تو جہنم کا ایندھن ہو چکے کیونکہ احکام خداوندی ٹھکرا دینا اسکی فرماں برداری سے انحراف کرنا ظلم و سرکشی کا راستہ اختیار کر لینے کا یہی انجام ہو سکتا ہے اور ہمارے پیغمبر ﷺ بھی کہہ دیجیے کہ میری

ملہ ان الفاظ کے اضافہ سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس سے قبل تک تو جنات میں ان اہل ایمان کا قول اور انکے پاکیزہ خیالات اور توحید خداوندی کے رنگ میں رچے ہوئے انکار کا ذکر تھا جو بذریعہ وحی ان جنوں کے نقل کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اسکی حقانیت کے گردیدہ اور اس پر فریقتہ ہوتے اب اسکے بعد اللہ کا فرمان ہے اور قل اذ حی الیٰ کے ماتحت اسی پر عطف ہے یعنی ایک تو آپؐ یہ بات اہل مکہ کو بتا دیجیے کہ مجھ

طرف اللہ کی یہ وحی بھی آئی ہے کہ اگر لوگ سیدھے راستے پر رہتے تو ہم انکو پانی بھر بھر کر خوب پلاتے اور ایمان و اطاعت کی بدولت انکو غلاہری و باطنی برکات سے میراب کر دیتے اور یہ بھی اس لیے ہوتا کہ ہم انکو آزمائیں کہ وہ اللہ کے اس انعام کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا مال و دولت کی فراوانی سے سرکش اور طغیانی پر قائم رہتے ہیں۔

چنانچہ اہل مکہ اس زمانہ میں اپنے اعمال کی نحوست کی دبر سے قحط سالی میں مبتلا تھے اور طرح طرح کی پریشانیوں اور مصائب کا شکار بنے ہوئے تھے کاش اگر یہ لوگ جنوں کی طرح قرآن کو سن کر اس پر ایمان لے آتے تو یقیناً ان پر رزق اور برکت کے دروازے کھول دیئے جاتے۔

اور اس حقیقت سے کسی کو بھی غافل نہ ہونا چاہیے کہ جو بھی اپنے رب کی یاد سے بے رخی اختیار کرے گا ہم اسکو ڈال دیں گے دشوار گزار چڑھتے ہوئے عذاب میں ایسے شخص کو ہرگز کبھی سکون و چین نصیب نہ ہو سکے گا بلکہ وہ عذاب و پریشانی جس میں وہ مبتلا ہوا اور زائد برہمتی اور چڑھتی ہی چلی جائے گی اور بے شک کعبہ اللہ ہی کے نیچے ہیں یہ عبادت خداوندی کی جگہیں صرف اللہ کی عبادت و بندگی کے واسطے بنائی جاتی ہیں ان سے بس اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے اور اس عبادت کو ہر قسم کے مشرک اور شرک کے شائبہ سے بچانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ مشرکین کی طرح خدا کو پکارنے کے ساتھ غیر اللہ اور بتوں کو بھی پکارا جائے لہذا اے لوگو! خدا کے ساتھ کسی کو بھی سمت پکارو! بس یہی کہو یا اللہ یا الرحمن نہ کہ مشرکین مکہ کی طرح کہ خدا کے ساتھ دوسروں کو بھی پکاریں اور یہ دعویٰ کریں مَا نَعْبُدُ هُوَ إِلَّا لِيُقَرَّبَ لَنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پکارتے ہوئے تو قریب ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس پر ہجوم کر آئیں اور اڑھام کر لیں ہر طرف سے غول کے غول اگر جمع ہو جائیں چنانچہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے مومنین تو شوق و رغبت میں آپ کا ہجوم کر لیتے اور کفار و مشرکین تمسخر و مذاق کے لیے یا یہ کہ جب آپ جنوں کے واسطے تلاوت فرمائیں جن غول کے غول آپ کے قریب آکر جمع ہو جاتے ہیں۔

* ہر اس واقعہ اور جنوں کے اس قصہ کی وحی کی گئی ہے اور دوسری بات کی مجھے وحی یہ کی گئی کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستہ پر چلتے ایمان و ہدایت اختیار کر لیتے تو ان پر ہر طرح کی فراخی اور میرابی واقعہ کر دیتے۔ ۱۲۔

علا حضرت الاستاذ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے مساجد سے وہ اعضاء مراد لیئے ہیں جو مسجد میں زمین پر ٹیکے جاتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ اعضاء خدا کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے عطا کردہ ہیں یہ بات قابل برداشت نہیں کہ انکو خالق کے سوا کسی اور کے سامنے جھکا یا جائے ۱۲

وجود جن کے بارہ میں فلاسفہ کا خیال

اکثر فلاسفہ جنات کے وجود کا انکار کرتے رہے ان کا قول یہ ہے کہ کائنات و موجودات کا دائرہ محسوسات تک ہی محدود ہے جو چیزیں انسانی ادراکات سے خارج ہیں وہ انکے وجود کا انکار کرتے ہیں اور انکا یہ دعویٰ ہے کہ وہ چیزیں محض وہی تخیلات ہیں۔

موجودہ زمانہ کا یورپ بھی اسی فلسفہ کا قائل ہے اور یورپ کے اس فلسفہ سے بہت سے مسلمان بھی متاثر ہو کر ایسی آیات و روایات کی تاویل یا انکار کرنے لگتے ہیں جو دائرہ محسوسات سے ماوراء اور بالا ہیں۔

طبیعیات کا ایک گروہ جو خدا کا بھی قائل نہیں وہ تمام کائنات اور اس میں واقع ہونے والے جملہ احوال کو کواکب و سیارات کی تاثیر و حرکت کا نتیجہ قرار دیتا ہے اگر یہ سماج اسی قسم کا اعتقاد رکھتا ہے لیکن قدیم فلاسفہ و حکما اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ غیر محسوسات کا بھی وجود ہے اور عالم کی بہت سی اشیاء ایسی ہیں جو حواس کے ذریعہ محسوس و معلوم نہیں ہوتیں اسی بنا پر قدیم فلاسفہ کا ایک گروہ وجود جن کا قائل تھا اسی طرح مذاہب سماویہ سے تعلق رکھنے والے تمام حکما بھی روحانیت کے قائل رہے ارواح سفیدہ اور ارواح کی تقسیم انکی کتابوں اور اقوال سے مفہوم ہوتی ہے عیسائی یہودی بھی جنات کے وجود کے قائل رہے ہر ایک کی زبان میں اس مخلوق جن کا کوئی نہ کوئی نام اور عنوان ملتا ہے موجودہ انجیلوں میں اس قسم کے مضامین ملتے ہیں کہ حضرت مسیح جنوں کو مرہض سے نکالا کرتے تھے جو حکما اور فلاسفہ جن کے وجود کے قائل ہیں انکے دو نظریے ہیں ایک نظریہ کا حاصل تو یہ ہے کہ جن

اور ملائکہ اجسام ہیں اور نہ اجسام میں حلول کیے جاتے ہیں بلکہ خواہر ہیں اور موجود بالذات ہیں بھران کے مختلف انواع و اقسام ہیں بعض نیک شریف اور پسندیدہ اخلاق سے متصف ہیں اور بعض جن ان اوصاف سے محروم اسکے برعکس رذیل اور ذی الطبع بد اخلاق ہیں جیسے انسانوں میں نیک و بد اور شریف و رذیل کی تقسیم ہے اسی طرح جنوں میں بھی ہے۔

دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جن اجسام ہیں مگر اجسام لطیفہ لطافت کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتے وہ مختلف شکلوں میں متشکل اور ظاہر ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس وجہ سے جس شکل میں چاہیں ظاہر ہو سکتے ہیں اور انکی بھی انسانوں کی طرح خیر و شر کی طرف تقسیم ہے اور بعض اوقات وہ انسانوں کی مجالس میں آتے بھی ہیں۔

جنات اپنی جسمانی لطافت کے باعث فرشتوں کی طرح آسمانوں کی طرف چڑھتے تھے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر ختم کر دیا گیا گویا جن کا وجود حیوان دلائم کے درمیان ایک برزخی تھا

رکھتا ہے اسی لیے ان میں دونوں قسم کے احوال پائے جاتے ہیں اشکال مختلفہ میں تشکل ختم فرامست شعور حس و قبح ملائکہ کا وصف ہے جو ان میں پایا جاتا ہے مثلاً کھانا پینا حیات اور غصہ دزنی نیز توالد و تناسل وغیرہ جو حیوانی اوصاف ہیں اور انسان میں پائے جاتے ہیں اور جسم کے خواص میں سے ہیں تو اس نسبت سے یہ اوصاف بشریہ اور احوال حیوانیہ بھی جنات میں ان کے از قبیل اجسام ہونے کے پائے جاتے ہیں اس نالیط سے حیوان و انسان اور فرشتوں کے درمیان ایک برزخی مخلوق ہوتی انسانوں کی طرح ان میں بھی حصول اقتدار کی طلب پائی جاتی ہے تو مخلوق جن کا آسمانوں سے غیب کی خبریں لا کر کاہنوں کو پہنچانا یا بتوں کے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں سننا اسی طرح درختوں سے صدائیں دینا جیسا کہ بعض اوقات لوگوں کو سنائی دیتا ہے تو یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان جنوں کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکائیں اور ظاہر ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے لیکن جس طرح انسان اپنی تدابیر سے لوگوں پر ایسا اثر قائم کر دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں نفع و نقصان انکے قبضہ میں ہے اسی طرح بعض جنات بھی اسی طرح کی باتیں کر کے انسانوں کو اپنا مسخر اور تابع کرنا چاہتے ہیں۔

الغرض قرآن کریم اور احادیث سے جنات کا وجود ثابت ہے اور ان کے احوال بیان فرمائے گئے مجملہ انکے احوال کے یہ بھی ایک قصہ ہے جس کا سورہ جن میں ذکر فرمایا گیا تفصیل کے لیے تفسیر روح المعانی قرطبی اور تفسیر مظہری اور تفسیر کبیر امام رازی کی مراجعت فرمائی جاتے۔
واللہ اعلم بالصواب

طائف سے واپسی پر مقام نخلہ میں جنات کا قرآن کریم سننا اور اس پر ایمان لانا

مورخین نے بیان کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آلام و مصائب اور کفار مکہ کی مخالفت و دشمنی کی ایک طویل مدت گزرنے کے بعد طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا اسی کے ساتھ یہ بات بھی واقع ہوتی تھی کہ ابوطالب کا انتقال ہو چکنے کے باعث اہل مکہ آپ کی دشمنی پر اور زائد آمادہ ہو گئے تھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوطالب کے انتقال پر طبعاً افسردہ اور ملول تھے تو یہ خیال کرتے ہوتے کہ ثقیف کے لوگ شریف الطبع ہوتے ہیں تو بظاہر امید ہے کہ وہ میری بات سنیں گے اور امید ہے کہ ایمان لے آئیں ثقیف کے تین بھائی عبد یلیل حبیب اور مسعود جو طائف کے سردار تھے آپ نے اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے نہایت ہی بے ہودگی کا برتاؤ کیا حتیٰ کہ قبیلہ کے ادارہ اور شہر لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا جو شور مچانے اور گایاں دینے لگے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچنے کے لئے ایک باغ میں پناہ لی جو عقبہ اور ربیعہ کا تھا جس کی تفصیل سیرت کی کتابوں میں ہے آپ نے اس حالت میں پروردگار عالم سے اپنی مظلومیت اور بے سروسامانی کا شکوہ کرتے ہوئے فرمایا۔

اللہم انی اشکو الیک ضعف
قوتی وقلۃ حیلتی وھو الخ
علی الناس وانت ارحم الراحمین
وانت رب المستضعفین الخ

اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنی ضعف
قوت اور وسائل واسباب کی کمی کا شکوہ
کرتا ہوں اور لوگوں کی نظروں میں اپنی خفقت
کا سہ پروردگار آپ ہی ارحم الراحمین ہیں اور
آپ ہی کمزوروں کے پالنے والے ہیں

ربیعہ کے بیٹوں عقبہ اور شبیبہ کو یہ حال دیکھ کر ترس آیا اور اپنے ایک نصرانی غلام عداس کو انگوڑ کا ایک خوشہ پیش کرنے کو کہا جس پر اس غلام نے ایک طبق میں انگوڑوں کا ایک خوشہ لے جا کر آپ کے سامنے رکھا آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جب تناول فرمانا شروع کیا تو اس نے حسرت سے دریافت کیا واللہ یہ تو عجیب کلام ہے اور یہاں کے لوگ یہ کلام نہیں پڑھتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو کہاں کے ہو اور تمہارا کیا مذہب ہے عداس نے کہا میں نصرانی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں آپ نے فرمایا جہاں کے رہنے والے اللہ کے پیغمبر لوہن بن سنی تھے عداس یہ سن کر کہنے لگا آپ کو یونس بن سنی کی کیا خبر۔ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اس لحاظ سے میرے بھائی ہوتے۔ اس پر عداس آپ کے قدموں پر گر پڑا آپ کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں کو چوما اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف لوٹے والیسی میں جب کہ آپ مقام نخلہ پر پہنچے اور آخر شب میں تہجد پڑھنے لگے تو یمن کے مقام نصیبین کے جنوں کا یہ نافلہ اس طرف سے گذر رہا تھا تلاوت کلام اللہ کی آواز ملتے ہی یہ سب دک گئے قرآن کریم سنا اسکی حقانیت کو سمجھا اور اس پر ایمان لائے اور اپنی قوم کی طرف داعظ وناصح بن کر لوٹے حدیث سے ثابت ہے کہ اسکے بعد جنات کے وفد آپ کے پاس آئے رہے اور خود آپ بھی جنات کو تبلیغ کے لئے ان کی طرف تشریف لے گئے جس کی تفصیل بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وبلتہ الجن کے قصہ میں ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝۱۰

تو کہہ میں تو یہی پکارتا ہوں اپنے رب کو اور شریک نہیں کرتا اسکا کسی کو

مع تفسیر مظہری

قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝۳۱ قُلْ إِنِّي لَنْ

تو کہہ میرے ہاتھ نہیں تمہارا بُرا اور نہ راہ پر لانا تو کہہ مجھ کو نہ

يُجِيرُنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝۳۲

بچا دے گا اللہ کے ہاتھ سے کوئی اور نہ پاؤں گا اسکے سوا کہیں سرک رہنے کو جگہ

إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتٍ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

مگر پہنچانا ہے اللہ کی طرف سے اور اسے پیغام دینے اور جو کوئی حکم نہ مانے اللہ کا اور اسکے رسول کا

فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۝۳۳ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا

سوا اسکے پتے آگ ہے دوزخ کی رہا کریں اس میں ہمیشہ یہاں تک کہ جب رکھیں

مَا يُوعَدُونَ فَيَسْعَئُونَ مِّنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ

جو ان سے وعدہ ہوا تب جان لیں گے کس کی مدد کمزور ہے اور گنتی ہیں

عَدَدًا ۝۳۴ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبٌ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ

تھوڑے تو کہہ میں نہیں جانتا کہ نزدیک ہے جس چیز کا تم سے وعدہ ہے یا کر دے

لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۝۳۵ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۝۳۶

اسکو میرا رب ایک مدت کی حد۔ جاننے والا بھید کا سونہیں خبر دیتا اپنے بھید کی کس کو

إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

مگر جو پسند کر لیا کوئی رسول تو وہ چلاتا ہے اس کے آگے

وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۝۳۷ لِيُعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ

اور پیچھے جو کیسدار تا جانے کہ انہوں نے پہنچائے پیغام اپنے

رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝۳۸

رب کے اور قابو میں رکھا ہے جو لکھے پاس ہے اور گن لی ہے ہر چیز کی گنتی



حکم اعلان توحید و اعلان برائت از شرک و فیصلہ برائے عذاب مجرمین

قال اللہ تعالیٰ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي الْحَى كُلَّ شَيْءٍ عِندَكَ
 (ربط) سورہ جن کا مضمون شروع سے معرفت توحید خداوندی اور کلام الہی پر ایمان و یقین سے متعلق تھا
 اسی کے ضمن میں کلام الہی اور ایمان و معرفت سے متاثر ہونے والے جنات کا اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی
 عبادت و بندگی کی طرف دعوت دینے اور فکر آخرت کی ترغیب اور اسکے ثابوت کرنے کے لیے دلائل و شواہد
 پر مشتمل تھا اسکے بعد اب ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ تمام عالم کے سامنے
 یہ اعلان کر دیں کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کی عبادت کروں گا اس کی عبادت والوہیت میں میں کسی کو شریک
 نہیں کرتا کیونکہ شرک و نافرمانی ایک بدترین جرم ہے اور اس جرم کا مرتکب اپنے رب کے عذاب سے کسی طرح
 بھی نہیں بچ سکتا تو ارشاد فرمایا۔

کہہ دیجیئے اسے ہمارے پیغمبر میں تو پکارتا ہوں بس اپنے رب ہی کو اور اسکے ساتھ کسی کو شریک
 نہیں کرتا نہ اسکی ذات میں نہ اسکی صفات میں نہ اسکے حقوق میں اور نہ اس کے افعال میں غرض کسی چیز
 میں بھی کسی کو اس کا شریک نہیں کرتا کہہ دیجیئے بے شک میں مالک نہیں ہوں تمہیں نقصان پہنچانے
 کا اور نہ ہی مالک ہوں اور اختیار رکھتا ہوں راہ راست پر لانے کا یہ سب کچھ اسی پروردگار وحدہ لا شریک
 کے قبضہ اور اختیار میں ہے جس کا یہ ثمرہ بھی ہے کہ اگر میں ذرا فیض رسالت انجام دینے اور اپنی ذمہ داریوں
 کو پورا کرنے میں کوئی کوتاہی کروں اور اس پر میرا خدا گرفت فرمانے لگے تو مجھے کوئی اسکی گرفت سے
 نہیں بچا سکتا اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اپنے رب کے میثامات پہنچانے میں کسی قسم
 کی کوتاہی کروں بس میرے اختیار میں تو یہی چیز ہے کہ اس کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں اپنے
 کہہ دیجیئے کوئی بھی مجھے اللہ سے نہیں بچائے گا اور ہرگز میں نہیں پاسکتا ہوں اس کے سوا کوئی ہتھکنے کی
 جگہ کہ ایک جگہ سے کسی دوسری ہی جگہ منتقل ہو جاؤں بس اس کے سوا میرا کوئی اختیار نہیں کہ یہ پیغام
 پہنچا دینا ہے اللہ کی طرف سے اور اسکے یہ احکام ہیں جن کو میں بیان کرتا ہوں اور جن کی طرف میں دعوت
 دے رہا ہوں میں اپنی ذمہ داری تو پوری کر چکا اب یہ خوب جان لو کہ جو بھی اللہ اور اسکے رسول کی نافرمانی
 کرے اس کے واسطے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور اس عذاب سے
 انکو کبھی بھی نجات نہ ملے گی یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو
 اس وقت وہ جانیں گے کہ کون کمزور ہے اپنے مددگار کے لحاظ سے اور گنتی میں کون کم ہے و تو اس وقت
 ہر ایک کو اپنی قوت و معاونین اور تعداد کا پتہ چل جائے گا اور دنیا میں وہ دعویٰ کر لے والے معزور و متکبر
 جو کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت آ بھی گئی تو ہماری بڑی طاقت ہوگی اور بڑے مددگار ہوں گے تو وہ سب

تمام امت کا اجماعی فیصدہ کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العزت ہی

توحید خداوندی ایمان کی اساس ہے اور توحید جس طرح ذات کے لحاظ سے ہے اسی طرح توحید صفات بھی ائمہ متکلمین نے جہاں شرک کے اقسام کی تحقیق و تفصیل فرمائی ہے اس میں شرک ذات کے علاوہ شرک فی الصفات شرک فی الافعال اور شرک فی المحقوق کو بھی صریح شرک قرار دیا ہے اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ جس طرح کوئی شخص ذات خداوندی کے ساتھ کسی اور کو شریک مان کر خدا کے ساتھ کسی اور معبود کا قائل ہو تو وہ شرک ہے اور خارج عن الملئ ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات اسکے افعال اور حقوق میں بھی غیر کو شریک ماننے سے شرک کا مرتکب سمجھا جانے کا مثلاً رازقیت، خالقیت صفات خداوندی میں سے اسکی صفات ہیں تو اگر غیر اللہ کو رازق و خالق سمجھا تو مشرک ہو گا اسی طرح عالم غیب بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے تو اس صفت کو بھی غیر اللہ کیلئے ثابت کرنا شرک ہو گا۔

قرآن کریم کی متعدد آیات واضح طور پر اس امر کو بیان کر رہی ہیں کہ لَا یَعْلَمُ الْغُیْبَ إِلَّا اللّٰهُ سورة العام کی تفسیر میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ علم غیب خدا کی صفت ہے اور خدا تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں یکتا ہے وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے اَمْنَتْ بِاللّٰهِ کما هو باسمائہ وصفاتہ کا یہی مفہوم ہے۔

بالخصوص اس آیت میں اس امر کو نہایت ہی وضاحت سے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ خدا کے پیغمبر نے جن احوال کی خبر دی اور بظاہر ان سے یہ گمان کیا گیا کہ یہ غیب کی خبر ہے حقیقت میں وہ غیب کا علم نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی طرف سے پیغمبر کو مطلع کیا گیا ہے اور اس پر یہ ظاہر کیا گیا اسی پیغمبر کو ان کلمات میں بیان فرمایا جا رہا ہے فَذَٰلَٰکَ یُظْهِرُ عَلَیْ غُیْبِہٖۤ اَحْکَٰمًا اِلَّا مَنۡ اِذۡنٰتِہٖۤ یَہۡ اَظْہٰرُ وَاخْبَٰرُ ہر ایک کو نہیں ہوتا بلکہ جس کو اللہ پسند کرے اس پر ہوتا ہے خواہ اس نوعیت سے کہ وہ فرشتہ ہے اور اسکے ذریعے یہ وحی اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول پر اتارنی ہے یا وہ رسول ہی ہے جس کو بتایا جائے گا تو اسکو کسی طرح بھی غیب کا علم نہیں کہا جا سکتا یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے ہم نے ان باتوں کو پیغمبر خدا کے ذریعے سے معلوم کر لیا کہ آخرت میں یہ ہو گا اس طرح جنت ہے اس طرح جہنم ہے اس طرح قیامت آئے گی و قال ظاہر ہو گا حضرت عیسیٰ بن مریم آسمان سے نزول فرمائیں گے تو یہ امور پیغمبر خدا کے بتانے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں اور ان چیزوں کو جان کر ہم علم غیب رکھنے والے نہیں ہو گئے تو اسی طرح ان باتوں کو انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے بتانے اور ظاہر کرنے سے جانتے تھے تو یا ایسی ہی جو چیزیں بھی غیب کی اللہ کے پیغمبر نے وحی الہی سے معلوم کر کے بتائیں تو وہ علم غیب نہیں بلکہ خدا نے اپنے پیغمبر پر ان کا اظہار کیا ان باتوں کی خبر دی ہے تو علم غیب تو اللہ ہی کو ہے اور اس میں سے

جو چاہا اپنے پیغمبر کو بتا دیا یہ اظہارِ غیب اور اخبارِ غیب ہوا الغرض اس آیت کو دور کا بھی کوئی واسطہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ہونے سے نہیں ہے۔

پھر یہ بات بھی اظہارِ من الشمس ہے کہ اگر بالفرض الا صحت از لفظی حدیث رسول کا استثناء اس امر پر دلالت کرتا ہے اور معنی یہ ہیں کہ عالم الغیب اللہ ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا مگر جس رسول کو اللہ چاہے وہ عالم الغیب ہو جاتا ہے تو پھر اس فرمانے کا مطلب کیا ہوگا قُلْ اِنْ اَدْرَيْتُمْ كَيْفَ يَكْتُبُ فِي سُرَّتِهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ غَيْرِ احْتِسَابٍ جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے یا ابھی اس کی مدت باقی ہے تو ایسے مفروضہ رکھنے والے سے (یعنی جو یہ دعویٰ کرنے والے سے الا صحت از لفظی حدیث کے استثناء سے وہ رسول مراد ہے جو علم غیب رکھتا ہوگا) پوچھا جائے گا کہ جب وہ رسول سستی ابھی اس استثناء کے باعث صاحب علم غیب ہو گیا اور اس وجہ سے اسکو ہا کا ن وما یکون کا علم حاصل ہو گیا تو پھر اس کا یہ اعلان کیونکر درست ہوا کہ میں نہیں جانتا الخ جس پیغمبر کو اس اعلان کا سامور فرمایا جا رہا ہو کہ وہ یہ کہہ دے میں نہیں جانتا۔

اسی کو ان الفاظ کی ناقابل تصور اور بعید از قیاس تاویلات کر کے عالم الغیب ثابت کرنا مضحکہ خیز بات ہے پھر جب کہ قرآن وحدیث کی سینکڑوں نصوص اور واقعات بڑی صراحت سے یہ ثابت کر رہے ہوں کہ خدا کے پیغمبر غیب کا علم رکھنے والے نہیں ہوتے بلکہ جس چیز کی انکو وحی کر دی گئی وہ انہوں نے بتائی ہے اور ظاہر ہے کہ اسکو علم غیب نہیں کہا جاتا تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس آیت سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غیب کا علم مانا جائے۔

علم غیب کا مفہوم اور اسکی تفصیلات سورۃ النعام میں گزر چکیں حضرت قارئین مراجعت فرمائی اور یہ تفصیل بھی گزر چکی کہ علم غیب کمالات الوہیت میں سے ہے نہ کمالات نبوت سے اس لیے پیغمبر سے علم غیب کی نشانی پیغمبر کی کوئی تنقیح نہیں بلکہ علم غیب ثابت کرنے سے بہت سے کمالات عبدیت و بندگی ختم ہو جاتے ہیں اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ اللہ کا وہ پیغمبر جس کی سب سے بڑی عظمت و بلندی یعنی ذاتہ سراج کو بیان کرتے ہوئے عبدیت بیان کی گئی جیسے ارشاد ہے سُبْحٰنَ الَّذِیْكَ اَمْ سِوٰی عِبَادِکَ وہ عبدیت ہی کے کمالات سے محروم ہوگا واللہ اعلم بالصواب

تحریر محمد اللہ تفسیر سورۃ الجن والمحمد للہ علی ذالک



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُرْسَلِ

اس سورہ مبارکہ میں خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا وہ عظیم پہلو بیان کیا جا رہا ہے جسکو قرآن کریم کی اصطلاح میں آتات الی اللہ تنزل اور انقطاع عن الخلق کی تعبیر سے ادا کیا جاسکتا ہے اور ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی طاعت و بندگی میں انسان کا ہر راحت و آرام اور طبعی تقاضوں کو قربان کر دینا اسکی یاد میں راتوں کو جاگنا تلاوت کلام اللہ کی لذت میں ایسا لطف اندوز ہونا کہ ہر جسمانی راحت سے بے نیاز ہو جائے یقیناً تعلق مع اللہ کا بلند ترین مقام ہے۔

اسی وجہ سے سورۃ کی ابتداء ہی ایک ایسی لطیف اور لذیذ نداء الہی پر مشتمل ہے جو اللہ رب العزت کی رحمت و مہربانی اور لطف و کرم اور محبت و عنایت کی پوری پوری ترجمانی کر رہی ہے اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ منزل متعین فرمایا گیا جس کے ضمن میں قیام اللیل کی عظمت اور تاثیر و برکت بھی بیان فرمادی گئی ساتھ ہی وحی الہی کی عظمت کا بھی بیان ہے اور یہ کہ اگر مشرکین مگر اللہ کی وحی پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اس کا علم نہ کریں انکی طرف سے جو رنج یا تکلیف پہنچے اس پر آپ مبرا کریں ایسے منکرین و کذبین کو خدا کی قدرت بتا دے گی کہ کامیابی اور غلبہ کن کو حاصل ہوتا ہے اور مجرمین عذاب خداوندی سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔

آیَاتُهَا ۲۰ = ۷۳ = سُورَةُ الْمُرْسَلِ مَكِّيَّةٌ = ۳ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ مزمل مکی ہے اور اس میں بیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ ۱ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۲ نِصْفَهُ أَوْ

اے جھرمٹ مارنے والے! کھڑا رہ رات کو مگر کسی رات آدمی رات یا

انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۳ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ

اس سے کم کر تھوڑا سا یا زیادہ کر اس پر اور کھول کھول پڑھ قرآن

تَرْتِيلاً ۴ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلاً ۵ اِنَّ نَاشِئَةَ

کوصاف ہم آگے ڈالیں گے تجھ پر ایک بھاری بات البتہ اُنھان رات کا

اَيُّلٍ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلاً ۶ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ

سخت روندنا ہے اور سیدھی نکلتی ہے بات البتہ تجھ کو دن میں سخت

سَبْحًا طَوِيلاً ۷ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۸

رہتا ہے بجا اور پڑھ نام اپنے رب کا اور چھوٹ جا اسکی طرف سب آگ ہو کر

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ۹

مالک مشرق اور مغرب کا اس بن کسی کی بندگی نہیں سوچو اسکو کام سونپا

وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا يَقُولُوْنَ وَاَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَبِيلاً ۱۰ وَاذْكُرْ

اور بہتارہ جو کہتے رہیں اور چھوڑ انکو بھلی طرح چھوڑنا اور

ذُرِّيٍّ وَاَلْمُكذِبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمِهْلَمٌ قَلِيلاً ۱۱ اِنَّ

چھوڑ دے مجھ کو اور مھلانے والوں کو جو آرام میں رہے ہیں اور ڈھیل انکو تھوڑی سی البتہ

لَدَيْنَا اَنْكَالٌ وَّجَحِيْمًا ۱۲ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا

ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ کا ڈھیر اور کھانا لگے میں اٹکتا اور دکھ کی

اَلِيْمًا ۱۳ يَوْمَ تَرْجَفُ الْاَرْضُ

مار جس دن کانپے زمین

وَالْجِبَالُ وَاَلْجِبَالُ وَاَلْجِبَالُ

اور پہاڑ اور ہو جاویں پہاڑ

كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۱۴

ریت بھلتی

حکم قیام اللیل و تاکید ترتیل و تحسین در تلاوت کلام اللہ تعالیٰ

قال اللہ تعالیٰ يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ الخ كَتِّبْنَا مَهْلِكًا .
 (رابطہ) گزشتہ سورت میں جنوں کا قصہ ذکر فرمایا گیا تھا وہ قرآن کریم کو سن کر کیسے اس پر فریفتہ اور
 گردیدہ ہوئے اور اس پر ایمان لائے اور ایمان و ہدایت کا رنگ ان پر اس قدر غالب آیا کہ اپنی قوم کے
 واسطے داعی اور ہادی و ناصح بن کر لوٹے اب اس سورت میں جو کہ امتداد نبوت کے زمانہ میں نازل ہوئی
 اس میں مشرکین مکہ کی بے رخی اور آپ کی شان میں توہین و گستاخی کا ذکر کر کے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے
 اور انکی ایذاؤں و زیادتیوں پر صبر کی تلقین کی جا رہی ہے۔

مشرکین مکہ آپ کو مختلف القاب سے یاد کر کے تمسخر و مذاق کرتے کوئی آپ کو کاہن کہتا۔ کوئی ساحر
 و جادوگر تو اسکے بالمقابل اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے پیارے لقب سے پکارا کہ اسکی جلالت نے
 ان تمام کفتوں اور ذہنی کوفت کا ازالہ کر دیا جو مشرکین کے بے ہودہ اور ظن و ظنر آمیز عنوانات سے
 قلب پر واقع ہوتی تھی اور جیسے بحالت رنج و غم کپڑوں میں لپیٹ کر کوئی لیتا ہو آپ بھی مشرکین کی ان
 بے ہودہ باتوں پر کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے کہ وحی الہی نازل ہوتی اور اللہ رب العزت نے آپ کو
 نہایت ہی انداز ملاحظت میں اس عنوان سے پکارا يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ کہ اے چادر میں لپٹنے والے جس طرح
 کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر سے کسی بات پر۔ رنجیدہ ہو کر باہر چلے گئے اور مسجد کے صحن
 میں زمین پر لیٹ گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کرایا کہ علی کہاں ہیں معلوم ہونے پر
 آپ قریب تشریف لائے اور شانہ پر دیکھا کہ مٹی لگی ہوئی ہے اسکو اپنے دست مبارک سے صاف
 کرتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے قسم یا ابا تراب۔ قسم یا ابا تراب اے ابو تراب یعنی مٹی میں لتھرے
 ہوتے اٹھ جا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پیار و ملاحظت کو زندگی بھر یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا
 کرتے خدا کی قسم اس لقب سے مجھ کو پکارا جانا جس قدر محبوب ہے اتنا کسی بھی نام سے مجھ کو پکارا جانا
 محبوب نہیں تو اسی طرح يَا أَيُّهَا الْمُرْتَلُّ کا عنوان اللہ رب العزت کی طرف سے اس حال میں جبکہ
 آپ رنج و غم کے عالم میں کپڑوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ بارگاہِ خداوندی سے ملاحظت و محبت کا
 پیکر اعظم سے تو فرمایا۔

اے چادر میں لپٹنے والے کھڑا رہ رات کو تہجد و عبادتِ خداوندی میں مصروف رہتے ہوئے

۴۴ اس ترجمہ میں یہ اشارہ ہے کہ إِلَّا قَلِيلًا استثناء باعتبار عدد دلیل ہے یعنی ہر رات کے لیے یہ حکم
 ہے لیکن اگر کسی رات قیام اللیل نہ ہو سکے کسی عذر و بیماری کے باعث تو کوئی حرج نہیں۔ بعض *

مگر کسی رات کہ اتفاقاً یا کسی عذر سے نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں آدھی رات قیام کریں یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ زائد کر دیں جیسا بھی طبیعت کے نشاط اور ہمت کے لحاظ سے کر سکیں اور آہستگی و حش صوت کے ساتھ ہٹھہر ٹھہر کر قرآن کی تلاوت کریں قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اسکی عظمت و ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پڑھیں۔

بے شک ہم آپ پر ڈال رہے ہیں بہت ہی وزن والا قول یعنی دجی الہی جس کی عظمت و ہیبت کا قوائے بشر نہ تحمل نہیں کر سکتے یہ تو اللہ کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے عطا کردہ قوت حاصل ہوتی ہے وہ کسی کا تحمل کر لیتا ہے جبے شک رات کی بیداری بہت ہی سخت ہے نفس کو روندنے کے لحاظ سے اور بہت ہی درست ہے بات کہنے کے لحاظ سے کہ رات کی بیداری نفس کو چونکہ نہایت شاق ہے اس لحاظ سے

مفسرین کی رائے میں قلیلاً کا استثناء باعتبار اوقات و زمان اللیل ہے جس کا بیان اور تفسیر بعد میں اس طرح کی گئی لَيْسَ لَكَ مِنَ الشَّيْءِ أَوْزَارٌ كَثِيرَةٌ ۱۲۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جو اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے بہت قیمتی اہل و عیال دار اور اپنی کیفیات و لوازم کے اعتبار سے بہت ہی بھاری اور گرانہار ہے اہل بیت میں ہے کہ نزل قرآن کے وقت آپ پر بہت گرانی اور سختی گزرتی سردی کے موسم میں بھی آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے حارث بن ہشام نے حضرت عائشہ سے بیان کیا فرماتی تھیں کہ نزل دجی کے وقت شدید سردی میں بھی آپکی پیشانی مبارک پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تو سواری برداشت نہ کر سکتی ایک مرتبہ آپکی خنجر مبارک حضرت زید بن ثابتؓ کے زانو پر رکھی ہوئی تھی اس حالت میں دجی نازل ہونے لگی تو زید بن ثابتؓ کی ران پر اس قدر بوجھ محسوس ہوا کہ ڈرے کہ کہیں ران بوجھ سے چورا چورا نہ ہو جائے ۱۲ (فوائد عثمانی)

بالعموم اہل عرب ناشتہ اللیل رات کی ساعتوں اور یکے بعد دیگرے پیش آنے والی گھریوں کو کہتے ہیں ناشتہ اور ناشتی وضع لغت کی رو سے تو پیدا ہونے والی چیز کو کہا جاتا ہے محاورات عرب میں کہتے ہیں نشأت نشاۃ اسی سے انشاء معنی پیدا کرنا ہے ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ ناشتہ اللیل رات میں رونما اور پیدا ہونے والی چیز کو کہیں گے تو انسان کا نفس بھی سونے کے بعد بیدار ہو گا تو یاد کرو وہ دوبارہ پیدا ہوا ہے اس نسبت سے ناشتہ اللیل قیام اللیل کے لیے استعمال کیا گیا ہے ابن الاعرابی کہتے ہیں اول شب سونے کے بعد بیدار ہونے کو ناشتہ اللیل کہا جلتے گا شب میں بیدار ہونے کے بعد روح پر نہیں انوار وارد ہوتے ہیں۔

”وَلَا تَرَوْا“ واؤ کے فتح کے ساتھ معنی روندنا تو اس معنی وضعی کے لحاظ سے یہ ترجمہ کیا گیا کہ بہت ہی زیادہ سخت ہے نفس کو روندنے کے لحاظ سے۔

باقی آئندہ صفحہ پر

وہ نفس کو روکنا اور کچھنا ہوا اور یہ وقت چونکہ رات کی تاریکی اور خلوت کا ہے اس لحاظ سے جو بات بھی زبان سے نکلے گی وہ ذکر و تسبیح ہو یا دعا و استغفار، اخلاص اور اللہ رب العزت کی طرف خاص توجہ اور رجوع کی کیفیت سے ہی ہوگی پھر یہ وقت اللہ رب العزت کے آسمان دنیا پر نزول کا اور اپنے بندوں کی طرف خاص عنایت و رحمت کے ساتھ توجہ کا ہوتا ہے تو روحانی برکات سے اور زائد اسکی زبان اور اسکے قول میں درستگی اور اثر پیدا ہوگا۔

بے شک آپ کے واسطے دن میں تو بڑی ہی طویل مشغولی ہے تعلیم و تبلیغ دین احکام الہی کے بتانے کی اور انکے مطابق عمل کی تلقین و تربیت پھر کسی فرد یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ پوری امت اور حملہ عالم کے اس نظام کو بتانے اور چلانے کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اور اس کا انجام دینا کوئی معمولی بات نہیں بلاشبہ یہ بہت بڑی مصروفیت ہے اور ان مصروفیات کی تکمیل کے ساتھ جو کہ اصل مقصد رسالت اور فریض نبوت ہیں اپنے رب کے ساتھ تنہائی میں مناجات عبادت و دعائیں رات کے

محاورات میں بولا جاتا ہے اشتدت علی القوم وطاء السلطان یعنی قوم پر بادشاہ کی گرفت اور تعدی بہت شدید ہوگئی ہے اس معنی کے پیش نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں یہ لفظ وارد ہوا اللہم اشد موطاءک علی مضمی یعنی اے اللہ تو اپنی گرفت قوم مضمی پر سخت کر دے توجیب انسان رات کی وہ نیند جو سب سے زیادہ مرغوب چیز ہوتی ہے قربان کرے گا تو لامحالہ نفس کو شاق ہوگا اور نفس اس طرح روندنا جائے گا اس وصف کی عظمت و خوبی کا اندازہ فرمان خداوندی تَجَّأَنِي جُنَّةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَضَاجِعِ مِمَّنْ نَحْوِي ہورہا ہے مجاہد اور ابن ابی بلینہؒ و طاء کے معنی مواطاة یعنی موافقت بیان کرتے ہیں اور اشد و طاء کے معنی کرتے ہیں اشد مواطاة اللسان بالقلب کہ رات کی بیداری زیادہ سے زیادہ قلب کے ساتھ زبان کی مطابقت کا وقت ہے اخیر شب کی بیداری اور تہجد کے فضائل کتب احادیث میں کثرت سے ذکر فرماتے گئے ہیں سب سے بڑھ کر یہ نعمت اور شرف کہ تہائی رات باقی رہنے پر اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزل فرما کر اپنے بندوں کو پکارے کہ ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والے کہ میں اسکو معاف کروں ہے کوئی رزق کا طالب کہ میں اسکو رزق دوں۔ ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ اسے عافیت دوں۔

حضرت عارفین فرماتے ہیں تہجد گزار کے جہرے پر عجیب قسم کا نور نمایاں ہوتا ہے اور یہ بھی فرمایا اسکی قبر میں کبھی اندھیرا نہ ہوگا اسکی مشکلات آسان ہونگی اور اسکو دنیا کی ہر ایک ظلمت سے نجات ملے گی خواہ وہ ظلمت معاتب و آفات کی ہو یا انکار و فتن کی ہو واللہ اعلم ۱۳

(تفسیر ابن کثیر جلد رابع، تفسیر روح البیان، تفسیر روح المعانی، تفسیر فتح المنان)

ان ہی حصوں میں ہو سکتی ہے کہ خلوت دیکھو تو کسی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر لیں اور اس طرح تہجد کے ذریعہ ریاضت اور صفا باطن کے اعلیٰ مدارج و مراتب طے فرماتے رہیں اور یاد کیجئے اپنے رب کا نام اور تسبیح و تہجد کی صورت میں اسی کا ذکر کرتے رہتے اور تمام شواغل و علالت سے منقطع ہو کر بس اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے۔

دنیا اور علالت دنیا سے منقطع ہو جانے سے انسان کو ذرہ برابر بھی یہ تصور نہ کرنا چاہیے کہ میں اس مادی دنیا میں پھر اپنی زندگی کیونکر بسر کروں گا وہ تو مشرق و مغرب اور کائنات کے ہر گوشہ کا رب ہے جسکے سوا کوئی معبود نہیں بس اسی کو اپنا کارساز بنالیں جو ہر مخلوق کو عالم میں پالتا ہے یقیناً وہ اپنے اس بندے کے سارے کام بھی سنوار دے گا بالخصوص جو بندہ دنیا سے کٹ کر اپنے رب کی طرف رخ کر چکا ہے دنیا اور اہل دنیا سے سزا موڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنا نفس کے لیے بڑا ہی دشوار کام ہے اور اس میں بڑی رکاوٹیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کے بعد پیش آئیں مشرکین مکہ بڑی دل آزار حرکتیں اور باتیں کرنے لگے تو فرمان خداوندی نے ہمت دلائی کہ اور صبر کیجئے ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ دیجئے انکو مناسب طریقہ سے نردل میں کینہ رکھتے اور نہ ہی غیظ و غضب ہو اور نہ ہی رنج و فکر بلکہ بڑی ہی خوبی اور حوصلہ کے ساتھ ان سے صرف نظر کریجئے اور جھٹلانے والے مالداروں کو میں ایسے تکذیب و تردید کرنے والے منکر مالداروں سے خود نمٹ لوں گا اور ہمت دیں انکو کچھ تھوڑی سی حق و صداقت کو جھٹلانے والے جو دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں انکی یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی یہ لوگ خدا کی گردنت اور عذاب سے نہ دنیا میں بچ سکیں نہ آخرت میں بے شک ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے اور ایسا کھانا ہے جو حلق میں پھنس جانے والا ہو اور بھی اسکے علاوہ دردناک عذاب، سانپ اور بچھو جن کے زہر سے پتھر بھی چودا چورا ہو جاتے جس کی ابتداء اس دن سے ہو جائے گی جب کہ زمین کا پینے لگے گی اور پہاڑ بھی جن کی جڑیں زلزلہ سے کانپ کر ڈھیلی ہو جائیں گی اور زمین پر گر کر وہ پہاڑ ہو جائیں گے ریت کے ٹودے جن پر قدم نہ جمتے ہوں گے۔

بلاشبہ اس وقت کے شدید عذاب کو کسی کی طاقت اس کا قبیلہ اور مال و دولت نہیں ٹلا سکے گی تو اے ہمارے پیغمبر آپ انکی بے ہودہ باتوں پر صبر کریں اور انتظار کریں اس عذاب و ذلت کا بھی جو دنیا میں ان کا فرد کے واسطے طے ہے اور آخرت کے اس عذاب کا بھی جس کی شدت اس طرح ہوگی کہ زمین اور پہاڑ بھی نرز جائیں گے۔



علیہ وسلم کی بعثت کو کفار مکہ بالکل ایسا ہی سمجھ لیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا تو اس تاریخی حقیقت سے کفار مکہ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف اپنا رسول بھیجا تھا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ایک مستقل شریعت اور کتاب لیکر مبعوث ہوئے اور اسی کے ساتھ وہ اپنے وقت سے نبی آخر الزمان کی بشارت بھی سناتے رہے پھر فرعون نے رسول خدا کی نافرمانی کی تو ہم نے پکڑ لیا اسکو بڑی ہی ذلت کی پکڑ کے ساتھ اور وہ باوجود اپنے لشکر طاقت و قوت اور مال و دولت کے بھی دریائی موجوں میں ایسی ذلت کے ساتھ غرق کر دیا گیا کہ تاریخ عالم میں اس سے زیادہ ذلت و بے بسی کی ہلاکت تصور نہیں کی جاسکتی تو جب فرعون جیسا طاقت ور رسول خدا کی نافرمانی پر ہلاک کر دیا تو بتاؤ تم کیسے بچ سکو گے اگر تم کفر کرتے رہے اس دن کے عذاب سے کہ اس کی شدت بچوں کو بوڑھا بسادے گی اور آسمان پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اس دن کی شدت سے بے شک اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے خواہ تم اس کو اپنی شقاوت و بدنہختی سے کتنا ہی بعید سمجھو۔

بے شک یہ ایک نصیحت ہے جو تمہیں تاریخی حقیقت اور عبرت ناک انجام کے ساتھ کر دی گئی ہے اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے انسان کے لئے بس یہی کافی ہے کہ اسکو نصیحت کر دی جاتے نفع و نقصان سے آگاہ کر دیا جاتے اب اس کے بعد وہ اپنی رستے اور کجھ سے جس راہ کو چاہے اختیار کر لے اگر اس نے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا تو اللہ کے فضل و کرم سے نجات و فلاح پائے گا اور اگر دیدہ و دانستہ ہدایت اور حق سے انحراف و نافرمانی کرے تو سزا اور عذاب کا عقلاً مستحق ہوگا اور اللہ رب العزت اسکی نافرمانی پر جرم بھی سزا دے وہ اس کا عدل و انصاف ہی ہوگا اس پر اعتراض عقل اور فطرت کے خلاف ہے

یہ سورۃ مبارکہ مکی زندگی کی ابتداء میں نازل ہوئی تھی جب کہ عالم اسباب میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کذا علی اسلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے صحابہ کی اس بے سرو سامانی اور تکالیف پریشانیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود ایسا اعلان کیا جاسکتا ہے کہ خدا اپنے رسول کو غالب فرماتے گا اور منکرین کو اسی طرح ہلاک و ذلیل کرے گا جس طرح کہ فرعون اور اسکی جماعت کو کیا گیا مگر تاریخ اسلام نے اللہ رب العزت کے اس فرمان و بشارت کی تصدیق و تکمیل کر دی کہ وہی منکرین بدر میں ذلیل ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ نصیب ہوئی اور تمام سرداران قریش آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکاتے ندامت اور شرم ساری کے ساتھ کھڑے معافی مانگ رہے تھے قوم قریش کی یہ ذلت و پشیمانی اور مغلوبی فرعون اور اسکی جماعت کے دریا میں غرق ہونے سے کم نہ تھی۔

الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ

لوگ تیرے ساتھ کے اور اللہ ماپتا ہے رات کو اور دن کو اس نے جانا کہ

تَحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ

تم اسکو پورا نہ کر سکو گے پھر تم پر معافی بھیجی سو پڑھو جتنا آسان ہو قرآن - جانا

أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ

کہ آگے ہوں گے تم میں کئے بیمار اور کئے اور پھرتے ملک میں

يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

دھونڈھتے اللہ کا فضل اور کئے اور لڑتے اللہ کی راہ

اللَّهُ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

میں سو پڑھو جتنا آسان اس میں سے اور کھڑی رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ

اور قرض دو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا اور جو آگے بھیجو گے اپنے واسطے

مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمُ أَجْرًا

کوئی نیکی اس کو پاؤ گے اللہ کے پاس بہتر اور ثواب میں زیادہ

وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾

اور معافی مانگو اللہ سے بے شک اللہ بخشنے والا بہرمان ہے۔

حکم تخفیف در قیام لیل و رخصت برائے ضعفا و مجاہدین

قال الله تعالى: إِنَّكَ يَكْفُرُ أَنْتَ لِقَوْمٍ إِلَى إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 (ربط گزشتہ آیات میں تہجد اور قیام لیل کا حکم اسکی تاکید اور نفیست کا بیان تھا اور اسی کے ساتھ اللہ پر

تو کل دہرور اور دنیوی مشغول پر تحمل و صبر کی تلقین تھی اب ان آیات میں تہجد کے بارہ میں اللہ رب العزت نے جو تخفیف فرمائی اس کا بیان ہے اور یہ کہ فرائض اسلام تو ہر حال میں لازم ہیں سفر و حضر ہو یا صحت و تندرستی لیکن جو عبادات تلوع اور نفل ہیں ان میں اللہ رب العزت نے مریضوں مسافروں مجاہدوں اور ضعیفوں کے لیے رخصت و سہولت رکھی ہے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے رہتے ہیں تہجد اور عبادت خداوندی میں قریب رات کے دو تہائی حصے کے اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات اور آپ کے ساتھ ایک گروہ ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں اسی طرح آپ کا اور آپ کے اصحاب کا شوق و جذبہ قیام اللیل اور صلوة تہجد کا، اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے اصحاب کبھی آدھی رات کے قریب اٹھ جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی قبل حتیٰ کہ دو تہائی حصے بیداری میں گذرتا ہے اور کبھی سفر و مرض اور مسہر و نیت کی وجہ سے ایک تہائی حصہ اور یہ سب احوال درحقیقت قَمِ الْيَتِيمَ إِلَّا لِيُؤْتِيَهُ مِنْ كَثْرَةٍ وَسِعَ الْمِقْدَارَ أَمْلَسَ لَدُنَّكَ الْعُيُونَ أَمْ يَحْتَسِبُ أَنْ يُدْعَىٰ عَلَيْهِ فَيَعْمَلَ فِيهَا مِثْلَ طِفْلٍِ لَا بَلْ أَعْيَتِ الْغُيُوبَ إِنَّ رَبَّكَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

اور ظاہر ہے اللہ ہی ٹھیک ٹھیک اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا یا اس اندازہ کے لحاظ سے وقت عبادت میں گذرا یا یہ کہ ان مکروں میں کیسے آثار و برکات ہیں اور وہ عابدین و ذاکرین کو کس حد تک مل رہے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بطور فرض اس پر عمل پیرا رہے اور اسکی پابندی میں جو بھی جسمانی مشقت ہوتی برداشت کرتے رہے تا آنکہ اللہ رب العزت نے ایک سال بعد حکم تخفیف نازل فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا خدا نے جان لیا ہے کہ تم اس کا احاطہ اور عمل پابندی

نہیں کر سکتے ہو اس سہولت کے ساتھ جو اللہ نے اپنے دین میں رکھنے کا ارادہ فرمایا ہے اور کبھی نہ کبھی سابق زمانہ میں کسی سے اس حد اور مقدار کے نباہ ہو سکنے کے باعث کوتاہی بھی ہوتی ہوگی تو اللہ نے تم پر مہربانی کی اور درگزر فرمایا لہذا اب تمہاری راحت اور سہولت کے پیش نظر حکم ہے پڑھ لیا کر دو جو کچھ تم کو قرآن میں سے آسان ہو اور یہ پابندی تم سے اس لیے ہٹا دی گئی کہ خدا کو معلوم ہے تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کیونکہ ہر انسان ہمیشہ تندرست نہیں رہتا اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل اور اسکی رحمت و رزق تلاش کرتے ہوئے تجارت کے لیے حصول علم کے لیے مختلف علاقوں کا سفر کرنا ہوگا کچھ ہجرت کریں گے کچھ روحانی تربیت کے لیے اولیاء و صالحین کے پاس جائیں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کی راہ میں قتال کریں گے اور جہاد کے لیے ان کو مشرق و مغرب کا سفر کرنا ہوگا اس لیے اب حکم یہی ہے کہ پڑھ لیا کر دو جس قدر بھی قرآن میں سے آسانی سے پڑھ سکو اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں اور البتہ فرض نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور فرض دیتے رہو اللہ کو قرص حسد اور اس کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے جس کا وہ تمکو بہترین بدلہ دے گا

اور اس طرح تمہارا دیا ہوا تمہیں واپس مل جائے گا اور بڑی ہی برکت اجر و ثواب اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ اور یہ بات خوب جان لو جو بھی کچھ تم نیکی کا کام اپنے سے پہلے بھیجو گے یقیناً تم اسکو اللہ کے یہاں پاؤ گے کیونکہ وہ تو بہت ہی بہتر اور عظیم اجر و ثواب عطا کرنے والے ہیں اور انسان اپنی طبعی کمزوریوں سے بہت کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں کر لیتا ہے تو اللہ سے معافی مانگتے رہو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے اسکی بارگاہ میں اہل ایمان کے استغفار و توبہ کی بڑی قدر و منزلت ہے

فرضیت تہجد اور ایک سال بعد تخفیف کا حکم

سورۃ مزمل کی ان آیات کے ذریعہ ابتداً اسلام میں تہجد کو فرض کیا گیا تھا اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ فرضیت آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سب کے حق میں تھی ایک سال تک اسی طرح اس پر عمل ہوتا رہتا تا آنکہ ایک سال گزرنے پر اس سورۃ کا آخری حصہ عَلِمَ اَنْتَ مَسِيكُونَ وَمِنْكُمْ مَسْرُوعِي الْخ سے فرضیت منسوخ کر کے نفل کر دیا گیا۔

ائمہ مفسرین میں سے مقاتلؒ اور ابن کثیرؒ سے منقول ہے کہ تہجد کو مکی زندگی میں سورۃ مزمل کے نازل ہونے پر فرض کر دیا گیا تھا اور وہ زمانہ پنجگانہ نمازوں کی فرضیت سے قبل تھا (جیسا کہ ظاہر ہے) پھر بعد میں فرضیت منسوخ کر دی گئی البتہ بطور تطوع اور نفل کے اس کی فرضیت قائم و برقرار رہی۔

امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے حدیث جابر بن عبد اللہؓ میں اور امام ابو داؤدؒ احمد بن حنبلؒ

امام بخاریؒ نے اعمش بن ابراہیم حارث بن سوید کی روایت ذکر کی ہے کہ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ایکم مالہ احب الیہ من مال وارثہ قالوا یا رسول اللہ ما متا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ (الخ)

بتاؤ تم سے کون شخص ایسا ہے جسکو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہو لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی ہے کہ اس کو

اپنا مال بہ نسبت اپنے وارث کے مال کے نامد محبوب ہے آپ نے ذرا سوچ کر کہنے کو فرمایا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو یہی جانتے ہیں آپ نے فرمایا سن لو ہر شخص کا اپنا مال وہ ہے جو اس نے پہلے بھیج دیا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور وارث کا مال وہ ہے جو چھوڑ کر مر گیا آیت مبارکہ میں قرض کا عنوان اللہ کی راہ میں خرچ کی عزت و کرامت پر نہایت واضح طور پر دلالت کر رہا ہے اور یہی وہ عنوان کرامت ہے جو اس آیت میں اختیار کیا گیا ہے۔

اور نسائی دغیرہ نے سعد بن ہشام سے روایت کیا ہے بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے ام المؤمنین آپ مجھے خلیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں ارشاد فرمائیے کہ کیا تھا؟ فرمایا کیا تم قرآن کریم نہیں پڑھتے ہو عرض کیا جی ہاں فرمایا کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق مبارک (یعنی اسوہ اور عادت) قرآن تھا بیان کرتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اٹھ کر واپس چلا جاؤں کیونکہ اس جواب کی جامعیت کے بعد مزید کچھ سوال کی گنجائش ہی نہ رہی تھی اور یہی سوچا کہ اب آئندہ کس سے بھی دریافت نہیں کروں گا جب تک میں زندہ رہوں لیکن پھر خیال آیا کہ خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام لیل کے بارہ میں دریافت کروں تو عرض کیا اے ام المؤمنین ارشاد فرمائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے بارہ میں تو فرمایا کہ کیا تم سورۃ یٰٰسَیِّئَاتُ الْمُزْتَمِلِ نہیں پڑھتے عرض کیا جی ہاں! فرمایا تو بس سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدائی آیات سے قیام لیل فرض کیا تھا جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سال تک قیام لیل کرتے رہے (پوری پابندی کے ساتھ اور اس طرح کہ لازم سمجھتے تھے) اور اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخری حصہ کو بارہ ہینہ تک آسمانوں میں روک رکھا تا آنکہ سورت کے آخری حصہ یعنی اِنَّ رَبَّكَ يَكْتُمُكَ اَنْتَ تَقُوْمُ كُوْنَا زِلْ كُوْنَا تَحْفِيْفُ فَرَا دَىْ اُوْرٍ پھر اس کے بعد قیام لیل نفل کر دیا گیا۔

بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ فرضیت کا نسخ عام صحابہ کے حق میں ہوا آپ کے حق میں فرضیت بدستور باقی رہی غالباً انکی نظر اس آیت پر ہوگی **وَمِنَ الْاٰیٰتِ الَّتِي فَتَحَجَّدُ بِهَا مَا وَكَلَتْ لَكَ** اور نافلہ کے معنی زائدہ کیے گئے اور مفہوم یہ ہوا کہ صیغہ امر سے آپ کو تہجد کی پابندی کا خطاب اور حکم فرمایا جا رہا ہے اور تہجد کی اس پابندی کو یہ فرمایا گیا کہ یہ آپ کے حق میں خاص ہے اور اسکی فرضیت مفروضہ نمازوں سے زائد کی گئی نہ کہ دوسروں کے حق میں۔ دوسروں کے حق میں تو یہ تطوع و نفل کر دی گئی ہے لیکن یہ بات اس وجہ سے قابل تامل ہے کہ یہ حکم ناسخ جب نازل ہوا تو اس وقت پنجگانہ نمازوں کی فرضیت کا حکم نہیں اترتا تھا علامہ آلوسی کا رجحان بھی اسی طرف معلوم ہوتا ہے جو جمہور محدثین و مفسرین کی راستے ہے بعض مفسرین کے کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء سورت سے قیام لیل کی فرضیت ہر ایک کے حق میں نہ تھی فرضیت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی ان کا مطمح نظر بظاہر یہ ہے کہ آیت ناسخہ میں یہ جو فرمایا گیا **فَاَنَّفَتْ مَعَكَ** اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ میں سے ایک گروہ کا یہ معمول ہوا اگر قیام لیل سب پر فرض ہوتا تو یہ فرمایا جاتا **الَّذِيْنَ مَعَكَ** لیکن یہ عذوان اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ممکن ہے بلکہ متوقع ہے کہ آپ کے ساتھ چند صحابہ بھی قیام لیل کرتے ہوں گے باقی جملہ صحابہ اپنی جگہوں مکانوں میں کرتے ہوں گے تو اس لحاظ سے **فَاَنَّفَتْ مَعَكَ** فرمایا۔

فائدہ سورۃ مزمل مکی ہے جیسا کہ معلوم ہے اور زکوٰۃ کا حکم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسلمہ میں نازل ہوا تو اس صورت میں اَقِمُوا الصَّلَاةَ کے ساتھ حکم - وَالنَّوَالَ زَكَاةً نَّازِلٌ ہوا علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اجمالاً نفسِ فرضیت کا حکم تو مکہ مکرمہ میں نازل ہو گیا تھا نصاب کی تعیین اور تفصیل مدینہ میں نازل ہوئی اس لحاظ سے حکم زکوٰۃ کی فرضیت مدنی زندگی میں بیان کی جاتی ہے۔

نمازوں میں مطلق قرآن کی فرضیت

علامہ آلوسیؒ تفسیر روح المعانی میں بیان کرتے ہیں آیت مزمل فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ سے حضرات حنفیہ یہ استدلال کرتے ہیں نماز میں فرضیت مطلق قرآن کی ہے جو کچھ آسان ہو خاص طور پر سورۃ فاتحہ فرض نہیں کیونکہ نص کتاب اللہ یا حدیث متواتر سے فرضیت درکنیت ثابت ہوتی ہے تو جس طرح اَرَكُوا ذَا الْجُدِّ وَالْأَبْنَاءِ کے کلمات قرآن کریم کی آیات میں رکوع و سجود کی رکینیت ثابت کر رہے ہیں اسی طرح فَأَقْرءُوا مَا تَيَسَّرَ کی تعبیر نفسِ قرأت کی فرضیت درکنیت ثابت کرتی ہے۔ امام شافعیؒ امام مالکؒ رکینیت و فرضیت فاتحہ کے قائل ہیں حدیث عبادۃ بن الصامت لاصلوٰۃ لمن لم یقرء بغائتہ الكتاب الخ اور حدیث ابی ہریرۃ من صلی صلوٰۃ لم یقرء فیہا بام القرآن قلبی خراج۔

حضرات حنفیہ کی طرف سے لکھے متعدد جوابات اور بیان کردہ مسئلہ کے لیے متعدد دلائل بیان کیے ہیں جن کی تفصیلات شرح فقہ میں مذکور ہیں اصولی طور پر یہ بات واضح ہے جیسا کہ قاضی ابو بکر جصاصؒ نے احکام القرآن میں بیان فرمایا مائیسر میں حکم عموم اور اطلاق کے ساتھ ہے اسکو مخصوص کرنا خبر واحد کے دلیلیہ سے اصولاً درست نہیں ہے اور یہ قرار دینا کہ مائیسر میں اجمال ہے اور اسکی توضیح خبر واحد سے ہوتی صحیح نہیں ہے دلالت عربیہ سے یہ عنوان اطلاق ہی کا ہے۔

خبر واحد کو تفسیر دہاں قرار دیا جاسکتا ہے جہاں تعبیر میں ازروئے وضع لغت ابہام ہو اور اس طرح اس پر عمل ممکن نہ ہو اور ظاہر ہے کہ یہاں یہ صورت نہیں بلکہ بہت ممکن ہے کہ بعض صورتوں میں تو حدیث لاصلوٰۃ کو مائیسر کی تفسیر قرار دینے میں خود نفسِ مائیسر کا ابطال لازم آجاتے ہیں صورت کہ ایک شخص کو سورۃ فاتحہ کی سات آیات کی تلاوت دشوار ہو اور ممکن نہ ہو اسکے بالمقابل قرآن کی اور کوئی آیت آسان اور ممکن ہو تو ایسی صورت میں لا محالہ یہ لازم آتے گا کہ مائیسر سے ہم فرضیت ہونے کے قائل نہ ہوں اور مائیسر کی تفسیر کے دوسری آیات آسان اور ممکن التلاوت ہونے کے باوجود سورۃ فاتحہ کی قرآن کا اسکو مائیسر سمجھیں اس وجہ سے

حنفیہ نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ نفس قرآۃ ما تیسرے رکن اور فرض ہے قرآۃ فاتحہ رکن نہیں علاوہ ازیں یہ بھی اصولی امر ہے کہ خبر واحد سے فریضت ثابت نہیں ہو سکتی البتہ وجوب کی حد تک خبر واحد سے ثبوت ممکن ہے۔
تفصیل کیلئے مشروع حدیث و مشروع فقہ کی مراجعت فرمائی جائے نیز یہ مسئلہ اور بحث نفس قرآۃ فی الصلوٰۃ سے متعلق ہے نہ کہ قرآۃ فاتحہ خلف الامام کے مسئلے سے متعلق اسکے لیے آیت **وَإِذَا قُورِئَ الْقُرْآنُ** کی تفسیر میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اصولی دلائل بیان فرمادیئے ہیں وہاں تفصیل ملاحظہ فرمائی جائے
الحمد للہ قد تم تفسیر مسودۃ المزیل۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمَدَّثَرِ

اس سورت میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی عظمت و برتری کا ذکر کرتے ہوئے دعوتِ اسلام اور پیغامِ توحید کے لیے مستعد و کمر بستہ ہونے کا حکم فرمایا گیا ہے وہ پہلی سورت یا آیات ہیں جو افسوساً **بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ** کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئیں انہی آیات کے نزول پر آپ کے دور رسالت کا آغاز ہوا جبکہ اس سے قبل آپ موحی الہیہ اور نبی کی حیثیت میں تھے۔

غار حرا میں ابتداء وحی اور بعثت کے بعد ایک مدت ایسی گزری جس میں کوئی وحی نہیں اتری آپ مستظر و مشتاق رہتے اور کبھی کبھی شدتِ شوق و انتظار میں مکہ کی آبادی سے باہر بھی نکل جاتے تا آنکہ ایک دفعہ آپ نے آوازیں سنیں کہ کوئی آپ کو پکار رہا ہے آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا پھر سر بلند فرمایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا ایک کرسی پر ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اس نے آسمان کا کنارہ گھیر رکھا ہے اسکو دیکھ کر آپ پر رعب طاری ہوا جیسے غار حرا میں نزول وحی سے ہیبت و کپکپی آپ پر طاری ہوتی تھی اسی طرح اس مرتبہ بھی پیش آئی اور آپ گھر واپس آ کر فرماتے لگے دثرونی دثرونی۔ مجھے چادر اوڑھا دو مجھے چادر اوڑھا دو اسی حالت میں یہ آیات نازل ہوئیں **يَا أَيُّهَا الْمَدَّثَرُ أَتَمَّ كَأَنْذِرُ**۔

نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کے لیے کمر بستہ ہونے کے حکم کے ساتھ چند اور بنیادی اصول بھی اس سورت مبارکہ میں بیان فرماتے گئے صبر و استقامت اور حلم و درگزر کی ہدایت فرمائی گئی اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ مجرمین اس دھوکہ میں نہ رہیں کہ ان کے جرم پر ان کو کوئی بکڑنے والا نہیں ہے یقیناً انکو اپنے اس

بے ہودہ کردار اور کفر و نافرمانی کی سزا عکسنتی بڑے گی اور اہل ایمان و طاعت خدا کے اعانت سے سرفراز کیے جائیں گے غرض اسی طرح کے مضامین کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت و حقانیت کو بھی بیان فرمایا گیا۔ جن حضرات سے یہ منقول ہے کہ سورۃ مدثر اول ما نزل فی القرآن ہے انکی نظر جابر رضی اللہ عنہ کی اس روایت پر ہے جس میں اس طرح بیان فرمایا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فترت وحی یعنی غار حرا میں اقرار نازل ہونے کے بعد جو ایک مدت تقریباً پونے تین سال انقطاع وحی کی گزری اسکے بعد سب سے پہلے آیاتھا المدثر نازل ہونے والی آیات بیان کی ہیں چنانچہ امام بخاری نے باب ید الوحا میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس مجمل روایت کی وضاحت کر دی جس سے سورۃ مدثر کی اولیت نزول کا گمان کیا گیا اور یہ اس طرح واضح فرمادیا کہ وهو یحدث عن فترۃ الوحی کہ جابر رضی اللہ عنہ فترت وحی کا قصہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اسکے بعد جو آیات سب سے پہلے اتریں اور پھر نزول وحی کا سلسلہ پے در پے اور مسلسل جاری ہوا وہ یہ آیات ہیں لہذا اب اس بات کی گنجائش نہ رہی کہ یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ سب سے پہلے اقرار نازل ہوتی یا آیاتھا المدثر اور یہی کہا جائے گا کہ یہ امر اجماعی اور متفق علیہ ہے کہ سب سے پہلے وحی غار حرا میں افسراً باسم ربک الذی خلق کی ابتدائی پانچ آیات ہیں اور پھر فترت وحی کے بعد سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات آیاتھا المدثر ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی کو روایت کر رہے ہیں۔

آیاتھا ۵۶ = سورۃ المدثر مکیہ ۴۲ = فیہا رکوعان

سورۃ مدثر مکی ہے اور اس میں پچھتین آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا بہرمان نہایت رحم والا۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ ۲ وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ۳ وَثِيَابَكَ

اے لحاف میں لپٹے! کھڑا ہو پھر ڈرنا اور اپنے رب کی بڑائی بول اور اپنے کپڑے

فَطَهِّرْ ۴ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۵ وَلَا تَمَنَّ أَنْ تَمُنَّ تَسْتَكْبِرُ ۶ وَلِرَبِّكَ

پاک رکھ اور کتھڑے کو چھوڑ دے اور نہ کہہ کہ احسان کرے اور بہت چاہے اور اپنے رب کی

فَاصْبِرْ ۷ فَإِذَا نَقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ۸ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ

راہ دیکھ پھر جب کھڑکھڑائے وہ کھوکھرا پھر وہ اس دن مشکل دن

عَسِيرٌ ۹ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۱۰ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ

ہے مسکروں پر نہیں آسان چھوڑ دے مجھ کو اور اسکو جو میں

وَحِيْدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۱۲ وَبَيْنَ شٰهُوْدًا ۱۳

نے بنایا اگلا اور دیا اسکو مال پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے

وَمَهْدَتْ لَهُ تَسْهِيْدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۱۵ كَلَّا اِنَّهٗ

اور تیار کر دی اسکو خوب تیاری پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور دوں کوئی نہیں

كَانَ لِاٰتِيْنَا عِنِيْدًا ۱۶ سَا رَهِيْقَهُ صَعُوْدًا ۱۷ اِنَّهٗ فَكَّرُوْ

وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف اب اس سے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی اس نے سوچ کیا اور

قَدَّرَ ۱۸ فَقِيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۱۹ ثُمَّ قِيْلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰ ثُمَّ

دل میں ٹھہرایا سو مارا جاتیو! کیسا ٹھہرایا؟ پھر مارا جاتیو کیسا ٹھہرایا؟ پھر

نَظَرَ ۲۱ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳ فَكَانَ

نگاہ کی پھر ستوری چڑھائی اور منہ تھمھایا پھر پیٹھ دی اور غرور کیا پھر بولا

اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُؤْتٰرُهٗ ۲۴ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵

اور نہیں یہ جادو ہے چلا آتا اور نہیں یہ کہا ہے آدمی کا

سَا صِلِيْهِ سَقْرًا ۲۶ وَمَا اَدْرٰكُ مَا سَقَرُ ۲۷ لَا تَبْقٰى وَلَا

اب اسکو ڈالوں گا آگ میں اور تو کیا بوجھا کیسی ہے وہ آگ؟ نہ باقی رکھے اور نہ

تَذَرُ ۲۸ لَوْ اَحٰةٌ لِّلْبَشَرِ ۲۹ عَلَيْهِمْ تِسْعَةٌ عَشْرًا ۳۰ وَمَا جَعَلْنَا

چھوڑے نظر آتی ہے پندرہ سو اس پر ستر ہیں انیس شخص اور ہم نے جو رکھے

اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلَائِكَةً ۳۱ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً

ہیں دوزخ پر لوگ اور نہیں فرشتے ہیں اور ان کی جو گنتی رکھی سو جانچنے کو

لِلَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَتِيقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزِدَادُ

منکروں کے تائین کریں جن کو ملی ہے کتاب اور بڑھے

الَّذِينَ آمَنُوا إِيْمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

ایمانداروں کو ایمان اور دھوکہ نہ کھا دیں جن کو ملی ہے کتاب

وَالْمُؤْمِنُونَ لَا يَقُولُ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ

اور مسلمان اور تاکہیں جن کے دل میں روگ ہے اور

الْكُفْرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ

منکر کیا غرض تھی اللہ کو اس کھادت سے بولوں بچلاتا ہے اللہ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ

جس کو چاہے اور راہ دیتا ہے جس کو چاہے اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کے لشکر

إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝

مگر وہی آپ اور وہ تو سمجھوتی ہے لوگوں کے واسطے

حکم اعلان توحید و رسالت سید المرسلین ﷺ

و تمہید و مذمت بر اعراض مجربین

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ إلى إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ

(ربط) سورۃ سزمل کے آخر میں بالخصوص احکام خداوندی کی اطاعت کا حکم فرمایا گیا تھا اور یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان نمازیں قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور حق تعالیٰ کی راہ میں انفاق و ایثار سے کبھی بھی گریز نہ کریں یہ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک قرض حسن ہے جو بڑی ہی برکتوں اور زیادتی کے ساتھ قرض دینے والوں کو واپس ملے گا اور دارِ آخرت کے واسطے بہترین ذخیرہ ہے جو دنیاوی زندگی میں ہی آخرت کے لیے ہینا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند عالم اپنے بندوں کے اعمال پر بہترین اجر و ثواب عطا فرمانے

واللہ ہے ان تمام مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور انکو جامع شریعت اور کامل ہدایت سے نوازا تو اس مناسبت سے حق تعالیٰ شانہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کیلئے خطاب فرما رہے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ اے چادر میں پٹنے والے کھڑے ہو جاتے اور پوری استعدادی و سرگرمیوں کے ساتھ منصب رسالت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے پھر لوگوں کو ڈراتے عذابِ آخرت سے اگر وہ خالق کائنات اور رب العالمین پر ایمان لاتے اور اسکی اطاعت و فرماں برداری نہیں کی۔ اور اپنے رب کی کبریائی و عظمت بیان کرتے رہتے تاکہ خداوند عالم کی عظمت و شوکت کو سن کر اور اس کو سمجھ کر منکرین و مشرکین اس کی توحید کی طرف متل ہو سکیں اور یہ سمجھ لیں کہ شرک و بت پرستی کی وجہ سے جو عذاب خداوندی واقع ہو گا یہ ہمارے بت اسکو دفع نہ کر سکیں گے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھتے اور جب کہ کپڑوں کو بھی نجاست سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے تو لا محالہ بدن اور اجزا بدن کو بھی ہر طرح کی ظاہری اور معنوی عملی اور حسنی گندگی سے پاک رکھنا چاہیے اور جب بدن کو بھی ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا لازم ہے تو بلاشبہ قلب پر بھی ادنیٰ درجہ کی گندگی عقائد باطلہ اور اخلاق ذمیرہ نیز کفر و شرک کی ہرگز نہ ہونی چاہیے اور جو حکم آپ کو کپڑوں کی پاکی کا دیا جا رہا ہے اس حکم سے اور اس کے نتائج و لوازم سے اے ہمارے پیغمبر دوسروں کو بھی آگاہ کر دیجیئے۔

اور گندگی سے دور رہیے اور سب سے بڑی گندگی شرک و بت پرستی ہے تو اس سے بھی بدستور اجتناب کیجیئے جیسے کہ آپ اب تک اس سے دور اور محفوظ ہیں۔

اور احسان نہ کیجیئے اس لیے کہ آپ اسکے ذریعہ بدلہ زائد چاہیں کیونکہ انسان طبعی کمزوری یا مال و منال کی حرص کے باعث بسا اوقات احسان اس توقع یا تصور پر کرتا ہے کہ مجھے اس کا بدلہ زائد ملے گا تو آپ اس طرح کے تصور سے بھی اپنے قلب کو پاک رکھیے اور اپنے رب ہی کے لیے اس کے دینے ہوتے پر

۱۱۔ لباس سے بطور کنایہ حالت اور طرز زندگی بھی مراد لیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے کپڑوں اور لباس کی پاکی کا حکم گویا طرز زندگی اور اعمال و اخلاق کی پاکی اختیار کرنے کا حکم ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَ لَبِسْتُمْ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ ہر عملی حالت گویا بیکر لباس ہے ۱۲۔

۱۳۔ مراد یہ ہے کہ یہ امر کے صیغے انشاء امر کیلئے نہیں بلکہ دوام کے لیے ہیں یعنی مطلوب ان چیزوں کا دوام ہے۔

حضرت شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ الہند ان آیات کے ترجمہ میں اس طرح کے الفاظ کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور اسکے خلاف انشاء امر کے طور پر یہ ترجمہ کپڑے پاک کیجیئے سورہ ادنیٰ شمار فرماتے تھے۔

بس صابر رہتے صبر و شکر اور تقاضا میں انسانی کمالات میں عظیم تر وصف ہے ان پر آپ قائم رہتے۔
 دعوت و تبلیغ کی راہ میں شدا تہ پیش آتی ہے ہیں تو ان چیزوں کو اللہ کے لئے صبر و تحمل سے برداشت
 کرتے رہیں پھر جب آواز ہوگی ایک کھوکھری چیز میں اور مورچھو نکا جائے گا جس پر قیامت برپا ہوگی تو یہ
 دن بہت ہی دشوار ہوگا کافروں پر کسی طرح بھی آسان نہ ہوگا بلکہ اسکی دشواری بڑھتی ہی جلتے گی چہ جائیکہ
 اس میں کسی طرح کی سہولت اور آسانی ہو اس لئے اسے ہمارے پیغمبر آپ اپنے کام میں صبر و استقامت سے
 لگے رہتے اور مکرین و مخالفین کی عداوت اور سازشوں کی قطعاً فکر نہ کریں۔

پس چھوڑ دیجیئے مجھ کو اور اسکو جسے میں نے پیدا کیا ہے تنہا کہ جس کے ساتھ میدان نش کے وقت کوئی بھی
 چیز نہ تھی ہر انسان مال کے پیٹ سے اسی طرح پیدا ہوتا ہے کہ مال و اولاد لشکر و سامان کچھ بھی وہ ساتھ
 نہیں لاتا یہ جو کچھ دنیا میں انسان کو ملتا ہے وہ خدا کی عطا اور بخشش ہے اس پر مغرور ہونا اسکو زیب
 نہیں دیتا چنانچہ ایسے انسان کہ ہم نے یہ سب کچھ نعمتیں عطا کیں اور بنا دیا اسکے واسطے پھیلا ہوا مال اور
 دے دیتے ہیں اسکو بیٹے جو مجلس میں حاضر رہنے والے ہوتے اور جمادی اسکے واسطے ایک سند عزت دریاست

۴ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ان آیات میں ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے اکلوتے باپ
 کا اکلونا بیٹا تھا مال و دولت اور ذمہ داری عزت و جاہ میں ولید اور بیکتا شمار ہوتا تھا قریش مکہ اسکو وحید اور
 ریحانۃ القریش کہا کرتے ذمہ داری نعم کی کوئی کمی نہ تھی تجارت اور زمین و باغات کی آمدنی کی حد نہ تھی طائف
 میں اس کا بہت بڑا باغ تھا جسکے پھل موسم گوا اور سمرماہ ہمیشہ رہتے تھے دس بیٹے تھے جو ہمیشہ باپ کے
 سامنے رہتے اور اسکی توقیر و تعظیم بڑھاتے رہتے۔

تو اس بد نعت نے اللہ کے انعامات کو ناشکری اور غرور و تکبر میں بدل ڈالا کبھی شکر کی تو کیا توفیق
 ہوتی شرک اور بت پرستی میں منہمک رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور
 دشمنی زیادہ سے زیادہ کرنے لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت قیامت اور ہمیشہ کا ذکر
 فرماتے تو یہ کہتا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو اور قیامت آئے گی تو وہاں بھی مجھے اسی طرح
 مال و اولاد اور نعمتیں ملیں گی۔

مفسرین فرماتے ہیں قریش مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید و
 ایمان بگروہ قبولیت حاصل کرتی جا رہی ہے تو انہوں نے ولید کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ بتاؤ محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کس طرح بے اثر کی جائے اس پر ولید نے مشورہ دیا کہ آپ کو ساحر
 (جادوگر) کہو چنانچہ خود ہی مکہ کی ہر گلی کوچہ میں یہی کہتا پھرتا کہ محمد تو ساحر جادوگر ہے تو اسکے
 رد میں یہ آیات نازل ہوئیں ولید کی تحقیر و تذلیل سورۃ ن میں حَلَّافٍ مَّهْدِیِّنٍ هَآؤُا مَشَآءٍ
 یَنْصَبِمْ جیسے کلمات سے فرماتی ہے۔

کی خوب اچھی طرح جمادینا پھر بھی وہ اپنی طبعی حرص و دلاچ کے باعث طبع کرتا ہے کہ میں اسکو اور بھی دو ننگا عزت و سر بلندی حتیٰ کہ وہ یہ بھی جرأت کرنے لگا کہ آخرت میں بھی اسکو یہ سب کچھ مل جائے گا جو دنیا میں ملا ہوا ہے خبردار! ہرگز ایسا نہیں آخرت میں تو کیا وہ تو دنیا میں بھی دیکھ لے گا کہ کیسا ذلیل خوار ہوتا ہے ایسے کہ وہ تو ہماری آیتوں کا بڑا ہی مخالف ہے اور بغض و عناد رکھنے والا ہے۔

اب عنقریب میں اسکو چڑھاؤں گا بڑی ہی دشوار چڑھائی پر ذلت و معاتب اور سخت ترین دشواریاں جو پہاڑ کی طرح دشوار گزار ہوں گی اور وہ مشقتیں اور دشواریاں اس سے جھیلی نہ جائیں گی جیسے کہ کوئی انسان کسی دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چڑھ سکتا مگر افسوس شقاوت اور بدنہی کی مدد ہوگی اس نے کچھ سوچا پھر دل میں کچھ ٹھہرایا سو یہ بدنہت ہلاک ہو کہ اس نے کیسی بے ہودہ بات دل میں ٹھہرائی پھر ہلاک و غارت ہو کیسی بات اس نے ٹھہرائی جب کہ اہل قریش نے اس سے کہا آخر کوئی بات تو بتا کہ ہم کس طرح لوگوں کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے بھٹکائیں تو اس نے بڑے ہی انداز تندر و تفکر سے کچھ سوچا اور پھر دل میں کچھ طے کر کے کہا تھا کہ بس یہ کہو کہ محمد ساحر ہیں اور یہ کلام بھی جو سنتے ہیں سحر ہے تو اس نے پھر ایک نگاہ ڈالی اپنی جماعت پر جیسا کہ عیار لوگ جب اپنی مکاری کے حال میں لوگوں کو پھانسا چاہیں تو دیکھا کرتے ہیں اور نظریں گھمایا کرتے ہیں۔

پھر منہ بنایا تیوری چڑھائی اور ایسا منہ بنایا جیسے کسی ناگوار چیز سے انسان اظہار کراہت کے لئے منہ بناتا ہو پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا اور ایسے انداز یعنی اظہار نفرت و کراہت اور غرور و تکبر کو اختیار کرتے ہوئے پھر بولا بس یہ تو اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایک جادو ہے جو نقل در نقل اور نسل بعد نسل چلا آتا ہے پہلے بھی اسی طرح جادو گرتھے اور اب یہ بھی اسی قسم کا جادو اس کلام کی شکل میں پیش کر رہے ہیں یہ کچھ نہیں سواتے اسکے کہ ایک آدمی کا کہا ہوا ہے نہ کہ وحی اور خدا کا کلام پروردگار عالم اس مکار و عیار اور بدنہت کی یہ باتیں نقل کر کے فرما رہا ہے اچھا میں عنقریب ہی اس بدنہت کو گھسیٹ کر ڈالوں گا جہنم کی آگ میں اور اسکے سارے عناد تکبر اور غرور کا منہ چکھنا دوں گا اور اسے مخاطب کیا تو جانتا بھی ہے کہ کس آگ ہے وہ ؟ وہ آگ ایسی ہے نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی بلکہ دوزخیوں کی ہر چیز کو جلاتے گی اور کوئی بھی حصہ جلنے سے بچ نہ سکے گا اور پھر اس حالت پر کہ وہ جل بھن گئے ہوں باقی نہ چھوڑے گی بلکہ دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیا جاتے گا تاکہ پھر جلیں اور جلنے کی اذیت کا مزہ چکھتے رہیں جیسے کہ سورۃ نسا میں فرمایا گیا "كُلَّمَا نَفِثَتْ جُلُودُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ جُلُودًا غَيْرًا لِّهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ"

۷۴ روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد فوراً یہ بدنہت یعنی ولید بن سفیرہ طرح طرح کی مصیبتوں اور دشواریوں میں مبتلا ہو گیا پے در پے مالی نقصانات پیش آتے رہے تجارت برباد ہو گئی باغات ضائع ہو گئے آخر فقیر ہو کر ذلت کے ساتھ مرا۔ ۱۲ فوائد عثمانی

یہ آگ جھلسنے والی ہوگی بدن کی کھال جس سے انکے جلیئے ہی بگڑ جائیں گے اس جہنم پر انیس فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے احکام اور جہنیوں کو سزا دینے کی ذمہ داری ادا کرتے ہوں گے اور نہیں بنایا ہے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتوں کو کہ ان ہی کو جہنم کا داروغہ مقرر کیا گیا ہے اور نہیں بنایا ہم نے انکی اس تعداد کو مگر آزمائش کافروں کے لیے کہ وہ کس طرح اس تعداد کو سن کر مذاق اڑائیں گے انکار کریں گے قیل و قال اور جحمت بازی ہو اس عدد میں کیا مصلحت ہے لیکن اسکے بالمقابل یہ تعداد اس لیے ہے کہ یقین کر لیں وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور ایمان والوں کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اور کسی قسم کا دھوکہ نہ کھائیں

جہنم پر مقرر کردہ فرشتوں کی تعداد انیس بیان کرتے ہوئے یہ فرمانا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ انیس فرشتے جو داروغہ جہنم مقرر کیے گئے ہیں تو یہ بحیثیت انسان بالا ہوں گے ہر ایک انفر کے تحت کس قدر عملہ ہوگا یہ تو خدا ہی جانتا ہے یہ اسکے لشکر میں جھکو کوئی ہی نہیں جان سکتا۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ نے انیس کے عدد کی حکمتیں بڑی عجیب اور لطیف بیان کی ہیں حضرات اہل علم مراجعت فرمائیں جن کا حاصل یہ ہے کہ جہنم میں مجرموں کے عذاب دینے کے سلسلہ میں انیس قسم کے فراتق ہیں جن میں سے ہر فرض کی انجام دہی ایک ایک فرشتہ کی سرکردگی میں ہوگی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ فرشتہ کی طاقت بہت بڑی ہے ایک فرشتہ وہ کام کر سکتا ہے جو لاکھوں آدمی انجام نہیں دے سکتے لیکن ہر فرشتہ کی قوت اور اسکی عملی مصروفیت اسی دائرہ میں محدود کر دی گئی جس کے لیے وہ نامور ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ ملک الموت لاکھوں انسانوں کی جان ایک آن میں نکال سکتا ہے مگر عورت کے بیٹ میں ایک بچہ کے اندر جان نہیں ڈال سکتا حضرت جبریل چشم زدن میں دخی لا سکتے ہیں لیکن بانی برسانا ان کا کام نہیں جس طرح انسان کی قوتوں کو قدرت خداوندی نے محدود کر رکھا ہے کان لاکھوں آوازیں تو سن سکتا ہے لیکن وہ ایک چیز کو بھی دیکھ نہیں سکتا آنکھیں بے شمار چیزوں کو دیکھ کر نہیں ٹھکیں گی لیکن وہ ایک آواز بھی سننے پر قادر نہیں اسی طرح جو فرشتہ بھی عذاب پر مقرر ہوگا وہ فرشتہ صرف اسی قسم کا عذاب دے گا جس قسم کے عذاب پر وہ مامور ہے دوسری قسم کا عذاب دینے کی اس کو قطعاً قدرت نہ ہوگی تو اس طرح انیس قسم کے عذاب ہوں گے کوئی ضرب سے عذاب دیتا ہوگا کوئی جلانے سے کوئی تو بیخ و ملا مت سے کوئی زقوم اور حدید و حیم کے کھلانے اور پلانے پر مقرر ہوگا اس طرح یہ انیس فرشتے اپنے مقرر کردہ عذاب کی انجام دہی میں مصروف ہوں گے۔ واللہ اعلم بالصواب

(تفصیل کے لیے تفسیر عزیزی کی مراجعت فرمائیں)

وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اور وہ جو اہل ایمان ہیں کیونکہ وہ اللہ کی ہر بات پر یقین کریں گے اور اس پر ایمان لائیں گے اور یہ تعداد اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ کہیں کہ اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس چیز کو مثل بنانے سے اور بطور عدد اسکو بیان کرنے سے اسکی کیا غرض ہے بھلا یہ کیا بات ہے اور کون اسکو مان سکتا ہے اور نہیں جانتا ہے اسے ہمارے پیغمبر آپ کے رب کے لشکر مگر بس وہی پروردگار اور نہیں ہیں یہ بائیں مگر وعظ و نصیحت دنیا کے انسانوں کے لیے کہ وہ جہنم اور عذاب جہنم اور اللہ کے لشکر اور جہنم پر مقرر انیس کی تعداد میں داروغہ کا ذکر سن کر عبرت و نصیحت حاصل کریں غضب الہی سے ڈریں اور نافرمانی سے بچیں۔

بعض روایات میں ہے کہ جب یہ آیت عَلَيْنَا قِسْعَةٌ كَحَشْرِ نَازِلٍ ہوتی اور مشرکین

ف نے انیس کا عدد سنا تو مذاق کرنے لگے اور ایک دوسرے سے ہتھیے لگاتے ہوتے کہنے لگے یہ انیس ہمارا کیا کر لیں گے ہم تو ہزاروں ہیں اگر کچھ ہوا بھی تو زیادہ سے زیادہ ہم میں سے دس دس ایک ایک کے مقابلہ کے لیے ڈٹ جائیں گے ان میں ایک پہلوان تھا وہ کہنے لگا بھاتی سترہ کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں باقی جو دو رہ جائیں گے ان سے تم نمٹ لینا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَا جَعَلْنَا أَحْمَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً کہ یہ انیس تم جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتوں کی طاقت کا یہ حال ہے کہ ایک ہی فرشتہ نے قوم لوط کی پوری بستی کو ایک ہی بازو پر اٹھا کر شک دیا تھا۔

ربِّ سَمَوَاتِ وَاَرْضِ كَلْشَكْرِ بَسْ وَهِيَ جَانِتَا بَسْ

حافظ عماد الدین ابن کثیر الدمشقیؒ اپنی تفسیر ابن کثیر میں آیت مبارکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ حدیث معراج (جو صحیحین میں موجود ہے) سے یہ ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ البیت المعمور کی صفت و کیفیت ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ بیت معمور ساتویں آسمان میں ہے جس میں ہر روز ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور پھر ان کو لوٹنے کی نوبت نہیں آتی یعنی ملائکہ کا ہجوم و کثرت اس قدر ہے کہ ان ستر ہزار کے طواف کرنے کے بعد پھر انکے طواف کی نوبت ہی نہیں آتی تو جس پروردگار کی یہ عظمت و شان ہے تو ظاہر ہے کہ اسکے فرشتوں کا لشکر کسے معلوم ہو سکتا ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی وہ معروف حدیث تخریج فرماتی ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا کہ آپ نے فرمایا کہ آسمانوں میں انگشت کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں کوئی فرشتہ بارگاہ رب العزت میں سر بسجود نہ ہو اور فرمایا اسے لوگو! اگر

تم کو وہ بات معلوم ہو جاتے جو مجھے معلوم ہے تو تمہارا یہ حال ہو جاتے کہ تم کثرت سے رونے لگو اور ہنسنا کم کر دو اور تم اپنے بستر دل سے لطف اندوز ہونے کے بجائے جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آہ و زاری کرتے ہوئے گڑگڑانے لگو۔

یہ وہی حقیقت ہے جو قرآن کریم کی اس آیت میں واضح کر دی گئی وَمَلَأْنَا الْآلَةَ مَقَامًا مَّعْلُومًا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ الْمُنْتَهَىٰ مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ حافظ ابن کثیر نے ایک اور روایت بیان فرمائی عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لاتے جب کہ جماعت کھڑی ہو رہی تھی تو آپ نے دیکھا کہ عین آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو نماز کے لیے اٹھے نہیں جن میں ایک شخص ابو جحش لیشی تھا آپ نے فرمایا اٹھو نماز کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھو تو ان میں سے دو آدمی تو کھڑے ہو گئے اور تیسرے یعنی ابو جحش نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھڑا ہوں گا جب تک کوئی شخص مجھ سے زیادہ طاقتور بازوؤں والا اور مجھ سے قوی گرفت والا نہ آجائے اور وہ مجھے بیٹخ دے اور میرے چہرہ کو سٹی میں روند دے تو بس میں اس وقت ہی اٹھ سکتا ہوں حضرت عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اس خبیث کو زمین پر دے مارا اور اس کا چہرہ مٹی میں رگڑا وہ شخص عثمان غنیؓ کے پاس آیا اور یہ قصہ بتایا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ روکا عمر فاروقؓ فرماتے ہیں کہ میں غصہ میں بھرا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمرؓ اس پر راضی ہو تو (خیر بہتر ہے) میں تو اسے عمرؓ پر چاہتا تھا کہ تم اس خبیث کا سر قلم کر کے میرے پاس لاتے۔

پھر آپ نے فرمایا اے عمرؓ میں تم کو بتاتا ہوں خداوند عالم اس ابو جحش کی نماز سے بے نیاز ہے اللہ کے لیے تو آسمانوں میں فرشتے ہمہ وقت عبادت و بندگی میں اس طرح مصروف ہیں کہ ایک لمحہ بھی اسکی بندگی سے خالی نہیں گزرتا آسمان دنیا میں وہ فرشتے ہیں جو ہمہ وقت سر بسجود ہیں اور وہ قیامت تک سجدہ سے سر ہی نہیں اٹھائیں گے اور جب قیامت پر وہ اٹھیں گے تو کہتے ہوں گے صاعدا نالقیٰ حق عبادتک اسی طرح ہر آسمان پر فرشتوں کی ایک ایک عبادت رکوع و سجود اور قیام اور تسبیح و تہجد کا ذکر فرمایا کہ وہ اسی حالت میں قیامت تک رہیں گے تفصیل تفسیر ابن کثیر میں ملاحظہ فرمائیں

تفسیر ابن کثیر جلد ۴ -

كَلَّا وَالْقَمَرَ ۝۳۲ وَ

یہ سجبتا ہوں قسم ہے چاند کی اور

الْبَيْلِ إِذَا دَبَّرَ ۝۳۳ وَالصَّبِيرِ إِذَا اسْفَرَ ۝۳۴ إِنَّمَا لِاحِدٍ الْكَبِيرِ ۝۳۵

رات کی جب پیٹھ پھیرے! اور صبح کی جب روشن ہوتے وہ دوزخ ایک ہے بڑی چیزوں میں

نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۝

ڈرا داتا ہے لوگوں کو جو کوئی چاہے تم میں کواگے بڑھے یا پیچھے رہے

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ إِلَّا الْأَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝

ہر جی اپنے کیے میں بھنسا ہے مگر داہنے والے

فِي جَنَّتٍ مُّتَّسِقَاتٍ لِّوُنَّ ۝ عَنِ الْمَجْرِمِينَ ۝ مَا سَلَّكُمْ فِي

باغوں میں ہیں مل کر پلوچھتے ہیں گنہگاروں کا احوال تم کابے سے بڑے

سَقَرٍ ۝ قَالُوا لِمَ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيِّينَ ۝ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُهُ

دوزخ میں وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے اور نہ تھے کھلاتے

الْيَسِيكِينَ ۝ وَكُنَّا نَحْوُ مَعَ الْخَائِضِينَ ۝ وَكُنَّا نَكْذِبُ

محتاج کو اور تھے بات میں دھنسنے ساٹھ دھنسنے والوں کے اور ہم تھے بھٹلاتے

بِیَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِيْنَ ۝ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ

الشفاع کے دن کو جب تک پہنچی ہم پر یقین آتیوالی پھر کام نہ آدے گی انکو سفارش

الشَّفَاعِيْنَ ۝ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ۝ كَانَهُمْ

سفارش کرنیوالوں کی پھر کیا ہوا ہے انکو سمجھوتی سے من موڑتے ہیں جیسے وہ

حَرَمٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ

گدھے ہیں بد کے بھاگے غل کرنے سے بلکہ چاہتا ہے ہر مرد ان

مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتِي صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝ كَلَّا بَلْ لَا يَخَافُونَ

میں کواکو ملیں ورق کھلے کوئی نہیں! پر ڈرتے نہیں

الْآخِرَةَ ۝ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝ وَمَا يَدْرُونَ

آخرت سے کوئی نہیں یہ تو سمجھوتی ہے پھر جو کوئی چاہے یاد کرے اور وہ یاد بھی کریں

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴿۵۶﴾

کہ چاہے اللہ وہ ہے جس سے ڈر چاہیے اور وہ بخشنے کے لائق

تنبیہ پر انکار مجرمین و بیان قانون جزا و سزا اور روز قیامت

قال الله تعالى - كَلَّا وَالْقَمَرَ وَالْيَلْبِ اِذْ اَذْبَنَ ... الى ... هُوَ اَهْلُ التَّقْوَىٰ وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ
(ربط) گذشتہ آیات میں کفار و منکرین کی کچھ بے ہودہ خصلتوں اور انکی نافرمانی کا ذکر تھا اور یہ کہ وہ کس طرح پیغمبر خدا اور وحی الہی کا مذاق اڑاتے تھے اب ان آیات میں ایسے مجرمین و منکرین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی ذلیل حرکات سے باز آجائیں ساتھ ہی قیامت کے روز جزا و سزا کا قانون بھی بیان فرمایا جا رہا ہے اور یہ کہ اہل ایمان کیسے راحتوں اور نعمتوں میں ہوں گے اور کفار و مشرکین جب عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر حسرت و تداومت کا کیا عالم ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس وقت حسرت اور تیکھتانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ارشاد فرمایا۔

جزا و سزا مجرمین و منکرین کو اسی قسم کی لغو اور بے ہودہ باتوں اور حرکتوں سے باز آجانا چاہیے یہ جو کچھ وحی الہی سے بتایا جا رہا ہے بالکل حق ہے اور قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ بیٹھ پھیرے اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ روشن ہو بے شک وہ جہنم جس پر انیس فرشتوں کے پیرے اور انتظام کا ذکر کیا گیا ہے ایک بہت ہی بڑی چیز ہے بڑی عظیم الشان چیزوں میں سے جو ڈرانے والی ہے انسان کو ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے آگے بڑھنا اور سعادت و فلاح کے میدان میں یا یہ کہ وہ پیچھے رہے اور ایمان و تقویٰ کی طرف رخ بھی نہ کرے آگے بڑھنے سے نیکی اور تقویٰ کے عمل کرے گا اور اسکا نتیجہ بہشت اور بہشت کی نعمتیں ہوں گی، اور پیچھے ہٹنا بدی اور برائیوں میں مبتلا ہونا ہوگا اور ظاہر ہے کہ ایمان اعمال اور نیکی یا کفر و نافرمانی اور شقاوت کے نتائج قیامت ہی کے روز سامنے آئیں گے اسی وجہ سے یہ قانون خداوندی ہے ہر ایک انسان اپنے کیے ہوتے کاموں میں گرفتار ہے ان کاموں میں سے جو بھی شقاوت و معصیت اور بدی کا کام ہو اسکی سزا سے وہ کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا۔

مگر داہنے ہاتھ والے جنکو نامہ اعمال و ایتیں ہاتھ میں دیتے جائیں گے وہ باغوں میں ہوں گے ہر طرح کی عیش و راحت اور لذتوں میں جو بطور مزاج یا حق تعالیٰ کی نعمتوں میں خوش ہوتے ہوتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہوں گے مجرموں کے بارہ میں کہ وہ لوگ کہاں گئے تو دنیا میں اپنا فخر و غرور جتایا کرتے تھے اور ایمان و اعمال صالحہ کی جزا اور جنت کی نعمتوں کا انکار کرتے تھے اور یہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ قیامت آئے گی اور قیامت میں مجرموں پر خدا کا عذاب ہوگا پھر خود وہ ان مجرموں کی طرف متوجہ

ہوتے ہوئے دریافت کرتے ہوں گے کس چیز نے تمکو پہنچایا ہے جہنم میں اور تم تو بڑے ہی عقل مند تھے اس داناتی و عقل کے باوجود تم اس ہلاکت و تباہی کے مقام پر کیسے پہنچ گئے ہو ہیں گے ہم نہ ہوتے نماز پڑھنے والوں میں سے اور نہ ہی صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کی صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور بلکہ ہم تو خدا اور رسول کی باتوں میں طعن و تشنیع کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے دین میں تمسخر اور اعراض کرنے میں منہمک رہتے تھے چہ جاتیکہ ہم خدا اور اسکے رسول پر ایمان لاتے اور ہم جھٹلاتے رہے انصاف کے دن روز قیامت کو یہاں تک آئیگی ہم پر یقین کی بات کو قیامت ہی آگئی اور جن جن باتوں میں شک کرتے تھے اور جھٹلاتے تھے ان پر یقین بھی حاصل ہو گیا حتیٰ کہ مشاہدہ کر لیا کہ یہ ہے وہ جہنم جس سے خدا کے پیغمبر نے ڈرایا تھا تو اس طرح انجام ہو گا ان منکرین و مکذبین کا جو کسی طرح بھی عذاب خداوندی سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکیں گے سو انکو سفارشش کر بنوالوں کی کوئی سفارشش فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ سب کچھ ان منکرین کو بتایا جا رہا ہے جو فریش مکہ میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لارہے ہیں تو آخر کیا ہو گیا انکو جو ہر نصیحت سے بے رحمی اختیار کر رہے ہیں بلکہ نفرت اور پیغام نصیحت سے دور بھاگنے کی صورت یہ معلوم ہو رہی ہے کہ گویا یہ بد کے ہوتے جنگلی گدھے ہیں جو کسی سبب ناک آواز سے بھاگ رہے ہیں تو اسی طرح ان لوگوں کی حالت ہے کہ نعرۂ حق اعلان تو حیدر اور دعوت ایمان کی صدا نے انکے قلوب و دماغ میں کھلبلی مچا دی جو کفر و شرک کی گندگولوں سے بھرے ہوتے ہیں عقل و فطرت کے لحاظ سے تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اعلان تو حیدر اور دعوت حق سے اعراض کریں اور اسکو قبول نہ کریں اصل روگ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسکو کھلے ہوتے درق دے دیتے جائیں اور نام بنام ہر ایک پر آسمان سے ایک درق اور صحیفہ آکر گرے اور اس میں لکھا ہوا ہو کہ اے فلاں بن فلاں خدا تجھ کو کہتا ہے کہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آ خبردار ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے کہ یہ بات وہ اپنے کسی شک اور تردد کو دور کرنے کے لیے کہتے ہیں بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں جب اس پر ایمان یقین ہی نہیں تو کیا خاک ڈریں گے خبردار اسے انسان غفلت سے باز آ جا رہا تو ایک نصیحت ہے جو ہمارے پیغمبر نے سب کو کر دی اور یہ پیغام نصیحت سب کو پہنچا دیا اب جس کا دل چاہے

۱۰۰ یہ وہی چیز ہے جس کو سورۃ النعام میں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ - فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِنَّا لَمُهْتَدُونَ أَمْ هَذَا إِلَّا مَسْحَرٌ مُّبِينٌ کہ اگر ہم آپ پر ایک لکھی ہوئی کتاب کاغذوں میں اتار دیتے پھر وہ اسکو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے تو تب بھی یہی کہتے یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے مطلب یہ کہ بالفرض انکا یہ مطالبہ اور خواہش بھی پوری کر دی جاتے تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں۔

اسکو قبول کر لے اور جس کا دل چاہے اسکو ٹھکرا دے اور جو لوگ بھی اسکو قبول کریں گے وہ وہی ہوں گے جن کو اللہ چاہے کیونکہ حق و ہدایت کا قبول کرنا پروردگار عالم کی توفیق و مشیت پر موقوف ہے اور وہ ذات خداوند عالم اپنی عظمت و کبریائی اور اپنے جلال و جمال کے باعث لائق ہے ڈرنے کے اور اہل سے مغفرت کا کہ اپنے لطف و کرم سے بندوں کو معاف کر دے اور اپنے انعامات سے نوازے یعنی آردنی کتنا ہی گناہگار ہو لیکن پھر بھی اگر خدا سے ڈر کر تائب ہو جائے گا اور معافی مانگے گا تو خدا تعالیٰ اسکی توبہ قبول فرماتے ہوتے اسکی مغفرت فرمادے گا یہی اس کی شانِ کبریائی سے متوقع ہے

اللہم اغفر لنا وازحنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار
بالخبیر فانتم اهل التقویٰ واهل المغفرة امین یا رب العلمین (تم تفسیر سورۃ المدثر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْقِيَامَةِ

سورۃ قیامہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے جو مکی زندگی کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اسکی چالیس آیات اور ۲ رکوع ہیں۔

اس سورت میں احوال قیامت کا ذکر ہے اور وہ دلائل قاطعہ اور واضح بعدت و نشر کے ثابت کرنے کے لیے ذکر فرماتے گئے جن کو سن کر ہر شخص عقل و فطرت کی رو سے مجبور ہے کہ وہ قیامت اور بعثت بعد الموت پر ایمان لائے۔

عہ انس بن مالک سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اس آیت مبارکہ کو تلاوت کرتے ہوئے بطور تشریح و توضیح فرمایا قال ربکم انا اهل ان اتقی خدا یشرک شیء فاذا اتقانی عبدی فانا اهل ان اغفر لہ یعنی میں اسکے لائق ہوں یہ میرا بندہ مجھ سے ڈرے اور میرے ساتھ شریک نہ کیا جائے تو میں مغفرت کر دوں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر میں یہی ہے عربیت کی رو سے یہ ظاہر ہوا کہ اہل التقویٰ میں مصدر کی اضافت مفعول کی جانب ہے اور اہل المغفرۃ نسبت فاعل کی طرف ہے اور اس روایت میں بیان کردہ کلمات اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں جملہ معطوف علیہا بمنز شرط ہے اور جملہ معطوفہ بمنزلہ جزا ہے - ۱۲-

ایمان بالآخرہ دین اسلام کی بنیاد ہے تو اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پر قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور یہ کہ انسان پر جب سزا سوت طاری ہونے لگتے ہیں تو اس پر کس طرح کی بے چینی اور کرب واقع ہوتا ہے اور جب حق تعالیٰ شانہ قیامت برپا فرمائیں گے تو نظام عالم اور آسمان و زمین اور چاند و سورج کس طرح درہم برہم کر دیتے جائیں گے خدائے تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے کس طرح انکی قبروں سے اٹھائے گا اور کس طرح وہ اپنی عظیم قدرت سے جسم کے اجزائے منتشرہ اور ریزہ ریزہ ہو جانے والی ہڈیوں کو جوڑے گا۔

پھر جب میدان حشر میں حاضری ہوگی تو انسان اپنے اعمال پر کیسا پچھتائے گا اور نامہ اعمال اسکے سامنے ہوں گے اس کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی کتاب اعمال خود پڑھے ان اہم مضامین کو بیان کرتے ہوئے سورت کے اخیر میں پھر ایک بار انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا اور قیامت اور بعثت بعد الموت کو ثابت کیا گیا۔

آیاتہا ۳۰ = ۷۵ = سُورَةُ الْقِيَامَةِ مَكِّيَّةٌ = ۳۱ = فِيهَا كَوْنُهَا

سورۃ قیامتہ مکی ہے اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

لَا اَقِیْمُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۱ وَلَا اَقِیْمُ بِالنَّفْسِ الْوَاوَمَةِ ۲

قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں جی کی، جو اولاد ہونا دیتا ہے

اِیْحَسِبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یَّجْمَعَ عِظَامَهُ ۳ بَلْیٰ قَدَرِیْنِ عَلٰی

کیا خیال رکھتا ہے آدمی کہ جمع نہ کرے گی ہم اسکی ہڈیاں؟ کیوں نہیں کہتے ہیں ہم

اَنْ تَسُوْیَ بَنَانَهُ ۴ بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لَیْفَجِرَ اَمَامَهُ ۵

کہ ٹھیک کر دیں اسکی پوریاں بلکہ چاہتا آدمی کہ ڈھٹائی کرے اسکے سامنے

یَسْئَلُ اَیَّانَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۶ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۷ وَخَسَفَ

پوچھتا ہے کہ کب ہے دن قیامت کا؟ پھر جب چونڈھلانے لگے تپور اور گہر جاوے

الْقَمَرُ ۸ وَجَمَعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۹ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ

چاند اور آکٹھے ہوں سورج اور چاند کہے گا آدمی اس دن کہاں جاؤں بھاگ

الْمَفْرُوجِ ۱۰ كَلَّا لَا وَزَرَ ۱۱ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۱۲ يَنْبُؤًا

کر کوئی نہیں کہیں نہیں ہے بچاؤ تیرے رب تک اس دن جا ٹھہرنا جتنا دینگے

الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۱۳ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ

انسان کو اس دن جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بلکہ آدمی اپنے واسطے آپ

بَصِيرَةٌ ۱۴ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۱۵ لَا تَحْرِيكَ بِهِ لِسَانُكَ

سوچھ ہے اور پڑا لا ڈالے اپنے بہانے نہ چلا تو اسکے پڑھنے پر اپنی زبان

لِتَجْعَلَ بِهِ ۱۶ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ

کوشتاب اسکو سیکھ لے وہ تو ہمارا ذمہ ہے اسکو سمیٹ رکھنا اور پڑھنا پھر جب ہم پڑھنے لگیں تو

قُرْآنَهُ ۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۱۹ كَلَّا بَلْ يَحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۲۰

وہ ساتھ اگے پڑھنے کے پھر پورا ہمارا ذمہ ہے اسکو کھول بتانا کوئی نہیں بر تم چاہتے ہو شتاب منی

وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۲۲ إِلَىٰ رَبِّهَا

اور چھوڑتے ہو دیر آتی کہتے منہ اس دن تازے ہیں اپنے رب کی

نَّاضِرَةٌ ۲۳ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۲۴ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا

طرف دیکھتے اور کہتے منہ اس دن اداس ہیں خیال میں ہیں کہ ان پر وہ ہووے

فَاقْرَءُ ۲۵ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ الثَّرَاقِي ۲۶ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۲۷

جس سے کم توئے کوئی نہیں جس وقت جان پہنچی ہانس تک اور لوگ کہیں کون ہے مجھانے والا

وَتَظُنُّ أَنَّ الْفِرَاقَ ۲۸ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۲۹ إِلَىٰ رَبِّكَ

اور وہ اٹکلا کہ اسب آیا چھوٹا اور لپٹ گئی پنڈلی پر پنڈلی تیرے رب کی

يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۳۱ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّى ۳۲ وَلَكِنَّ كَذَّابٌ

طرف ہے اس دن کچھ جانا پھر نہ یقین لایا ہے نہ نماز پڑھی نہ جھٹلایا ہے

وَتَوَلَّى ۳۲ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَمْكُطُ ۳۳ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۴

اور منہ موڑا - پھر گیا اپنے گھر کو اکڑتا خرابی تیری! خرابی پر خرابی تیری!

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۳۴ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۳۵

پھر خرابی تیری! خرابی پر خرابی تیری! کیا خیال رکھتا ہے آدمی؟ بھونٹا رہے گا بے قید

الَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ۳۶ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ

بھلا نہ تھا ایک بوند منی کی جو نیکے پھر تھا لہو کی پھٹکی پھر اس نے بنایا

فَسَوَىٰ ۳۷ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۳۸ أَلَيْسَ

اور ٹھیک کر اٹھایا پھر کیا اس میں جوڑا نہ اور مادہ کیا ایسا

ذَلِكَ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يَحْيَىٰ الْمَوْتَىٰ ۳۹

شخص نہیں سکتا؟ کہ جلا دے مردے

احوال روز قیامت مع ذکر مناظر محشر و شدت کرب

بوقت مرگ انسانی و حسرت ملال بر محرومی از ہدایت

قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيمة... الخ... أليس ذلك بقدر على أن يحيى الموتى -

رابطہ گزشتہ سورت مدثر میں قیامت کے ظاہری احوال کا ذکر تھا اور یہ کہ قیامت کے قریب کیا کیا واقعات پیش آئیں گے اور قیامت کس طرح برپا ہوگی اب اس سورت میں قیامت کے باطنی احوال بیان کیے جا رہے ہیں اور یہ کہ قیامت قائم ہونے پر انسان پر کیا کیفیات گزریں گی وہ کس طرح بے چین و بدحواس ہوگا نامہ اعمال کی پیشی نہایت ہی ہیبت ناک اور ہوشن و حواس معطل کر دینے والا مرحلہ ہوگا اور اس وقت نافرمان اور فاجر و بدکار انسان کو سولے ملال و حسرت کے

اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

قسم کھاتا ہوں میں قیامت کے دن کی جس کے صدق اور وقوع پر دلائل قطعیہ قائم ہو چکے اور ہر صاحب عقل انسان پر اس کا ماننا لازم ہو چکا خواہ وہ ماننے یا نہ ماننے اور قسم کھانا ہوں میں ملامت کرنے والے نفس کی جسکی ملامت و حسرت کی کیفیات انسان ہر مردنی و ناکافی کے مرحلہ پر محسوس کرتا ہے اور ایسے ہر مرحلہ پر یہ احساس قدرت خداوندی اور اسکے دین کی حقانیت کی اعلیٰ اور روشن تردلیل ہے۔

کیا گمان کرتا ہے انسان یہ کہ ہم اسکے مرنے کے بعد نہیں جمع کر سکیں گے اسکی ہڈیاں، ہرگز نہیں اس کا یہ خیال باطل ہے بلکہ ہم تو قادر ہیں اس بات پر کہ اسکی انگلیوں کی پوریاں بھی برابر کر دیں جو انسان کے بدن میں نازک ترین ہڈیاں اور اجزاء ہیں تو جب ہم ایسی نازک اور باریک ہڈیاں اور جوڑ بھی درست کر سکتے ہیں تو پھر تمام اجزاء اور ہڈیوں کا جوڑنا کیا مشکل ہے اصل بات یہ نہیں ہے کہ ہماری قدرت کی نشانیاں اور دلائل واضح نہیں، سوائے بلکہ یہ انسان ارادہ کرتا ہے کہ دھٹائی کے ساتھ فسق و فجور کرتا رہے اس سے پہلے اور قیامت کا خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ قیامت اور حشر و نشر کے تصور سے بھی اسکے عیش و عشرت اور نفس کی لذتوں میں خلل پڑ جاتے گا وہ بس یہی چاہتا ہے کہ اعمال کے حساب اور جزاء و سزا کے خیال سے لاپرواہ ہو کر نفس کی خواہشات اور لذتوں میں ہمنگ رہے اس لیے بطور استہزاء سوال کرتا ہے کہ آتے گا قیامت کا دن؟ ایسے سحرے کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کوئی کھیل تماشا نہیں وہ تو ایسی ہولناک ساعت ہوگی جب چندھیانے لگے آنکھ تجلیات کی شدت و عظمت سے اور حیرت سے نگاہیں خیرہ ہوں گی سورج سر کے قریب ہوگا اور بے نور ہو جائے چاند گہن لگنے کی طرح اور جمع کر دیا جائے سورج اور چاند کہ نفع صور کے بعد دونوں کو بے نور کر کے اور آسمان وزمین کا تمام نظام جو شمسی و قمری نظام پر قائم ہے درہم برہم کر دیا جائے اور اس آسمان وزمین کے بجائے دوسرے آسمان وزمین بنا دیتے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے یَوْمَ تُبَدِّلُ الْأَرْضَ عَائِزًا مَّارِضًا وَالسَّمَوَاتِ تَوْقِیْمًا اے سوال کرنے والے انسان ایسا ہیبت ناک دن ہوگا جس میں بدحواسی کا یہ عالم ہوگا انسان کہتا ہوگا کہہاں ہے بھاگنے کی جگہ کہ میں ان پریشانیوں سے بچ نکلوں نہیں ہرگز نہیں خبردار کہیں نہیں پھنسنے کی کوئی جگہ کوئی طاقت ہی نہیں کہ انسان خدا کی گرفت سے بچ کر نکل سکے۔

بس اے انسان تیرے پروردگار ہی کی طرف اس دن ٹھیرنے کا مقام ہے کہ اسی رب کی عدالت کی حاضری اور پیشی سب کو بھگتنی ہے اور وہیں سب کو پیش ہونا ہے نہ کوئی امکان ہے اور نہ ہی کوئی مکان ہے کہ انسان وہاں پناہ لے سکے ہر انسان کو جتلا دیا جائے گا اس دن جو

کچھ اس نے پہلے کیا اور جو کچھ اس نے بعد میں کیا یا جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا۔ نامہ اعمال پیش ہوگا اور زندگی کا ہر عمل اسکے سامنے ہوگا جس کا نہ انکار کر سیکے گا اور نہ اس میں کسی قسم کی حجت بازی ممکن ہوگی اور نامہ اعمال کی پیشی کی ضرورت ہی کیا ہے بلکہ انسان تو اپنے نفس کو خوب سمجھتا ہوگا اور اس کے بدن کا ہر ہر جز۔ ہر اس عمل کی گواہی دیتا ہوگا جو اس نے کیا (اَلَيْسُوْمَ نَحْنُ عَلٰى اَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَّمْنَا اَيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ) اگرچہ وہ پیش کرنے لگے اپنے اعذار اور بہانے اور خواہ کچھ ہی بات بناتے جیل و حجت کرے لیکن کچھ کام نہ چلے گا حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا بھی وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ کسی درجہ میں مفید نہ ہوگا۔ اسے ہمارے پیغمبر صحت حرکت دیکھے آپ اپنی زبان کو تاکہ جلدی سے اسکو محفوظ کر لیں آپ کو اس محنت و مشقت کی ضرورت نہیں جو آپ

صحیح بخاری اور دیگر روایات میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ ابتداء وحی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جبریل امینؑ جس وقت اللہ کی وحی لیکر آتے اور وحی آپ پر نازل ہوتی تو آپ ساتھ ساتھ ہر ایک لفظ اپنی زبان سے پڑھنے لگتے اس درجہ سے کہ کہیں کوئی لفظ ذہن اور یاد سے نکل نہ جاوے اور اس درجہ سے آپ اپنے اوپر کافی مشقت برداشت فرماتے تو یہ آیت نازل ہوتی جس میں آپ کو اس طرح کی محنت و مشقت سے روک دیا گیا اور وعدہ کر لیا گیا کہ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اس کلام کو آپ کے دل میں جمع اور محفوظ کر دیں اور پھر آپکی زبان سے اسکی تلاوت و قرأت کرادیں جس کو لوگ سن کر آپ سے یاد کر لیں اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ اس کلام کی توضیح و بیان اور اس سے متعلقہ احکام کا تفصیل و تشریح بھی کرادیں اس درجہ سے آپکو چاہیے کہ جب ہم اسکو بزبان فرشتہ پڑھیں تو آپ اسکی اتباع کریں یعنی خاموش رہیں اور کان لگا کر سنیں چنانچہ پھر آپ ایسا بھی کرتے کہ جبریلؑ کے وحی لانے پر خاموش رہ کر سنتے اور جب جبریلؑ چلے جاتے تو اسی طرح بلا کسی زبرد زیر کے فرق کے آپ پڑھنے لگتے اور ظاہر ہے کہ یہ چیز اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نمونہ ہے کہ ایک سینہ میں کلام محفوظ کر دیا جاتے اور پھر اسکو جب چاہو اعادہ کر لو اور زبان سے اسی ترتیب کے ساتھ ظاہر کر دیا جاتے تو جس طرح خدا کے پیغمبر کے سینہ میں یہ کلام محفوظ ہو رہا ہے اور پھر تلاوت کیا جا رہا ہے اور پڑھا جا رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انسان کے اعمال محفوظ رکھے اور قیامت کے روز ان اعمال کو اسی ترتیب سے جس طرح سے کوہ کیے گئے ہیں انسان کے سامنے ظاہر کر دے بلکہ ہر انسان کے قلب میں کسی چیز کا محفوظ ہونا پھر اس کا زبان سے اسی ترتیب سے بیان و ظاہر کرنا قیامت کے روز اعمال کی پیشی اور گواہی کا نمونہ ہے غرض اس توضیح سے لَا تُحْسِرْ لَكَ بِهِ نَسَاكَ كَا جوشان نزل مفسرین نے بیان کیا اور احادیث میں اسکو ذکر کیا گیا اسکا ربط سورہ قیامت کے اس مضمون سے اور

باقی دوا بعد آیات سے واضح ہو رہا ہے ۱۲-

جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی وہی کلمات پڑھنے کی مشقت اٹھاتے ہیں۔ بیک وقت ہمارے ذمہ ہے اسکا جمع کر دینا آپ کے سینہ میں اور اسکا پڑھنا زبان سے اس لیے جب ہم مکہ پر عین فرشتہ کی زبان سے تو آپ کے پڑھنے کی پیروی نہ کیجیے خاموشی سے سینے اور اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے پھر ہمارے ذمہ ہے اسکا واضح کرنا اور بتلانا اور آپ کے ذریعہ اسکے معانی و مضامین کا دنیا تک پہنچا دینا۔

یہ مناظر اور حقائق تو اس بات کے واسطے کافی ہیں کہ انسان آخرت اور آخرت میں اعمال کی پیشگی کو سمجھے لے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ انسان فکر آخرت سے بالکل ہی لاپرواہ ہو چکا ہے اور یہ اس بنا پر نہیں کہ آخرت اور قیامت کے دلائل واضح نہیں یا انسان کی عقل و فطرت اسکو سمجھ نہیں سکتی بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اسے لوگوں کو پسند کرنے ہو جلدی کی چیز کو جو دنیا میں اسی زندگی میں بلجائے اسی زندگی کی لذتوں اور عیش و عشرت کا خواہاں ہو جس میں انہماک و شغف نے تم کو فکر آخرت سے بے پرواہ بنا دیا اور چھوڑتے ہو آخرت کو اور آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کو کاشش کہ فکر آخرت نصیب ہوتی اور آخرت کی نعمتوں کی قدر و منزلت کا شعور ہوتا جانتے بھی ہو وہاں کے احوال کیا ہوں گے؟ روز قیامت یہ ہوگا کہ کچھ چہرے اس روز ترو تازہ و شاداب ہوں گے جو اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن ادا اس اور مرجھائے ہوئے بدحواس اور بے روتی ہوں گے جو گمان کرتے ہوں گے اب اسلئے ————— ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو کمر توڑ دینے والا ہو اور ایسی شدت و کرب کی کیفیت محسوس کریں جو انکی کمر ہی توڑ ڈالے۔

خبردارے غافل انسانوں! قیامت کی شدت کا کیا کہنا وہاں کا عذاب و سختی تو کیا برداشت کی جا سکے گی یہ دنیا میں موت کی گھڑی کچھ دور نہیں اور سفر آخرت کی یہ پہلی منزل ہی اس قدر دشوار گزار ہے کہ انسان اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا چنانچہ جب انسان کی جان گلے نکتے پہنچنے لگے اور نزع روح کا وقت آجائے اور تدبیر علاج سے مایوسی کے بعد کہا جائے ہے کوئی جھار پھونک کرنے والا اور وہ سمجھے کہ اب فراق کا وقت ہے دنیا اور دنیا کی ہر محبوب چیز سے جدائی کا منظر آنکھوں سے نظر آنے لگے اور کرب و بے چینی کا یہ عالم ہو کہ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ پٹنے لگے تڑپنے کی کیفیت سے جیسے کہ سکراتِ موت کی سختی سے ایک پنڈل سے دوسری پنڈلی پٹ پٹ جاتی ہے تو ہر انسان کو ایسے سکراتِ موت کی شدت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا کرب اور بے چینی کا عالم ہوگا۔

تو جب آخرت کی یہ پہلی منزل اس قدر شدید ہے کہ بڑے سے بڑے طاقت ور انسان برداشت نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے کہ قیامت اور محشر کی شدت کا کیا عالم ہوگا اور انسان عجیب ہے کہ آخرت تو کیا موت جو قریب کی چیز ہے اور اس کا منظر روز اسکی نظروں کے سامنے ہے اسکو بھی بھلاتے ہوتے ہے تو اسے انسان آخر کیوں اس بات کو نہیں سوچتا کہ

میں تیرے ہی کی طرف گھسیٹ کر تجھے لے جانا ہے اور ہر شخص میدانِ حشر کی طرف لے جایا جائے گا جیسے جانوروں کو ہٹکایا جا رہا ہو۔

یہ باتیں بہت کافی ہیں کہ انسان ان پر غور کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرے حق اور ہدایت کو تسلیم کرے لیکن افسوس بد نصیب ہے وہ انسان جس نے یقین نہ کیا کہ اللہ اور اسکے رسول کی بات پر ایمان لے آتا اور نہ نماز پڑھی اپنے رب کی اطاعت و بندگی کرتے ہوئے۔ ہاں البتہ اس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور منہ موڑا غرور و تکبر سے نافرمانی کرتے ہوئے پھر لوٹا وہ اپنے گھر کی طرف اگرتا ہوا اسے مغرور و بد نصیب انسان ہلاکت و بربادی ہو تیرے واسطے پھر ہلاکت و بربادی پھر تباہی ہو تیری اور پھر تباہی کہ دنیا میں ذلت نے نحوست اور ہلاکت ہو اور پھر آخرت میں بھی عذابِ جہنم میں مبتلا ہو آخرت کے عذاب اور قیامت کی شدت سے کون بچ سکتا ہے ہر صاحب عقل کو اس کی فکر اور تیاری میں لگ جانا چاہیے اور جب تک دنیا میں ہے ان لمحات زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے تو کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسکو آزاد ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ جو چاہے کرے نیک دید اور حلال و حرام کا فرق بالائے طاق رکھ کر اپنی خواہشات اور نفس ہی کی پیروی کرتا رہے اور یہ تصور بھی نہ کرے کہ اسکی ذمہ داری کیسے اور کس پتے پیدا کیا گیا اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے خالق و مالک کو کیا جواب دے گا ایسا انسان آخر کیوں نہیں قیامت پر ایمان لاتا اور اللہ کی قدرت پر کیوں یقین نہیں کرتا کیا وہ نہیں تھا سنی کا قطرہ چپکا ہوا رحم میں اور پھر یہ ناپاک قطرہ سنی کس طرح نشوونما پاتا رہا پھر وہ خون کا لوتھر بنا پھر اسکو نشوونما دیا اور بند کج نہایت ہی متناسب کے ساتھ اعضاء بناٹے ہاتھ پاؤں شکل و صورت بناتی اس طرح کہ لطف سے خون کا لوتھر بنا اور خون کے لوتھر سے کو شکل و صورت بخشی متناسب اعضاء بنا دیئے پھر اس سے بناتے جوڑے

۷۵ یہ کلمات اُذی لک فَاوْلی کے مفہوم کی توضیح کے لیے ہیں علماء عربیہ سے منقول ہے کہ کلام عرب

میں اُذی لک فَاوْلی ہلاکت و بربادی کیلئے استعمال کیا جاتا ہے۔

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں موسیٰ بن ابی عائشہؓ سے روایت کیا ہے کہ میں نے سعید بن جبیرؓ سے اُذی لک فَاوْلی کے بارہ میں دریافت کیا تو فرمایا یہ وہ الفاظ تھے جو آنحضرتؐ کی زبان مبارک سے ابوجہل لعین کے انکار و تکبر اور گستاخی کے مظاہرہ پر نکلے جب کہ وہ انتہائی غرور کے ساتھ آپکی شان میں بد تمیزی اور گستاخی کرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلا ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے جبریل امینؑ ان ہی لفظوں کے ساتھ یہ آیت لے کر اترے ان الفاظ کا تکرار تباہی و ذلت اور عذاب کی شدت پر دلالت کر رہا ہے اور یہ کہ ایسے مغرور و نافرمان کو یہ سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی جہاں جہنم کی شدتیں اور آگ کی پلٹیں ہر ایک جانب سے احاطہ کیئے ہوئے ہوں گی۔

مذکورہ موت کو کسی نطفہ کو لڑکے کی شکل دیدی اور کسی کو لڑکی بنا دیا اور ظاہر ہے کہ ایک قطرہ سستی سے یہ تصرفات اور تغیرات خود بخود نہیں ہو رہے ہیں اور نہ کوئی عقل والا اس کا دعویٰ کر سکتا ہے بلکہ ہر ایک مرحلہ اور حالت بتا رہی ہے کہ یہ سب کچھ کسی بڑے ہی زبردست علیم و حکیم اور قادر و خلاق کی قدرت کی کرشمہ سازی ہے ورنہ یہ کون سے مادہ اور طبیعت کا اقتضا ہے کہ ایک قطرہ ایسے تغیرات قبول کرتا جا رہا ہے پھر اعضاء بن رہے ہیں شکل و صورت تیار ہو رہی ہے اور اس میں کوئی حمل لڑکے کی شکل اختیار کر رہا ہے تو کوئی لڑکی آخر یہ تفاوت کیوں ہو رہا ہے اور کون یہ صناعتی کر رہا ہے اور کون اس گوشت کے لوتھڑے کو شکل و صورت دیکر آنکھ، ناک، کان اور ان میں ادراک کی صلاحیتیں پیدا کر رہا ہے تو کیا ایسا قادرِ مطلق اور خلاقِ عظیم قادر نہیں ہے اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کر دے اور قیامت کے روز میدانِ حشر میں سب کو جمع کر دے؟ کیوں نہیں ضرور بالضرور اور بلاشبہ وہ اس پر قادر ہے اور جب کہ ہر انسان کی تخلیق بلکہ ہر گھاس کا تنکا اور زمین کی تہوں میں سے ہر تخم کی روئیدگی لعنت بعد الموت کا نمونہ ہے تو قیامت پر ایمان لانے میں کیا تاثر ہو سکتا متعدد اسانید سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ قیامت کی یہ آخری آیت تلاوت فرماتے تو آپ فرماتے بللی اور بعض روایات میں ہے **وَسُبْحَانَكَ بَلِیٰ**، کہ بے شک اے پروردگار کیوں نہیں آپ ضرور قادر ہیں۔

جیسا کہ سورۃ الدہن کے بعد بللی وانا علی ذالک من الشاہدین اور سورۃ مزلت کے ختم فیاتی حدیث کعدہ یومنون پر آپ یہ فرماتے اَعْتَابًا لِلّٰہِ ان آیات کی تلاوت پر ان کلمات کا پڑھنا ایمان و یقین کی تقویت اور اضافہ کا باعث ہے ایسے احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کلمات کے پڑھنے کی ہدایت وارد ہوئی ہے۔

نفس کی حقیقت اور اس کی قسمیں

نفس کی حقیقت پر امام غزالی نے مفصل کلام کیا ہے۔

اکثر فلاسفہ اور معتزلہ نفس اور روح کی حقیقت ایک ہی قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات فلاسفہ اجمالاً اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ نفس سے مراد جان یا روح انسانی ہے وہی مددک ہے اور وہی دراصل انسان ہے اور یہ جسم کتاب کمالات کے لئے اس کا آلہ ہے اور ، نفوس انسانی اپنی استعداد و فیضان کے لحاظ سے مختلف مراتب اور درجات پر ہوتے ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام کے نفوس، نفوس قدسیہ ہوتے ہیں ان کے بعد درجہ اولیاء کرام کا ہے ایسے نفوس کو حق تعالیٰ سے قرب کا مقام حاصل ہونے کے باعث طہائنت و سکون کی نعمت حاصل ہو جاتی ہے جسے کہ ارشاد ہے **الَّذِیْ یُذِکِّرُ اللّٰہَ**

علامہ ابن الجوزی نے ہر زار المیز میں سورۃ زمر کی تفسیر میں بیان کیا ہے

عدت اجت عباتش۔ ایت
آدم نفس وروح فالنفس العقل
والتمیز والروح نفس والتحصیلک
فاذا نام العبد قبض اللہ
لنفسه ولم يقبض روحه۔
ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ انسان مجموعہ
ہے نفس اور روح کا نفس سے تو انسان اور
امتياز کرتا ہے اور روح سے سانس لیتا ہے
اور حرکت کرتا ہے اور جب انسان سو جاتا
ہے تو اللہ اس کے نفس کو قبض کر لیتے ہیں
مگر روح کو قبض نہیں فرماتے۔

یہی وہ چیز ہے جس کو قرآن کریم میں اس طرح فرمایا اللہ یتَوَكَّفَى الْاَنْفُسَ حَيْثُ
مَوْتِهَا كَالْحَيِّ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنْامِهَا الْاَيَةُ ابن جریر فرماتے ہیں کہ انسان میں روح اور نفس ہے اور اس کے
درمیان ایک پردہ حائل ہے سوتے وقت اللہ تعالیٰ نفس کو قبض کر لیتے ہیں اور بیداری کے وقت
اسکو واپس کر دیتے ہیں اور جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو سونے کی حالت میں موت دینے کا
ارادہ کرتے ہیں تو اسکے نفس کو واپس نہیں کرتے اور روح کو قبض کر لیتے ہیں۔

بہر کیف ان تصریحات سے یہی چیز واضح ہے کہ نفس اور روح ایک چیز نہیں اور نفس انسانی زندگی
میں شر اور برائیوں پر آمادہ کرنے والی قوت کا نام ہوا اسی وجہ سے نفس کی اس اصل خصوصیت اور
ناشیر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآرَاةٌۭ بِالسُّوْرِۃِ۔ کہ نفس آئینہ کا سورہ
یعنی برائیوں پر خوب آمادہ کرنے والا ہے تو یہ حالت نفس کی اصل حالت ہوتی لیکن اس نفس کو
جب تربیت دی جائے اور اصلاح کی جائے تو پھر اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ برائی
کو برائی سمجھے اور اگر برائی سرزد ہو جائے تو اس پر انسان شرمندہ ہو اور نفس ملامت کرنے
لگے تو یہ نفس نواہ ہو پھر جب تعلیم و تربیت اور ریاضت کے آثار سے قلب لطافت و پاکیزگی
حاصل کرے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے جس کو آیت مبارکہ یَاٰتِنٰهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اِنْ رَجِعْ
اِلٰی رَبِّکَ میں بیان فرمایا گیا۔

نفس کی مثال امام رازی نے کلب اور کتے کی سی بیان فرمائی اور فرمایا لیکن وہ کلب جو معلم
ہو یعنی شکاری کتا تعلیم و تربیت اس کی درندگی کو ختم کر کے اسکے شکار کو حلال اور پاک بنا دیتی
ہے جب کہ کسی بھی جانور پر کتے کا منہ مارنا اس کو ناپاک اور مردار بنا دیتا ہے تو اسی طرح نفس
تعلیم و تربیت کے بعد جب مطمئنہ ہو جاتے گا تو اسکے عمل اور تحریک میں بھی خیر اور پاکیزگی آجائے گی
جب کہ اسکے بغیر نفس کی ہر تحریک اور عمل شر ہی شر تھا۔

روح کی بحث سورۃ اسراء کی تفسیر میں گذر چکی ہے وہاں مراجعت فرمائی جاتے

فائدہ

یوم قیامت کی قسم اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کا تحقق اور وقوع قطعی اور یقینی امر ہے جو مجز صادق کی خبر اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو چکا ہے اگرچہ اسکے مخاطب وہ مشرکین تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے لیکن ان کا انکار روز قیامت کے قطعی الثبوت ہونے کے باعث ایسا ہی قرار دیا گیا جیسے کوئی احمق انسان دن کی روشنی میں سورج کا انکار کرے اقسام قرآن کی بحث پہلے گذر چکی۔

شیخ الاسلام حضرت علامہ عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں »دافع ہو کہ دنیا میں کئی قسم کی چیزیں ہیں جن کی لوگ قسم کھاتے ہیں اپنے معبود کی، کسی معظم و محترم ہستی کی، کسی بہتم بالشان چیز کی، کسی محبوب کی یا نادر غنے کی اس کی خوبی اور ندرت جتانے کے لیے پھر بلخاریہ بھی رعایت کرتے ہیں کہ مقسم بہ مقسم علیہ کے مناسب ہو یہ ضروری نہیں کہ ہر مقسم بہ مقسم علیہ کے لیے شاہدہ جیسے کہ ذوق نے کہا ہے۔

اتنا ہوں تیری تیج کا شرمندہ احساں

سر میرا تیرے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

یہاں اپنے سر کے اٹھ نہ سکنے پر محبوب کے سر کی قسم کھانا کس قدر موزوں ہے شریعت حق نے عجز اللہ کی قسم کھانا بندوں کے لیے حرام کر دیا لیکن اللہ کی شان بندوں کی شان سے جدا ہے وہ اپنے غیر کی قسم کھاتا ہے اور عموماً ان چیزوں کی جو اسکے نزدیک محبوب یا نافع یا وسیع و بہتم بالشان ہوں یا مقسم علیہ کے لیے بطور حجت و دلیل کام دے سکیں یہاں یوم قیامت کی قسم اس کے بہتم بالشان ہونے کی وجہ سے ہے اور جس مضمون پر قسم کھائی ہے اس سے مناسبت ظاہر ہے (کذافی الفوائد العثمانیہ)

تحریر محمد اللہ تفسیر سورۃ القیامت



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الذَّهْرِ

اس سورت کا نام سورۃ الذہر اور سورۃ الانسان حدیث کی رو سے ثابت ہے اس میں دہرہ کا ذکر ہے اور انسانی تخلیق کا اس وجہ سے یہ دونوں نام مضمون کے ساتھ بلوری مناسبت رکھتے ہیں اس سورت میں آخرت اور احوالِ آخرت کا خصوصیت سے بیان ہے اور تفصیل کے ساتھ آخرت میں ابرار و متقین کو جن انعامات سے نوازا جاتے گا ان کا ذکر ہے سورت کی ابتدا رقی تعسفاً شانہ کی قدرت عظیمہ کے بیان سے ہے۔ کہ کس طرح وہ اپنی قدرت سے انسان کو ایک ناپاک قطرہ (نطفہ) سے وجود عطا فرماتا ہے۔

اور اس ناپاک قطرہ پر کیا کیا تغیرات و احوال گذرتے ہیں جن کے بعد یہ انسان عدم سے ہستی میں آتا ہے اس قدرت عظیمہ کے ذکر سے مقصود انسان کو اپنے مقصد حیات کی طرف توجہ دلانی ہے اور اس مقصد کی تکمیل پر انسان کو کیا کیا نعمتیں اور راحتیں آخرت میں میسر آئیں گی ان کا بیان ہے۔

پھر سورت کے خاتمہ پر قرآن کریم کے نزول کا ذکر ہے اور اسکے اوامر و نواہی کی اطاعت کی ترغیب اور نافرمانی و سرکشوں سے احتراز و اجتناب کا حکم اور یہ کہ ذکر خداوندی ہی انسان کی ہدایت اور فلاح کا ضامن ہے۔

۳۱ آیاتہا ۳۱ = ۴۶ = سُورَةُ الذَّهْرِ مَكِّيَّةٌ = ۹۸ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ دہرہ مکی ہے اور اس میں اکتیس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

هَلْ آتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ

کبھی ہوا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جو نہ تھا کبھی چیز

شَيْئًا مَّذْكُورًا ① إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشِجٍ

تکرار میں آئی ہم نے بنایا آدمی ایک بوند کے لچھے سے

نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ② إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ

پلٹتے رہے اسکو پھر کر دیا سنتا دیکھتا ہم نے اسکو سوجھاتی راہ

إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ③ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلْسِلًا

یا حق مانتا یا ناشکر ہم نے رکھی ہیں سکرورں کو زنجیروں

وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ④ إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ

اور طوق اور آگ دکھتی البتہ نیک لوگ پیتے ہیں پیال

كَانَ فِرَاجًا مَّا كَافُورًا ⑤ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا

جس کی ٹوٹی ہوئی ہے کافور ایک چشمہ ہے جس سے پیتے ہیں بندے اللہ کے چلاتے ہیں

تَفْجِيرًا ⑥ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ

اسکی نالیاں بٹوری کرتے ہیں منت اور ڈرتے ہیں اس دن سے کہ اسکی برائی

مُسْتَطِيرًا ⑦ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ

پھیل پڑے گی اور کھلاتے ہیں کھانا اسکی محبت پر محتاج کو اور

يَتِيمًا وَأَسِيرًا ⑧ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ

بن باپ کے لڑکے کو اور قیدی کو۔ ہم تو تمکو کھلاتے ہیں لڑا اللہ کا منہ چاہنے کو نہ تم سے

جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ⑨ إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا

ہم چاہیں بدلہ نہ چاہیں شکر گزاری ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے ایک دن ادا سے

قَطْرِيرًا ⑩ فَوْقَهُمْ اللَّهُ شَرُّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً

سختی کے پھر بجایا اسکو اللہ نے برائی سے اسدن کی اور ملائی اسکو نازکی

وَسُرُورًا ۱۱ وَجَزَاءً بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ۱۲ مُتَكِينِينَ

اور خوش وقتی : اور بدلہ دیا انکو اس پر کہ وہ ٹھہر رہے باغ اور پوشاک ریشمی لگے بیٹھیں

فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرُونَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَهْرًا ۱۳

اس میں تختوں پر نہیں دیکھتے وہاں دھوپ نہ ٹھہر

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا ۱۴ وَيُطَافُ

اور جھک رہیں ان پر اسکی چھاویں اور پست کر رکھے ہیں اسکے گچھے لٹکا کر اور لوگ اپنے

عَلَيْهِمْ بِأَنِيَّةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۱۵ قَوَارِيرًا

پھرتے ہیں ان پاس پاس روپے کے اور آنکھوں سے جو ہو رہے ہیں غیشے غیشے پر

مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۱۶ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ

روپے کے ماپ رکھا ان کا ماپ اور ان کو وہاں پلاتے ہیں پیالہ جس کی

فِرَاجًا زَبِيبًا ۱۷ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا ۱۸ وَيَطُوفُ

ملوثی ہے سوٹھ ایک چہنمہ ہے اس میں اس کا نام کہتے ہیں سلسبیل اور پھرتے ہیں

عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا

ان پاس لڑکے سدا رہنے والے جب تو انکو دیکھے خیال کرے کہ موتی ہیں

مَنْثُورًا ۱۹ وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا ۲۰

بکھرے اور جب تو دیکھے وہاں تو دیکھے نعمت اور سلطنت بڑی

عَلَيْهِمْ تِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوْا أَسَاوِرَ

اوپر کی پوشاک انکی کپڑے ہیں باریک ریشم کے سبز اور کاٹھ اور انکو پہناتے ہیں کنگن

مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمُ رَبِّهِمْ شَرَابًا طَهُورًا ۲۱ إِنَّ هَذَا كَانَ

روپے کے اور پلاتی انکو ان کے رہنے شراب جو دل کو دھوگتی یہ ہے

لَكُمْ جَزَاءٌ وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ۱۳

تمہارا بدلہ اور کمائی تمہاری نیک لگی

ابتداء ہستی انسان در عالم و عطا صلاحیت برائے فرق در میان حق و باطل مع ذکر انعاما ابرار و متقین و تعذیب مجرمین

قال اللہ تعالیٰ ہَلْ آتَىٰ عَلَىٰ الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنْ دُونِ الْآلِ مَسْعَىٰكُمْ مَشْكُورًا .
(ربط) گزشتہ سورہ قیامہ میں احوال قیامت کا ذکر تھا اور ان منکرین کا دلائل و حقائق کے ساتھ رد تھا جو روز آخرت کے بارہ میں شکوک و شبہات اور اعتراضات کرتے تھے اب اس سورت میں قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قطرہ کو انسانی وجود بخشا ہے انسان کا کتم عدم سے ہستی میں آجانا اللہ رب العزت کی عظیم تردیل ہے پھر یہ کہ اس انسان کے سامنے دونوں راستے ہدایت اور گمراہی کے واضح کر کے رکھ دیتے گئے اسکو ہوش و حواس شعور و ادراک اور عقل کی صلاحیتیں پوری طرح عطا کر دی گئیں اب اگر وہ حق و ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو خدا کے عظیم انعامات کا مستحق ہوگا اور اگر عقل و فطرت کے تقاضوں کو فراموش کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو خدا کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ ابرار و متقین کی جزائیں اور انعامات کیا ہوں گے اور فساق و مجرمین کیسے ذلت میں مبتلا ہوں گے؟ آگے اسکی تفصیلات ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا۔

کیا نہیں گذرا ہے انسان پر ایک ایسا وقت زمانہ میں سے کہ وہ نہیں تھا ایسی چیز جو قابل ذکر ہو اس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے ایک قطرہ منی سے جو ملی ہوئی ہے عورت کی منی سے یا وہ مخلوط ہے مختلف قسم کی غذاؤں سے اور ان کا جو ہر و خلاصہ ہے جسکو ہم لٹاتے پلٹاتے رہتے پھر ہم نے اسکو پیدا کیا اس حال میں کہ وہ سننے اور دیکھنے والا ہے بعد اس کے کہ لطف سے خون کا جما ہوا ٹکڑا بنایا پھر اسکو گوشت کا لوتھڑا پھر اس کی شکل و صورت اور اعضا کی ساخت کی اور اس میں جان ڈالی جس و حیاست اور ادراک شعور کی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا اور اس بنا پر ہر انسان میں اللہ نے فطری استعداد اور صلاحیت کے علاوہ عقل و فکر کا مادہ رکھا ہے بے شک ہم نے انسان کو دکھا دیا راستہ حق اور ہدایت کا اب اس کے بعد یا تو وہ شکر گزار ہے اپنے پروردگار کا اور اس کا فرماں بردار یا ناشکر کی کرنے والا ہے۔

نیکی اور تقویٰ کا راستہ بتانے اور اسکو اختیار کرنے کے لیے عقل و فہم اور ادراک و شعور عطا

کرنے کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے رب کی اطاعت و فرماں برداری اور عطا کردہ نعمتوں کا شکر گزار ہوتا لیکن افسوس اس انسان کی بدنصیبی پر کہ ان فطری دوائی اور تقاضوں کو ٹھکرا کر خدا کا نافرمان اور ناشکر گزار رہا ظاہر ہے نافرمانوں اور مجرموں پر جرم کی سزا جاری کرنی چاہیے تو اس بنا پر بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں نافرمانوں کے واسطے زنجیریں اور طوق اور دیکتی ہوتی آگ اور بلاشبہ ایسے نافرمان جنہوں نے رسم درواج اور ادہام کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑے رکھا اور غیر اللہ کی پرستش کا طوق اپنی گردنوں میں ڈالا اور حق نیز حق پرستوں کے خلاف عداوت و دشمنی اور بغاوت و سرکشی کی آگ بھڑکتے رہے وہ اسی کے مستحق ہیں کہ طوق و سلاسل میں جکڑے جائیں اور دیکتی ہوتی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں مگر انکے بالمقابل مطیعین و فرماں بردار اللہ کے انعامات اور اعزاز و اکرام کے مستحق ہوں گے اس وجہ سے بے شک نیکو کار لوگ پیئیں گے ایسے جام سے جسکی ملا دشت کا نور ہوگی اور جنت کا یہ کافور نہایت ہی لذیذ و خوشگوار اور خوشبو سے ہمکتا ہوگا یہ ایک خاص چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے خاص برگزیدہ بندے پیتے ہوں گے اس طرح کہ وہ اللہ کے خاص بندے بہاتے ہوں گے اس چشمہ کو بہت سی نالیوں اور نہروں کی صورت میں کہ جہاں چاہیں گے اس شراب طہور کی نالیاں اور جدول بہتے چلے جائیں گے یہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ ہیں جو پورا کرتے ہیں اپنی نذر کو جو بھی اللہ کے لیے وہ نذر مان لیں کسی خیر کے حاصل ہونے پر یا کسی مصیبت اور تکلیف کے ٹلنے پر اور ان کے ایمان و تقویٰ کا یہ عالم ہے ڈرتے ہیں اس دن سے جسکی مصیبت اور برائی پھیلنے والی ہے کہ کوئی گنہگار اس کی تکلیف و شدت سے نہیں بچ سکتا اور کوئی بھی اسکی ہیبت پریشانی سے مستثنیٰ نہیں ہو سکتا جو آسمان و زمین کو محیط ہوگی ان لوگوں میں ایمان و تقویٰ اور فکر آخرت کے ساتھ اشارہ و ہمدردی کا یہ جذبہ ہے کہ کھلاتے ہیں کھانا اس کے محبوب و مرغوب ہونے کے باوجود ہر مسکین و یتیم اور قیدی کو جو کسی بھی مصیبت

۷۷ علیٰ حبیبہ کی ضمیر اکثر حضرات مفسرین کی راستے میں طعام کی طرف ہے اس لحاظ سے یہ ترجمہ کیا گیا اور جب مصدر معنی محبوب بھی آتا ہے اس وجہ سے محبوب ہونے کے باوجود لفظ کی تہریج کردی اور ساتھ ہی لفظ مرغوب کا اضافہ کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ مراد یہ ہے کہ جس وقت انسان کو اس کھانے کی رغبت و ضرورت ہے یا وہ اسکا محتاج ہو اس وقت کھلانا اور زائد فضیلت اور کمال کی صفت ہے گویا یہ اس آیت کا مفہوم ہو گیا **وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَتْ بِهِمْ حَبْلَةٌ حَافِظًا** ابن کثیر نے بروایت مجاہد یہ بیان کیا کہ ائمہ مفسرین نے اسی کو ترجیح دی ہے اور اسکی تہریج آیت مبارکہ **وَإِنِّي الْعَالِمُ عَلَىٰ حُبِّهِ** اور **لَوْ كَانَتْ تَمَلُّوا الْبَيْتَ** کحیٰ تَنْفَعُوا أُمَّةً نَّجِيَّةً میں ہے بعض مفسرین نے حبیب کی ضمیر اللہ کی طرف راجع کی ہے یعنی علیٰ حبیب اللہ تعالیٰ جس سے اخلاص اور آخرت کے اجد و ثواب کی عرض کی طرف اشارہ کیا گیا یعنی دنیا میں اسکا کوئی عوض نہیں چاہتے ہوں گے۔

میں گرفتار ہوا انتہائی مردت اور اخلاص کے جذبے پر سب کچھ کرتے ہیں ان غزبار مساکین اور یتیمی کو کہہ دیتے ہیں اسے لوگو! ہم کھلاتے ہیں تمکو صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے کسی قسم کے بدلہ کو تم ہمیں اسکا کوئی مالی بدلہ دو یا ہماری توقیر و تعظیم کرو اور ہم نہیں چاہتے ہیں تم سے شکر گزاری کہ تم ہمارا شکر یہ ادا کرو ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس دن کی سختی اور عیبیت سے جو سخت ادا سی اور چہرہوں کی گھٹن کا سبب ہوگاں طرح کہ انسان کا جہرہ اس کلفت اور کوفت سے بگڑا ہوا نظر آنے لگے پیشانی سکر کر اوپر ہو جاتے اور آنکھیں پھٹی ہوتی ہوں تو یہ مخلصین اپنی اس ہمدردی و اعانت اور انفاق پر غرور تو کیا بلکہ ڈرتے ہوں گے ایسے سببت و جلال کے دن سے (جو ہر ایک انسان کو اس طرح مرعوب بدحواس بنا دینے والا ہوگا) معلوم نہیں ہمارا یہ عمل ہمارا یہ صدقہ قبول بھی ہوتا ہے یا نہیں ۷۶

یقیناً ایسے لوگ خداوند عالم کی طرف بڑے ہی اعزاز و اکرام کے مستحق ہیں جسکے باعث بس خدا نے انکو بچا دیا اس دن کی تکلیف و برائی سے اور یہ فیصلہ کر دیا کہ عطا کر دے گا انکو تازگی اور سرور جو انکے چہرہ پر برس رہا ہوگا اور مسرت و خوشی سے انکے چہرے جگمگا رہے ہوں گے اور ان تمام نعمتوں اور کرامتوں کے

۷۷ لفظ امیر کے ترجمہ میں "سببت میں گرفتار" کا لفظ بڑھا کر یہ اشارہ کیا گیا کہ اس امیر و قیدی سے صرف وہی قیدی مراد نہیں جو جیل خانہ میں قید ہو بلکہ عام ہے خواہ یہ ظاہری اور حسی قیدی ہو یا معنوی قیدی ہو یعنی مصائب و آلام میں گرفتار ہو۔

سعید بن جبیر اور حسن بصریؒ سے منقول ہے قیدی سے اہل اسلام مراد ہے لیکن ابن عباسؓ کی روایت میں ہے قیدیوں سے مراد وہ قیدی بھی ہیں جو مشرکین میں سے مسلمانوں کی قید میں ہوں چنانچہ اسکی تائید وہ روایت کرتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی چنانچہ اس حکم کی تعمیل میں حضرات صحابہ نے بدر کے قیدیوں کو بہتر سے بہتر کھانا کھلانا شروع کر دیا اور بعض تو انکو اپنے ساتھ کھلاتے حالانکہ وہ مسلمان تھے امیر کے مفہوم میں مفروض بھی داخل ہیں کیونکہ وہ بھی ایک طرح قید ہیں۔

عکرمہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد غلام ہیں اور متعدد احادیث میں غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید فرمائی گئی (تفسیر ابن کثیر)

۷۸ یہ تشریح گویا اس آیت مبارکہ کے مضمون کے مطابق ہو سکے گی جو ارشاد فرمایا کَالْوَالِدَيْنِ إِيْتَابًا مَّا يَكْفُرُونَ وَالْأَسْفَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَكُم مَّا كَانَتْ فِي أَرْحَامِكُمْ أُولَئِكَ مَن يُبْتَغَىٰ الْوَجْهُ بِالْوَجْهِ لَكُم بِهِ يَوْمَئِذٍ مَّوَدَّةٌ كَثِيرَةٌ لِّمَن فَتَرَ يَوْمَئِذٍ لِّلرِّجَالِ مَن يَكْفُرُ بِهِ فِي الْحَبَاةِ فِي الْعِبَادَةِ لِكُلِّ ذَنبٍ عَذَابٌ مُّبِينٌ

یہ بتی ہے کہ جب سحر کا وقت ہونے لگتا ہے تو خدا سے معافی مانگتے ہوتے ہیں۔ ۱۲

علاوہ دیوارِ خداوندی سے شاداں و فرحاں ہوں گے اور بدلہ دے گا اللہ انکو اس دہرے کے انہوں نے صبر کیا دنیا کی شدتیں برداشت کیں خواہشاتِ نفس کو روکا اور شکر و تقاضا کرتے ہوئے غریب و مساکین پر ایثار کیا ایک کبج باغ کا جس کے پھل اور رزق سے انکی زندگی عیش و راحت کی ہوگی اور ریشمی پوشاک کا کہ زندگی کے عیش و راحت اور ہر لذت کے ساتھ لباس کی یہ عظمت انکو اور زیادہ بلندی و تقرب کا مقام بخشنے والی ہوگی اطمینان و سکون کا یہ عالم ہوگا کہ نگہ لگاتے ہوں گے اپنی مسندوں پر جو موزن اور مرصع تخت ہوں گے وہاں آرام و راحت کی یہ شان ہوگی کہ ادنی کلفت اور تعب کا نام و نشان بھی نہ ہوگا جتنا بچہ نہیں دیکھتے ہوں گے وہاں دھوپ اور گرمی اور نہ ہی شدید سردی بلکہ وہاں کا موسم معتدل ہوگا نہ دھوپ کی تہاڑت ہوگی اور نہ ٹھہر جس سے انسانی بدن کو تکلیف ہوا کرتی ہے اور آرام و راحت نیز نعمتوں کی فراوانی کا یہ عالم ہوگا جھکے ہوئے ہوں گے ان پر اسکے سائے اور نیچے کر دیتے گئے ہوں گے اسکے خوشے لٹکا کر تاکہ جب بھی اہل جنت کسی پھل اور خوشہ کے لینے کا ارادہ کریں بلا تکلف ہاتھ بڑھا کر لے لیں اور گھماتے جاتے ہوں گے ان پر برتن چاندی کے اور آنکھوں پر جو معلوم ہو رہے ہوں گے شیشے چمک اور لطافت میں درحقیقت وہ شیشے ہی ہوں گے چاندی کے جن کا اہل جنت اندازہ کریں گے اندازہ کرنا کہ جس قدر چاہیں گے ان آنکھوں اور جام میں شراب پھور سما جائے گی کم و زائد طبیعت کے تقاضا اور خواہش کے مطابق وہ بھر جاتے ہوں اور یہ اس لینے کہ اہل جنت کو کسی طرح بھی طبعی گرانی نہ ہو جیسا کہ انسان کو دنیا میں پیش آتی ہے مثلاً پیاس کی زیادتی پر گلاس چھوٹا ہو اور طبعی خواہش پوری نہ ہونے پر ذہنی کوفت ہوتی ہے یا کسی وقت تھوڑی مقدار کی خواہش ہے لیکن منہ کے سامنے ایک بہت بڑا لبریز پیالہ آجاتے تو اس طرح کی معمولی الجھنوں سے بھی وہ بے فکر ہوں گے جیسا چاہیں گے اور جتنا چاہیں گے وہ جام شراب پھور سے بھرے ہوں گے اور پلاتے جاتیں گے وہ لوگ ایک اور جام جس میں ملا ہوگا زنجبیل (سونٹھ) جو ایک چشمہ ہے جنت میں جس کا نام لیا جاتا ہوگا سلبیل اہل جنت اس نام سے اس چشمہ کا ذکر کرتے

ملہ ترجمہ میں ان الفاظ کا اضافہ اس لیے کیا گیا کہ عربیت کی رد سے قراریر کے بعد دوسری دفعہ قراریر ماقبل سے بدل اور بمنزلہ بیان ہے - ۱۳

یہ لفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے یہاں دوبارہ کا مسماً نکرہ کی صورت میں استعمال کیا جانا غیر الادنی کی نوعیت سے ہے تو ایک قسم جام کی وہ ہوگی جسکی شراب پھور کافور کے ساتھ ملی ہوگی اور اسکی خوشبو سے ہکتی ہوگی دوسری قسم شراب پھور کی وہ ہوگی جس میں زنجبیل ہوگی اور کوئی تعجب نہیں کہ جنت کے کھانوں سے قبل جو شراب پھور دی جاتے وہ کافور کی خوشبو اور تاثیر کے ساتھ کھانوں اور پھلوں کی خواہش کو پیدا کرنے والی ہو تاکہ بھوک اور اشتہا کی حالت میں جنت کے اطعمہ کھاتے جاتیں کیونکہ ہر لذیذ طعام اور پھل کی لذت خواہش اکل پر موقوف ہے

ہوں گے اور اعزاز و اکرام کا یہ عالم ہوگا کہ گشت کرتے ہوں گے انکے سامنے خدمت گزار لڑکے جو ہمیشہ اپنے حسن و جمال پر قائم رہیں گے جو حسن و جمال اور لطافت و صفائی میں ایسے خوش منظر ہوں گے کہ اسے دیکھنے والے جب تو انکو دیکھے تو انکو یہ سمجھے کہ یہ تو زمین پر بکھرے ہوئے خوبصورت موتی ہیں اور جنت کا حال کیا بیان کیا جائے اللہ اکبر! بس یہ ہے کہ جب تو وہاں نظر ڈالے تو دیکھے گا تو بہت ہی عظیم نعمتیں اور بڑا ہی عظیم الشان ملک ہے کہ ان نعمتوں کی خوبی کا اندازہ ہو سکتا ہے اور نہ وہاں کی اس سلطنت کی شان و شوکت کا کوئی تصور ہو سکتا ہے اور ان اہل جنت پر ریشمی لباس ہوں گے سبز رنگ کے نہایت ہی قیمتی گاڑھے ریشمی کپڑے بھی مزید ہوں گے تاکہ باریک لطیف اور دبیز برقم کے لباس استعمال کریں جو انکی عظمت و وقار کو اور بلند کرنے والے ہوں گے اور پہناتے جائیں گے انکو کنگن چاندی کے تاکہ ریشمی اور قیمتی لباس کی آرائش کے ساتھ زیور سے انکو مزین کر دیا جلتے اور یہ زیور جنت کی شان کے مناسب ہوگا اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت میں اس قسم کی آرائش و زیبائش سے دنیا میں پرہیز کیا تھا اور صبر کیا تھا اب اللہ تعالیٰ اس نوع کی تمام زینتیں جنت میں جسا بھی عطا فرما دے گا اور پلاتے گا انکو انکا پروردگار ایک خاص جام شراب طہور کا جو دونوں قسم کے جام کے علاوہ ہوگا جن کا ذکر پہلے ہو چکا اور ہو سکتا ہے کہ تمام نعمتوں کے بعد یہ خاص جام محبوب حقیقی کی طرف سے ایک خاص اعزاز کے ساتھ عطا کیا جاتے جو خوشبو اور لطافت و لذت کے ساتھ طہوریت کا وصف بھی رکھتا ہوگا اور یہ طہوریت ایسی کامل اور مؤثر ہوگی جو اپنے پینے والے کو بھی ہر گندگی اور کدورت سے پاک و صاف کر دے اس کا گھونٹ پیتے ہی قلب و بدن پاک و صاف ہو جاتے اور سینہ نکلے جس کی ہلک مشک کی خوشبو سے بھی بڑھ کر ہوگی اور اس جام طہور کا نوش کرنے والا اس کی تاثیر سے وَنَحْنُ عِنَّمَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ مِمَّنْ عَمِلَ كَامِلٌ ہو جاتے گا اہل جنت کے سامنے شراب طہور کو پیش کرتے ہوئے کہا جاتا

۱۲۔ ایک آیت میں ہے کہ سونے کے کنگن پہناتے جائیں گے جیسا کہ ارشاد ہے يُكْوَنَ فِيْهَا مِثْرَ اَسَاوِرَ مِثْرَ كَهَبٍ وَ لَوْ لَوْ اَمْكُنْ هِيَ كَاہِلِ جَنَّتِ كَ دَرَجَاتِ كَ حَاظِ سَ بَعْضِ كُو سُوْنِ كَ اُو ر بَعْضِ كُو چاندی کے دیتے جائیں ۱۲۔

* کھانے کی خواہش کے بغیر لذیذ سے لذیذ کھانا بھی مخریب نہیں ہوتا اور کھانوں سے فراغت کے بعد ضرورت ہے کہ معدے سے غذا کا انہضام ہوتا کہ طبیعت پر گرانی واقع نہ ہو تو اس وجہ سے بعد کی شراب طہور زنجبیل والی ہوگی۔ سبحان اللہ کیسا عجیب تناسب رکھا گیا اللھم اجعلنا منھم وارزقنا بفضلك وكرملك من نعم الجنة و اسقنا صحت کوثر و سلسبیل۔ آمین یا رب العالمین۔

السلام کو "حَمِيمًا فَهَسُنُوۡنَ" بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا پھر اس میں روح ڈالی اسکے بعد ان کے بائیں پہلو سے انکی بیوی حوا کو پیدا کیا بعد ازاں ہم نے یہ سلسلہ جاری کر دیا کہ ایک ناپاک اور گندے پانی یعنی قطرہ مٹی سے انسان کو پیدا کرتے ہیں یہ ہماری قدرت ہے ہمارے سوا کسی میں قدرت نہیں کہ پانی کے ایک ناپاک اور بدبودار قطرہ سے ایسی زیبا شکل بنا سکے کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

دہد لطف را صورتے بچوں پری

کہ کر دست بر آب صورت گری

غرض یہ کہ انسان ابتدا میں معدوم تھا اور اسکو کسی قسم کا عقلی یا حسی وجود حاصل نہ تھا پھر خدا ہی نے اسکو وجود کا خلعت پہنایا انسان خود بخود وجود میں نہیں آگیا جیسا کہ فلاسفہ اور دھریہ کہتے ہیں کہ نوع انسانی اور صورت انسانی کا ظہور مادہ اور نیچر (فطرت) اور اسکے حرکت کا رہن منت ہے مسلمان یہ کہتا ہے کہ مادہ تو ایک بے شعور چیز ہے جو علم اور ادراک اور ارادہ و اختیار سے بالکل عاری اور کوہا ہے اس کی غیر شعوری اور غیر ارادی اور غیر اختیاری حرکت سے یہ ذی شعور اور ذی علم اور ذی عقل انسان کس طرح وجود میں آگیا اور ایک گونگے اور بہرے مادہ (ایتھر اور نیچر) سے سمیع و بصیر اور متکلم یعنی سننے والا اور دیکھنے والا اور بولنے والا کیسے پیدا ہو گیا جس کمال اور جمال کا وجود خود اس مادہ کی ذات میں نہیں وہ کمال و جمال دوسروں کو کیا دے سکتا ہے کیا ایک برہنہ اور نادار اور بھوکا فقیر بھی کسی کو امیر اور مالدار بنا سکتا ہے مادہ پرستوں کو بھی اسکا اقرار ہے کہ مادہ میں کسی قسم کا کمال نہیں اور کوئی فیلسوف اور کوئی حکیم آج تک اس بات کا قائل نظر نہیں آیا کہ جس نے مادہ اور عناصر میں علم اور ادراک اور ارادہ اور اختیار کو تسلیم کیا ہو بلکہ تمام مادیین اس بات کو مانتے چلے آتے ہیں کہ جو افعال اس سے سرزد ہوتے ہیں وہ بے شعور اور بے اختیار صادر ہوتے ہیں۔

اب خود تو کہتے کہ رحم مادر میں جب لطف قرار پکڑتا ہے اور لڑکا یا لڑکی بنتا ہے تو ماں کو بھی خبر نہیں کہ میرے پیٹ میں کیا صنعت گری ہو رہی ہے اور نقاش قدرت میرے شکم میں کیا کیا نقش و نگار کر رہا ہے لڑکا بنا رہا ہے یا لڑکی اور ظاہر ہے وہ لطف تو ایک قطرہ آب ہے اسے تو کچھ بھی خبر نہیں اب حیرت کہ مجھ میں کیا تغیرات اور انقلابات ہو رہے ہیں۔

معدے میں غذا ہضم ہو رہی ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے مگر معدے کو کچھ خبر نہیں اب حیرت کا مقام ہے کہ انسان میں تو حسن و جمال بھی ہو اور فضل و کمال بھی ہو اور عقل و ادراک بھی ہو اور وہ چیز یعنی مادہ جسکو منکرین خدا اس انسان کا بلکہ سارے عالم کا خالق سمجھتے ہیں اس میں یہ تمام صفات کمال بالکلہ نیست و ناید ہوں کیا عقل سلیم اس امر کو تسلیم کرتی ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو ایسی چیز عطا کر دے جس کا خود اسکی ذات میں نام و نشان نہ ہو ہرگز نہیں معلوم ہوا کہ کسی زبردست اور با اختیار حکیم و علیم نے انسان کو یہ کمالات عطا کیتے ہیں وہی خدا اور واجب الوجود ہے اور

وہی ذاتِ بابرکات و اہمب الوجود ہے جس نے انسان کو وجود عطا کیا ہے اور وہی اس کے وجود کا رب اور مربی ہے جس کی عنایت اور رحمت کا ہر لمحہ اور ہر لحظہ یہ انسان محتاج ہے اسی کو ہم اللہ اور خدا کہتے ہیں۔

انسوس اور صدانسوس ہے ان محدودین عقل پر جواب بھی یہ سمجھیں کہ کوئی واجب الوجود اور داہب الوجود نہیں بلکہ اس بے شعور مادہ کے طبعی تاثرات سے تمام کارخانہ عالم چل رہا ہے اس صورت حال پر بلاشبہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح بت پرست بے جان پتھر دن کے سامنے سر جھکا ہوتے انکو مجبور بناتے ہوئے ہیں اسی طرح یہ مادہ پرست ایک بے جان اور بے شعور مادہ کو اپنا صاحب اور مدبر اور مربی سمجھے ہوتے ہیں کیا یہ رونے کا مقام نہیں۔

بریں عقل و دانش بہاید گریست

اس لحاظ سے قرآن کریم میں جتنے مضامین بت پرستوں کے حق میں نازل ہوئے ہیں وہ سب ان دہسولوں اور منکرین خدا پر صادق آتے ہیں۔

ڈارون کا عجیب و غریب نظریہ

انیسویں صدی عیسوی میں سر زمین مغرب میں ایک مادی فلسفی شخص گذرا ہے جس کا نام ڈارون تھا اس نے اپنی فلسفیانہ تحقیقات میں ایک یہ انکشاف کیا کہ انسان اصل میں بندر تھا بتدریج ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بالآخر انسان بن گیا۔

مغربیت سے مرعوب اذہان نے بلا دلیل اور بغیر اسکے کہ اپنی عقل اور فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اس نظریہ کو قبول کر لیا اور اسکو پھیلا نا شروع کر دیا حالانکہ اس پر آج تک نہ کوئی دلیل عقلی پیش کی جاسکی اور نہ ہی کوئی دلیل تجربی۔

ہر صاحب عقل اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ نظریہ صرف ایسا شخص ہی پیش کر سکتا ہے جو قاتر العقل ہو اور ایسا شخص ہی اسکو قبول بھی کر سکتا ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی ہیں جانوروں میں گدھا، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، کیڑے، مکوڑے، چرند، پرند، غرض حیوانوں میں بروبحر اور فضا کی یہ بے شمار مخلوقات ہیں ہر ایک کی طبیعت اور فطرت بالکل جدا ہے یہ کہنا کہ فلاں حیوان یعنی بندر ترقی کر کے انسان بن گیا ایسی ہی ہمل بات ہے جیسے یہ کہا جاتے کہ فلاں کیڑا مکوڑا ارتقائی مدارج طے کر کے مرغابن گیا اور پھر اس ہمل تجیل کو تھوری کہنا اور بھی خلاف عقل بات ہے۔

کیا اس تھیوری کے قائلین اس کا جواب دیں گے کہ یہ ارتقا صرف ایک نوع حیوان میں کیوں

ہوا دیگر حیوانات اس سے کیوں محروم رہے۔

پھر یہ بھی بتائیں کہ نوع حیوان کے علاوہ نباتات و جمادات بھی ہیں ان میں یہ ارتقائی مراحل کیوں نہیں واقع ہوتے ایک نوع کا ارتقار اسی کی حدود میں محدود رہتا ہے ایک گھاس کا تنکا ارتقار کے بعد تناور درخت ہو سکتا ہے لیکن پہاڑ نہیں بن سکتا علیٰ ہذا القیاس زمین کی سطح پر ابھرنے والا ٹیلہ پہاڑ تو ہو جاتے گا لیکن وہ کوئی اور نوع کی شکل اختیار کر کے اس میں تبدیل ہو جاتے یہ ناممکن اور خلاف عقل ہے۔

پھر یہ نظریہ رکھنے والے یہ بتائیں بالفرض اگر بندر نے ارتقار کر کے انسانی پیکر اور وضع اختیار کر لی تو یہ ارتقار نوعی تھا یا ارتقار فرد تھا ظاہر ہے کہ چند بندروں کے ارتقار کا تو مسئلہ بھی نہیں نوع من حیث النوع کے ارتقار کا دعویٰ ہے تو اصولاً یہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز تغیر و تبدل قبول کرنے کے بعد اپنی پہلی صورت کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ کس قسم کا ارتقار ہوا کہ دنیا میں بندر بھی موجود اور ارتقائی شکل اختیار کرنے والے انسان بھی موجود (تفصیل کی گنجائش نہیں) بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ہممل اور خلاف عقل نظریات ظاہر ہوتے ہیں لیکن ایسا ہممل اور خلاف عقل اور مضحکہ خیز نظریہ کوئی بھی سننے میں نہیں آیا کہ اچھے خاصے عقل و فہم اور شعور و تدبیر رکھنے والی المخلوق حسن جمال اور کمالات و فضائل کے جوہر سے آراستہ انسانوں کو بندر کی اولاد تجویز کر دیا جاتے دریں عقل و دانش بہاید گریست

عرض عقل اور فطرت کا تقاضا یہی ہے کہ اسی پر ایمان لایا جاتے جو رب العالمین نے انسانی تخلیق کے بارہ میں فرمایا کہ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتًا لَيْبًا۔
صدق اللہ العظیم ونحن على ذلك من الشاهدين والموقنين وعلى ذلك ائمانا وعليه نحی ونصوت ونبعث عند رب العالمین۔

عجب بات ہے کہ اس نظریہ کے قائلین ایک طرف تو بندر کے ترقی کر کے انسان بن جانے کو تسلیم کرتے ہیں دوسری طرف جب قرآن کریم میں بنی اسرائیل کے واقعات میں انکے نافرمان افراد کے مسخ کے واقعہ کا ذکر آتا ہے کہ انکو مسخ کر کے بندر بنا دیا گیا تو اسکو خلاف فطرت اور خلاف عقل کہہ کر رد کر دیتے ہیں ایسے لوگوں کو تو سہولت سے یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ جب بندر ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے تو ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ انسان تنزل کر کے بندر بن جاتے بلکہ یہ شکل تو آسان ہے بہ نسبت پہلی صورت کے کیونکہ انکے قانون کے مطابق یہ صورت تو کل شئی میں جمع الی اصلہ کے تحت آسکتی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ

ہم نے تمہارا تجھ پر

الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۳۲﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَاتًا

قرآن سبج سبج اُنارنا - سو تو راہ دیکھ اپنے رب کے حکم کی اور کہانہ مان ان میں کسی گناہگار

أَوْ كُفُورًا ﴿۳۳﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۳۴﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

یا ناشکر کا اور یاد کر نام اپنے رب کا صبح اور شام اور کچھ رات میں

فَأَسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۳۵﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُجِبُّونَ

سجود کر اسکو اور پاکی بول اسکی بڑی رات تک یہ لوگ چاہتے ہیں شتاب

الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿۳۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ

سننے والی اور چھوڑ رکھا ہے اپنے پیچھے ایک دن بھاری ہم نے انکو بنایا

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا ﴿۳۷﴾ إِنَّ هَذَا

اور مضبوط باندھی انکی گرہ بندی اور جب ہم چاہیں بدل لاویں انکی طرح کے لوگ بدل کر یہ تو

تَذِكْرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۳۸﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

سبھوتی ہے پھر جو کوئی چاہے کر رکھے اپنے رب تک راہ اور تم نہ چاہو گے مگر

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۹﴾ يُدْخِلُ مَنْ

جو چاہے اللہ بے شک اللہ ہے سب جانتا حکمت والا داخل کرے جسکو

يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ

چاہے اپنی ہر میں اور جو گناہگار ہیں رکھی ہے

عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۴۰﴾

انکو دکھ کی مار



عظمت کلام رب العالمین و تاکید بر پابندی احکام و دوام ذکر و بندگی

قال الله تعالى إنا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ... إِنْ... عَذَابًا أَلِيمًا.

اربط گذشتہ آیات میں انسانی تخلیق کا ذکر تھا اور یہ کہ اسکو عقل و فہم کی صلاحیتوں سے آراستہ کر کے ہدایت و گمراہی کا فرق بتا دیا گیا لیکن اسکے بعد اسکی بدنصیبی ہے کہ وہ عقل و شعور کو بالائے طاق رکھ کر گمراہی میں پڑ جاتے اسکے بالمقابل سعادت کا میاں بی ہے ان انسانوں کی جو خدا کو پہچان کر اس کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو گئے ساتھ ہی سرد گردہ کے احوال بھی بیان کر دیئے گئے اب ان آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور احکام ہدایت کا کامل مجموعہ ہونا بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کہ اللہ کے احکام کی پابندی اور اسکے ذکر و تسبیح میں مصروف رہنا اور عبادت کا دوام ہی انسان کی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت کی کامیابی اور ابدی زندگی کی راحت اسی میں مضمر ہے اور یہ کہ انسان کی یہ ہمت بڑی غلطی اور چوک ہے کہ دنیا کی محبت میں آخرت برباد کر دے تو ارشاد فرمایا۔

بے شک ہم نے اتارا ہے آپ پر قرآن نہایت ہی محفوظ طریقہ پر اتارنا کہ ہر وحی اور آیت کے نزول کے ساتھ ایک پہرہ ہوتا ہے اور فرشتوں کی مکمل حفاظت ہوتی ہے جسکے بعد ممکن نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی پر بھی مارے اس کتاب الہی قرآن میں انسانی ہدایات کے جامع احکام نازل کیئے گئے جن کی اطاعت و پیروی انسان کو سعادت و کمال کے اعلیٰ مقام تک پہنچانے والی ہے اگر کوئی قوم اس کتاب الہی پر ایمان نہیں لاتی اور اسکے احکام نہیں مانتی تو اسے ہمارے پیغمبر آیت اس پر بے چین و مضطرب نہ ہوں بس آپ انتظار کریں اپنے رب کے حکم کا اور اسکے فیصلہ کا جو اس نے حق کی فتح اور اپنے پیغمبر کی کامیابی کا کر رکھا ہے اور اس راہ میں مخالفت کرنے والے اگر مخالفت کرتے ہیں تو کرنے دیجیئے آپ کسی عارضی اور ظاہری مصیبت کے خیال سے ان میں سے کسی بھی نافرمان اور ناشکر گزار کی موافقت ہرگز نہ کیجئے۔ حق لوگوں پر خود واضح ہو جاتے گا یہ مجرمین اگر آپ سے چکنی چپڑھی یا نہیں کریں یا دنیا کی دولت کا لالچ دیں تو ہرگز انکی طرف توجہ بھی نہ دیجئے آپکے رب کے جو فیصلہ کر رکھا ہے بس اسی کا انتظار کریں اور ذکر کرتے رہیں اپنے رب کے نام کا صبح و شام اور

صبح و شام سے مراد ہر وقت ہے کیونکہ یہ اوقات خصوصیت سے انسان کے غفلت یا آرام یا کاروبار یا کھیل تماشے کے ہوتے ہیں تو انکو ایمیت کے لحاظ سے ذکر کر دیا گیا اور صبح و شام سے بظاہر تہجد کی نماز مراد ہے اور تہجد کے ساتھ تسبیح اور ذکر خداوندی کی تاکید اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ذکرین کو تہجد کے علاوہ رات کا طویل حصہ ذکر و تسبیح میں گزارنا چاہیئے - ۱۲ -

رات کے حصوں میں سے کچھ حصہ میں بھی بس اسی کے لئے سر بسجود رہتے اور اسی کی تسبیح و پاکی بیان کرتے رہتے رات کے طویل حصہ تک شب کی تنہائی اور سکون میں ذکر اللہ کی جلالت اور اسکے باطن پر عجیب کیفیت محسوس ہوگی اور اہل اللہ اس وقت وہ لذت محسوس کریں گے کہ دنیا کی کوئی لذت سے لذت چیز بھی اس سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہیں ہو سکتی محبوب رکھتے ہیں جلدی حاصل ہونے والی چیز کو یعنی دنیا اور دنیا کی راحت و لذت اور چھوڑ رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت ہی بھاری دن کو جس کی بیدیت و گرائی کسی سے برداشت نہ ہوگی عقلمند دلا پرواہی سے اس دن کو بھلا دیا اور موجودہ لذتوں میں مہنک ہو کر عذاب خداوندی کو دعوت دے رہے ہیں کس ظلم کی بات ہے کہ اپنے خالق کو بھلا دیا جاتے ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہم نے ہی انکو پیدا کیا ہے اور مضبوط بناتے ہیں انکے جسم کے تمام جوڑ تو جس قدرت و حکمت سے ہم نے انکو پیدا کیا انکے جسم کی ہڈیاں اور جوڑ بڑی خوبی اور حکمت سے بناتے اسی قدرت سے ہم سب کچھ کر سکتے اور انکو فنا کر کے جب چاہیں انکے بدلے ان جیسے لوگ لے آئیں ہمیں اس ارادہ سے کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی اور یہ ظاہر ہے کہ جب ہم جرمین و نافرمانوں کو ہلاک کر کے انکی جگہ دوسروں کو لائیں گے تو وہ ان جیسے جرم و نافرمان نہیں ہوں گے بلکہ وہ مطیع و فرمان بردار ہوں گے بہر حال یہ ایک پیغام نصیحت ہے جو ہم نے بڑی وضاحت سے دنیا کو پہنچا دیا اب جس کا دل چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کر لے اسکی اطاعت و بندگی کا اور جس کا دل چاہے گمراہی اختیار کر لے اور اصل راز یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی قدرت کی طرف سے انسانوں کے لیے طے کر دی گئی ہے اس لیے تم نہیں چاہو گے کوئی چیز مگر وہی جو اللہ چاہے اللہ بے شک سب کچھ جاننے والا بڑی ہی حکمتوں والا ہے اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اسکو اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے وہ اپنی استعداد و صلاحیت سے توفیق خداوندی ہدایت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں اور رہا ظالموں کا معاملہ جو اپنی کجروی اور عقل و فطرت کے تقاضوں کو ٹھکرا کر گمراہی اختیار کر لیں اور نہ کسی ہادئ کی بات کو سنیں اور نہ حق کو سمجھیں تو ان کے واسطے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بس مرنے کی دیر ہے جسم سے روح نکلتے ہی ان مجرموں کو اپنا انجام نظر آجائے گا اور جس عذاب کا انکار کرتے تھے اسکی گرفت سے کسی طرح نہ بچ سکیں گے۔

سورت کی ابتداء اس بات سے تھی کہ انسان پر ایک ایسا وقت گذرا ہے کہ وہ نیست نابود

فائدہ

متنا پھر اس کو حق تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے پیدا کیا کہ ایک قطرہ منیٰ کو مختلف

۷ چنانچہ مشہور ہے اہل اللیل فی لیالہم ہم الذین اہل العیش فی عیشہم کہ راتوں کو بیدار رہنے والے عابدین و ذاکرین کو ذکر اللہ سے وہ لذت محسوس ہوتی ہے جو عیش پرستوں کو اپنے عیش و عشرت میں نصیب نہیں ہو سکتی - ۱۳

ادوار مراحل سے نشوونما عطا کیا ہو جس دجواں ادراک و شعور کی صلاحیتوں کے ساتھ لے پیدا کیا اور اسکے دونوں راستے کھول کر رکھ دیئے گئے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے اور دوسرا گمراہی کا اب اس کے بعد جو انسان اپنی فطری صلاحیت سے ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ آخرت میں جنت اور انعامات خداوندی کا مستحق ہے اور جو دیکھتی آنکھوں ہلاکت و گمراہی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو بس اسکے واسطے دردناک عذاب ہی ہونا چاہیے جو اسکے رب کے تیار کر رکھا ہے تو اس طرح سورت کا آغاز اور سورت کی انتہا۔ باہم نہایت ہی مرملط واقع ہوتی ہے اور یہ ربط قرآن کریم کے اعجاز اور کمال بلاغت کی دلیل ہے تو محمد اللہ تفسیر مسودۃ الدھر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ

سورت المرسلات مکہ ہے اور دیگر مکی سورتوں کی طرح یہ بھی عقیدہ توحید آخرت اور بعثت بعد الموت جیسے مضامین کی تحقیق و تفصیل پر مشتمل ہے اسکے درک و شعور اور پچاس آیات ہیں۔ سورت کی ابتداء ملائکہ اور چلنے والی ہوا ذل کی قسم سے کی گئی اور فرشتوں میں ان کا ذکر فرمایا جو مختلف انواع و اقسام کے نیکوینی امور پر مامور ہیں مضمون مقسوم علیہ قیامت کا وقوع ہے جس کو اِنَّمَا تَوَعَّدُونَ دو لکوا وقع، کے عنوان سے بیان فرمایا گیا اسی کے ساتھ یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے وقوع پر کائنات عالم کا نظام کس طرح درہم برہم کر دیا جائے گا اگرچہ اسکو اجمالاً بیان فرمایا انبات قیامت کے مضمون کے ساتھ توحید خداوندی اور اسکے دلائل ذکر کیے گئے اور دلائل قدرت اور توحید رب العالمین سے اعراض دہے رخی کرنے والوں پر وعید کا سلسلہ بیان اخیر سورت تک جاری رکھا گیا اور یہ کہ قیامت کے روز انکا حال نہایت ہی بُرا ہوگا ان مجرمین کی ذلت کی کوئی مدد نہ ہوگی اور حقارت و نفرت کے ساتھ انکو جہنم میں دھکیں دیا جائے گا یہ کہتے ہوئے کہ دیکھ لو یہ ہے وہ جہنم جسکی تم تکذیب کرتے تھے۔

اختتام سورت پر ان اعمال اور بدترین خصلتوں کا بھی ذکر فرمایا گیا جو کفار کی فطرت میں رچی ہوئی تھیں اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کافروں کو دنیوی نعمتوں کو دیکھ کر کسی دھوکہ میں نہ رہنا چاہیے یہ تو خدا کی طرف سے انکو ڈھیل دی جا رہی ہے اور ایک طرح کا استمان ہے اس لئے اہل ایمان اور حق پرست لوگوں کو کسی قسم کے شہ میں نہ بڑھانا چاہیے۔

آیاتہا ۵۰ = سورۃ المرسلات مکیہ ۳۳ = فیہا رکوعان

سورۃ مرسلات مکی ہے اور اس میں پچاس آیتیں اور دو رکوع ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَالرَّسُلَاتِ عُرْفًا ۱ فَاَلْعَصْفِ عَصْفًا ۲ وَالنَّشْرِ

قسم ہے جتنی باتوں کی دل کو خوش آتی پھر جھونکا دینے والیاں زور سے پھر بھانسنے والیاں

نَشْرًا ۳ فَالْفُرْقَاتِ فُرْقَاتًا ۴ فَالْمَلٰٓئِقَاتِ ذِكْرًا ۵ عُدْرًا اَوْنَدْرًا ۶

اٹھا کر پھر بھاڑنے والیاں بات کر پھر فرشتے اتارنے والوں کی سمجھتی الزام اتارنے کو یاد دہانے کو

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوٰٓاِقِعٍ ۷ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمَسَتْ ۸ وَاِذَا السَّمَاءُ

مقرر جو تم سے وعدہ ہوا سو ہونا ہے پھر جب تارے ملتے جاویں اور جب آسمان میں

فُرِجَتْ ۹ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۱۰ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ ۱۱

بھرد کے بڑیں اور جب پہاڑ اڑتے جاویں اور جب رسولوں کا وعدہ ٹھہرے

لَاۤ اِیُّ یَوْمٍ اُجِّلَتْ ۱۲ لَیۡوِمِ الْفَصْلِ ۱۳ وَاَمَّا اَدْرَاکُ مَا یَوْمِ

کس دن کی ان کو دیر ہے اس فیصلہ کے دن کی اور تو کیا بوجھا؟ کیا ہے فیصلہ

الْفَصْلِ ۱۴ وَاِیُّ یَوْمٍ اُجِّلَتْ ۱۵ اَلْمَنْ نُهٰلِكَ

کا دن؟ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم کھپا نہیں

الْاَوَّلِیْنَ ۱۶ ثُمَّ نَتَّبِعُهُمُ الْاٰخِرِیْنَ ۱۷ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ

پلکے اگلے پھر انکے پیچھے بھیجتے ہیں پھلے ہم یہی کچھ کرتے ہیں

بِالْمُجْرِمِیْنَ ۱۸ وَاِیُّ یَوْمٍ اُجِّلَتْ ۱۹ اَلْمَنْ نَخْلُقُكُمْ

مگن بگاروں سے خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے نہیں بنایا تمکو

مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۙ إِلَىٰ قَدَرٍ

ایک بے قدر پانی سے ؟ بھر رکھا اسکو ایک جگہ ٹھہراؤ میں ایک وعدہ

مَعْلُومٍ ۙ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقُدْرُونَ ۙ وَيْلٌ يَّوْمِيذٍ

مقرر تک پھر ہم کر سکے سو کیا خوب سکت والے ہیں خرابی ہے اس دن

لِلْمُكْذِبِينَ ۙ أَلَمْ يَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۙ أَحْيَاءَ وَأَمْوَاتًا ۙ

جھٹلانے والوں کی کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سینے والی جیوتوں کو اور مردوں کو

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۙ

اور رکھے اس میں بوجھ کو پہاڑ اونچے اور پلایا تمکو پانی سیٹھا بیاس بھاتا

وَيْلٌ يَّوْمِيذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ ۙ انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی چلو دیکھو! جو چیز تم

تُكْذِبُونَ ۙ انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۙ لَا

جھٹلاتے تھے چلو ایک جھاڑوں میں جس کی تین بھانگیں نہ

ظِلِّ وَلَا يُغْنِي مِنَ الْهَبِّ ۙ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّهَا لِقَصْرِ ۙ

گھن کی اور نہ کام آوے پیش میں وہ آگ بھینکتی ہے چنگاریاں جیسے محل

كَأَنَّهُ جُمَلَتُ صَفْرًا ۙ وَيْلٌ يَّوْمِيذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ ۙ

جیسے وہ اونٹ ہیں زرد خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۙ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ انکو حکم ہو کہ توبہ کریں

وَيْلٌ يَّوْمِيذٍ لِّلْمُكْذِبِينَ ۙ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۙ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی یہ ہے دن فیصلے کا

جَمَعْتَكُمْ وَالْأَوْلِيْنَ ۝۳۸ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فِيدُونِ ۝۳۹

جمع کیا ہم نے تمکو اور اگلوں کو پھر اگر کچھ داد سے تمہارا، تو چلا لو مجھ پر

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۰ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو ڈر والے ہیں وہ چھاؤں میں ہیں

وَعِيُونٍ ۝۴۱ وَفَوَآكِهِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۝۴۲ كَلُوا وَاشْرَبُوا

لور نیروں میں اور میوے جس قسم کے جی چاہے کھاؤ اور پیو

هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۴۳ إِنَّكَ ذَاكَ نَجْرَى الْمُحْسِنِينَ ۝۴۴

رج سے بدلہ اس کا جو کرتے تھے ہم یونہی دیتے ہیں بدلہ سنی والوں کو

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۵ كَلُوا وَتَسْتَعْوَأُونَ قَلِيلًا

خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی کھالو اور برت لو تھوڑے دنوں

إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ۝۴۶ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۷ وَإِذَا

تم مقرر گنہگار ہو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی اور جب

قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ۝۴۸ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ

کہتے انکو رکو نہیں روتے خرابی ہے اس دن

لِلْمُكَذِّبِينَ ۝۴۹ فَبِأَيِّ

جھٹلانے والوں کی اب کس

حَدِيثٍ بَعْدَهُ

بات پر اسکے بعد

يَوْمِنُونَ ۝۵۰

یقین لادیں گے

اعلان پرانندی نظام عالم برائے تکمیل و عہدہ قیامت و بربادی مجرمین و انعام اللطف ابرو متومنین

قال اللہ تعالیٰ . وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا... الخ... فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ
 ربط گذشتہ سورت میں انسانی ہستی کا بیان تھا کہ کائنات کی تخلیق اور دنیا میں انسانوں کی آبادی
 اس طرح پیش آئی کہ ایک وقت تھا کہ انسان کا کوئی وجود ہی نہ تھا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اسکو عدم سے
 وجود بخشا اور اسی کے لئے یہ کارخانہ عالم قائم کیا جیسے کہ فرمان ہے وَخَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
 اور ظاہر ہے کہ تخلیق انسان اور نظام کائنات قائم کرنے کی غرض ہے اللہ کی عبادت و بندگی ہے جس پر انسانوں
 کے دو گروہ بٹ گئے ایک گروہ اہل ایمان و اطاعت کا ہوا دوسرا گروہ نافرمان و مجرمین کا تو اب اس سورت
 میں نظام عالم درہم برہم کر دینے کا ذکر ہے اور یہ کہ رب العالمین نے قیامت کا جو وعدہ کیا ہے وہ کس
 طرح پورا ہوگا اسکے لئے ان احوال کو بیان فرمایا جا رہا ہے جو قیامت کے واسطے مبادی ہوں گے اور ان کے
 پیش آنے پر کائنات کا یہ جملہ نظام درہم برہم کر دیا جائے گا ارشاد فرمایا۔

قسم ہے ان خوشگوار ہواؤں کی جو جاری ہیں لطافت و نرمی کے ساتھ جن کے لطیف جھونکوں سے
 مخلوق کی زندگی اور ان کے منافع وابستہ ہیں پھر قسم ہے ان تیز و تند آندھیوں کے جھونکوں کی جو اکھاڑ پھینکنے

ترجمہ میں ان الفاظ کا اضاذ عرفا کے معنی لغوی و عربی کے پیش نظر کیا گیا اور اس امر کو بھی ملحوظ رکھتے
 ہوتے یہ لفظ عربیت کے لحاظ سے تیسرے ہے المرسلات کے لئے اور مقصد و غرض بھی ایسے نرم و لطیف اور
 خوشگوار ہوا کے جھونکوں کے واسطے۔

اس سورت پر خداوند عالم نے جن پانچ چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ یہ ہیں المرسلات . العاصفات الناثرات
 الفارقات اور الملقیات .

سورۃ والمرسلات میں اختیار کردہ الفاظ قسم کی تشریح

ان پانچ چیزوں کی مراد اور ان کے معنی کے متعلق ائمہ مفسرین نے متعدد اقوال بعض حضرات صحابہ
 اور تابعین سے نقل کیتے ہیں اعمش ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بیان کیا کرتے تھے کہ ان سے ملائکہ
 اور فرشتے مراد ہیں لیکن اسکے بالمقابل سفیان ثوری نے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود
 رضی اللہ عنہ سے جب ان آیات کے بارہ میں دریافت کیا گیا تو فرمایا ان سے مراد ہوا میں ہیں
 باقی ۳۳۳

والی ہوں درختوں اور غارتوں کو اکھاڑ پھینکنے کی شدت کے ساتھ پھر ان ہواؤں کی جو بلندی تک لے جانے والی ہوں کسی چیز کو اٹھا کر وہ بخارات ہوں یا گر دو غبار یا بادل ہوں جن کو ہوائیں بلندی تک لے جائیں اور

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد دقتادہ سے بھی یہی منقول ہے ان اقوال کا حاصل یہ ہے کہ ایک جماعت یا بچوں کو فرشتوں کے معنی پر غمول کرتی ہے دوسری جماعت سب کو ہواؤں پر منطبق کرتی ہے۔

ملائکہ۔ مصداق ہونے کی صورت میں اس طرح ترجمہ ہوگا قسم ہے ان فرشتوں کی جو بھیجے جاتے ہیں

(حضرات انبیاء علیہم السلام کی طرف) نیکی اور بھلائی کیلئے " اس لئے کہ وہ وحی الہی لے کر آتے ہیں اور

اللہ کی وحی ہی دین دنیا کی خیر اور فلاح کی ضامن ہے پھر ان فرشتوں کی جو اکھاڑ پھینکنے والے ہیں

کہ وہ عالم میں تغیر و تبدل اور ہنگامہ و تہلکہ جیسی باتوں کے لئے مامور ہیں پھر قسم ہے ان فرشتوں کی

جو پھیلا دینے والے ہیں یعنی ایسی جماعت جو مثلاً قحط و آفات ذاتی صحت و بیماری جیسی چیزوں کو

عالم میں پھیلانے پر مامور ہے پھر ان فرشتوں کی جو فرق کر دینے والے ہیں عالم میں فرق کر دینا

حق و باطل۔ ضعف و قوت، نور و ظلمت، حرارت و برودت اچھے برے اور نفع و نقصان جیسے امور

میں اور ایک جماعت فرشتوں کی نظام عالم کی تدبیر میں اسی پر مامور ہے پھر قسم ہے ان فرشتوں

کی جو ڈالنے والے ہیں ذکر یعنی وہ فرشتے جو تدبیر عالم میں اس پر مامور ہے کہ تکمیل مخلوق کے بعد

ان میں ذکر الہی ڈالتے ہیں۔ خواہ وہ ذکر غیر اختیاری طور پر اس مخلوق میں ڈالتا ہو جیسے کہ نباتات

اشجار و اجار طیور و بہائم اور حشرات سبکی قدرت اور سرشت میں ذکر ڈالا گیا چنانچہ ارشاد ہے۔

وَأَنَّ هُمْ شَيْخُ الْإِسْلَامِ يَحْمَدُهُ وَالْكَوْثُ لَا تَقْمُوتُ تَسْبِيحُهُمْ اور ارشاد ہے

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَوَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ غرض ہر مخلوق ذکر الہی کر رہی ہے جیسا کہ کہا گیا۔

بذکرش ہرچہ بینی درخوردشش است

دلے داند دریں معنی کہ گوشش است

یادہ ڈالنا اس طرح ہو کہ مخلوق اپنے ارادہ اور اختیار سے اس ذکر میں معروف ہو یہ نوعیت ذی

العقل یعنی انسانوں کے لیے ہے یا جن و ملائکہ کے لیے کہ فرشتے لنگے دل میں ذکر کا القا کرتے ہیں

اور فرشتے ہی لوح محفوظ سے اللہ کے ذکر تسبیح و تحمید اور اسکی طاعت و عبادت کے احکام لے کر آتے

ہیں اور پھر اللہ کے بندے (فرشتوں اور جنوں میں سے اہل ایمان) وہ ذکر کرتے ہیں اور ان احکام

پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور وحی الہی جو ان فرشتوں کے ذریعہ اتری اس سے انسانوں کے عذر اور

جیلے بہانے ہی ختم کر دیتے گئے اور عذاب آخرت سے ڈرایا بھی گیا بہر کیف یہ دونوں قسم کا

ذکر فرشتوں ہی نے مخلوق میں لاکر ڈالا تو ان فرشتوں کی ان کلمات میں قسم کھائی گئی تو اس

باقی صفحہ پر

فضا میں پھیلا دیں اور جہاں حکم خدا ہو وہاں پہنچا دیں پھر ان ہواؤں کی جو پھاڑ دینے والی ہوں بنانا
یا پھل اور پھولوں کو یا بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہ ان ہی جھونکوں نے زمین کی تہوں کو شق کر کے زمین

باتی حیرت سے ان پانچوں کلمات سے فرشتوں کی ان قسموں کا بیان ہوا جو نظام عالم اور تدبیر خلائی
میں ان امور پر مقرر ہیں جن میں مخلوق عالم اور عالم کی ہر موجود چیز کی ابتدائی حالت پھر اسکی
قوت و کمال تک پہنچنے کی نہایت پھر ممکنات کے اکتساب خیر و شر اور اس کے بعد کی حالت
پھر بقا عالم کے اسباب اور شے کی نشوونما کی کیفیت کہ عالم عدم سے عالم ظہور تک کیا کیا صورتیں
اور تغیرات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور پھر سب کی پیدائش کا نتیجہ اور غرض دارِ آخرت کی تیاری
اور اس ضمن میں اہل عقل کے لیے اتمام حجت اور عذابِ آخرت سے ڈرانا غرض یہ انواع و
اقسام ہیں جو تدبیر عالم میں فرشتوں کے ذریعہ مخلوقات میں جاری ہیں۔

یہ ترجمہ تو اس تقدیر پر ہوا کہ فرشتے مراد ہوں اور اگر ہوائیں مراد ہوں تو پہلی چار قسموں کا مطلب
ترجمہ میں ظاہر کر دیا گیا اب اس صورت میں اگر قائلہ لقیات ذکر کیا بھی ہوا پر محمول ہو تو یہ معنی
ہوں گے کہ وہ ہوائیں جو ذکر اور دجی کو لوگوں کے کانوں میں ڈالنے والی ہیں کیونکہ آواز کا کانوں تک
پہنچانا ہوا ہی کا کام ہے جیسے شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا۔

تو اس دوسرے قول کے پیش نظر ہوا کی ان پانچ قسموں کو قسم کھانے کے لیے اس بنا پر مخصوص
کیا گیا کہ ہوا کا عالم کی بقا و فنا اور کاروبار میں عجب دخل ہے سننا دیکھنا، چھونا، چکھنا، سونگھنا
سب کچھ ہوا پر ہی موقوف ہے آواز بھی ہوا کے ذریعے تکلیف ہو کر کان پر پہنچتی ہے دیکھنے میں
بھی شائبہ بصری شے مرئی اور مبصر تک رسائی کرتی ہے کیونکہ عنصر لطیف ہے تو جب کہ کوئی حائل
نہیں تو ہوا بھی شعاع بصری کے نفوذ کا ذریعہ ہے علیٰ ہذا القیاس دیگر ادراکات کا بھی یہی حال
ہے نیز ہوا ہی سے ہر جاندار کی حیات وابستہ ہے تو اس عظمت کے پیش نظر ہواؤں کی قسم
کھاتے ہوئے فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو نرم و لطیف اور خوشگوار جھونکوں کی صورت میں
چلتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جن کے تیز و تند جھونکے درختوں اور سمندر میں چلنے والی کشتیوں کو
اکھاڑ پھینکے اور سمندر میں طوفان برپا کر دیں گویا یہ ہوائیں تلاطم اور انقلاب برپا کرنے والی ہیں
پھر فا کا لفظ لاکر یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ہر چیز کے دو وصف ہوتے ہیں تو وہی ہوائیں جو ابتدائی میں
نرم و لطیف ہوتی ہیں وہی شدت اختیار کر کے طوفان و تلاطم بھی برپا کر دیتی ہیں پھر ان ہواؤں
کی قسم جو عالم میں بکھیرنے اور پھیلائے والی ہیں کہیں بادلوں کو پھیلا رہی ہیں کہیں سردی گرنی
کو کہیں صحت و مرض کو کہیں رطوبت و بیہوشی کو حتیٰ کہ آوازوں کو پھر قسم ان ہواؤں کی جو
جدا کرتی ہیں اور فرق کرتی ہیں حتیٰ کہ غلہ کو گھاس کے تنکوں اور بانی کو کہ درخت سے نیز اجزاء

میں دبے ہوئے تخم اور بیج کو سبزہ کی شکل میں رو نما کیا اور ان ہی جھونکوں نے پھولوں کی کلیاں شگفتہ بنائیں اور انہی ہواؤں نے خوشوں کو پھاڑ کر پھل نمودار کیئے اور ان ہی ہواؤں نے بادلوں کو پھاڑ کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیئے اور پھر مختلف جانوں میں پھیلا یا پھر قسم سے ان فرشتوں کی جراتا کر لاتے ہیں اللہ کی وحی کو عذر ختم کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے کہ کافروں اور نافرمانوں کے لیے کوئی عذر کی گنجائش نہ رہے اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمیں تو خبر نہ تھی یا ڈرانے کے لیے عذابِ آخرت سے کہ اگر کسی کو علم بالا حکام ہو تو ہو لیکن اسکو خوفِ خدا نہیں اور آخرت کے عذاب کا ڈر نہیں تو فرشتوں نے اللہ کی وحی اتار کر حیلے اور معذرت کا دروازہ بھی بند کر دیا اور اس وحی الہی میں خوفِ خدا اور عذابِ آخرت کا سامان بھی ہمایا اور ہر ذکر اور وحی خداوندی میں ان دونوں باتوں میں سے ضرور ایک نہ ایک چیز موجود ہے اس سے خلو ممکن نہیں البتہ یہ دونوں چیزیں بہت سی جگہ مجتمع ہو کر بھی پائی جاتی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ اسے لوگو! بے شک بس اسکے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا گیا وہ یقیناً واقع ہونے

بات مائتہ ۳۳۳۔ بناتیہ کو اجزاء حیوانیہ سے جدا کرنا اسی ہوا کا کام ہے پھر یہی ہوا ہے جو مغزوروں اور سرکشوں کے اجسام کے اعضا کو مرنے کے بعد پارہ پارہ کر کے اڑانے اور جدا کرنے والی ہے کہ سر کہیں اور جسم کہیں الغرض یہ ہوا ہی تمام عالم میں جمع و تفریق اور تالیف و انتشار کا کرشمہ دکھا رہی ہے تو یہ ناشرات و فارتات ہوتیں انقلاب و تغیر اور ایشیا عالم کی پرانگندگی اور انکے اجتماع کو ظاہر کر کے قیامت کا نمود پیش کر رہی ہیں اور پھر اخیر میں ان ہواؤں کی قسم کھاتی جو ذکر الہی اور وحی خداوندی عالم میں پھیلا نے والی ہیں تو اس طرح مخاطب کے ذہن میں ان احوال و امور کا جو قیامت کا نقشہ بڑی سہولت سے ہر مخاطب کے سامنے لاسکتے ہیں جو اب قسم میں قیامت کا واقع ہونا بیان فرمایا اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ كَوَاقِعٍ۔ اے انسانو! جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بے شک ہو کر رہے گی۔

حضرت شاہ عبدالقادر اور حضرت شیخ الہند کی راستے یہ ہے کہ اول چار قسمیں ہواؤں کی ہیں اور پانچویں قسم فرشتوں کی ہے ہم نے ترجمہ میں اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے پانچویں قسم کے ساتھ فرشتوں کا ترجمہ کیا واللہ اعلم بالصواب تفصیل کے لیے روح المعانی تفسیر عزیزی اور تفسیر حقانی کی مراجعت فرمائیے۔ ان کلمات کا اضافہ اس بات کو واضح کرنے کیلئے ہے کہ عَذَابٌ اَوْ نَذَابٌ میں اذ انفسالِ حقیقی کے لیے نہیں ہے اور نہ مانہ الجمع ہے بلکہ یہ بطریق قضیہ منفصل مانعہ الخلو ہے کہ ہر وہ ذکر جس کا فرشتوں نے القاء کیا ہے اس میں کسی جگہ عذر و معاذیر کو ختم کرنا ہے تو کسی جگہ عذاب سے ڈرانا ہے یہ دونوں باتیں کبھی علیحدہ علیحدہ پائی جاتی ہیں اور کہیں کسی ذکر اور وحی میں دونوں مجتمع اور موجود ہوتی ہیں لیکن یہ ممکن نہیں کہ ان میں سے کوئی نہ ہو۔

والی ہے اور وہ قیامت ہے آخرت میں میدانِ حشر کی ہنسی حساب و کتاب اور جزاء سزا جیسے جملہ احوال ہیں جن میں جنت و جہنم بھی ہے بلاشبہ ان میں سے ہر ایک بات واقع ہو کر رہے گی اور انکے وقوع میں شہ کرنے والے کو دیکھ لینا چاہیئے کہ عالم میں چلتی ہوئی ہواؤں میں دن رات قیامت لبعث بعد الموت اور فناء و بقا کے نمونے موجود ہیں جن کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو پھر کون ہے جو اس روز قیامت کے آنے میں شہد کرے جان لینا چاہیئے کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب کہ ستارے بے نور کر دیتے جائیں گے اور آسمانوں میں شکاف پڑ جائیں گے اور پھٹ کر ان میں درتیکے اور جھروکے جیسے نظر آنے لگیں گے اور جب کہ پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے حتیٰ کہ روٹی کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے اور جب کہ رسولوں کو ایک وقت مقرر کر کے ساتھ متعین مقرر کر دیا جائے گا جو یکے بعد دیگرے اپنی اپنی امتوں کے ساتھ بارگاہِ رب العزت میں پیش ہوں گے اور پھر رسولوں سے بھی سوال ہوگا اور انکی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا یہ ہے قیامت! اور قیامت کے وقت پیش آنے والے احوال اور جانتے بھی ہو اسے لوگو! کس دن کے واسطے ان چیزوں کو مؤخر اور ایک طے شدہ وقت کیلئے موقت کیا گیا ہے یہ سب کچھ اس دن کے لیے جو ہر بات اور ہر چیز میں آخری اور دوڑک فیصلہ کا دن ہے اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ دن اسی وقت برپا کر دیتا اور ابھی ہر چیز کا فیصلہ ہو جاتا لیکن اسکی حکمت کا تقاضا تھا کہ اسکو مؤخر کیا جائے اور اسے انسان تو جانتا بھی ہے کہ کیلئے یہ فیصلہ کا دن مست پوچھو کہ یہ فیصلہ کا دن کیا ہے؟ اسکی ہیبت و شدت کی کوئی حد نہیں اور جھٹلانے والوں کے لیے اس روز سخت مصیبت دہنا ہی کا سامنا ہوگا اور یکا یک ایسی ہولناک صورت سامنے آجائے گی کہ ہوش و حواس پر اگندہ ہوں گے اور حسرت و ندامت ان منکرین پر مسلط ہوگی بس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ منکرین و مکذبین سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کہاں اس قدر وسیع دنیا ہلاک ہو جائے گی اور کس طرح ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور نسل انسانی نیست و نابود ہو کر کس طرح زندہ کی جائے گی کہاں جہنم اور عذاب جہنم اور کیسی جنت اور جنت کی نعمتیں تو منکرین و مکذبین کو کیا یہ معلوم نہیں ہم ان سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر ہم ان کے بعد لاتے رہے بعد والوں کو تو موت و ہلاکت اور پہلوں کے دنیا سے نیست و نابود ہو کر بچھلوں کا آنا کوئی عجیب بات نہیں ہماری قدرت کا یہ سلسلہ تاریخ قدیم سے چلا آ رہا ہے جو

سے جیسا کہ ارشاد ہے وَ یَوْمَ نَسِیَ الْجِبَالُ وَ تَرَى الْمَآذِنَ بَارِزَةً اور ارشاد ہے وَ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّی نَسْفًا ۱۲
 عتہ یہ وہی مضمون ہے جو یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فِیَقُولُ مَاذَا أُرْجِیْتُمْ میں ذکر فرمایا گیا۔

یہ دیکھتے رہے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کیسے خیال کیا تھا کہ ہم دنیا کے انسانوں کو فنا کر کے دوبارہ قیامت کے روز انکو نہیں اٹھائیں گے ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ کہ ان پر جرم کے سبب عذاب نازل کیا انکو ہلاک کر کے پھر دوسری قوم کو لے آتے تو اب ہم نے قیامت کے روز سب مجرموں کو جمع کر لیا تاکہ انکو عذاب دیں اور سب اہل ایمان کو بھی جمع کر لیا تاکہ مجرمین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ ایمان دہن والوں کے واسطے کیسے کیسے نعمات ہیں پس بلاکت و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لئے آخر انکار کرنے والوں نے کیوں قیامت کا انکار کیا اے انسانو! کیا ہم نے پیدا نہیں کیا ہے تمہیں ایک حقیر پانی سے لطف منی سے پھر کیا نہیں رکھا ہے ایک محفوظ ٹھیراؤ کی جگہ میں یعنی رحم مادر میں جہاں اس لطف نے نہایت ہی محفوظ طریقہ سے نشوونما پایا اعضاء کی ساخت ہوتی شکل و صورت بنی اس میں حیات و روح کو ڈالا یہ سب کچھ اس کے معین کردہ وقت تک کیلئے ہوتا

عہ اس موقع پر جس اہم اور عظیم الشان مضمون کے لئے خداوند عالم نے پانچ چیزوں کی قسم کھائی اور ان قسموں پر اصل مدعی اور مقصد کو واضح فرمایا وہ مقصد مدعی اِنَّمَا تُوْعَدُونَ تَوَاقِعُ ہے کہ قیامت جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ برحق ہے اور صادق ہے اور بلاشبہ قیامت واقع ہو کر رہے گی تو اس کے ثابت کرنے کے لیے منجملہ دلائل یہ بھی ایک اہم دلیل بیان کی گئی اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّا مَشِينُ یعنی انسانی تخلیق کا یہ سلسلہ یقیناً اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی دلیل تو ہے ہی لیکن اس نظام قدرت میں قیامت اور بعث بعد الموت کا بھی پورا پورا نمونہ موجود ہے کہ کس طرح خداوند عالم نے ایک قطرہ میں انسان کے تمام جسم اور اعضاء جسم کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے کہ سر سے پاؤں تک کے جملہ اعضاء بطور جوہر اس ایک قطرہ میں ہیں پھر صرف یہی نہیں کہ اجزاء بدنہ بلکہ ہر شخص کی عادات خصلتیں مزاج شکل و صورت حتیٰ کہ آواز اور طرز گفتگو جیسی کیفیات بھی اس میں جمع کر دی ہیں چنانچہ اسی ذریعہ سے یہ ساری صفات اور کیفیات اولاد میں منتقل ہوتی ہیں تو اس طرح بعث بعد الموت کا مسئلہ ثابت کیا گیا کہ جس سمجھ لو ایسے ہی خداوند عالم انسانوں کے مرنے کے بعد انکے اجزاء بدنہ سمیٹ کر اٹھائے گا خواہ وہ کسی بھی حالت کو اختیار کر چکے ہوں اور انسانی اجزاء کا جمع کر کے اٹھانا اس سے زیادہ عجیب نہیں کہ ایک قطرہ مٹی میں تمام اجزاء بدنہ اور اوصاف و عادات جمع کر کے اس کو دوبارہ ایک انسانی شکل و صورت میں پیدا کیا جاتے تو اس طرح اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِمَّا مَشِينُ کا مضمون اِنَّمَا تُوْعَدُونَ تَوَاقِعُ کے ثبوت کے لیے دلیل کے طور پر مرتب کیا گیا واللہ اعلم بالصواب ۱۲۰

ہے جو مدتِ حمل ہے اس وقت پر انسان ان تمام تدریجی مراحل کو طے کر کے دنیا میں آتا ہے تو ہم نے ایک وقت کا اندازہ کر دیا ہے اور طے کر لیا ہے بس ہم بہت ہی اچھے انداز سے وقت مقرر کرنے والے ہیں کہ کیسی خوبی سے ایک لطف کے لیے تدریجی مراحل سے نشوونما مقرر کر کے اسکو انسانی شکل میں پیدا کیا جبکہ انسانی عقل و فکر کے محدود دائرہ میں سوچنے والا انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ حقیر سا قطرہ آئنی مدت کے بعد بہترین اعضا کی ساخت شکل و صورت حیات و ادراک اور عقل و شعور کی تمام صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہو جائے گا تو بس اسی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ انسان مرنے اور ہلاک ہونے کے بعد دوبارہ قیامت کے روز زندہ ہو کر اٹھے گا رہا یہ امر کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ تو یہ ایک مقرر کردہ وقت ہے جو اللہ نے اپنی ایسی ہی حکمت بالغہ اور کاملہ سے مقرر کر رکھا ہے جیسا کہ ہر لطف کی پیدائش کا اس نے اپنی حکمت سے وقت مقرر کیا اور اس میں جہلت رکھی پس ہلاکت و بربادی ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لیے تو کیا یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت نہیں ہیں کہ وہ خداوند عالم قیامت قائم کرنے پر قادر ہے اور ان منکرین کا یہ کہنا کہ ہم مٹی میں ملنے کے بعد جب کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیونکر ہم دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، نہایت ہی لغو اور مہمل بات ہے انکو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم نے نہیں بنایا ہے زمین کو جو سمیٹنے والی ہے زندوں کو اور مردوں کو جس پر زندہ بھی آباد ہیں اور مردے بھی اس میں مرنے کے بعد دفن ہیں اس طرح زندوں کو بھی اسی خاک سے حیات و زندگی ملی اور مر کر بھی اس میں چلے گئے تو جس خاک سے انسانوں کی نشوونما ہے اسی خاک میں ملنے والے انسانوں کے اس میں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے پر کیا تعجب ہے کیوں نہیں اس بات کو دیکھ کر ہر دانہ زمین میں بوسیتے جانے کے بعد جب کہ وہ مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ اور بظاہر مٹی ہی بن جاتا ہے کس طرح آگ رہا ہے قیامت اور بعثت بعد الموت کا مسئلہ نہیں سمجھتے تو جب زمین میں دفن ہو چکنے کے بعد ہر دانہ اور تخم دوبارہ پیدا ہو رہا ہے تو کیوں نہیں انسان زمین میں مل کر اور خاک ہو کر دوبارہ پیدا ہو سکتے تو جس قادر مطلق کی قدرت کے یہ نمونے دن رات نظروں کے سامنے ہیں اس قادر مطلق کو کیا مشکل ہے کہ عالم کو فنا کر کے قیامت قائم کر دے اور اس زمین میں ہم نے بنائے ہیں ایسے جم جانے والے بوجھل پہاڑ جن کی چوٹیاں بلند ہیں جو اپنی جگہ سے ذرہ بھی جنبش نہیں کھاتے تو یہ زمین کس قدر مضبوط ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایسے وزنی پہاڑوں کو اٹھا

۱۷۷ ان کلمات سے اشارہ کیا گیا کہ آیت فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ کا تعلق ہر دو مدتوں کی تقدیر اور تعین سے ہے یعنی مدتِ حمل کی تقدیر تو جس طرح مدتِ حمل کی تقدیر اللہ کی حکمت کاملہ پر مبنی ہے اسی طرح قیامت کی مدت بھی اللہ نے اپنی حکمت کاملہ سے طے کر رکھی ہے اور وہ اسی پر واضح ہو گی۔ ۱۷۷۔

رکھا ہے جنکی بلند چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں اور اسی زمین اور پہاڑوں سے چشمے جاری کر کے نکو میٹھا پانی پلایا جو بیاس، بچھانے والا ہے پانی کے یہ سیال چشمے مضبوط زمین اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کر خدا کی عظیم قدرت کا نمونہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو جو خداوند عالم اپنی قدرت کاملہ کے یہ متضاد نمونے دکھلا رہا ہے اور موت و حیات اور سختی و نرمی کے مناظر پیش کر رہا ہے کیا وہ خدا میدانِ حشر میں نرمی و سختی اور نجات و ہلاکت کے مناظر نہیں دکھلا سکتا؟ نیز جس کے قبضہ میں تمام اسباب حیات ہیں اور وہ پہاڑوں کے بیضے میں معدنیات پانی کے چشمے اور بے شمار چیزیں جمع کرنے والا ہے اس پروردگار کو کیا مشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد زمین میں دفن ہونے کے بعد ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد ابدان کو اور ان اجسام کو جو ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑ رہے ہوں یا پانی کی موجوں میں بہ رہے ہوں انکو اپنی قدرت بالغہ سے سمیٹ کر جمع کر لے اور دوبارہ میدانِ حشر میں اٹھائے ان حقائق اور مناظر قدرت کو دیکھ کر تو کسی کی یہ مجال نہ ہونی چاہیے کہ انکار کرے لیکن افسوس کہ پھر بھی بہت سے انکار کرنے والے انکار کرتے ہیں پس ہلاکت و تباہی ہے انکار کرنے والوں کے لیے ہر کیف قیامت کا برابر ہونا یقینی ہے اور خداوند عالم جس کی قدرت کے یہ عظیم کرشمے نظروں کے سامنے ہمہ وقت موجود ہیں انکے ہوتے ہوئے کسی کو مجال نہیں کہ قیامت کا انکار کر سکے تو جب قیامت قائم ہوگی مردوں کو انکی قبروں سے اٹھایا جا رہا ہوگا آفتاب کی تپش سے لوگوں کے دماغ کھول رہے ہوں گے اہل ایمان کیلئے سایہ عرش ہوگا اور مجرمین و منکرین بدحواسی کے عالم میں ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا چلو اس چیز کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے اور اسکا انکار کرتے تھے وہ نامہ اعمال کی پیشی اور میزان اعمال پر حاضری اور جہنم کے کناروں پر قائم کردہ پل پر سے گذرنا ہے اس اعلان پر منکرین و کفار بے چینی سے گریہ و زاری کرنے لگیں گے تو پھر انکو کہا جائے گا اچھا چلو ایک ایسے سایہ کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں ایک طرف اشارہ کر کے کہا جائے گا در سے ظاہر ہوگا کردہ ایک سایہ ہے جس کی تین شاخیں ہیں فرشتوں کے اس اعلان

یہ تین شاخوں والا دھواں اس طرح ہوگا داییں بائیں اور سر پر محیط گویا ہر طرف سے گھیرنے والا ہوگا بظاہر اسکی حکمت یہ ہوگی کہ عالم آخرت میں انسان کے اعمال عالم مثال میں حقائق موجودہ کی شکل میں رونما ہوتے ہیں تو یہ انکے اعمال فاسدہ اور عقائد باطلہ کی تاریکی ہوگی جو ہر طرف سے ان کو محیط ہوگی اور دھوئیں کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہوگی۔

حضراتِ عارفین فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر تین لطیفے ہیں جنکی اصلاح اسکو مقامِ ملکیت تک پہنچا دیتی ہے اور اسکا فساد اسکو شیاطین کے زمرے میں شامل کر دیتا ہے ایک بائیں طرف جو لطیفہ قلب ہے جس کا فساد قوتِ غضب کو حد سے بڑھا کر ظلم و ستم پر آمادہ کرتا ہے دوسرا دائیں طرف ہے جس کا فساد قوتِ شہو کو بڑھاتا ہے اور اسکی وجہ سے انسان فسق و فجور

پر وہاں پہنچیں گے تو کچھ اور ہی پاتیں گے نہ تو وہ سایہ ہوگا ڈھانکنے والا جس میں کوئی ٹھنڈک اور چین ہو اور نہ ہی وہ جہنم کی پستوں اور شعلوں سے بچانے والا ہوگا بلکہ وہ سایہ تو درحقیقت جہنم سے اٹھنے والا دھواں ہوگا اور قعر جہنم سے اٹھنے والے سیاہ شیلے ہوں گے جو پہاڑوں کی بلندی کی طرف اوپر کی جانب بلند ہوتے ہوں گے اور دور سے محسوس ہوگا کہ وہ کوئی سایہ ہے۔

وہ جہنم پھینکتی ہوگی ایسے شعلے اور انکار سے جو محل کی طرح بلند ہوں گے دیکھنے میں ایسا محسوس ہوگا گویا وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے کہ ابتداء میں وہ انکار سے اور شعلے محل کی بلندی کے بقدر قعر جہنم سے بلند ہوتے ہوں گے پھر ان میں سے ٹوٹ ٹوٹ کر چنگاریاں ایسی نظر آئیں گی جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہوں یہ ہے وہ عذاب جو آخرت میں مجرمین و منکرین کے لئے ہوگا انہوں نے ہلاکت و بربادی ہے اس دن انکار کرنے والوں کے لیے اس دن کی شدت اور عذاب کی سختی کا کیا حال بتایا جاتے یہ وہ دن ہوگا جس میں وہ بول نہ سکیں گے اور اگر اس سے قبل روزِ محشر کچھ بولے بھی ہوں وہ بے سود تھا اور نہ انکو اجازت ہوگی کہ وہ کوئی معذرت پیش کریں اور توبہ کریں پس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ان منکرین نے جو یہ سمجھ رکھا تھا کہ دنیا کی عدالتوں میں جس طرح حیل و حجت اور عذر و معذرت سے کام چل جاتا ہے شاید میدانِ حشر میں اسی طرح ہم کچھ حیلے بہانے یا معذرت و توبہ کر کے چھوٹ جائیں گے نہیں ہرگز نہیں وہاں نہ تو بولنے کی سکت ہوگی اور نہ کوئی معذرت و توبہ قبول ہوگی بہر حال یہ ہے فیصلہ کا دن جس میں حق و باطل نیکی و بدی اور ایمان و کفر کا فیصلہ کر دیا جاتے گا اور ہر عمل کا انجام سامنے ہوگا تو منین جدا ہوں گے اور مجرمین و منکرین جدا ہوں گے ایک گروہ نجات و کامیابی پر شاداں و فرحاں ہوگا تو دوسروں کے چہرہ پر ذلت و حقارت اور پریشانی و پشیمانی برس رہی ہوگی غرض ہر چیز کا فرق سامنے ہوگا اور ہر عمل کا فیصلہ ہو رہا ہوگا جمع کر دیا ہے ہم نے تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے گذرے ہیں تاکہ سب کو اکٹھا کر کے پھر الگ الگ کر دیں اور آخری فیصلہ سب کو سنا دیں تو اسے مجرمو! اگر کوئی تدبیر کر سکتے ہو تو کر لو وہ

ۛ اور بد کاریوں میں پڑ جاتا ہے کیونکہ جگر معدنِ خون ہے اور یہی شہوتوں کا سرچشمہ ہے تیسرا لطیفہ دماغ ہے جو قوتِ ادراک کا خزانہ اور معدن ہے تو پہلے دو لطیفوں کا فساد عملی خرابیوں کا باعث ہے اور تیسرے لطیفہ کا فساد عقائدِ باطلہ کا سبب ہے اس طرح اعمالِ خبیثہ اور عقائدِ باطلہ ان لطافت کی خرابی پر مرتب ہوتے تو اس مناسبت سے یہ اعمال خبیثہ اور عقائدِ جہنم کے دھوئیں اور شعلوں سے ظاہر ہونے والے سایہ کی تین شاخوں کی شکل میں نمایاں ہوں گے واللہ اعلم بالصواب

(روح المعانی - فتح المنان)

تدبیر میرے مقابلہ میں اور آجائیں وہ گستاخ بھی جو کہا کرتے تھے دوزخ کا ذکر اور ان پر مقرر انیس فرشتوں کا سن کر کہ سترہ کو تو میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا، باقی دو سے تم نمٹ لینا بس ہلاکت و تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے ظاہر ہے کہ سب کچھ مصائب اور عذاب کی شدت و سختی اور میدانِ حشر کی پریشانی منکرین و مکذبین کے لیے ہے جو انکے کفر و نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ ہے لیکن انکے بالمقابل اہل ایمان و طاعت کا میاب و کامران، مومن گے اللہ رب العزت کی نعمتوں اور اسکی رضا و خوشنودی سے سرفراز ہوں گے۔ جن کی راحت و نعمتوں کا یہ حال ہوگا کہ بے شک تقویٰ اور ایمان والے نہایت ہی راحت و سکون کے ساتھ جنت کے سایوں میں اور چشموں میں جن سے پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہونگی اور ہر قسم کے میوے اور پھلوں میں ہوں گے جس قسم کے بھی وہ چاہیں غرض ہر طرح کا آرام و سکون عزت اور ہر قسم کی نعمتیں ہونگی اور انکو کہہ دیا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے سے خوب بلا کسی روک ٹوک کے یہ سب کچھ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے دنیا کی زندگی میں بیشک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو مگر اس کے برعکس ہلاکت و تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے یہ مجرین و مکذبین جو دنیا کی لذتوں اور عیش و عشرت میں مست تھے اور آخرت کو انہوں نے بھلا رکھا تھا انکو دنیا میں ہی اسی وقت بتا دیا گیا تھا کھا لو اور مزے اڑا لو تھوڑے دنوں تک یقیناً تم مجرم ہو اور تم کو یہ چند دن اور قبل مدت گزرنے پر معلوم ہو جائے گا کہ تمہارا انجام کس قدر بُرا ہے افسوس! ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے دنیا کی زندگی نے ان مجرموں کو ایسا سرکش و نافرمان بنا دیا تھا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ جھک جاؤ اللہ کے سامنے تو نہیں جھکتے تھے اور کسی طرح خدا کے سامنے سرنگوں ہونے اور عبادت و بندگی کے لیے تیار نہ ہوتے جس کا یہ انجام دیکھ لیا بس ہلاکت و بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے قرآن حکیم نے کس قدر واضح دلائل بیان کر دیئے جن کے بعد خدا اور آخرت پر ایمان لانے میں کوئی تردد ہی نہ رہنا چاہئے لیکن انکار کرنے والے اب بھی اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر اسکے بعد اور کون سی بات ہوگی جس پر وہ ایمان لائیں اور اس پر یقین کر کے آخرت کو مانیں گے نہ تو قرآن کے بعد اب کوئی اور کتاب نازل ہوگی اور جو دلائل و حقائق ذکر کئے گئے ان کے بعد احاطہ تصور میں مزید کسی دلیل اور تحقیق کا امکان نہیں اور نہ ہی خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی مسوت ہوگا کہ یہ توقع کرنی جاتے کہ شاید کسی اور پیغمبر کے کسی معجزہ کو دیکھ کر یا دلیل کو سن کر مان لیں اور ایمان لے آئیں بہر حال جو بد نصیب بھی

مع لفظ ارجوا کا ترجمہ ”جھک جاؤ“ اس لفظ کے معنی لغوی کے لحاظ سے کیا گیا اور یہی زیادہ بلیغ ہے
بر نسبت اسکے کہ یہاں رکوع کو رکوع اصطلاحی کے معنی پر محمول کیا جائے۔ ۱۳

ان قرآنی دلائل و حقائق کے باوجود ایمان سے محروم رہے تو اسکے بعد کوئی توجیح نہیں کردہ کسی اور بات پر ایمان لاسکے گا۔

حَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ - اعاذنا الله منه
ووفقنا من فضله وكرمه للايمان والشبات على الدين قياديتنا علم
الاسلام وعلى ملة نبينا صلى الله عليه وسلم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين
غير خزايا ولا مفتونين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين -

آیتِ قیلُ یومئذٍ للمکذبینَ تکرار کی حکمت


سورۃ المرسلات میں یہ آیت مبارکہ قیلُ یومئذٍ للمکذبینَ تکرار گئی تکرار آیات قرآنیہ کی حکمت سورۃ الرحمن میں "فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ" میں بیان کر دی گئی وہ تو ہر جگہ اور جو بھی آیات قرآن کریم میں بار بار ہیں ان پر منطبق، سوتی ہے یہاں یہ آیت دس بار مکرر ہے بعض عارفین کے کلام سے یہاں لکھے تکرار کی مزید ایک خاص حکمت بھی معلوم ہوتی ہے۔

سورۃ المرسلات میں اصل خطاب منکرین قیامت سے ہے اسی ضمن میں دس مرتبہ قیلُ یومئذٍ للمکذبینَ کا اعادہ کر کے یہ ظاہر کرنا بظاہر مقصود ہے کہ منکرین قیامت دس وجہ سے ہلاکت و بربادی میں ہیں تو ہر وجہ کے پیش نظر ہلاکت و بربادی کی یہ دعید بیان فرمادی گئی جس کی تفصیل اس طرح سمجھ لی جاتے کہ انسان میں قدرت خداوندی کی طرف سے تین قوتیں رکھی گئی ہیں جن کی اصلاح سے سعادت اور فلاح کا ترتیب ہوتا ہے اور انکے فساد سے شقاوت و بدبختی اور ہلاکت و بربادی ہے اول قوت نظر یہ جس پر ادب پاک صحیح اور اعتقادات کا دار و مدار ہے کا فرد اور منکرین قیامت نے اسکو بگاڑ رکھا تھا متعدد وجہ سے اول ذات خداوندی کا شرک کر کے دوم صفات خداوندی میں یہوہ اور لغویات اور من گھڑت تصورات باطلہ قائم کر کے سوم فرشتوں کے بارہ میں یہ عقیدہ رکھنے کی وجہ سے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں ہمارے کاروبار کے وہی مالک و مختار ہیں چہاں ہم یہ کہ انسان کی زندگی بس دنیا ہی تک محدود ہے نہ حشر ہے نہ بعث بعد الموت پنجم قفسارِ قدر کا انکار اور مخلوقات کی اس میں شرکت ششم انبیاء علیہم السلام اور کتب سماویہ کا انکار اور انکے اوامر و ہدایات سے سرتابی تو یہ چھ قسم کی خرابیاں تو منکرین قیامت میں قوت نظر کے فساد کی وجہ سے پائی جاتی ہیں دوسری قوت شہوہ جس کی خرابی افراط و تفریط ہے افراط کے باعث انسان بہائم کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور تفریط کی وجہ سے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے تو یہ دونوں عجیب منکرین قیامت میں تھے تیسری قوت غضب ہے اس میں بھی افراط انسان کو بہائم اور

درندوں سے بڑھا دیتا ہے اور اس کی دجہ سے ظلم و تعدی کی کوئی حد نہیں رہتی اور تفریط انسان میں سے
 حمیت و غیرت کا وصف ختم کر دیتی ہے نوبت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ محارم البیہ کی بے حرستی
 اور گستاخی پر غصہ تو درکنار کان پر جوں تک نہیں رہینگے تو دو خرابیاں یہ ہوتیں اس طرح ظاہر ہوا کہ
 منکرین قیامت اور ایسے مجرمین ان دس خرابیوں میں مبتلا تھے تو ہر ایک خرابی کے بالمقابل ایک بار
 فرمایا گیا **يَوْمَئِذٍ لَّمْ يَنْفَعُكُمْ دَالِدُ اعْلَمِ بِالْمِثَابِ**

ترجمہ محمد اللہ تفسیر مسودۃ المرسلات

المحمد للہ ۲۹ ویں پارے کی تفسیر مکمل ہوئی۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ النَّبَاِ

۴۸ = سُورَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ = ۸۰ = فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ نبأ کی ہے . اور اس میں چالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا .

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ ۲ الَّذِي

کیا بات پوچھتے ہیں لوگ آپس میں؟ وہ بڑی خبر - جس میں

هُمْ فِيهِ مُخْتَلَفُونَ ۳ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۴ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۵

وہ کئی طرف ہو رہے ہیں . یوں نہیں! اب جان لیں گے . پھر بھی یوں نہیں! اب جان لیں گے .

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ۶ وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۷ وَ

ہم نے نہیں بنائی زمین بچھونا! اور پہاڑ پیئیں؟ اور

خَلَقْنَاكُمْ اَزْوَاجًا ۸ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۹ وَجَعَلْنَا

تم کو بنایا جوڑے جوڑے . اور بنائی نیند تمہاری دفع ماندگی - اور بنائی

الْاَيْلَ لِبَاسًا ۱۰ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۱۱ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ

رات اور ڈھنا - اور بنایا دن روز گزار کو - اور چنی تم سے اوپر

سَبْعًا سِدَادًا ۱۲ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۱۳ وَاَنْزَلْنَا مِنْ

سات چنائی مضبوط - اور بنایا ایک چراغ چمکتا - اور اتارا

الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۱۳ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۱۵ وَ

سُجَّرَاتِي بِدَلِيوں سے پانی کا ریلا ۔ کہ نکالیں اس سے اناج اور سبزہ ۔ اور

جَذَّتِ الْفُافَا ۱۶ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۱۷ يَوْمَ

باغ بہتوں میں پٹ رہے ۔ بیشک دن فیصلے کا ہے ایک وقت ٹھہر رہا ۔ جس

يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَاتُونَ أَفْوَاجًا ۱۸ وَفِيحَتِ السَّمَاءُ

دن پھونکیں زسنگا ، پھر چلے آؤ جُٹ جُٹ ۔ اور کھولا جاوے آسمان ،

فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۱۹ وَسِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۲۰

تو ہو جاویں دروازے ۔ اور چلائے جاویں پہاڑ ، تو ہو جاویں ریتا ۔

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۲۱ لِلطَّاغِينَ مَابًا ۲۲

بیشک دوزخ ہے تاک ہیں ۔ شریروں کا ٹھکانا ۔

لِبِثْنٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۲۳ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا

رہتے ہیں اس میں قرون ۔ نہ چکھیں وہاں کچھ مزا ٹھنڈک کا ۔ اور نہ لے

شَرَابًا ۲۴ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۲۵ جَزَاءً وَفَاقًا ۲۶ إِنَّهُمْ

کچھ پینا ، مگر گرم پانی اور بہتی پیپ ۔ بدل ہے پورا ۔ وہ تھے

كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۲۷ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ۲۸

تو قے نہ رکھتے حساب کی ۔ اور جھٹلائیں ہماری آیتیں کرا کر

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ۲۹ فَذُوقُوا فَلَئِنْ تَزِيدَكُمْ

اور ہر چیز ہم نے گن رکھی لکھ کر ۔ اب چکھو کہ ہم بڑھاتے نہ جاویں گے

إِلَّا عَذَابًا ۳۰

تم پر مگر مار ۔



گستاخی بحرین بصورت سوال مطالبہ روز قیامت و ذکر قانون جزاء و سزا مع دلائل قدرت

قال الله تعالى - عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ الى فَلَئِنْ نَزَّيْتَهُ كُفْرًا لَّا عُدَاةًا

(ردبط) سورہ نباء کی سورت ہے جس کی چالیس آیات اور دو رکوع ہیں۔ اس سے قبل سورہ المرسلات میں حق تعالیٰ شانہ نے بڑی ہی قوت و عظمت کے ساتھ اعلان فرمایا کہ جب قیامت کا انسانوں سے وعدہ کیا گیا وہ یقیناً برپا ہو کر رہے گی۔ اس کے لئے خداوند عالم نے ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کر نہ صرف یہ کہ وقوع قیامت کا اعلان فرمایا بلکہ احوال قیامت بھی ذکر کر دیئے گئے کہ جب نظام عالم درہم برہم ہوگا، تو زمین و آسمان اور چاند سورج اور کوکب کا کیا حال ہوگا۔ اب اس سورت میں بحرین و منکرین قیامت کے معانی جس گستاخی سے سوال کرتے تھے یا یہ مطالبہ کہ قیامت کب آئے گی۔ اور کیوں نہیں قیامت واقع ہوتی بیان کر کے ان کا رد اور ان پر تنبیہ کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت اور جزاء و سزا کا قانون بھی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ ارشاد فرمایا۔

کس چیز کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، آخر کس بات کی تحقیق و تفتیش مقصود ہے۔ کیا ان میں اس امر کی صلاحیت ہے کہ جس چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے بطور استہزاء و مذاق پوچھ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت سمجھ لیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ یا یہ کہ وہ جو پیغمبر خدا اور مومنین سے سوال کر رہے ہیں اور بطور تسخر کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ قیامت کب آئے گی۔ دیر کیوں ہو رہی ہے اور اب تک کیوں نہیں آئی۔ اے مخاطب! جانتے بھی ہو کہ یہ کیسی چیز کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں ایک بہت ہی عظیم الشان خبر اور ہیبت ناک بات کو۔ جس میں وہ خود مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ ہرگز قیامت نہیں آئیگی کوئی اس کو مانتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عذاب و ثواب روح پر ہوگا۔ بدن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی کا خیال ہے کہ بدن بھی اٹھایا جائے گا تو جس چیز میں خود یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں اس طرح کا سوال یا مطالبہ یا اس کا مذاق نہایت ہی لغو اور بیہودہ بات ہے۔ خبردار ہو جاؤ اب منقریب ہی یہ لوگ جان لیں گے پھر خبردار ہو جاؤ

ضرور یہ لوگ جان لیں گے کہ قیامت کیا ہے اور اس کے ہولناک مناظر کیسے ہیں یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آجائے گا۔ آخر ان کو اس بارے میں کیا تردد اور شبہ ہے۔ ہماری قدرت تو ہر چیز پر غالب ہے۔ تو کیا نہیں بنایا ہے ہم نے زمین کو بستر انسانوں کے لیے جس پر وہ آرام کرتے ہیں۔ اور اسی پر ان کا اٹھنا بیٹھنا اور لیٹنا ہے۔ اور کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کے لیے پہاڑوں کو پتھریں جنہوں نے لرزتی ہوئی اور کانپتی ہوئی زمین کو میخوں کی طرح قائم ہو کر ساکن بنا دیا۔ اور ہم نے پیدا کیا ہے تم کو جوڑے سے بنا بنا کر یعنی مرد و عورت۔ تاکہ مرد عورت کو اپنا جوڑا بنا کر

(حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس کے ذریعے سکون حاصل کرے جیسا کہ آیت وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں فرمایا۔ یا طرح طرح کی شکلیں اور صورتیں بنائیں۔ اچھی بُری یا انسانوں میں بعضے نیک اور بعضے بد۔ وغیرہ تو اس طرح لے انسانوں کو تم کو تقابل اور جوڑے کی شکل میں بنایا ہے۔ اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو آرام اور بدن کی راحت کا ذریعہ اور دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد تکان و تعب سے سکون حاصل کرنے کا سامان۔ اور بنا دیا رات کو تمہارے واسطے اور صبح کو تمہارے واسطے اور صبح کو اپنے میں پھیلاتی ہے اور لباس کی طرح انسان کے بدن کو راحت و آرام پہنچاتی ہے اور لباس پردہ بھی ہے تو رات کی تاریکی میں ہر کام چھپا ہوا رہتا ہے۔ رات کی تنہائیوں میں خدا کی عبادت کرنے والے لوگوں کی نگاہوں سے مستور۔ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ بد نصیب رات کے پردہ میں پھسپ کر جرائم و معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ غرض رات کا پردہ مخلوق کے عیب و ہنر کو خالق کے سامنے عیاں کرنے کا بھی سامان ہے۔ اور بنایا ہے دن کو روزی کا ذریعہ۔ کہ اس میں ہر ایک کسب معاش اور روزی کمانے میں مصروف ہوتا ہے۔ اہل سعادت کسب معاش یا کسب فضائل کے لیے رات کے آرام کو عملی قوتوں کے لیے مستعد اور توانا بناتے ہیں۔ لیکن اہل شقاوت اور غافلوں کی زندگی بس اسی طرح گذر جاتی ہے۔ دن کا وقت روزی کمانے میں اور رات کا وقت آرام و عیش و عشرت میں گذر جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی قدرت انسانوں کی نظروں کے سامنے ہمہ وقت ظاہر ہے اور بنایا ہے ہم نے تمہارے اوپر سات آسمانوں کو مضبوط پھت کی طرح جو تمہارے سروں پر قائم ہے جو مدت دراز گذرنے کے باوجود بوسیدہ ہوئے اور نہ ہی ان میں کوئی رخنہ پیدا ہوا۔ تو جس خدا نے یہ آسمان اپنی حکمت و قدرت سے بنائے اس کی قدرت و حکمت کو سمجھنا چاہیے اور اس سے اپنی زندگی کا رشتہ قائم کر کے اپنے شب و روز فکر آخرت میں گزارنے چاہئیں نہ کہ غفلت اور محض دنیا کمانے میں۔

اور بنایا ہم نے سورج کو ایک دھمکتا ہوا چراغ۔ پھر اس سورج کے نور سے جہاں اور تاروں کو نور بخشا۔ اور اس جہاں میں بندوں کے لیے جو بھی راحت کے اسباب اور رزق کے سامان تھے وہ مہیا کیے اس طرح کہ آسمان نے بادلوں سے برساتا ہوا پانی۔ فلاسفہ اور حکماء خواہ اس کے کچھ بھی اسباب بیان کریں لیکن ان اسباب کی یہ کار فرمائی بھی ایک عظیم قدرت کا کرشمہ ہے کہ کس طرح بادلوں سے بارشیں چھوٹی چھوٹی بوندوں کی شکل میں برستی ہے۔ پھر زمین اس کو جذب کرتی ہے۔ تاکہ ہم اس کے ذریعے پیدا کریں ہر قسم کا غمہ اور سبزہ اور گائیں گنجان باغات جن میں طرح طرح کے پھل اور میوے لگتے ہیں۔ غلوں اور سبزیوں سے انسانوں اور جانوروں کی روزی کا سامان بنایا اور ان ہی چیزوں سے عیش و عشرت اور راحت و لذت کے جملہ اسباب پیدا کیے پانی بھی ایک زمین بھی

(بقیہ صفحہ گزشتہ) عہ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا فرمایا وہ حرکت کرنے لگی اور لڑنے لگی۔ تو پہاڑ پیدا فرمائے اور پہاڑوں کو زمین کے مختلف حصوں اور جانوں میں یخوں کی طرح گاڑ دیا۔ جس پر زمین ساکن ہو گئی۔ ۱۷ (جامع ترمذی)

زمین ہی نہ رہیں گے تو دنیا کا وجود کیا باقی رہے گا چنانچہ نیست و نابود ہو جائے گی۔ اور اس طرح عالم آخرت قائم ہو جائے گا۔ جہاں مجرمین و نافرمانوں کو نظر آئے گا کہ بیشک جہنم تک میں ہوگی اور منتظر ہوگی۔ سرکشوں اور مجرموں کی کرب یہ مجرمین و منکرین اور نافرمان میرے منہ کا لقمہ ہوتے ہیں۔ جہنم ان کی منتظر ہوگی ان کا ٹھکانا بننے کے لیے جس میں یہ ٹھہرنے والے ہوں گے بڑی ہی طویل مدتوں تک جس کے طول کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور ابدالآباد اسی میں رہیں گے۔ ان بد نصیبوں کے لیے آرام و راحت کا کیا تصور ہو سکتا ہے۔ بلکہ ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت ان کے مقدر میں ہوگی اس طرح کہ نہیں چکھ سکیں گے اس جہنم میں کوئی مزاحمت نہ ہوگی اور نہ ہی تھنڈے پانی کا۔ نہ جگہ سکون اور ٹھنڈک کی ہوگی اور نہ لباس اور نہ ہی طعام اور پانی کچھ نہ ہوگا۔ بجز کھولتے ہوئے گرم پانی اور زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ کے یہ بدلہ ہوگا پورا پورا۔ جو ان کی بد اعمالیوں شہوت پرستی اور عیش و عشرت میں زندگی گزار دینے کا پورا پورا اور عین مطابق بدلہ ہوگا شہوت و حرص اور دنیا کی آگ ان کے دلوں میں بھڑکا کر تھی۔ قیامت میں اسی کے مطابق کھولتا ہوا پانی ملے گا اور دنیا میں عملی زندگی خواہش و بدکاری میں گزار دی تھی جن کی غلاظت و گندگی زخموں سے بہنے والے خون اور پیپ سے کم نہ تھی تو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ یہ

عنه "بڑی ہی طویل مدتوں تک"۔ لفظ احتقاباً کا ترجمہ کر کے یہ ظاہر کیا گیا کہ احتقاب کسی محدود اور متناہی مدت کے لیے نہیں بولا گیا ہے بلکہ ایسی طویل مدت مراد ہے جسکی کوئی حد اور انتہاء ہی نہ ہو۔ اگرچہ نفس لغت میں حَقَب جس کی جمع احتقاب ہے کے معنی بعض اہل لغت نے مخصوص و معین طویل مدت کے ذکر کیے ہیں مثلاً کسی نے ایک ہزار برس یا اس سے زائد کہا۔ مگر سعید نے بروایت قتادہ بیان کیا کہ احتقاب وہ مدت ہے جس کی کوئی انتہاء نہ ہو۔

نافع نے ابن عمر سے روایت کیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اہل نار جہنم سے ہرگز نہ نکل سکیں گے۔ یہاں تک کہ وہ اس میں بڑے رہیں گے۔ احتقاباً یعنی مدتِ دراز اور رادی نے اس کی بھی تفسیر کی ہے۔ لہذا اہل لغت نے اس کے معنی میں کوئی مدت بیان کی ہے تو اس سے یہ دوہم کرنا درست نہیں کہ شاید اہل جہنم کسی مدت کے گزرنے کے بعد جہنم سے نکال لینے جائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تصور کیونکر ممکن ہے جب کہ غلو و نار کی تفسیر قرآن کریم نے متعدد آیات میں بڑی ہی وضاحت سے فرمادی حتیٰ کہ یہ فرمادیا گیا۔ **كَلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا**۔ اور **وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا**۔ اور **خَلِدُوا فِيهَا أَبَدًا** وغیرہ تو ان آیات کے بعد اس طرح کا کوئی تصور ممکن ہی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ۱۲

عنه بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں نیند کو بھی بیان کیا ہے جس کے معنی یہ ہونے کہ نیند کی راحت تو کیا نصیب ہوگی۔ اس کا مزہ بھی چکھنا نصیب نہ ہوگا اور ظاہر ہے کہ نیند کی حالت انسان کے لیے سکون اور ٹھنڈک کا باعث ہے۔ ۱۳

جمع کر دیا جائے گا۔

یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگ کوئی توقع نہ کھتے تھے۔ حساب و کتاب کی اور اس امر کو تسلیم نہ کرتے تھے کہ قیامت اور روز جزا آنے والا ہے اسی اعتقاد باطل میں مبتلا رہ کر انہوں نے اپنی قوت نظریہ بھی ضائع کی اور قوت عملیہ کو ہدایت کے بجائے گمراہی میں صرف کیا۔ اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا خوب جھٹلانا جس میں انہوں نے کسی طرح کسر نہ اٹھارہ کی۔ آیاتِ خداوندی کا بھی انکار کیا۔ احکامِ خداوندی کی بھی تعمیل نہ کی اور دلائل قدرت اور اللہ کی نشانیوں کو بھی نہ مانا۔ ایسے مجرموں کو مکذیب و نافرمانی کر کے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ ہماری گرفت سے بچکر نہیں جاسکتے۔ اور ہر چیز کا ہم نے احاطہ کر رکھا ہے اس طرح کہ وہ ایک طے شدہ لکھی ہوئی چیز ہے۔ تو ہم مجرمین کے ہر جرم کو بھی جانتے ہیں اور اس کی سزا کا وقت بھی ہم نے طے کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اسی وقت آئے گی جب اس کا وقت ہوگا۔ اس لیے جب وہ عذاب اور سزا اپنے مقررہ وقت پر آئے گی تو ان کو کہا جائے گا پس چکھ لو۔ عذاب کا سزا اور یہ توقع نہ کرو کہ شاید یہ عذاب کسی وقت کم ہو جائے گا نہیں ہرگز نہیں۔ تو ہم نہیں بڑھائیں گے۔ تمہارے واسطے کوئی بھی چیز بجز عذاب کے کہ لمحہ بلغم عذاب اور دکھ بڑھنا ہی جائے گا۔ اور دم بدم جہنم کی شدت اور مصیبت بڑھتی ہی جائے گی جیسا کہ ارشاد فرمایا۔ لے مجرمو! جوں! جوں! احکامِ خداوندی نازل ہوتے تم کو وعظ و نصیحت کی جان تو اسی کے ساتھ تمہاری شقاوت و سرکشی میں اضافہ ہوتا جاتا تھا تو آج روز قیامت اسی کی مطابقت و مناسبت سے لمحہ بہ لمحہ عذاب میں زیادتی اور شدت ہی ہوتی جائے گی۔

حضرت ابو بزرۃ الاسلمیؓ سے روایت ہے صن بصریؓ نے ان سے دریافت کیا اہل جہنم کے لیے کون سی آیت سب سے زائد شدید ہے فرمایا۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اور فرمایا جب جہنمی تمنا کریں گے۔ یا اس بات کی درخواست کریں گے کہ کم از کم یہ عذاب ہی کچھ کم کر دیا جائے تو اس پر اعلان ہوگا فَذُوقُوا فِتْنَتَنَا نَزَّيْنَاكُمْ مِنَ الْاَعْدَابِ اَبًا۔ آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا اس کے بعد تو اہل جہنم کی شدت و پریشانی کی کوئی حد ہی باقی نہ رہے گی اور حسرت و ویل کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا۔

اِنَّ لِّلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝۳۱ حَدٰثِيْقٍ وَّاَعْنَآبًا ۝۳۲

بے شک ڈر دالوں کو مراد ملنی ہے۔ باغ ہیں اور انگور۔

وَّكَوْاعِبَ اَتْرَابًا ۝۳۳ وَّكَاسًا دِهَاقًا ۝۳۴ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا

اور نوجوان عورتیں ایک عمر سبکی۔ اور پیالہ چھلکتا۔ نہ سنیں گے وہاں کبنا

لَعْوًا وَلَا كِذَّابًا ۝۳۵ جَزَاءٌ مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا ۝۳۶

اور نہ کھانا - ہر ہے تیرے رب کا دیا حساب سے۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ

جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے بیچ ہے بڑی مہروالا، قدرت نہیں کہ

مِنْهُ خِطَابًا ۝۳۷ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا

کوئی اس سے بات کرے، جس دن کھڑی ہو روح اور فرشتے قطار ہو کر۔ کوئی نہیں

يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَن أِذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝۳۸ ذَلِكِ

بولتا، مگر جس کو حکم دیا رحمن نے، اور بولا بات ٹھیک۔ وہ

الْيَوْمِ الْحَقِّ ۝۳۹ فَمَن شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۝۴۰ إِنَّا

دن ہے تحقیق، پھر جو کوئی چاہے بنا رکھے اپنے رب کے پاس ٹھکانا۔ ہم نے

أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۝۴۱ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَا

خبر سنادی تم کو ایک آفت نزدیک کی، جس دن دیکھ لیوے آدمی، جو آگے بھیجا اسکے ہاتھوں

وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۝۴۲

نے اور کہے منکر کسی طرح میں مٹی ہوتا۔

انعامت و راحت و اکرام و عزت کے اہل ایمان و تقویٰ و صحابہ

قال اللہ تعالیٰ: إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا اِلٰی يَلْبِغُنَّ كَمَتٍ تُرَابًا
 (ربط گزشتہ آیات میں قیامت اور روز حساب کی شدت اور مجرمین کی بد حالی اور شدت کا بیان
 تھا۔ اب ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل ایمان و تقویٰ پر کیسے کیسے عظیم انعامات ہوں گے اور
 ان کا روز آخرت کیسا اعزاز و اکرام ہو گا بیان ہے۔ فرمایا۔

بے شک تقویٰ والوں کے لیے طرح طرح کی کامیابی اور حیات جاودانی کی سعادت و خوشی نصیب ہوگی جب وہ دیکھیں گے ہر مراد ان کی پوری ہو رہی ہے اور ہر طرح کی نعمت ان کو حاصل ہے۔ باغات ہوں گے اور ہر قسم کے پھل اور بکثرت انگور ہوں گے جو دوسرے جملہ اقسام کے پھلوں میں اہل جنت ان کے خوشوں کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ذائقوں سے اہل جنت دنیا میں آشنا تھے۔ اب وہ جنت کی شانِ عظمت کے مطابق ان کو حاصل ہوں گے اور ثمرات و فواکہ کی لذتوں کے ساتھ انگور کی، میلوں کا سایہ بھی کس قدر خوش گوار اور فرحت بخش ہوگا۔ کھانے پینے کی ان تمام لذتوں کے علاوہ ان کے واسطے جنت میں نوجوان اٹھان والی عورتیں ہوں گی جو عمر میں ایک دوسرے کے برابر ہم سن ہوں گے وہ نوجوان دو شیرازیں بھی اور یہ ایمان و تقویٰ والے مرد بھی تاکہ سمعری کے باعث عیش و تنعم کا لطف کامل نصیب ہو۔ اور جام ہوں گے چھلکتے ہوئے، شراب طہور کے ایسے لبر بجام جنکا دور چل رہا ہوگا پھر سکون و اطمینان کا یہ عالم ہوگا کہ نہیں سنیں گے ان باغوں میں کوئی لغو یہودہ بات اور نہ ہی کوئی جھوٹ اور فریب۔ کیونکہ یہ جنت کی شراب طہور ہوگی اور اس کا کسی طرح بھی کوئی بُرا اثر و مایع و شعور پر ہرگز واقع نہ ہوگا۔ اس لیے وہاں ایذا اور مار پیٹ یا یہودہ اور لغو باتیں جیسے دنیا کی شراب میں پیش آتی ہیں قطعاً نہ ہوں گی اور نہ ہی کوئی رنج اور تکلیف وہ بات ہوگی کہ جس کو جھٹلایا جائے بلکہ وہ شراب طہور تو محبت الہی کا مظہر ہوگی اور اس کا شمار درجات کی بلندی اور قرب الی اللہ اور معرفت رب اور اس کی ذات و صفات میں انہماک و انشراح کا مرد ہوگا۔ جیسے دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی عظیم پایہ نعمتوں سے کوئی سروکار نہیں صرف اسی اشتراک ہوتا ہے اسی طرح لفظ خمر اسی اشتراک کے باعث ہے۔ ورنہ تو شراب دنیا اور آخرت کی شراب طہور میں زمین و آسمان کا فرق ہے بلکہ پورا پورا تقابل اور تضاد ہے۔

ہر کیف یہ سب نعمتیں اور اعزاز و اکرام اے مخاطب بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے تیرے اعمالِ حسنہ اور ایمان و تقویٰ کا۔ اور ذات رب کی نشانِ ربوبیت جیسے ایک دانہ کو آگ سے نشوونما عطا کرنے والی ہے اور ہر مخلوق کو پال کر اس کے کمال اور منتہی تک پہنچاتی ہے اسی طرح وہ بندہ کی ہر نیکی کو پالنے والی اور نشوونما کے انتہائی مراتب تک پہنچانے والی ملے ہے یقیناً جو بطور عطاء اور بخشش ہی ہے۔ کیونکہ انسان اگر اپنی تمام زندگی بھی عبادت و طاعت میں گزار دے تب بھی اللہ کے انعامات میں ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چہ جائیکہ جملہ بے پایاں نعمتوں کا۔ لہذا آخرت کی نجات اور وہاں کی تمام راحتیں بخشش ہی بخشش ہے۔ پورے پورے حساب کے ساتھ تاکہ بندہ کے معیار طاعت اور اعمال کی عظمت و خوبی کے مطابق اس پر جزاء اور انعامات ہوں۔ جو رب ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ بڑی ہی رحمت والا ہے۔ تو جس طرح اس رب السموات والارض نے اپنی شانِ ربوبیت سے آسمانوں و زمین کی ہر چیز کو عدم سے وجود

عنه یہ الفاظ اس آیت مبارکہ جَسَرَ آءِ قَمْنَ كَرِيْمًا عَطَا ءُ " میں لفظ رب اور لفظ عطاء کی حکمت

اور حکمت کی وضاحت کے لیے ہیں۔ -۱۲-

بخشا اور پھر ہر چیز کے بقا کے بہترین اسباب پیدا فرمائے اور ہر ایک چیز کو بڑی ہی حکمت اور خوبی سے حد کمال تک پہنچایا۔ وہی رب اپنے بندوں کے اعمال کو باقی رکھے گا اور ان کو نشوونما فرا کر حد کمال یعنی مرتبہ انعام اکرام تک پہنچائے گا۔ اور یہ سب کچھ اس کیلئے پایاں رحمتوں کا نتیجہ ہے۔ جس رب کی رحمت و عنایت کے ساتھ عظمت و کبر بانی کی یہ شان ہے کہ لوگوں کو قدرت نہ ہوگی اس سے بات کرنے کی۔ حتیٰ کہ روز حساب حق تعالیٰ کی اس شان عظمت و جلال سے انبیاء علیہم السلام تک بھی ہیبت زدہ ہوں گے اور ہر ایک یہ کہتا ہوگا۔ نَفْسِي إِذْ هَبُوا إِلَيَّ غَيْرِي - ان ربی قد غضب لیوم غضباً لعلی غضب قبلاً ولئن یغضب بعداً۔ یہ ہیبت و جلال اور عظمت کی شان بالخصوص اس دن ہوگی جب کہ روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے صرف بستہ بات نہیں کر سکیں گے اس کے جلال کی وجہ سے۔ بجز اس کے کہ جس کو وہ اللہ رحمن اجازت دیدے بس وہی بول سکے گا۔ وگرنہ سب دم بخود اور سرعوب و بہوت ہوں گے اور وہ کہے گا درست اور صحیح بات یہ ممکن ہی نہ ہوگا کہ کئی غلط اور لغو بات کرے یہ ہے وہی دن برحق۔ جس کا واقع ہونا بھی قطعی اور یقینی ہے اور اسی دن میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اب جس کا دل چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانے حاصل کرنے کا راستہ اختیار کرے۔ اسی میں اس کی فلاح و نجات ہے۔

اے انسانو! بس خبردار ہو جاؤ ہم نے ڈرا دیا ہے تم کو ایک قریب ہو جانے والے عذاب کے جو نہایت ہی قریب ہے جس کے آنے میں اب کوئی دیر نہیں۔ اور اصل قیامت تو جب بھی آئے۔ ویسے ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ جس قدر ہر انسان کے ساتھ اس کی موت قریب ہے، بالکل قیامت بھی اس سے اسی قدر قریب واقع ہوئی ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان دیکھ لے گا کہ اس نے خود آنے سے پہلے کیا عمل کر کے بھیجا ہے اور کافر اٹھانی حسرت و ندامت سے کہتا ہوگا۔ اے کاش میں خاک ہو چکا ہوتا اور اس صورت حال میں یہاں میدانِ حشر کی پیشی کی نوبت نہ آتی عجلہ۔
تفسیر سورۃ النبا بحمد اللہ عزوجل۔

عجلہ یعنی مجھے تو آج اپنی فکر پڑی ہے میرے سوا تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ میرا رب آج اس قدر غضب و جلال میں ہے کہ ایسا جلال نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آج کے بعد کبھی ہوگا۔ یہ حدیث شفاعت کا مضمون ہے جبکہ ہر پیغمبر شفاعت سے انکار کر دے گا اور آخری نوبت خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے گی اور آپ شفاعت کریں گے۔ ۱۲۔
عجلہ روح سے مراد بعض مفسرین روح اعظم یعنی ہیں جس سے پہلے شمار روحوں کا انشعاب ہو یا روح القدس اور جبریل امین۔ اور کسی نے روح سے ہر روح انسانی مراد لیا ہے۔ ۱۲۔

عجلہ مسند عبد بن حمید اور بیہقی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قیامت کے روز حق تعالیٰ جب انسانوں کے اعمال کا حساب لیکر فارغ ہو جائے گا۔ اپنی شانِ عدل اور یوم الحساب کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ التَّازِعَاتِ

دیگر کئی سورتوں کی طرح اس کے مضامین بھی عقیدہ توحید کے بیان اور اس کی تثبیت پر مشتمل ہیں۔ اور اصول دین کی تحقیق کے پیش نظر اس سورت میں اثبات رسالت بعثت و نشر کے لیے دلائل و شواہد ذکر فرمائے گئے اور اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ قیامت کے روز شدت و اضطراب کا ناقابل تصور عالم ہوگا اہل ایمان تقویٰ کامیاب و کامران ہوں گے اور مجرمین و مشرکین کے لیے عذاب جہنم ہوگا۔

اس مقصد عظیم کو تازہ سخی حقائق سے ثابت کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اجمالاً بیان کر دیا گیا۔ جب کہ فرعون اپنے غرور و سرکشی میں اس حد تک پہنچا کہ خود اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو خداوند عالم نے اس کے غرور و نخوت کو کس طرح پامال کیا۔ اور اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کیسی عظیم کامیابی اور غلبہ عطا فرمایا۔ ان احوال کو دلائل قدرت کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے پھر سورت کے اختتام پر بعثت بعد الموت کا مسئلہ ثابت فرمایا جس کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔



(بقیہ حاشیہ ۲۶۲)

تقاضے کی تکمیل کے لیے حیوانات کا حساب لیا جائے گا۔ ان کے نیک و بد کا اور باہمی مظالم کا۔ اور جب ان کا حساب ہو جائے گا تو ان کو حکم ہوگا کہ تم خاک ہو جاؤ (کیونکہ حیوانات مکلف نہیں ہیں اور جنت و جہنم ان کے لیے نہیں جن و انس کے لیے ہے) تو وہ سب خاک اور نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ لے کاش ہم بھی اسی طرح خاک ہو جاتے۔

بعض عارفین خاک ہونے کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ میں تو مضع کر لیتا اور خدا کے سامنے سر جھکا لیتا۔ افسوس کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کیا اور تکبر و غرور کے ساتھ سرکشی اور نافرمانی کرتا رہا۔ ۱۱۔ (روح المعانی ج ۴)

آیاتھا ۴۹ = سُورَةُ النَّازِعَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۸۱ فِيهَا رُكُوعَاتٌ

سورۃ نازعات کی ہے اور اس میں چھیالیس آیتیں اور دو رکوع ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالنَّزِعَاتِ غَرْقًا ۱ وَالنَّشِيطِ نَشَاطًا ۲ وَالسَّيِّئَاتِ

قسم ہے گھسیٹ لاسنے والی، ڈوب کر۔ اور بند چھڑا دینے والوں کی کھول کر۔ اور پیرنے والوں کی،

سَبَّحًا ۳ فَالسَّيِّئَاتِ سَبْقًا ۴ فَالْمَدْبِرَاتِ أَمْرًا ۵ يَوْمَ

پیرنے پر۔ پھر آگے بڑھتے دوڑ کر۔ پھر کام بناتے حکم سے۔ جس دن

تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُ ۶ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ۷ قُلُوبٌ

کانپنے کانپنے والی۔ اس کے پیچھے دوسری۔ کٹنے والی

يَوْمَ مِيذٍ وَاجِفَةٍ ۸ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۹ يَقُولُونَ أَيْنَا

اس دن دھڑکتے ہیں۔ ان کے تیور بوسے (خوفزدہ) ہیں۔ وہ کہتے ہیں اکیا

لَمْ نَرُدُّوْكَ فِي الْحَافِرَةِ ۱۰ إِذْ كُنَّا عِظَامًا مَّخْرَجَةً ۱۱

ہم پھر آویں گے اٹلے پاؤں؟ کیا جب بوجھیں ہم ہڈیاں کھوکھری؟

قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۱۲ فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

بولے تو تو یہ پھر آنا ٹوٹا ہے۔ سو وہ تو ایک جھڑکی

وَاحِدَةٌ ۱۳ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۴ هَلْ اَتَاكَ حَدِيثٌ

ہے۔ پھر تجھی وہ آرہے میدان میں۔ کچھ پہنچی ہے تجھ کو بات

مُوسَىٰ ۱۵ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۶

موسیٰ کی؟ جب پکارا اس کو اس کے رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوی۔

إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۖ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ

جا فرعون پاس، اس نے سر اٹھایا۔ پھر کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو

أَنْ تَزُكِّيَ ۗ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۗ فَأَرَاهُ الْآيَةَ

سنور سے۔ اور راہ بتاؤں تجھ کو تیرے رب کی طرف پھر تجھکو ڈرو۔ پھر دکھائی اس کو وہ بڑی

الْكُبْرَىٰ ۖ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۖ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۖ فَحَشَرَ

نشانی۔ پھر جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر چلا پیٹھ پھیر کر تلاش کرتا۔ پھر سب کو جمع کیا

فَنَادَىٰ ۖ فَقَالَ أَنَارِكُمُ الْأَعْلَىٰ ۖ فَأَخَذَهُ اللَّهُ

پھر پکارا۔ تو کہا، میں ہوں رب تمہارا سب سے اوپر۔ پھر پکڑا اس کو اللہ نے،

نَكَالَ الْأُخْرَةَ وَالْأُولَىٰ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ

سزا میں پچھلی کے اور پہلی کے۔ بیشک اس میں سوچ کی جگہ ہے۔ جس کو

يَخْشَىٰ ۗ

ڈرے ہے۔

ہیبت اضطراب روز محشر و فلاح و کامرانی اہل ایمان

قال الله تعالى: وَاللَّيْلُ نَسُتًا خُرْقًا ... الى ... إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ
(ربط) سورۃ نبا میں منکرین قیامت کا قیامت کے بارہ میں معاندانہ سوال اور تسخر کا ذکر تھا اور ان کے

جواب و رد کے بعد روز محشر کی حاضری کی کچھ کیفیات ذکر کی گئی تھیں۔ اب اس سورت میں بالخصوص قیامت قائم ہونے پر جو اضطراب و بے چینی قلوب پر وارد ہوگی۔ اور بدحواسی کا عالم لوگوں پر ہوگا اس کا بیان ہے۔ جزاء و سزا اور مؤمنین و مجرمین کا فرق بھی بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت حق کو کس طرح باطل پر غلبہ اور کامیابی عطا فرماتا ہے؟ اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے کہ انہوں نے فرعون جیسے مغرور و متکبر کو ایمان کی دعوت دی اور خدا نے اپنے پیغمبر کو کامیاب فرمایا۔ اور فرعون کو ہلاک کیا چنانچہ ارشاد فرمایا۔

قسم ہے ان فرشتوں کی جو گھسیٹ لاسنے والے ہیں غوطہ لگا کر جو کافروں کی رگوں میں گھس کر ان کی روح کو سختی کے ساتھ ان کے بدن سے نکالتے ہیں۔ پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھول دیتے والے ہیں گرہ کو سہولت کے ساتھ کھول دینا جو فرشتے اہل ایمان کی ادواح سہولت سے قبض کر لیتے ہیں اور روح کی گرہ بدن سے نہایت ہی راحت اور نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ پھر ان کی جو تیرنے والے ہیں تیزی کے ساتھ تیرتے ہوئے جو فرشتے رحوں کو زمین سے لے کر آسمانوں پر چڑھنے والے ہیں ان کا تیزی سے جانا گویا پانی کی سطح پر تیر رہے ہیں پھر ان فرشتوں کی جو سہقت کرنے والے ہیں آگے بڑھ کر جو تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے

عہ وَالشَّرْعَاتِ عَزْمًا يَبِأَنَّ بَعْضَ قَسْمُونَ سے تاکید و اہتمام کرتے ہوئے اصل مدعی یعنی قیامت کا ہونا ک منظر واقع ہونے کا ذکر فرمایا گیا۔ نازعات۔ ناشطات۔ ساجات۔ سابقات۔ مدبرات۔ یہ پانچ کلمات ذکر فرما کر جواب قسم یَوْمَ تَرْجُفُ السَّجَّادِ بَيَان فرمایا۔ ان کلمات کی تفسیر میں حضرات مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ حسن بصریؒ اور قتادہؒ سے منقول ہے کہ یہ ستارے ہیں عطاء بیان کرتے ہیں السابقات یہ وہ گھوڑے ہیں جو میدان جہاد میں دوڑتے ہیں اور عطاء سے یہ بھی بیان کیا گیا کہ السابقات پانی کی سطح پر تیرنے والی کشتیاں ہیں۔ کسی نے نازعات اور ناشطات سے ہوا میں مراد لی ہیں۔ حسن بصریؒ نازعات کی تفسیر ستارے سے بیان کرتے ہیں لیکن جہور مفسرین اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان پانچوں کلمات کو فرشتوں پر محمول کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ترجمہ میں اسی کو اختیار فرمایا۔

فرشتوں کی قسموں کی طرف اشارہ ہونے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ خداوند عالم نے قیامت برپا ہونے اور میدان حشر میں حاضری کے مضمون کو بیان اور ثابت کرنے کے لیے فرشتوں میں پہلے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کافروں کی رحوں کو سختی اور شدت سے جسم کی رگوں سے گھسیٹ کر نکال لیتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ کافر کی نزع روح کی شدت ایسی ہوتی ہے جیسے بھگی ہوئی روٹی میں کانٹوں کا سلاح ڈال کر کھینچی جائے تو جس کیفیت کے ساتھ روٹی کے اجزاء کو اپنے ساتھ لینے نکلے گی تو اسی طرح کافر کی رگیں نزع روح سے متاثر ہوتی ہیں اور فرشتوں میں سے ان کو اس مقام پر مقدم کرنے کی حکمت یہ ہے کہ کلام کے اصل مخاطب منکرین قیامت ہیں تو ان ہی فرشتوں کی قسم مقدم فرمائی جو کافروں اور منکروں کی روح قبض کرنے والے ہیں اس کے بالمقابل پھر ان فرشتوں کی بھی قسم کھائی جو مؤمن کی روح بڑی ہی سہولت سے نکال لیتے ہیں۔ جیسے کہ پیشانی کے پسینہ کا قطرہ ٹپک جائے۔ پھر ان فرشتوں کی جو مؤمنین کے اعمال بارگاہ رب العزت میں لے جانے کے لیے ایک دوسرے پر سہقت کرتے ہیں اور پھر انکی جو تکوینی نظام پر جواڑوں۔ بادلوں اور غلوں کے اگانے احوال صحت و مرض اور عافیت و حوادث اور منافع و مضار جیسے امور کی تدبیر پر مامور ہیں تو ان جملہ انواع و اقسام کے فرشتوں کی قسم کھا کر مخاطب کے سامنے اور اس کے ذہن میں ان جملہ احوال کی عظمت کو ظاہر کرنا پھر جبکہ مخاطب کا ذہن ان عظمتوں سے لرزے ہو چکا ہو تو پھر قیامت جیسے عظیم دن کے واقع ہونے کا بیان فرمایا گیا۔ ۱۲۔

حکم خداوندی کی تعمیل کرتے ہیں اور ان ارواح کے بارہ میں جو حکم خداوندی ہوتا ہے اس کے لئے دوڑتے ہیں۔ پھر ان کی جو عالم تکوین کے امور میں ہوائیں ہو یا بادل چاند سورج اور ستارے تدبیر و انتظام میں لگے ہوئے ہیں ہر کام کے لیے۔ جیسا بھی حکم خداوندی ہوا آسمانوں میں یا زمین میں فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ بے شک قیامت آتی ہے اور وہ دن ایسا عظیم الشان ہوگا جب کہ لرزنے والی چیز لرز رہی ہوگی۔ وہ زمین ہے کہ اس پر زلزلہ طاری ہوگا اور پہاڑ اپنی چوٹیوں سے گر رہے ہوں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑتے ہوں گے جس کے پیچھے لگی ہوگی ایک پیچھے لگنے والی چیز جو زمین اور پہاڑوں کے زلزلہ اور کانپنے کا ایک مسلسل بھونچال ہوگا جو پچھلے نفعِ صود کے بعد دوسرے صود کے ٹھکنے سے شروع ہوگا۔ اس روز کتنے ہی دل ہوں گے جو اضطراب دے بیٹھنے سے دھڑکتے ہوں گے۔ ذلت و ندامت کی وجہ سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ہمت نہ ہو سکے گی کہ نگاہ ادا پر کر کے دیکھ سکیں۔ کہتے ہوں گے کیا ہم لوٹا دینے جائیں گے اٹنے پاؤں کہ قبر میں جانے کے بعد کیا پھر یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کر دینے جائیں گے اور اس طرح ہم کو محشر میں حاضر فرمائی ہوگی کیا یہ بات ممکن ہوگی جب کہ ہم ہو چکیں گے کھوکھری ہڈیاں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد اور جب کہ انسان کی ہڈیاں بھی کھوکھری ہو چکی ہوں تو تسخیر اور تحقیق کے انداز میں کہنے لگے بس پھر تو یہ لوٹنا بہت ہی خسارہ کی بات ہوگی۔ یہ مشرکین و منکرین تو اس معاملہ کو بہت ہی عظیم اور ہیبت ناک سمجھ رہے ہیں حالانکہ ہماری قدرت کے سامنے تو اس کی عظمت اور اہمیت نہیں بس یہ تو ایک دفعہ کی ایک پیچھے ہوگی جو صور پھونکنے کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ جس پر فوراً ہی وہ سب میدانِ محشر میں نظر آ رہے ہوں گے۔ پیشی کے لیے بارگاہِ خداوندی میں اور جو مغرور و متکبر انسان خدا کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے وہ ایک ہی آواز میں ذلت و خواری کے ساتھ سر جھکاٹے نظر بن چکیں گے حاضر ہوں گے اور حیرت و بدحواسی کے عالم میں منتظر ہوں گے کہ اب ان کے بارہ میں کیا حکم صادر ہوتا ہے۔ اس شدت و اضطراب اور بے چینی کے احوال سننے والے مخاطب تو کیوں نہیں قیامت اور روزِ محشر کی حاضری مان لیتا۔ تیرا رب تو بڑی ہی قدرت والا ہے تو کیا تجھ کو خبر نہیں موسیٰ کے قصہ کی جب کہ موسیٰ کو اس کے رب نے پکارا وادیِ مقدس مقامِ طویٰ میں۔ جہاں کوہِ طور پر اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ سے ہمکلامی کی اور اس میں یہ فرمایا۔ جاؤ فرعون کی طرف اس کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دو بے شک وہ بہت ہی سرکش ہو چکا ہے۔ اس کو خدا پر ایمان لانے کی تلقین کرنا پھر کہنا کیا تو نہیں چاہتا کہ تو پاک ہو جائے۔ کفر و نافرمانی اور غرور و تکبر کی گندگی سے اور کیا نہیں چاہتا کہ میں تجھے راستہ بتاؤں تیرے رب تک پہنچنے کا پھر تو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ معرفت اور خوفِ خداوندی سے اپنی زندگی سنوارے۔ کیونکہ انسانی زندگی کی اصلاح اور اس کی ہر خوبی معرفتِ الہی اور خشیتِ خداوندی پر موقوف ہے۔ چنانچہ موسیٰ نے وہاں پہنچ کر پیغامِ خداوندی اور دعوتِ ایمان کی ذمہ داری ادا کی اور حجتِ دہرہ ان قائم کرنے کے لیے اس کو بہت بڑی نشانی دکھائی جو عصا کا سحر تھا مگر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی اور پھر پیٹھ پھیر کر چلا کوشش کرتے ہوئے پھر سب جادو گروں کو جمع کیا اور جب سب جمع ہو گئے تو پھر پکار کر کہا تاکہ سب مرعوب ہو جائیں میں ہوں تمہارا سب سے بڑا رب موسیٰ کہاں سے آگیا اور کہیں نے اس کو بھیجا اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے

مجھڑہ عصا نے اڑھا جس کو جادو گردوں کے ظاہر کیے ہوئے تمام سائپوں کو نکل لیا۔ باوجودیکہ وہ جادو گر جو مقابلہ کے لیے آئے تھے ایمان لے آئے اور ایمان برابری استقامت و سختگی حاصل ہوئی کہ فرعون کی ہر دھمکی کا مقابلہ کیا اور دنیا میں انسان کو پیش آنے والی ہر بڑی سے بڑی اذیت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے (جیسا کہ تفصیل سے گذر چکا) مگر فرعون نافرمانی اور سرکشی سے باز نہ آیا تو پھر پکڑ لیا اللہ نے اس کو آخرت کے عذاب اور دنیا کی سزایں دنیا میں یہ سزا دی کہ پانی میں ڈبو دیا اور آخرت کی یہ سزا ہے کہ وہاں ناریہ جہنم میں ہمیشہ جلتے گا۔ بے شک اس تمام قصہ میں عبرت کا بہت بڑا سامان ہے اور سوچنے کا مقام ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، خداوند عالم کا یہ انتقام کس قدر شدید ہے اس نے ایسے مغرور و متکبر کو جو اپنی ربوبیت کا اعلان کرتا ہو اس طرح ذلیل و عاجز کر کے دنیا کے سامنے اس کی ہلاکت اور اپنے پیغمبر کی کامیابی ایک عظیم تاریخ بنا کر رکھ دی تاکہ ہر مغرور و متکبر جو اللہ کا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہو اس سے عبرت حاصل کر سکے۔

راجفہ اور رادفہ کی تفسیر

رجف کے معنی لغت میں جھڑ جھڑا دینے کے ہیں تو قیامت برپا کرنے کے لیے نفعی صورتوں کو مرتبہ ہو گا۔ جیسے ارشاد فرمایا گیا۔ **وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ مَسًا** اللہ نے نوا پھونکا تو اسی وقت نوا پھونکی اور زمین اور پہاڑوں پر زلزلہ طاری ہو جائے گا اس لیے اس کو راجفہ کہا گیا اور دوسرا سور اس کے پیچھے ہو گا جیسے کہ کوئی چیز کسی کے پیچھے لگی ہوئی اس لیے اس کو رادفہ فرمایا گیا۔ قرب قیامت کی خبر دیتے ہوئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ **جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَبِعَهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيهِ**۔ جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دو تہائی رات گزر جاتی تو اٹھ جاتے اور فرماتے (اے لوگو اللہ کا ذکر کرو اور اس کو یاد کرو) بس مجھ کو کہ جھڑ جھڑا دینے والی چیز راجفہ آجلی اور اس کے پیچھے لگی ہوئی رادفہ (جو قیامت برپا کرنے والی ہے) اور (جان لو کہ) مدت (سامنے) آجلی ہے مع اپنی تمام کرب و بے چینی کی حالت کے۔

ف حافزہ کی تفسیر میں مجاہد اور قتادہ سے منقول ہے کہ یہ قبور ہیں۔ ابن عباسؓ عمرہ اور سعید بن جبیرؓ بیان فرماتے تھے کہ حافزہ جیسا کہ بعد الموت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مشرکین انکار کرتے ہوئے کہا کرتے تھے **عَرَاتَانَا لَمَرَدُ دُونَِنَا فِي الْحَيٰۃِ** کہ کیا ہم دنیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ کسی زندگی میں اٹھائے جائیں گے۔ اور یہ کیونکر ممکن ہے جب کہ ہماری ہڈیاں بھی پرانی ہو کر کھوکھلی ہو چکی ہوں گی۔ تو اس پر

رہ فرمایا اور تنبیہ کی گئی ایسے منکرین کو سن لینا چاہیے کہ انہما ہی زجر ہے وَاٰجِدُ لَكُمْ فَاٰدَاہُمْ بِالنَّٰہِرَةِ۔

ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اِمِ السَّمٰوٰتِ بِنٰہَا ۲۷

کیا تم مشکل ہو بنانے یا آسمان؟ اُس نے وہ بنایا۔

رَفَعَ سَمٰوٰتِہَا فَسَوٰہَا ۲۸ وَاَغْطَشَ لَیْلِہَا وَاَخْرَجَ

اُدنیجی کی اس کی بلندی، پھر اس کو صاف کیا۔ اور اندھیری کی رات اس کی، اور کھول نکالی

ضَمٰہَا ۲۹ وَاَلْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِکَ دَحٰہَا ۳۰ اَخْرَجَ مِنْہَا

اسکی دھوپ۔ اور زمین کو اس پیچھے صاف بچھایا۔ نکالا اس سے

مَآءَہَا وَمَرَعٰہَا ۳۱ وَاَلْجِبَالَ اَرْسٰہَا ۳۲ مَتَاعًا لَّکُمْ

اس کا پانی اور چارا۔ اور پہاڑوں کو بوجھ رکھا۔ کام چلانے کو تہاڑے

وَلَا نِعَامٍ لَّکُمْ ۳۳ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّامَّةُ الْکُبْرٰی ۳۴ یَوْمَ

اور تمہارے چوپایوں کے، پھر جب آدے وہ بڑا ہنگامہ۔ جس دن

یَتَذَکَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰی ۳۵ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیْمُ

یاد کرے آدمی جو کسایا۔ اور نکال رکھی دوزخ،

لِیَنْظُرَ ۳۶ فَاَمَّا مَنْ طَغٰ ۳۷ وَاثَرَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَا ۳۸

جو چاہے دیکھے، سو جس نے شہرت کی۔ اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا

فَاِنَّ الْجَحِیْمَ هِیَ الْمَآوٰی ۳۹ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ

سو دوزخ ہی ہے۔ ٹھکانا۔ اور جو کوئی ڈرا اپنے رب

رَبِّہٖ وَنَهٰی النَّفْسَ عَنِ الْہَوٰی ۴۰ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ

پاس کھڑے ہونے سے، اور روکا جی کو چاڑھے۔ سو بہشت ہی ہے

الْمَاوِي ۳۱ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۳۲ ط

ٹھکانا - تجھ سے پوچھتے ہیں، وہ گھڑی، کب ہے ٹھہراؤ اس کا؟

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۳۳ إِلَىٰ رَبِّكَ مُتْتَهِمًا ۳۴ إِنَّمَا

تو کس بات میں ہے اس کے تذکرے سے؟ تیرے رب تک ہے پہنچ اس کی۔ تو تو

أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَخْشَاهَا ۳۵ كَانَتْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا

ڈر سنانے کو ہے، اس کو جو اس سے ڈرتا ہے۔ ایسا لگے گا جس دن دیکھیں گے اس کو۔

لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۳۶

کہ دیر نہیں لگی ان کو، مگر ایک شام یا صبح اس کی۔

اعلانِ خداوندی بقدرتِ کاملہ و عاجزی و پستی

کائنات پیشِ عظمتِ الہی

قال الله تعالى: ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ السَّمَاءُ الخ ...

الْأَعَشِيَّةَ أَوْ ضُحَاهَا (ربط) گزشتہ آیات میں خداوند عالم نے اپنی شانِ حاکمیت و عظمت و جلال کا ذکر کرتے ہوئے قیامت اور

قیامت کے احوال بیان فرمائے تھے۔ اور یہ کہ کائنات کا یہ سارا نظام دم کے دم میں درجہ برہم ہو جائے گا۔ زمین و آسمان اور

پہاڑ چاند سورج اور ستارے غرض سب ہی شتم کر دیئے جائیں گے اور دلوں کا اضطراب و بے چینی کا عالم ناقابل

تصور ہو گا تو اب ان آیات میں حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرتِ کاملہ کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور یہ کہ کائنات کی کوئی

طاقت اور قوت خداوند عالم کی عظمت و کبریائی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ارشاد فرمایا۔

لے منکر و بناؤ کیا تم ہو زیادہ سخت پیدا کرنے کے لحاظ سے یا آسمان۔ یقیناً ہر ایک ادنیٰ سے ادنیٰ عقل

والا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ آسمان کی تخلیق انسان کی تخلیق سے بہت بڑھ کر عظیم اور اہم ہے اور اس کی قدرتِ کاملہ

عہ یہ مضمون بعینہ وہی ہے جو آیت مبارکہ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْكَبِيرِ مِنْ

خَلْقِ النَّاسِ میں ارشاد فرمایا گیا۔

کا واضح ثبوت ہے تو جو ذات رب العالمین آسمان جیسی عظیم چیز پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے اس کی قدرت عظیم سے یہ بات کیونکہ بعید ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ قیامت میں اٹھائے اور زندہ کرے۔

پھر آفران کافروں کو کیوں تردید ہے۔ حالانکہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی پروردگار نے اس آسمان کو بنایا اس کی بندی کو کس قدر اوجھل کیا پھر اس کو ہموار اور برابر بنایا کیسا مضبوط کس قدر اونچا اور کیسا برابر اور ہموار کہ کسی جگہ سے کوئی فرق نہیں۔ پھر اس کا نظام کیسا باقاعدگی سے جاری ہے چاند سورج کا طلوع وغروب اور ستاروں کی رفتار اور یں دنہار کی تبدیلی دن کی روشنی اور رات کی تاریکی غرض یہ سارا نظام فلکیات ایسا محکم و منظم ہے کہ ہر ایک دیکھنے والا اس کے صنائع و خفایا کی حکمت اور کمال قدرت پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا تو جس ذات نے ایسی عظیم مخلوق پیدا کر دی اس کو کیا مشکل ہے کہ انسانوں کے مرنے کے بعد دوبارہ ان کو قیامت میں اٹھالے یہ سب کچھ اسی کی صناعتی ہے اور اس نے تاریخ کو دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کے دن کو سورج کے طلوع اور اس کی روشنی سے جو کہ کوکب و سیارات کے نظام ہی کے کرشمے ہیں اور آسمانوں سے ہی ان سب چیزوں کا تعلق ہے۔ اور زمین کو اس کے بعد بچھایا۔ جس سے اس کا پانی نکالا اور سبزہ بھی اُگایا۔ چشموں اور نہروں کو جاری

ع۔ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خلقِ ارض آسمانوں کی تخلیق کے بعد ہے اور سورۃ خم سجدہ میں خلقِ ارض کو مقدمات بیان فرمایا گیا اور زمین — اور زمین پر پیدا کی ہوئی چیزوں کی تخلیق کے بعد ارشاد فرمایا گیا ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاءِ وَرَبِّهِ دُخَانًا فَغَالَظَهَا وَلَدَّرَ فِيهَا طُلُوعًا وَقُدُحًا۔ اس اشکال کی تفسیر اور جواب اس مقام پر ذکر کر دیا گیا۔ مراجعت فرمائی جائے۔

پہاڑوں کا زمین میں گاڑنا۔ حدیث انس بن مالکؓ میں بروایت احمد بن حنبلؒ اس طرح مذکور ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین لرزنے لگی۔ اللہ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا جس سے زمین ٹھیر گئی۔ فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت و سختی پر تعجب ہوا اور پوچھنے لگے اے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقت ور چیز ہے اللہ نے فرمایا ہاں لوہا ہے۔ تو لوہے کی شدت پر فرشتوں نے پوچھا اے رب اس سے زیادہ کوئی چیز تیری مخلوق میں شدید ہے فرمایا ہاں! اور آگ پیدا کر کے دکھا دی گئی۔ فرشتوں نے اس پر تعجب کرتے ہوئے پوچھا اے رب کیا اس سے زیادہ کوئی طاقت ور چیز ہے جواب میں فرمایا ہاں! اور پانی پیدا کر دیا۔ اس پر بھی وہی سوال ہوا تو جواب دیا گیا ہاں اس سے بھی بڑھ کر ایک سخت اور طاقت ور چیز۔ ہوا ہے فرشتوں نے اس پر بھی تعجب کرتے ہوئے عرض کیا یا رب کیا اس پر بھی بڑھ کر کوئی طاقت ور چیز ہے جواب دیا گیا۔

نعم ابن آدم یتصدق بیہینہ لا تعلم شمالہ ما تنفق بیہینہ۔ کہ اس سے طاقت ور چیز انسان کا وہ صدقہ ہے جو اس طرح دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔

اس مضمون کی تفصیل کے لیے ناچیز کی کتاب ”سنازل العرفان فی علوم القرآن“ کا مطالعہ فرمائیں۔ ۱۲

کر کے ہنر سے غلے پھل اور پھول اور طرح طرح کی غذائیں پیدا نہیں اور پہاڑوں کو قائم کر دیا زمین کی سطح پر ایسی مضبوطی سے کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے۔ لے افسانہ! تمہارے واسطے سامان زندگی بنا کر اور تمہارے جو یاؤں کے واسطے ظاہر ہے کہ اگر یہ نظام قدرت قائم نہ کیا جاتا تو کہاں سے انسان کھاتے اور کہاں سے جانوروں کا چارہ ملتا۔ لوگ کیسے اپنی زندگی کے کاروبار کرتے اور کس طرح اس میں یکسانیت و تسلسل قائم کرتے۔ اگر دن کی روشنی اور رات کی تاریکی و سکون نہ ہوتا۔ غرض آسمان اور زمین اور اس میں پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اللہ رب العزت کی قدرت و حکمت کی عظیم نشانی ہے تو جب رب العالمین یہ سب کچھ انتظامات کر رہا ہے کیا وہ انسان کی بوسیدہ ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہو سکتا۔ اس میں شک و تردید یا انکار انسان کی بڑی ہی غفلت اور بھول ہے جس سے یقیناً اس کی آنکھیں کھلیں گی اور وہ چونکے گا۔ چنانچہ جب آجلئے گی وہ چورا چورا کرنے والی بہت بڑی ہیبت ناک چیز تو وہ دن ہوگا ایسا کہ انسان یاد کرے گا ہر اس چیز کو جو اس نے کمائی ہے اور زندگی کا ہر عمل اس کو بلا آجلئے گا اور اس وقت سوائے پچھتانے کے اور کوئی چارہ کار نہ ہوگا اور جہنم ظاہر کر دی جائے گی ہر اس کے لیے جو دیکھ رہا ہوگا۔ اور اس کو ایسے منظر عام پر لایا جائے گا کہ بلا کسی حائل اور رکاوٹ ہر ایک کو نظر آرہی ہوگی۔ بہر حال جس کسی نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو اس نے بہتر سمجھا اور اسی کو آخرت پر ترجیح دی۔ حتیٰ کہ آخرت کو جھلا دیا تو بس دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہوگا جس سے اس کو کسی طرح بھی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ سوچنے لگا کہ کیا منہ لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکوں گا اور میدانِ حشر میں کس طرح کھڑا ہو سکوں گا۔ اس اعتقاد و تخیل اور خوف خدا کے اثر سے اس نے اپنے نفس کو روک رکھا ہر خواہش سے تو بلاشبہ جنت اس کا ٹھکانا ہے کیونکہ نفس اور اس کی خواہشات ہی انسان کو اللہ کے احکام کی اطاعت و پیروی سے روکنے والی چیز ہے۔ اس لیے جب یہ صاحب ایمان خشیت و تقویٰ سے معمور خداوند عالم کی اطاعت و فرمان برداری کرتا ہے گا تو لامحالہ اللہ کے فضل و کرم سے جنت کا مستحق ہوگا۔ انسانی سعادت اور اس کی عقل و فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان صفات کو سمجھے اور ان پر ایمان لائے۔

عہ ظاہر ہے کہ جو شخص اس خیال کو اپنے قلب و دماغ میں رچانے کا وہ کسی بھی معصیت اور برائی میں مبتلا نہیں ہو سکتا اور یہ وصف بلاشبہ انسان کی طیفانی و سرکشی کی ضد ہے اور قوتِ نظریہ کی اصلاح و تکمیل ہے اور نہ ہی النفس من الہوسوی نفسانی خواہشات سے بچنے کا نام ہے اس لحاظ سے یہ وصف اس کی قوتِ عملیہ کی اصلاح و تکمیل ہے اور ان ہی دو قوتوں کی اصلاح انسانی سعادت ہے۔ لہذا ایسے انسان کا ٹھکانا جنت ہی ہے۔

بعض مفسرین بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں پہلی آیت یعنی اَمَّا مَنْ طَغَى الْخ کا مصداق

(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

لیکن کفار مکہ کی شقاوت و بد نصیبی کی کوئی حد نہ تھی انحراف و سرکشی کی نوبت یہاں تک پہنچی کہ لے لے ہمارے پیغمبر
 یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا وقت اس کے قائم ہونے کا اور کب وہ ظاہر
 ہوگی تو کس فکر میں پڑے ہو آپ اس کا وقت بتانے کے بارہ میں یہ آپ کا کام ہی نہیں کر آپ یہ بتائیں یا یہ
 سوچیں کہ ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں اور کیا وقت ان کو بتاؤں آپ کے رب ہی کی طرف اس کی نہایت
 ہے وہی جانتا ہے کہ کب آئے گی اور خواہ اس کا کسی سے سوال کیا جائے ان جملہ سوالات کا منتہی اسی کی ذات
 ہے اور اس کا علم صرف اسی کو ہے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا: اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عَلِمُ السَّاعَةِ۔ آپ تو بس
 آخرت اور عذابِ آخرت سے ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو اور اس پر ایمان رکھتا ہو اور
 ظاہر ہے کہ جو شخص آخرت اور قیامت کو مانتا ہی نہیں وہ کیا خاکِ عذابِ آخرت سے ڈرے گا۔ حالانکہ
 جب قیامت واقع ہوگی ایسا محسوس ہوگا جب یہ اس کو دیکھیں گے گویا کہ نہیں ٹھہرے ہیں دنیا میں یا مرنے
 کے بعد سے اس وقت اٹھنے کے زمانہ تک مگر صرف ایک شام یا صبح کی صبح۔ بعثت بعد الموت کے بعد یہ لوگ
 دنیوی زندگی کو صرف ایک صبح و شام کے بقدر ٹھہیرنا تصور کریں گے یا یہ تصور کریں گے کہ مرنے کے بعد میں اتنا ہی
 تھوڑا سا وقت گزرا ہے جس طرح کہ سو کر بیدار ہونے والا شخص محسوس نہیں کر سکتا کہ نیند کی حالت میں اس پر
 کتنا طویل وقت گزرا ہے بس یہی لگتا ہے کہ آنکھ لگی تھی اور اب کھل گئی۔

مسئلہ آخرت اور بعثت بعد الموت

مسائل اعتقادیہ اور علومِ نظریہ میں قرآنِ کریم نے مسئلہ آخرت اور بعثت بعد الموت نہایت ہی

عہ یہ کلمات اس آیت کی دونوں تفسیروں کی طرف اشارہ ہیں جیسا کہ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہ لوگ قیامت
 میں اٹھنے کے بعد دنیوی زندگی کو اس قدر مختصر محسوس کریں گے کہ گویا یہ صرف ایک شام یا صبح کے بقدر دنیا میں رہے
 ہیں تبادہ بھی اسی کو بیان کرتے ہیں نہما کہ نے ابن عباسؓ سے بھی یہی بیان کیا۔ اور بعض ائمہ مفسرین فرماتے
 ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو اس قدر قلیل مدت سمجھیں گے کہ گویا انہوں نے صرف ایک صبح یا شام
 گذاری ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب) - ۱۲ -

(بقیۃ حاشیہ) ۳۶۲
 عامر بن عبیر تھا جو نہایت ہی بدکار اور دنیا پرست تھا اور دوسری آیت یعنی وَ اَمَّا مَنْ
خَانَ مَقَاهِرَ رَبِّهِ الجہ کا مصداق اسی کے دوسرے بھائی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو
 تارک الدنیا اور پیکر نہد و تقویٰ تھے۔ اور غزوہٴ اُحد میں شہید ہوئے اور صورتِ حال یہ تھی کہ کفن کے واسطے ایک
 چادر بھی ایسی نہ تھی کہ سارا بدن ڈھانکا جاسکے۔ - ۱۲ -

اہتمام اور بڑی ہی تحقیق اور بسط و تفصیل سے بیان کیا ہے کیونکہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول آخرت پر ایمان دیقین ہی پر موقوف ہے سورہ بقرہ کی ابتداء ہی میں قرآن کریم کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے جہاں یہ فرمایا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے واسطے ذریعہ ہدایت ہے جو تقویٰ اور ایمان بالغیب یعنی اللہ اور اس کے رسول اور اس کی وحی پر یقین رکھتے ہوئے فرائض اسلام کی تعمیل و تکمیل پر آمادہ و مستعد ہیں۔ اسی کے ساتھ ان لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی۔

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرہ)

اور آخرت پر وہی یقین و ایمان رکھتے ہیں۔

اس سے واضح ہو گیا کہ ایمان باللہ والرسول ایمان بالآخرت سے منگ اور جدا نہیں بلکہ ایمان باللہ والرسول کا دار و مدار ایمان بالآخرت ہی پر ہے۔ "آخرت اور یوم آخرت" قرآن کریم نے متعدد مواقع پر دونوں ہی عنوان اختیار کیے ہیں۔ عالم آخرت کا آغاز دنیا اور دار دنیا کا آخری دن ہے اس وجہ سے یوم آخرت کہا جاتا ہے حق تعالیٰ نے انسانی زندگی دو عالموں سے متعلق فرمائی ہے۔ ایک زندگی دلاوت کے بعد سے اس کے مرنے تک ہے۔ اور دوسری زندگی موت کے بعد مبعوث اور دوبارہ اُٹھنے کے بعد سے جنت جہنم کی لازوال حالتوں تک۔ پہلی زندگی کو دنیا کہا گیا اور دنیا لغت کے اعتبار سے قریب تر چیز کو کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی انسان کو پہلے حاصل ہوتی ہے اس لیے اس کا نام دنیا ہوا اور مرنے کے بعد مبعوث ہونے پر جو زندگی ہے وہ بعد میں سب تو اس کو عقبیٰ اور آخرت فرمایا گیا۔ اسی اعتبار سے دنیوی زندگی کو (النشأة الاوٰلیٰ) یعنی پہلی پیدائش اور آخری زندگی کو (النشأة الاخریٰ) یعنی دوسری اور آخری پیدائش فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حیات انسانی کے ان دونوں ادوار کو الاوٰلیٰ اور الآخرۃ جیسے متقابل عنوان سے قرآن کریم تعبیر کرتا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّكَ مِنَ الْاٰوٰلٰی۔

مفسرین کی ایک جماعت اس آیت کی مراد یہ بھی بیان کرتی ہے کہ آخرت کی زندگی اور اس کی نعمتیں دنیوی زندگی اور اس کی راحتوں سے زائد بہتر ہے۔ بعض حضرات علامانے آسمان و زمین کے چھٹ جانے اور چاند و سورج اور ستاروں کے ٹوٹ جانے اور شب و روز کا نظام درہم برہم ہونے کو جو آخرت قرار دیا وہ اس لحاظ سے کہ یہ امور یوم آخرت کا مبداء و آغاز ہیں درنہ اصل یوم آخرت تو وہ ہے جب دوبارہ نفع صورت تمام انسان اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا۔

اور جس روز کا صور پھونکا جائے گا تو یہ ہوش ہو کر گرہ پڑیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے پھر دوبارہ اس میں صور پھونکا جائے گا تو فوراً وہ سب کھڑے ہو جائیں گے درآئیں گے اور دیکھتے ہوں گے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَحَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِمْ اٰخِرٰی فَاذٰ اٰهْمٌ رَّیْبًا یُّنظَرُوْنَ (سورۃ الزمر)

تو دوبارہ نفع صور پر جب مخلوق مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوگی، اس وقت دنیا اور حیات دنیاوی کا کوئی حصہ باقی نہ رہے گا اور پھر اس دن کے بعد نہ کبھی رات آئے گی اور نہ رات کے ختم

ہونے پر دوسرا دن آنے کا۔

دنیا تو اس جہان کی صفت حیات کا نام ہے جب حیات ہی باقی نہ رہے گی تو دنیا کا وجود کیونکر رہے گا۔ اہل حق کا اجماع ہے کہ انسان دنیا میں ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتا ہے اور جب مر جاتا ہے تو پھر کبھی اس کو دوبارہ دنیا کی حیات حاصل نہیں ہوتی۔ اور دنیا کی جب تمام ضروریات ختم ہو جائیں گی اور جو کچھ چیزیں دنیا میں ہیں وہ فنا ہو جائیں گی تو اس وقت حشر اموات ہو گا بس اسی کا نام آخرت ہے۔

یَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرُزُورًا
بِئْسَ الْوَأَحَدِ الْقَهَّارِ -
(سورۃ ابواہیم)

وہ دن جبکہ یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل
دی جائے گی اور اسی طرح آسمانوں کو بھی اور
سب لوگ اللہ واحد قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔
(اور نکل کھڑے ہوں گے)

اسی روز کو حق تعالیٰ شانہ کے دربار میں حاضری اور پیشی کا دن فرمایا گیا۔

یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ -
کہ اس دن لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے رب
العالمین کے سامنے۔

عنه اسی یوم کا نام یہ الفصل بھی ہے جیسا کہ فرمایا گیا هَذَا يَوْمَ الْفُضْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْآقِلِينَ اور
إِنَّ يَوْمَ الْفُضْلِ مِثْقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ کہ یہ فیصلہ کا دن ہے اے لوگو! ہم نے تم کو اور تم سے پہلوں
کو سب کو جمع کر لیا ہے۔ اسی کے بارہ میں ارشاد ہے إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعِنْدَ اللَّهِ حَقُّكُمْ تَمَّ
کا اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ یہ ایک وعدہ ہے برحق اور پختہ۔ اسی بناء پر قیامت کو "یوم موعود" بھی
فرمایا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے وَالسَّمَاءُ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيُسُورِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔
قیامت کے کچھ احوال ذکر کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے فرمایا۔

وَيَوْمَ نَسُفُ الْجِبَالِ
وَسُرَى الْأَرْضِ بَارِزَةً
وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ
نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا -
وَعَرَضْنَا عَلَى رَبِّنَا
صَفَاءَ لَقَدْ حَشَمْنَا
كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ
مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ
نَجْعَلَ كُمْ مَوْعِدًا -
(بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اور جس دن کہ ہم پہاڑوں کو سر کا دیں گے
(اور ان کو دوڑائیں گے کہ دیکھنے والا ان کو
روٹی کے گانوں کی طرح محسوس کرنا ہو گا،
اور اے مخالف تو زمین کو دیکھے گا ایک کھلا
ہوا میدان جس میں تمام مخلوق جمع ہوگی) اور
سب کو اکٹھا کریں گے اس طوع سے کہ ان میں
سے کسی ایک کو بھی نہ چھوڑیں گے اور سب
اللہ کے سامنے قطار در قطار پیش کیے جائیں
گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ بیشک تم

قیام قیامت اور یوم آخرت کو قرآن نے "الساعة" کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق دریافت کرتے ہیں اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کو ہے وہی ظاہر کرے گا اس کے وقت پر وہ بہت ہی بھاری ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وہ تمہارے سامنے نہیں آنے گی مگر اچانک۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا إِلَّا وَجْهًا وَإِلَّا هُوَ نَزَّلَتْ فِي الشُّجُورِ ۚ وَالْآنُزُلُ لَكُمْ إِلَّا بَعَثَهُ ۚ

(سورة الاعراف)

اس روز جب کہ اولین و آخرین میدان حشر میں حیران و پریشان کھڑے ہوں گے اور ہر ایک مہبوت و بدحواس اور کرب و بے چینی میں مبتلا ہو گا کہ اچانک رب العالمین اور احکم العالمین نہایت ہی عظمت و جلال کے ساتھ بندوں کے فیصلہ کے لیے نزول اجلال فرمائیں گے۔ ہر طرف فرشتوں کا پہرہ ہو گا۔ اسی منظر کو ان کلمات نے بیان کیا۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ ۖ

اور (اے مخاطب) تیرا رب (فیصلہ کیلئے)

ہمارے پاس آئے ہو اسی طرح (برہنہ) جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا بلکہ تم تو یہ سمجھتے تھے کہ تمہارے واسطے (حاضر کی) کا ہم نے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کر رکھا ہے اور لوگوں کے سامنے نامہ اعمال رکھ دیئے جائیں گے تو اس وقت اے مخاطب تو مجرموں کو دیکھئے گا کہ وہ ڈر رہے ہوں گے۔ اور کہتے ہوں گے ہائے افسوس ہماری بدنہی کیا ہو اس کتاب (نامہ اعمال) کو کہ اس نے کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ایسا نہیں چھوڑا کہ اس کو اس کتاب نے لکھ نہ لیا ہو اور سب لوگ اپنے ان تمام اعمال کو سامنے موجود پائیں گے۔ جو انہوں نے کیے اور اسے مخاطب تیرا رب کسی پر فتنہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ۱۲

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِمْ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَ وَحَدِّثُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۖ

(سورة كهف)

ۛ ۛ ۛ
ۛ ۛ ۛ

صَفًّا صَفًّا - آئے گا۔ اور فرشتے جوت درجوتی قطار و قطار
(الفجر) کھڑے ہوں گے۔

جبریل امین اور تمام ملائکہ مقررین اور عالم سموات و ارضین کے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ اور خداوند عالم کی عظمت و جلال اور ہیبت سے کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی۔ انبیاء و مرسلین بھی حیران و متفکر ہوں گے۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے انبیاء و مرسلین کو خطاب فرمایا جائے گا۔

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ
الرُّسُلَ فَيَقُولُ
مَاذَا أُجِبْتُمْ
فَأَلْوُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ - جس دن کہ اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا رسولوں
کو پھر ان سے فرمائے گا (بتاؤ) تم کو کیا جواب
دیا گیا (تمہاری امتوں کی طرف سے) عرض
کریں گے لے پروردگار (ظاہر میں جواب
دیا گیا وہ تو معلوم ہے لیکن) حقیقت کا ہمیں
علم نہیں ہے شک چھپی ہوئی باتوں کا تو ہی
خوب جانتے والا ہے۔

علماء متکلمین نے لکھا ہے کہ یوم حشر، صرف اجساد و ابدان ہی کا حشر اور جمع نہیں ہے بلکہ اس روز تمام مخلوق کے ابدان و اجسام کے جمع کرنے کے ساتھ انسانوں کے تمام اعمال و افعال اور احوال بھی جمع کر لیے جائیں گے۔ اعمال صالحہ اور سیئہ ہر ایک اس کے سامنے موجود ہوں گے اور وہ ان کا مشاہدہ کرتا ہوگا اور جب انسان یہ دیکھے گا کہ اس کی ایک بات اور ہر حرکت سامنے آرہی ہے تو یوں سانس جذبیت اٹھتے ہوئے دلال کے ساتھ کہے گا۔ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا - وَ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا۔

ایمان بالآخرۃ اور حشر و نشر اور بعثت جسمانی، دین کے بنیادی اصول میں سے ہے جس طرح کوئی شخص خداوند عالم اور اس کے رسول پر ایمان لائے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قیامت اور روز قیامت پر ایمان لائے بغیر شریعت کے نزدیک وہ شخص مومن کہلانے کا کسی طرح بھی مستحق نہیں۔

کفار مکہ اور مشرکین قریش خاص طور پر دو چیزوں کا بڑی شدت سے انکار کرتے تھے ایک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دوسرے قیامت کا۔ وہ ہرگز اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی ہر چند دلائل و بیانات کے مشاہدہ کے بعد بھی یہی کہتے کہ۔

إِنْ رَجَعْنَا إِلَى خِيَابِنَا
الَّذِي كُنَّا فِي مَا
نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ - اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ یہ ہماری دنیاوی زندگی
ہے۔ (اسی میں ہماری حیات و موت ہے)

اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔

(سورۃ النعام)

بلکہ کفار کہ تو بعث بعد الموت کے بیان پر استہزاء اور تمسخر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے۔

کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں
جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ تم جب کہ ریزہ ریزہ
کر دیئے جاؤ گے (مرنے کے بعد) تو پھر تم کو
یقیناً ایک نئی پیدائش کے ساتھ اٹھایا جائیگا۔
کیا یہ بات اللہ پر جھوٹ بہتان نہیں ہے یا یہ
کہ اس شخص کو کچھ سودا (جنون) ہے

هَلْ نَدْنٰكُمْ عَلٰی
رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا
مُرِّتُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ
اِنَّكُمْ لِنَبِيٍّ خَلِقَ
جَدِيْدٍ
اَفْتَرٰى عَلٰی اللّٰهِ
كِذْبًا اَمًّا
بِهٖ جِنَّةٌ۔ (سورۃ سبا)

حق تعالیٰ شانہ نے اس مسئلہ کو نہایت وضاحت کے ساتھ بار بار دہرایا اور فرمایا۔ قُلِ اللّٰهُ
يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا رَيْبَ فِيْهَا اِنَّ اللّٰهَ
حیات و زندگی عطا کرتا ہے پھر وہی تم کو مارتا ہے اور پھر وہی تم کو قیامت کے روز جمع کرے گا۔ جس میں
کوئی شبہ نہیں، مسئلہ بعث بعد الموت میں تردد کرنے والوں کو قرآن کریم نے ایک نہایت سادہ معقول اور
فطری انداز میں سمجھایا۔

کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جس خدا نے آسمانوں
اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے
سے عاجز نہیں ہوا تو کیا وہ اس پر قادر نہ
ہوگا کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بیشک وہ
خداوند عالم ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے
والا ہے۔

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ
خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَلَمْ يَعْصِ بِخَلْقِهِنَّ
يَقَادِرُ
عَلٰى اَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتٰى
بَلٰى اِنَّهٗ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ۔
(سورۃ احقاف)

یعنی جب ایک چیز کو اللہ تعالیٰ عدم سے وجود اور ظہور میں لانے پر قادر ہے اور کائنات کو
عدم محض سے پیکر وجود اسی نے عطا کیا تو اس کے اعادہ اور اس کے دوبارہ پیدا کرنے میں تردد پیدا کرنا خلاف
عقل ہے۔ حالانکہ کسی شے کے ایجاد سے اس کا اعادہ پہلے اور آسان ہوتا ہے تو ایسے لوگ عقل و شعور سے کس
قدر بعید ہیں کہ خالق کائنات کے لئے مخلوق کو دوبارہ قیامت میں اٹھانے کا انکار کرتے ہیں کفار مکہ کا یہ سوال
قرآن کریم نے نقل کر کے ہی استدلالی جواب ارشاد فرمایا۔

(کافروں نے کہا کون بڑیوں کو دوبارہ زندہ
کرے گا جب کہ وہ بوسیدہ اور ریزہ ریزہ
ہو چکی ہوں گی) (سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کہہ دیجئے کہ وہی خدا ان کو دوبارہ
زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا

قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ
وَهِيَ رَمِيْمٌ۔ قُلْ
يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا
اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ
خَلْقٍ عَلِيْمٌ۔ (سورۃ یس)

انسان کو اس کی تخلیق اور احوال تخلیق کے نمونے ذکر کرتے ہوئے ادبام و شکوک کی ظلمتوں سے نکال دینے کے لئے اس مسئلہ کو ایسے دلنشین انداز میں دلائل کے ساتھ بیان فرمایا کہ اس کو سن کر کوئی بھی صحیح العقل انسان ادنیٰ تردد اور شبہ کی گنجائش نہیں پائے گا۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ
 فِي شَكٍّ مِّن
 الْبُعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
 مِّن نَّوَابِثِ ثَمَرٍ
 مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ
 مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ
 مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ
 وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ
 لَكُمْ ؕ وَ نَقِذُ فِي
 الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ ۗ إِلَىٰ
 أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
 نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
 لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ
 مِّنكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ
 وَ مِّنكُمْ مَّن يُرَدُّ
 إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن
 بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا
 وَ تَرْجَىٰ الْأَرْضَ
 هَامِدَةً فَبِأَدَا
 أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
 الْمَاءَ ۗ اهْتَزَّتْ
 وَ رَبَّتْ ۗ وَ أَنْبَتَتْ
 مِّن بَيْنِ رُؤُوسِهِمْ
 سَائِجِدَاتٌ ۗ وَ جَعَلْنَا
 فِيهَا مَجَادِبَ مَّاءٍ
 يَّجْرِي سُبْحًا وَ لَيْلًا
 يَّجْرِي سَآخًا ۗ لِّيُحْيِيَ
 لَهَا بَعْضَ الَّذِي هَيَّأْنَا
 لَهَا ۗ وَ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

اے لوگو! اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارہ میں شک اور تردد میں پڑے ہوئے ہو تو اتم اس پر کیوں نہیں غور کرتے کہ بیشک ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ہم نے ان کی نسل کو نطفہ سے پھر پستہ خون سے پھر گوشت کے ٹوٹھے (بولی) سے جو نقشہ بنی ہوئی ہے اور بدوں نقشہ بنی ہوئی ہے تاکہ ہم اپنی قدرت کھول کر دکھلا دیں تم کو اور پھر پھرانے رکھتے ہیں۔ ہم تم کو پیٹ میں جب تک بھی ہم چاہیں مدت معینہ تک پھر ہم نکالتے ہیں تم کو ایک بچہ ہونے کی صورت میں۔ پھر یہ کہ تم پہنچ جاؤ اپنی جوانی کی قوت اور زور تک۔ اور تم میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جن کو قبض کر لیا جاتا ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو ارذل عمر یعنی عمر کے آخری حصہ تک لوٹایا جاتا ہے یہاں تک زہت پہنچ جاتی ہے کہ سمجھنے اور جاننے کے بعد بھی کسی چیز کو نہیں سمجھتا اتوی بیکار ہو جانے سے اور لے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے ایسی حالت میں کہ وہ خراب اور خشک پڑی ہے۔ پھر جب ہم نے اس پر پانی برسایا تو تر و تازہ ہو گئی اور اجھری اور اٹکانے لگی قسم قسم کے رشتوں کی چیزیں (پھل اور پھول) پر سب کچھ اس لیے ہے کہ بیشک اللہ ہی قادر مطلق اور ذات برحق ہے

اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور یقیناً وہی چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے اور قیامت بیشک آنے والی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں اور یقیناً وہ پروردگار دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان مردوں کو جو قبروں میں (مدفون) ہیں۔

ذٰلِكَ بِاَنَّ اِنَّ
هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ
الْمَوْتِىَ وَاَنَّ
نُفْسِىَ قَدِ مِثْرَا
وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ
فِيهَا وَاَنَّ اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ
فِي الْقُبُورِ (سورۃ الحج)

مقصود یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ دھوکہ لگ رہا ہے کہ انسان کے ریزہ ریزہ ہو چکنے کے بعد دوبارہ اس کو زندگی کس طرح دی جائے گی تو انسان کو چاہیے کہ خود اپنی پیدائش - پیدائش اطوار پر اور بخیر زمین پر بارشوں کے برسنے کے بعد طرح طرح کے سبزے اور شادابیوں کے اُگنے کے مناظر دیکھ کر یقین کر لے کہ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی دوبارہ حیاتِ زندگی عطا فرمائے گا جب زمین میں ہر تخم اور بیج ڈالے جانے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے اجزاء میں اس طرح غلط مطا اور حتیٰ کہ ذرہ خاک بن کر بھی پھر وہی تخم ایک درخت کی صورت میں زمین پر نمودار ہو رہا ہے تو اسی طرح اگر انسان کی ہڈیاں اس کا گوشت پوست بھی خواہ زمین میں مل کر خاک ہو چکا ہو یا ہواؤں میں اسکے ذرات اتر رہے ہوں یا پانی میں بہ رہے ہیں تو ان سب اجزاء کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیدے تو کیا عجب ہے۔ زمین پر اُگنے والا درخت اور گھاس کا تنکہ بعثت بعد الموت کا ایک کامل ترین نمونہ ہے۔

اس سائنسی دور میں اگر فضا میں منتشر شدہ آوازیں ضبط کی جاتی ہیں۔ تو یہ بات مادہ پرست انسان تسلیم کرنے سے کیوں تردد کرتا ہے کہ پروردگار عالم اپنی قدرت کا طے سے انسانی اجسام اور ان کے پراگندہ اجزاء حتیٰ کہ مٹی اور پانی میں تحلیل شدہ گوشت و پوست کو بھی جمع کر کے دوبارہ مبعوث فرما دے گا۔ مشعل بعثت بعد الموت سے متعلق یہ مضامین اگرچہ گزشتہ حصہ تفسیر میں متعدد مواقع میں گذر چکے لیکن مزید تحقیق کے طور پر ان مضامین کا پھر یہاں ایک مرتبہ اعادہ کر دیا گیا۔ بہر کیف یہ اعادہ افادہ سے غالی نہیں۔

عالم جسمانی کی حقیقت اور اسکی موت حیات

حضرت مولانا محمد قاسم نازوقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ "تقریر دلپذیر" میں عالم جسمانی کی حقیقت اور اس کی حیات و ممات پر ایک تفصیلی بحث کے دوران فرماتے ہیں۔

"عالم جسمانی بھی انسان کی طرح مختلف اجزاء سے مرکب ہے اور جس طرح انسان کی ہیئت ترکیبی اس پر دلالت کرتی ہے کہ یہ اس کی حیات مستعار محض ہے اور چند روزہ ہے اور اس کے بعد موت ہے اسی طرح اس عالم پر بھی ایک وقت موت کا آنے والا ہے اور جیسے انسان پر مختلف دور گزرتے ہیں، طفولیت

دشاباب اور پیری اور پھرموت اسی طرح عالم کے لیے بھی طفولیت و شباب اور بڑھاپے کا زمانہ ہے اس کے بعد اس کو فنا ہے اور یہ قیام قیامت کا وقت ہے اس وقت مجموعہ عالم کا قبض روح ہوگا اور اس کی حیات ختم ہو جائے گی آسمان و زمین پھٹ جائیں گے اور عالم کا تمام شیرازہ منتشر ہو جائے گا۔

تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ جیسے انسان ایسے متضاد اجزاء یعنی عناصر اربع آب و خاک و آتش و ہوا سے مرکب ہے کہ باہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ہر ایک کا مزاج دوسرے کے مخالف ہے ایسے ہی یہ سارا عالم بھی اشیاء مختلف المزاج اور مختلف التأثير سے مرکب ہوا ہے انسان کے اجزاء اس قدر مختلف المزاج اور مختلف التأثير نہیں جتنا کہ عالم کے اجزاء مختلف المزاج اور مختلف التأثير ہیں اور جب ہر چیز کا مزاج اور اس کی تاثیر علیحدہ ہے تو لامحالہ ایک دوسرے کا دشمن ذاتی اور مخالف اصلی ہوگا اور جب کبھی کسی جز کا ذرا بھی غلبہ ہوگا تو مزاج عالم میں ضرور فساد آئے گا اور جو اعتدال اس سے قبل تھا وہ باقی نہ رہے گا اور یہ حالت عالم کے لیے بمنزلہ مرض کے ہوگی جیسے انسان میں جب کوئی مرض آتا ہے تو وہ کسی خاص جز کے غلبہ ہی کی وجہ سے آتا ہے مثلاً جب آگ کا غلبہ ہوتا ہے تو بخار آتا ہے جب پانی کا غلبہ ہوتا ہے تو زکام اور فالج اور وجع المفاصل جیسے امراض ظاہر ہوتے ہیں اور جب خاک کا غلبہ ہوتا ہے تو جوست (خشکی) کی وجہ سے خارش پیدا ہوتی ہے اور ہوا کی زیادتی سے ورم اور ریاحی درد پیدا ہوتے ہیں۔

آدمی کا بدن فقط چار اجزاء سے مرکب ہے جب ان چارہوں کے غالب و مغلوب ہونے سے ہزاروں امراض پیدا ہوتے ہیں تو عالم جو کہ بے شمار اجزاء سے مرکب ہے ان کے غالب و مغلوب ہونے سے تو لاکھوں امراض پیدا ہونے چاہئیں۔

آسمان اس عالم کا سر ہے اور آگ سینہ ہے اور ہوا پیٹ ہے اور زمین اس کے پاؤں ہیں اور پانی بمنزلہ ہاتھ کے ہے اور شمس و قمر بمنزلہ آنکھ کے ہیں اور ہوا بمنزلہ ہڈیوں کے اور اشجار بمنزلہ بال اور دھیس کے ہیں۔ غرض جیسے ایک انسانی جسم پر سوس و فنا کا طاری ہونا نظام قدرت ہے اسی طرح حق تعالیٰ نے نظام کائنات میں بھی یہ مقدر فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ تمام عالم دنیا بھی انسانی جسم کی طرح امراض و آفات مصائب اور بلاؤں میں مبتلا ہوتے ہوتے زوال و فنا کا راستہ اختیار کر لے گا اور اسرا فیل علیہ السلام کا نوح صور عالم دنیا کے اس طویل و عریض اور وسیع جسد عنفری کو درہم برہم کر ڈالے گا۔

مسئلہ بعثت اور معاد ابدان

حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے "کتاب الروح" میں فرمایا۔ مسئلہ بعثت اور معاد ابدان ایک ایسا مستحق علیہ

عہ تقریر دلپذیر سوال علم الکلام حضرت نانوتوی کا یہ مقالہ عجیب حقائق و معارف کا خزانہ ہے۔ اہل علم اصل کی طرف مراجعت فرمائیں۔

مسئلہ ہے کہ اس پر تمام مذاہب و ادیان سماویہ پر ایمان رکھنے والوں کا اتفاق ہے خواہ وہ یہود ہوں یا نصاریٰ۔
جلال الدین الدوانی نے یہی مسئلہ بعثت کے ثبوت پر دلائل ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس پر تمام اہل مل
زینی سماویہ کا جماع ہے اور قرآن کریم کی ایسی واضح اور صریح نصوص سے مثلاً آیت - قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ - ثابت ہے کہ کسی بھی فلسفی کو تادیل کی گنجائش نہیں۔ لہ

امام بیہقی نے ابن عباسؓ سے ایک روایت تخریج کی کہ عاص بن وائل (جو مشرکین میں سے ایک بہت
بڑا مشرک تھا) ایک سوکھی ہوئی ہڈی لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس کو چوراچورا کر کے کہنے
لگا۔ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اللہ اس کو بھی زندہ کرے گا بعد اس کے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو چکی۔ آپ نے
فرمایا ہاں! اللہ رب العزت اس کو زندہ کرے گا اور اس کے بعد تجھ کو عذاب دے گا۔ اس واقعہ
پر قرآن کریم میں یہ آیت نازل ہوئی۔

اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانَ اَنَّا
خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْقَةٍ فَاِذَا
هُوَ حَمِيْمٌ مُّبِينٌ - (سورۃ یس)

کیا نہیں دیکھا انسان نے اس بات کو بیشک
ہم ہی نے اس کو نطفہ سے پیدا کیا پھر ناگمان
وہ کھلم کھلا خصومت کرنے والا ہو گیا ہے۔

امام رازی نے فرمایا حق یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ حشر جسمانی کا انکار جمع ہونا ممکن ہی نہیں ان ہی دلائل
نصوص کے پیش نظر جس کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اور علیٰ اللہ القیاس قدم عالم کا قول جس کے قائل فلاسفہ ہیں
حشر جسمانی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔

بہر کیف اصول شریعت اور بیان کردہ دلائل سے یہ ظاہر ہے کہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ
اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تمام بندوں کو مع ان کے ابدان اور اجزاء اعلیٰ کے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو محشر کی
جانب لے جایا جائے گا تاکہ ان کے اعمال کی جزاء و سزا کا فیصلہ ہو اس طرح سے آخرت اور حشر جسمانی پر ایمان لانا
کتاب اللہ سنت رسول اللہ اور اجماع امت و سلف سے ثابت ہے جس کے استحکام پر عقلی دلیل قائم نہیں کی جا
سکتی۔ اول تو اجزاء بدنہ معدوم نہیں ہوتے بلکہ ان کا استحکام اور تعمیر ہو جاتا ہے دوسری صورتوں میں جس طرح کہ
لکڑی جلنے کے باوجود معدوم نہیں ہوتی بلکہ وہ راکھ اور کوئلہ کے شکل کی طرف مستحیل ہوتی ہے لیکن بالفرض معدوم
بھی قرار دے لیا جائے تب بھی کوئی عقلی دلیل محال ہونے پر قائم نہیں کی جا سکتی۔ کیونکہ جب دلائل ظاہرہ اور
صحیح ظاہرہ سے یہ ثابت ہے کہ حق تعالیٰ ایجاد معدوم پر قادر ہے اور یہ ساری کائنات اس کا ثبوت ہے
تو اعادہ معدوم پر وہ کیونکر قادر نہ ہوگا یہی وہ حقیقت ہے جس کو ان الفاظ میں تعبیر فرمایا گیا۔

كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعِيدُكَ -
جس طرح ہم نے مخلوق کو اول مرتبہ ایجاد کیا
اسی طرح ہم اس کا اعادہ بھی کریں گے۔
(سورۃ الانبیاء)

علامہ سفارینی رحمۃ اللہ علیہ بعث جسمانی کے مسئلہ پر بحث کے دوران حکرمہ رحمۃ اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ فرمایا۔ جو لوگ سمندر میں غرق ہو جائیں اور ان کے گوشت پوست سمندر کی مچھلیاں کھا جائیں اور ان کی ہڈیوں کے سوا کوئی چیز باقی نہ رہے پھر ان ہڈیوں کو سمندر کی موجیں ساحل پر ڈال دیں اور پھر اسی طرح کچھ عرصہ بڑی رہیں۔ یہاں تک کہ بوسیدہ ہو جائیں۔ اور پھر اس جگہ پر ادنیٰ کا گزر ہو وہ اس کو کھالیں اور میٹنگنی کر دیں۔ پھر کچھ عرصہ بعد کوئی قافلہ اس جگہ آ کر ٹھہرے اور ان میٹنگنیوں کو قافلہ کھانا پکانے کے لیے جلانے تک یہ آگ بجھ کر راکھ ہو جائے اور اس راکھ کو ہوائیں اڑا کر دور دراز میدانوں تک منتشر کر دیں تو بھی فنج صورت ہوتے ہی یہ سب مردے جن کی ہڈیوں کی راکھ اس طرح منتشر و پراگندہ ہو چکی ہے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان میں اور قبروں سے ان مردوں کے اٹھنے میں کوئی فرق نہ ہو گا جن کے ابدان قبور میں ابھی صحیح و سالم ہیں۔

شیخ مرعیؒ فرماتے ہیں خداوند عالم انسانوں کے ان تمام اجسام کو بھی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ جن کے ٹکڑے درندوں کے پیٹوں، زمین کی تہوں اور سمندر کی موجوں اور بحری جانوروں کے منہوں میں ہیں ہر ایک ٹکڑے کو اللہ اپنی قدرت سے سمیٹ کر یکجا کر دے گا اور ان کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو ایک حدیث کے مضمون سے واضح اور ثابت ہوتی ہے۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسے شخص نے جس نے کوئی خیر کا کام نہیں کیا تھا، اپنے گھر والوں کو بطور وصیت یہ کہا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسے شخص نے کہ اس نے اپنے اوپر بہت ہی تعدی (زیادتی) کی تھی تو جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی کہ جب وہ مر جائے تو پہلے اس کو جلا دینا پھر اس کی راکھ نصف تر ہو میں اڑا دینا اور نصف سمندر میں بہا دینا اور کہا کہ خدا کی قسم اگر خدا تعالیٰ مجھ پر قادر ہو گیا تو ایسا عذاب دے گا کہ جہاں والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہ دے گا۔ الغرض جب وہ شخص مر گیا تو اس کے حکم کے مطابق گھر والوں نے معاملہ کیا لیکن اللہ رب العزت نے خشکی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کے جو اجزاء ہیں وہ جمع کر لے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ لَأَهْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ رَجُلٌ اسْرَفَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَوْضَى لِنَفْسِهِ إِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ ثُمَّ أَذَرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ فَوَافَقَهُ لَمَّا قَدَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ لِيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ - فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُمْ فَأَمَرَ اللَّهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ وَأَمَرَ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ

هذا - قال من خشيتك
يا رب وانت اعلم
نغضرك -
(صحیح بخاری، مسلم بحوالہ
مشکوٰۃ المصابیح)
بند ہے! یہ تو نے کس لیے کیا۔ عرض کیا: اے میرے پروردگار تیرے خوف سے تو حق تعالیٰ
شائے اس کی اس خشیت اور عذاب خداوندی کے ہیبت پر مغفرت فرمادی۔

معاد جسمانی اور حشر ابدان پر عقلی شواہد

علامہ ابراہیم بن علی بن سینہ نے آندھی مسئلہ بعثت و معاد اور حشر جسمانی پر محققانہ کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مسئلہ بعثت اور آخرت مقتضائے عقل کے عین مطابق اور سراپا حکمت و مصلحت ہے کیونکہ آخرت کا خوف اور جزاء و سزا کی فکر ہی انسانی زندگی اور عالم کو بڑے اعمال و افعال ظلم و تشدد خیانت مکر و فریب فواحش و منکرات سے بچانے والی چیز ہے۔ اگر انسانی اذہان اس فکر و خوف سے خالی ہو جائیں تو پھر نہ قتل و خونریزی میں کسی کو کوئی تامل ہو گا نہ اعمال و اخلاق اور معاشرت کے مفاسد و تباہیوں کی کسی کو پرواہ ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بڑی سی طاقت و حکومت اور زائد سے زائد بادشاہ و شاہ بھی ہو تو تب بھی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے افراد صرف اسی حد تک اپنے جرائم سے رُک سکتے ہیں جہاں تک ان پر حکومت کے نگران حکام قائم اور مسلط ہیں ایسے افراد جس کسی بھی مرحلہ پر گرفت اور نگرانی کی بندشیں ذرا بھی ڈھیلی دکھیں گے۔ فوراً اسی ظلم و ستم قتل و غارت گری اور مجرمانہ روش کو اختیار کر لیں گے۔ رات کی تاریکیوں خلوتوں اور ایسے بیابانوں میں جہاں اس پر کسی انسان کی نگاہ نہ پڑ سکتی ہو۔ بے راہروی سے باز رکھنے والی طاقت صرف خوف خداوندی اور یوم الحساب (آخرت) کا اندیشہ ہی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس محاسن افعال اور بھلائیوں کا حصول بھی اسی پر موقوف ہے۔ لہذا معلوم ہوگا کہ نظام عالم کی تکمیل اور درستگی بعثت و معاد پر ایمان اور دار آخرت کے شوق و خوف کے بغیر ممکن نہیں۔ پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر مسئلہ معاد تسلیم نہ کیا جائے تو انسان بجائے اشرف المخلوقات ہونے کے حیوانات سے بھی زائد نہیں اور کم درجہ ہو جائے گا کیونکہ حیوانات عقل و ادراک کی صلاحیتوں سے محروم ہیں۔ وہ ہر قسم کے فکر و غم سے آزاد ہیں برخلاف انسان کے کہ وہ طرح طرح کے افکار اور پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ کسی ماضی کے احوال پر نظر کر کے وہ غم اور ملال میں مبتلا ہے۔ تو کسی وقت مستقبل کے فکر اور اندیشہ سے اس کی جان گھلی جا رہی ہے۔

رہا جسمانی لذتوں اور راحتوں کا سوال؟ سو اس میں حیوان و انسان کوئی امتیاز نہیں رکھتا۔ جس

طرح ایک انسان لذیذ غذاؤں اور قسم قسم کے پھلوں کو لذت و رغبت سے کھاتا ہے۔ حیوانات اسی لذت و رغبت سے گھاس اور چارہ کھاتے ہیں جیسے حضرت انسان اپنے عالی شان مکانوں میں آرام و راحت حاصل کرتا ہے۔ جانور چرند پرند اپنے اپنے اصطلح گھونسوں، آشیانوں اور بلوں میں آرام حاصل کرتے ہیں حتیٰ کہ نجاست کا کیرا نجاست کو اسی لذت سے کھاتا ہے جیسے نوع بشر میں لذیذ غذا میں استعمال کی جاتی ہوں تو اگر آخرت کے مسئلہ سے صرف نظر کر لی جائے تو معلوم ہو گا کہ یہ انسان بہت ہی خسارہ اور نقصان میں پڑنے والی مخلوق ہے کہ جسمانی لذتوں اور راحتوں میں تو یہ عام حیوانات ہی کے برابر بل اس کے بعد امتیاز و خصوصیت کا بہ ظفر اٹا کر طرح طرح کے افکار و آلام اور ہوم و غوم کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے جس میں حاکم و محکوم امیر و مغرب بوزھا اور جوان، مرد و عورت عرض سب برابر کے شریک ہیں۔ گویا اس کے عقلی و فکری کمالات نے بجائے کسی عظمت و برتری کے اور مصیبت و ذلت میں ڈال دیا تو انسان کے اس عقلی کمال اور ادراکی صلاحیتوں کے ساتھ اگر مسئلہ معاد ہی نہ ہو اور اخروی سعادت کا حصول ہو تو وہ تمام عملی اور اخلاقی کمالات، زہد و تقویٰ، صبر و قناعت، خدمتِ خلق، ایثار و بہمدردی جیسی تمام خوبیوں سے محروم رہے گا۔ مسئلہ عقاب و ثواب کے بغیر انسانی زندگی کسی طرح بھی حیوانی زندگی سے کوئی برتری اور امتیاز حاصل نہیں کر سکتی بلکہ ان محیر العقول انسانی کمالات کے باوجود انسان اپنی زندگی کو اگر صرف اسی حد تک محدود کر دے جن حدود میں حیوانات محدود ہیں تو بلاشبہ یہ چیز اس کو زیادہ سے زیادہ خمیس و ذلیل بنا دینے والی ہوگی یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے منکرین آخرت کو انعام (چوپاؤں) کے درجہ میں بلکہ ان سے بھی زائد حقارت و لپستی کے مقام میں شمار کیا۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

ان هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ
اَضَلُّ سَبِيْلًا۔
کچھ نہیں ہیں یہ کافر مگر چوپاؤں کی طرح بلکہ ان کے
بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے۔

کیونکہ چوپائے بہر حال اپنے پرورش کرنے والے مالک کو پہچان لیتے ہیں اور اس کے سامنے گردن جھکادیتے ہیں اسکو محسن سمجھتے ہیں۔ کسی نہ کسی درجہ میں نفع و ضرر کو جانتے ہیں اگر ان کو کھلا چھوڑ دو تو چراگاہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں انکو غذا اور پانی مل جاتا ہے لیکن یہ منکرین آخرت اور کافر اپنے مالک کو پہچانتے ہیں نہ اپنے محسن کو سمجھتے ہیں اور نہ اپنے نفع و نقصان کی تمیز کرتے ہیں اور جس عقل و فہم سے یہ خدا کو پہچان کر سبے شمار دینی اور دنیوی کمالات اور سعادتیں حاصل کرتے اس کو معطل رکھ کر اپنے واسطے ابدی بلاکت اور تباہی کا سامان مہیا کیا بھلا بتایا جائے کہ اس سے زیادہ اور کون سا بد عملی کا مقام ہو سکتا ہے۔

عہ مسئلہ معاد اور بعثت بعد الموت کی تفصیل کے لیے اہل علم کتب علم الکلام کی مراجعت فرمائیں۔ شرح عقیدۃ السفارینی میں علامہ نے تفصیل سے کلام فرمایا ہے اور الرسالة الحمیدہ فی حقیقۃ الدیانۃ الاسلامیہ میں علامہ جسر طرابلسی نے نہایت ہی حکیمانہ انداز سے تفصیل بیان کی ہے۔ کتاب علم الکلام تالیف حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی کی اردو زبان میں مسائل کلامیہ کا ایک بلند پایہ مجموعہ ہے۔

اثبات قیامت اور حشر و نشر کے تمام قرآن کریم از اول تا آخر بجا ہوا ہے یہ مضامین مندرجہ ذیل ایک سو ایک سورتوں میں مذکور ہیں۔

البقرة - آل عمران - المائدة - انعام - الاعراف - یونس - ہود - ابراہیم
 الحجر - النحل - بنی اسرائیل - النکف - مدثر - طہ - الانبیاء - الحج - المؤمن
 النور - الفرقان - النمل - القصص - الروم - لقمان - السجدة - الاحزاب - السبا
 یس - والصفات - ص - الزمر - المؤمن - حم السجدة - الشوری - الزخرف
 الدخان - الجاثیة - الاحقاف - ق - الذاریات - الطور - النجم - القمر - الرحمن
 الواقعة - المجادلة - الممتحنة - التغابن - التحریم - المملک - الفلک - الحاقة
 المعارج - المزمل - المدثر - القیمة - المرسلات - النبا - التزمت - عبس
 التکوثر - الانفطار - الانشقاق - الطارق - الفجریة - الفجر - النین - العذیات
 القارعة - وغیرہ

مضامین قیامت اور حشر و نشر پر مشتمل سورتوں کی تعداد - ۶۸

مضامین قیامت اور حشر و نشر پر مشتمل آیات کی تعداد - ۱۶۹

اور یہ تعداد ان آیات کی ہے جن میں یہ مضامین قصداً اہمیت و تفصیل اور دلائل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ ان کے علاوہ جن میں ان مضامین کا تبعاً و اشارتاً یا ضمناً ذکر آیا وہ آیات بھی سینکڑوں سے تجاوز ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ عَبَسَ

اس سورت میں خاص طور پر عقیدہ رسالت کا اثبات اور لوازم رسالت کا بیان ہے اور ساتھ ہی دلائل قدرت بھی ذکر فرمائے جا رہے ہیں۔ اور ان دلائل کی روشنی میں قیامت اور بعثت بعد الموت کو ثابت کرنا ہے جس کے ضمن میں یہ بھی فرما دیا گیا کہ قیامت کی ہول اور دہشت کا یہ عالم ہوگا کہ ہر انسان دوسرے سے بیگانہ ہوگا۔ اور اس کو صرف اپنی ہی فکر و پریشانی ہوگی۔ ان مضامین میں خاص طور پر اس امر کو بھی بیان فرمایا گیا کہ اہل ایمان (خواہ وہ دنیا کی نظروں میں) کتنے ہی کم درجہ اور ضعیف ہوں لیکن ان کی دلجوئی اور مدارت ایمان کا تقاضا ہے ان کو دنیا پر فوقیت اور برتری دینی چاہیے۔ بلکہ اہل دنیا اور متکبر مالداروں سے اعراض اور بے رخی اختیار کرنی چاہیے۔

آیاتہا ۲۲ = ۸۰ = سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ = ۲۲ رُكُوْعُهَا ۱

سورہ بیس کی ہے اس میں بیالیس آیتیں اور ایک رکوع ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۱ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۲ وَمَا يَدْرِيكَ

تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ اس سے کہ آیا اس کے پاس اندھا۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے؟

لَعَلَّهٗ يَزْكٰی ۳ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰی ۴ اَمَّا

شاید کہ وہ سنوڑتا۔ یا سوچتا تو کام آتا اس کے سمجھانا۔ وہ جو

مِنْ اَسْتَغْنٰی ۵ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدٰی ۶ وَمَا عَلَيْكَ اِلَّا

پرہیز نہیں کرتا۔ سو تو اس کی نگر میں ہے۔ اور تجھ پر گناہ نہیں کہ وہ

يَزْكٰی ۷ وَاَمَّا مَنْ جَاءَهُ الْيَسْعٰی ۸ وَهُوَ يَخْشٰی ۹ فَاَنْتَ

نہیں سنوڑتا۔ اور وہ جو آیا تیرے پاس دوڑتا۔ اور وہ ڈرتا ہے۔ سو تو

عَنْهُ تَلَهٰی ۱۰ كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۱۱ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۱۲

اس سے قافل کرنا ہے۔ یوں نہیں! یہ تو سبھوتی ہے۔ پھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے۔

فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ۱۳ مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۱۴ بِاَيْدِي

لکھی ہے ادب کے ورقوں میں۔ اونچے درجے کے دستوں سے۔ ہاتھوں میں

سَفَرَةٍ ۱۵ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۱۶ قَتَلَ الْاِنْسَانَ مَا اَكْفَرَهُ ۱۷

لکھنے والوں کے۔ جو سردار ہیں نیک۔ مارا جائیو آدمی کیسا ناشکر ہے؟

مِنْ اٰیِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۱۸ مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۱۹

کس چیز سے بنایا اس کو۔ ایک بوند سے۔ بنایا، پھر اندازہ رکھا اس کا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسْرَهُ ۚ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۖ ثُمَّ إِذَا

پھر راہ آسان کر دی اسکو۔ پھر اس کو مُردہ کیا، پھر قبر میں رکھوایا۔ پھر جب

شَاءَ أَنْشُرَهُ ۖ كَلَّا لَمَّا يَقِضْ مَا أَمَرُهُ ۗ فَلْيَنْظُرِ

چاہا اس کو اٹھا نکالا۔ کوئی نہیں! پورا نہ کیا جو اس کو فرمایا۔ اب نگاہ کرے

الْإِنْسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۗ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۖ ثُمَّ

آدی اپنے کھانے کو۔ کہ ہم نے ڈالا پانی ادھر سے۔ پھر

شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعِنَبًا

چیرا زمین کو پھاڑ کر۔ پھر اُگایا اس میں اناج۔ اور انگور

وَقَضْبًا ۖ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۖ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۖ وَفَاكِهَةً

اور ترکاری۔ اور زیتون اور کھجوریں۔ اور باغ گھن کے۔ اور میوہ،

وَأَبَا ۖ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۗ فَإِذَا جَاءَتِ

اور دُوب۔ کام چلانے کو تمہارا اور تمہارے چوپایوں کا۔ پھر جب آوے

الصَّاعِثَةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۗ وَأُمُّهُ وَأَبِيهِ ۖ

وہ غل۔ جس دن بھاگے مرد اپنے بھائی سے۔ اور اپنے ماں باپ سے۔

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ

اور اپنی ساتھ دالی سے اور بیٹوں سے۔ ہر مرد کو ان میں سے اس دن ایک نکر لگا ہے، جو

يُغْنِيهِ ۖ وَجُوهٌ يُّومِئذٍ مُّسْفِرَةٌ ۖ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۖ

اسکو بس ہے۔ کہتے منہ اس دن روشن ہیں۔ ہنستے خوشیاں کرتے۔

وَوُجُوهٌ يُّومِئذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۖ

اور کہتے منہ اس دن ان پر گرد پڑی ہے۔ چڑھی آئی ہے ان پر سیاہی۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرَةُ الْفَجْرَةُ ۝

وہ لوگ وہی ہیں جو منکر ہیں ڈھیٹے۔

ترغیب ملاحظت باضعفاء مؤمنین استغناء و بے نیازی از اہل دنیا و متکبرین

قال الله تعالى: عَبَسَ كُتُوْلَىٰ اَنْ جَاءَهُ الْاَعْْمَىٰ... الى... اُولَئِكَ هُمُ الْكَفِرَةُ الْفَجْرَةُ۔
(اربطا) گزشتہ سورت میں قیامت اور احوال قیامت کا ذکر تھا۔ اور بعثت بعد الموت کا مضمون بیان کرتے ہوئے آخر سورت میں نجات و کامیابی کا یہ معیار بیان کیا گیا کہ وہ خشیت و تقویٰ، فکرِ آخرت اور نفس کو خواہشات سے روکنا ہے۔ یہی انسان کی عزت و عظمت ہے اس کے برعکس سزور و تکبر اور سرکشی خدا کی نظر میں نہایت ہی بدترین اور ذلیل خصلت ہے تو اس سورت میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ ملاحظت اور دلجوئی کا برتاؤ کرنا چاہیے اور ان کے مقابلہ میں کسی بھی مصیبت سے دنیا دار اور مغرور و سرکش انسانوں کو ترجیح نہ دینی چاہیے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض سردارانِ قریش کو کچھ بھجھا رہے تھے۔ اور آپ کو یہ اُمید اور طمع تھی کہ شاید یہ لوگ اسلام لے آئیں اور یہ بھی خیال تھا کہ اگر یہ لوگ اسلام لے آئے تو ان کے قبیلے اور ان کے ماتحت لوگ بھی اسلام لے آئیں گے۔ اسی دوران عبد اللہ بن ام مکتومؓ ایک نابینا صحابی جو قدیم الاسلام تھے آگئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دریافت کرنے لگے اور آپ چاہتے تھے کہ عبد اللہ بن ام مکتومؓ کچھ ٹھہر جائیں۔ تاکہ میں وہ بات جو قریش کے کسی سردار آوردہ سے فرما رہے تھے وہ پوری کر لوں اور اس وجہ سے آپ پر کچھ گرائی واقع ہوئی اور ابن ام مکتومؓ کی طرف توجہ نہ کی بلکہ گرائی کے آثار بھی چہرہ پر ظاہر ہوئے۔ آپ نے یہ سوچا کہ ابن ام مکتومؓ تو مسلمان ہیں ان کو بعد میں بھی بتایا جاسکتا ہے اور تعلیم کے مواقع ان کو بعد میں بہت مل سکتے ہیں۔ اس لیے آپ اسی شخص کی طرف متوجہ رہے اس پر یہ آیات نازل ہوئیں: عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ۔ ارشاد فرمایا۔

نیورے چڑھالی ترشش روئی اختیار کی اور منہ موڑا اس بات پر کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ اور لے ہمارے مخاطب تمہیں کیا خبر ہے شاید وہ سنور جائا۔ آپ کی توجہ اور اس کے سوال کا جواب دینے سے یادہ غور و فکر کرتا تو پھر اس کو کام آتا سمجھانا اور آپ کی بات سے تزکیہ و پاکی اور اس طرح کے بہت سے فوائد حاصل ہو جاتے۔ جس سے آپ نے اعراض کیا۔ اور بے رخی کرتے ہوئے اس پر کچھ گرائی محسوس کی۔ لیکن اس کے بالمقابل جس شخص نے بے نیازی اور لاپرواہی برتی بس آپ اسی کی فکر میں لگے رہے۔

اس خیال سے کہ شاید یہ ہدایت قبول کر لے حالانکہ یہ شخص اپنے عذر و ذکیر سے آپ سے بے نیازی برت رہا ہے اور وہ نابینا طالب حق تھا۔ طلب صادق لے کر آپ کے پاس آیا تھا گو یہ طالب حق شکستہ حال تھا۔ لیکن درحقیقت توجہ اور التفات کا یہی مستحق تھا اور اسی کو آپ کی توجہ اور نصیحت کا فائدہ پہنچ سکتا تھا برخلاف اس مغرور و سرکش کے جو اس بات کا ارادہ ہی نہیں رکھتا کہ حق اور ہدایت قبول کر لے۔

رہا آپ کا یہ جذبہ اور شوق کہ اگر یہ ہدایت قبول کر لے گا تو بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے تو یہ فرد ری نہیں کہ ایسا ہو ہی جائے اور آپ پر تو اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ راہ راست پر کیوں نہیں آتا اور اپنی زندگی نہیں سنوارتا وہ تو اپنے غرور اور شیخی میں آپ کی بات کی پرواہ تک بھی نہیں کرتا اور بہر حال وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ انتہائی تڑپ اور طلب صادق کو لے کر اور حال یہ ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ ملاقات میسر ہوتی ہے یا نہیں پھر وہ چونکہ نابینا ہے ڈر رہا ہے کہ کسی چیز سے ٹکرا کر کہیں گر نہ پڑوں یا یہ کہ آپ کی طرف جانا دیکھ کر دشمن اس پر ٹوٹ نہ پڑیں تو جو ضعیف و معذور مومن صادق ان جذبات کی کیفیات کے ساتھ آ رہا ہے پس آپ اس سے زیادہ بے رحمی کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہی شخص زیادہ التفات و توجہ اور عنایات و ملاحظت کا مستحق ہے۔ اس سے امید ہو سکتی ہے کہ آپ کی ہدایات سے منتفع ہو اور آئندہ اسی کے ذریعے اسلام کی ترقی اور عظمت ہو۔ بہر حال آگاہ ہو جائیے بس یہ ایک نصیحت ہے جس کا دل چاہے

عن چنانچہ یہی نابینا بزرگ جنگ قادسیہ میں زہر پینے اور جھنڈا ہاتھ میں لیئے جہاد میں شریک ہوئے اور بالآخر اسی معرکہ میں شہادت پائی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارضاؤ۔

ان کلمات میں بارگاہِ خداوندی سے اپنے پیغمبر پر محبت بھرے عتاب سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایک شکستہ حال مومن صادق کی دلجوئی۔ مقصود ہے اور اس اندازِ تعبیر سے اسلام کی تعلیم و تبلیغ کرنے والوں کو یہ سبق سکھانا ہے کہ وہ کسی وقت بھی محض اپنے ذہنی افکار و تمناؤں کے پیش نظر اہل ایمان اور ضعیف و مخلصین سے اعراض و بے رحمی نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ربیعہ۔ ابو جہل بن ہشام اور عباس بن عبدالمطلب سے گفتگو فرما رہے تھے۔ اور بڑی ہی توجہ سے ان کی جانب مہنگ تھے اور آپ کو حرص تھی کہ کسی طرح یہ لوگ اسلام قبول کر لیں ناگہاں عبداللہ بن ام مکتومؓ بڑی ہی بیقراری کے ساتھ مجلس میں پہنچ گئے اور قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ کر آنحضرتؐ سے عرض کرنے لگے۔ علمنی یا رسول اللہ مما علمک اللہا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ سکھا دیجئے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے آنحضرتؐ نے اعراض فرمایا یہ بار بار اسی بات کو دہراتے رہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبہ کے باعث ناگواری سے ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیا اور ان ہی سردارانِ قریش کو سمجھاتے رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مجلس سے فارغ ہو کر جانے لگے تو وحی کے آثار شروع ہوئے آپ اپنا سر جھکا کر بیٹھ گئے اور یہ آیات نازل ہوئیں۔

(باقی اگلے صفحہ پر)

اس کو پڑھ لے یہ پیغام نصیحت بہت ہی عزت والے صحیفوں اور ورقوں میں لکھا ہوا ہے جو نہایت ہی بلند اور پاکیزہ ہیں ایسے قاصدوں اور فرشتوں کے ہاتھوں میں جو بہت ہی بلند رتبے والے نیکو کار ہیں۔

وحی الہی کے یہ صحیفے نہایت صاف ستھرے عزت و کرامت کے ساتھ اللہ کے فرشتے لوح محفوظ سے لے کر اترتے ہیں پھر ان علوم و ہدایات پر عمل کرنے والوں کے اعمال و افعال عزت و عظمت کے ساتھ آسمانوں کی

بلندیوں پر پہنچتے ہیں اور یہ اعمال و اوصاف اپنے عالمین کو عزت و عظمت کی بلندیوں پر بھی پہنچاتے ہیں جیسے کہ ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ يَصُحَّحُونَ لِيُنظَرُوا فِي الْعَمَلِ وَالصَّالِحِ يُرْفَعُونَ. عرض یہ تذکرہ لانے والے بھی بلند۔ خود وہ بھی بلند پایہ اور جوان پر عمل پیرا ہوں وہ بھی بلند مرتبہ اعمال بھی بلند پایہ حتیٰ کہ جن اوراق پر لکھا جائے وہ بھی قابل تعظیم و تکریم اور بلند جگہ پر اٹھا کر رکھنے کے مستحق ہیں۔ تو ایسی عظمت و

عزت والی نصیحت اور ہدایت کو تو چاہیے کہ ہر انسان قبول کرے۔ مگر افسوس کہ مغرور و سرکش انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہلاک ہو یہ انسان کس قدر

ناشکر ہے۔ اس کے مغرور و سرکشی کی کوئی حد نہیں۔ کیا یہ اپنی حقیقت کو نہیں جانتا کیا یہ نہیں سوچتا کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا ہے؟ اس کو اپنی حقیقت کو پہچاننے کیلئے جان لینا چاہیے۔ اس کے رب نے سنی کے ایک

قطرہ سے اس کو پیدا کیا ہے جو ایک ناپاک اور حقیر قطرہ تھا جس میں کوئی حسن شعور عقل و ادراک اور شکل و صورت حسن و جمال کچھ بھی نہ تھا مگر پھر اس پر در دگار نے اس کے ہاتھ پاؤں اور جسم کی ساخت کو ایک خاص

اسلوب اور بہترین انداز سے اس کو بنایا کہ کوئی چیز بے تکی اور غیر مناسب نہیں بلکہ احسن تقویم اور بہترین پیکر جہانی اور اعلیٰ ترین قالب اس کو عطا کیا پھر رحم مادر میں اس کی جسمانی تصویر تکلیف سے بعد آسان کر دیا۔ اس

کے واسطے راستہ سہولت کے ساتھ پیدائش ہو گئی۔ اور پیدائش کے بعد اس کی زندگی کی ہر راہ آسان کر دی۔ زندگی کے ہر شعبہ کے لیے اسباب فراہم کر دیئے تاکہ وہ بزدل و بے حکمرانی کر سکے اور منافع کو نبیہ سے منتفع ہو سکے

ہدایت و فلاح کے اصول بتا دیئے۔ خیر کے کاموں کی تلقین کر دی گئی اور ہر شے سے آگاہ کر دیا گیا تاکہ وہ زندگانی کا ہر راستہ سہولت و آسانی سے طے کر لے پھر اس پر در دگار نے اس کو موت دی جب کہ اس کے لیے مقدر کی ہوئی

عہ: ان کلمات سے شَعْرَ الْمَسْمُومِ كَيْتَسَّءِ کی دونوں تفسیروں کی طرف اشارہ ہے اگرچہ بالعموم مفسرین اس کا مفہوم دلاوت کی آسانی بیان فرماتے ہیں لیکن الفاظ کی دلالت دوسرے مفہوم کو

بھی حاوی ہے۔ ۱۲۔ (واللہ اعلم)

(بقیہ حاشیہ) راوی بیان کرتے ہیں اس کے بعد ابن اکتومؓ جب کبھی بھی آتے آپ ان کا بہت

اکرام فرماتے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ فرماتے۔ یہ تو وہ ہے جس کے معاملہ میں میرے رب نے مجھ پر عتاب فرمایا۔

زندگی پوری ہوگئی جس کے بعد قبر میں اپنے احکام و ہدایات کے مطابق اس کو دفنایا۔ تاکہ زندوں کے سامنے اس کی ناشن کی بجزمتی نہ ہو پھر جب چاہے گا اس کو اٹھالے گا۔ غرض یہ سب کچھ اس کی قدرت سے ہے۔ قطرہ منی سے لیکر مرنے کے بعد قبر سے اٹھنے تک کے تمام مرحلے صرف اللہ ہی کی قدرت سے ہیں اور ابتداء سے لے کر اس انتہاء تک کا ہر دور اور مرحلہ خداوند عالم کی قدرت کا ملکہ کا عظیم نمونہ ہے اور ظاہر ہے کہ جس ذات کی قدرتِ عظیمہ سے تخلیق کے یہ عظیم مرحلے طے پا رہے ہیں اس کو قطعاً ذرہ برابر بھی مشکل نہیں ہے کہ وہ قیامت میں دوبارہ اٹھالے۔

بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان تمام دلائل و حقائق کے باوجود انسان اپنے رب کی فرماں برداری نہ کرے خبردار اس انسان نے پورا نہیں کیا وہ کام جس کا اسے حکم دیا۔ نہ اپنے مالک کا حق پہچانا اور نہ کوئی حکم سجا لایا۔

نظامِ قدرتِ ربوبیت کے شے

اس صورتِ حال میں کہ انسان اپنے رب کی قدرت و عظمت کو پہچانتا ہے اور نہ ہی اس کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار ہے بس اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے کہ کس طرح وہ خداوند عالم اپنی قدرت سے رزق پیدا کرتا ہے اور کیسی عجیب اور کامل قدرت سے انسان کی روزی کے تمام اسباب مہیا کرتا ہے جو اس نوعیت سے دنیا کی نظروں کے سامنے ہے کہ ہم نے ڈالا پانی اور پر سے زمین پر برستا ہوا بادلوں سے بارش برساتی پھر ہم نے زمین کو شق کیا اس کو چیر کر جو دانہ زمین کی تہ میں دبا دیا گیا تھا زمین کی سطح کو چیر کر گھاس کے تنکے کی شکل میں اس کو ہم نکالتے ہیں۔ ورنہ دنیا کی کیا طاقت تھی کہ اس باریک اور کمزور گھاس کو زمین کی تہ میں سے نکال لاتی۔

پھر ہم نے آگائے اس میں دانے اور مختلف انواع کے غلے اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجوریں جن سے مخلوق کی روزی ان کی راحت اور عیش و عشرت و البتہ ہے اور اسی بارش اور آسمان سے برسنے والے پانی سے ہم نے پیدا کیے۔ وہ باغ جو درختوں سے بھرے ہوئے ہیں اور قسم قسم کے پھل اور مختلف قسم کے گھاس جو سامانِ زندگی اور نفع حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تمہارے واسطے اور تمہارے چوپاؤں کے واسطے۔ تو دیکھو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے یہ تمام سامانِ زندگی جس پر انسان کی حیات و بقا ہے اور انسانوں کے کام آنے والے جانوروں کے واسطے پیدا کیا اس پر چاہیے تھا کہ انسان نظر کرتا۔ اور اس سے اپنے خالق کو اس کے انعامات کو پہچان کر اس کی اطاعت و فرماں برداری میں لگ جاتا۔ مگر کس قدر بد نصیبی ہے اس انسان کی جو ان تمام باتوں سے غافل رہ کر اپنی زندگی گزار دیتا ہے اور سوچتا ہی نہیں کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے لیکن جب آجائے گی وہ کان پھاڑ دینے والی چیخ اور وہ صور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن ایسا

ہو گا بدحواسی اور بے چینی ہر ایک انسان بھاگتا ہوگا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور
 حتیٰ کہ اپنی بیوی سے جو اس کی رفیقہ جہات اور زندگی کی ساتھی رہی ہے اور اپنے بیٹوں سے جو دنیا میں
 اس کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب تھے ان سب علائق سے انسان بیگانہ ہو جائے گا اور ہر شخص کے
 لیے اس دن ایک ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے نیاز کر دینے والی ہوگی۔ ہر ایک کو اپنی نگرانی
 ہوگی نہ احباب و اقارب کی طرف توجہ کرے گا اور نہ ہی زندگی میں جو محبوب تر افراد تھے ان کی طرف رخ کرے
 گا۔ وہ دن یوم الحساب ہوگا۔ ہر شخص کو زندگی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تو اس دن کچھ چہرے روشن ہنستے
 ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے اور اپنے رب کے انعام اور اپنی مغفرت پر فرحان و شاداں ہوں گے
 اور کچھ چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے جن پر ذلت و سیاہی برس رہی ہوگی۔ کفر و نافرمانی کی کدورت
 اور بد اعمالیوں کی سیاہی و نحوست ان کے چہروں کو ڈھانکے ہوگی بے شک یہی تو ہیں کافر اور بڑے ہی
 بے حیا لوگ جو حد درجہ ڈھٹائی سے خدا کی نافرمانی کرتے رہے۔ نہ کبھی خدا سے ڈرے اور نہ مخلوق سے
 شرمائے۔ بے حیائی، تکبر و سرکشی میں زندگی گزارنے کا بس یہی انجام ہو سکتا تھا کہ روز قیامت ان کے
 چہرے سیاہ غبار آلود ہوں گے اور ان پر ذلت برس رہی ہوگی۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ
 الْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالْعَصِيَانِ تَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ وَالْحَقْنَا بِالصّٰلِحِيْنَ الَّذِيْنَ
 وَجُوْهُهُمْ مَسْفِرَةٌ سَاطِئَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ۔ آمین یا رب العالمین۔

فقرا و درویش دراصل عنایت و توجہ خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں

بظاہر یہ کلام عتاب تھا لیکن درحقیقت اس بات پر تنبیہ تھی کہ منکسرۃ القلوب یعنی شکستہ دل
 فقراء اور مساکین پر حق تعالیٰ کی تعجبی اغنیاء سے کہیں زائد سیے اور فقیروں پر حق تعالیٰ کی توجہ اور
 عنایت بادشاہوں سے زیادہ ہے بادشاہوں پر حق تعالیٰ کی تعجبی کبھی کبھی ہوتی ہے۔ دائم نہیں ہوتی۔
 اور فقراء سے خدا کی رحمت اور عنایت کبھی دور نہیں ہوتی اس لیے اشارہ فرما دیا کہ فقراء کی دلجوئی کو
 اغنیاء کی دلجوئی پر مقدم رکھو۔

جب کوئی امیر کسی فقیر اور درویش کے پاس آتا ہے تو وہ اپنی شان و شوکت
 نکلتے | کو ترک کر کے آتا ہے تو شریعت نے اس کی دلجوئی کے لیے سخی زیارت اس
 کا اکرام اور احترام واجب کیا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اِذَا جَاءَكَ كَرِيْمٌ قَوْمٍ فَاكْرَمُوْهُ
 جب تمہارے پاس کسی قوم کا سردار آئے تو اس کا اکرام کرو اور تبسم اور کشادہ پیشانی کے ساتھ
 اس سے پیش آؤ۔

تو اس واقعہ عیسٰی و تولیٰ میں جو اغنیاء پہلے سے آئے بیٹھے تھے ان کا سخی زیارت اکرام ہو چکا تھا۔

اور اس کا وقت گزر چکا تھا اب آنے والے کا حق زیارت زیادہ اہم اور مقدم تھا اور یہ آنے والا منکر القلوب میں سے تھا جو سبھی الہی اور عنایت ربانی کا خاص محل اور مورد ہے وہ زیادہ التفات کا مستحق تھا۔ اور اس کا اکرام اُن گزشتہ آنے والے اغنیاء کے اکرام سے زیادہ اہم ہے۔

جو غنی آپ کے پاس آیا ہے وہ اپنے اصلی منصب کو چھوڑ کر آیا ہے اور اس کی یہ نیاز مندانہ خاطر اس کی عارضی تواضع ہے اور فقیر جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے وہ اپنے اصلی منصب کے ساتھ آیا ہے۔ فقیر اور تواضع اس کا اصلی اور ذاتی منصب ہے اور اس کا دائمی مقام ہے۔

حسب ارشادِ خداوندی اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ آپ نے اغنیاء کو اپنی بارگاہ عالی میں جگہ دی اور ان کو حکمت اور موعظتِ حسنہ حق کی دعوت دی۔ ان کا حق ادا ہو گیا وہ اس سے زیادہ کے مستحق نہیں اور یہ آنے والا درویش تو بارگاہِ خداوندی کے سکان میں سے ہے اور فی الحال آنے والے سردارانِ قریش کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ وہ دعوتِ حق کے سرفرازوں سے کوئی لقمہ اٹھا بھی لیں گے یا نہیں۔ واللہ اعلم۔

(من افادات حضرت الوالد الشیخ محمد ادریس السکاندھلوی)

اثبات قیامت کے لیے دلائل آفاق و انفس

قرآن حکیم کا یہ خاص اسلوب ہے کہ دلائل توحید و خالقیت حشر و نشر اور بعثت بعد الموت کا مضمون ثابت کرنے کے لیے دلائل کی دونوں قسموں کا احاطہ کر دیتا ہے کسی موقعہ پر اجمال سے اور کسی موقعہ پر تفصیل سے جن کی تحقیق پہلے گزر چکی یہاں بھی حق تعالیٰ شانہ نے مسئلہ حشر و نشر اور بعثت بعد الموت ثابت کرنے کے لیے دلائل انفس کے ذیل میں انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی موت و حیات کے مسئلہ کو بیان کرنے کے بعد دلائل آفاق کے طور پر فَلَیَنْظُرِ اِلَّا نَسْكَانُ اِلٰی طَعَامِهٖ سے کائنات میں اللہ رب العزت کی قدرت کے جو عظیم نمونے دنیا کے نظروں کے سامنے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ تاکہ قرآن حکیم کا یہ مدعی اور مقصد بخوبی واضح اور ثابت ہو جائے۔ مقصود انسان کے غرور و تکبر کا ابطال اور اپنی قدرتِ کاملہ کا اثبات تھا۔ جو ان دلائل سے پوری طرح ثابت ہو گیا۔

اموات کے لیے قبر اور دفن قانونِ فطرت ہے

”قبر“ لغت کے اعتبار سے زمین میں کھود کر بنائے ہوئے گڑھے کو کہا جاتا ہے۔ مگر اصطلاحِ شریعت

میں قبر عالم برزخ کا نام ہے۔ یعنی وہ محل اور حالت جو انسان کے مرنے کے بعد سے دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنے تک کی ہے۔ نزع روح کے بعد وہ جسم انسانی کسی بھی جگہ ہو خواہ زمین میں دفن کر دیا جائے یا دریا میں غرق ہو جائے یا آگ میں جل جائے یا کوئی جانور اس کو کھا جائے یا جسم کے ذرات ہواؤں میں اڑ جائیں غرض ہر حالت اور مکان برزخ ہے اور اسی برزخی حالت یا محل کو شریعت قبر کے لفظ سے تعبیر کرتی ہے اسی بنا پر ہر میت سے مرنے کے بعد نکیرین کے سوال کا ذکر احادیث میں آتا ہے ظاہر ہے کہ یہ سوال ہر ایک میت سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد انسان کی لاش بسا اوقات ان حالتوں میں واقع ہوتی ہے۔

قبر چونکہ اصل فطرت انسانی کا ایک قانون اور مقرر کردہ طریقہ ہے۔ جیسے کہ بائبل و قابل کے قصہ میں گذر چکا کہ نسل انسانی میں پہلا قتل اور موت کا واقعہ پیش آیا اور قابل نے اپنے بھائی ہابیل کو قتل کر ڈالا اور اب تک انسان کو یہ معلوم نہ تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی لاش کا کیا کیا جائے تو حق تعالیٰ نے انسان کے سامنے اپنی ہدایت اور اس قانون فطرت کی تشریح و توضیح کا عجیب انداز اختیار فرمایا۔ فَبَعَثْنَا الْمَرْءَ إِذْ كَانَ أَبًا لِّبَنِيهِ أَنْ لَا تَضِلُّ فِي الْأَرْضِ لِمَعْرُوفٍ كَيْفَتَ كَيْفَاتِهَا لِيُؤَدِّيَ إِلَيَّْ بِهَا خَبْرَهُ۔ ایک کو ابھیجا جو اپنی جو بیچ میں ایک مردہ کو اٹھائے ہوئے تھا اس نے مردہ کو سے کو زمین پر رکھ دیا پھر جو بیچ سے زمین کھودنے لگا اور گڑھا کر کے اس میں مردے کو چھپا دیا اور پھر پروں سے اس پر مٹی ڈال دی تو یہ منظر دیکھ کر قاتل بھائی اپنے قصور فہم پر افسوس کرنے لگا کہ میں تو اس کو سے سے بھی زیادہ غافل و عاجز رہا کہ اتنا ہی سمجھ جاتا جتنا کہ اس نے سمجھا اور اسی طرح میں بھی اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفن کر دیتا۔ غرض اس فطری امر کو خداوند عالم نے اس نوعیت سے نسل انسانی کے لیے ظاہر اور مشروع فرمادیا۔

تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور قدیم میں انسان کی لاشیں جانوروں کی طرح باہر پھینک دی جاتی تھیں جن کو چیل کو سے کھا جاتے تھے ظاہر ہے کہ اس میں انسان کے پکیر جسد کی بھرتی بھی تھی اور اس کے تعفن سے لوگوں کو اذیت بھی پہنچتی اور امراض بھی پھیلتے تو خداوند عالم کے اس تکوینی امر سے اور قبر میں دفن کے طریقہ سے انسان کی حرمت بھی باقی رہی۔ گندگی اور امراض سے بھی تحفظ کا سامان ہو گیا۔

پارسی اور مجوسی قوم میں بھی یہی رواج ہے کہ وہ اپنے مردوں کی لاشیں اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں البتہ اتنا کرتے ہیں ایک احاطہ گہرا سا کنوئیں کی شکل کا بنا دیتے ہیں اس میں ایک دروازہ ہوتا ہے۔ اس احاطہ میں مردہ کو چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ پھر گندہ چیل اور کو سے اس کو نوح نوح کر کھا جاتے ہیں بس بڑیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے قوم مجوس میں اس جگہ کو ذمہ کہا جاتا ہے۔

ہندوؤں کے یہاں مردوں کو جلانے کی رسم ہے۔ اہل کتاب یہود و نصاریٰ کیونکہ ان کے مذہب کی بہر حال اصل بنیاد خدا کی کتاب تورات و انجیل ہے تو اس وجہ سے وہ مسلمانوں کی طرح اپنے مردوں کو دفناتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ اسلام کے سوا جو بھی طریقے انسان کی لاش کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں عقل و فطرت

کے خلاف انسانی عظمت کو سرا مر پال کرتے ہیں جب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو یہ ہدایت ملتی ہے کہ مردوں کے جسم کا احترام زندوں کے جسم کی طرح ہے جیسا کہ ایک حدیث میں ہے فرمایا میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی کو توڑنا۔
ہندوؤں کا یہ خیال کہ آگ میں جلا دینا زمین میں دفن کرنے سے زیادہ بہتر ہے اور یہ کہ آگ جلا کر مردہ کو پاک کر دیتی ہے عقل و فطرت کے خلاف ہے۔

انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو مناسب یہی ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں ہی دفن دیا جائے۔ اسی کو حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَ فِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

یہ سورت بھی مکہ ہے۔ اور تمام ائمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ عبد اللہ بن عباس۔ ابن عمر۔ ابن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے اسی طرح منقول ہے اس سورت کی ایتیس آیات ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو یہ منظور ہو کہ وہ قیامت کا منظر اپنی آنکھ سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے کہ وہ إِذَا الشَّكُورَاتُ كُوِّرَتْ اور إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ سورتوں کی تلاوت کرے۔ ان دونوں سورتوں میں قیامت کا پورا پورا نقشہ کھینچ کر دکھایا گیا ہے کہ قیامت اس طرح برپا ہوگی۔
گزشتہ سورت عبس کا مضمون اس پر ختم کیا تھا کہ قیامت کے روز انسان کی بدحواسی کا یہ عالم ہوگا کہ کسی کو کسی کی پرواہ نہ ہوگی۔ ہر شخص دوسرے سے بھاگتا اور بے گانہ ہوگا تو اس مناسبت سے ان دونوں سورتوں میں دو اہم حقیقتوں کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک قیامت کی حقیقت۔ دوسری وحی اور رسالت کی حقیقت اس سورت کے یہ دو اہم اور عظیم موضوع ہیں جس پر ان اول تا آخر جملہ مضامین دائر ہیں۔

عہ جامع ترمذی۔ ابن کثیر۔ طبرانی۔

ایاتہا ۲۹ = ۸۱ = سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ نَكِيَّةٌ = ۷ = رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ تکویر کی ہے اور اس میں اسی آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۱ وَاِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ۲ وَاِذَا

جب سورج کی دھوپ تہ ہو جاوے۔ اور جب تارے میلے ہو جاویں۔ اور جب

الْجِبَالُ سُوِّرَتْ ۳ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۴ وَاِذَا

پہاڑ چلائے جاویں۔ اور جب بیانی اونٹنیاں چھٹی پھریں۔ اور جب

الْوَحُوشُ حُشِرَتْ ۵ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۶ وَاِذَا

جنگل کے جانوروں میں رول پڑے۔ اور جب دریا جھونکے جاویں۔ اور جب

النَّفُوسُ رُوِّجَتْ ۷ وَاِذَا الْمَوْءِدَةُ سِيَّلَتْ ۸ يَا أَيُّ

جیوں کے جوڑ بندھیں۔ اور جب بیٹی جیتی گاڑی کو پوچھے۔ کس

ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۹ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۱۰ وَاِذَا السَّمَاءُ

گناہ پر ماری گئی۔ اور جب کاغذ کھولے جاویں۔ اور جب آسمان کا

كُشِطَتْ ۱۱ وَاِذَا الْجَبَابِیْطُ سُعِّرَتْ ۱۲ وَاِذَا الْجِنَّةُ

چھلکا اُتارے۔ اور جب دوزخ دھکائی جاوے۔ اور جب بہشت پاس

اَزْلِفَتْ ۱۳ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ۱۴ فَلَا اَقْسِمُ

لائی جاوے۔ جان لے جی جو لے کر آیا۔ سو قسم کھاتا ہوں

بِالْحُسْنِ ۱۵ اَلْجَوَارِ الْكَسِیِّ ۱۶ وَاللَّیْلِ اِذَا عَسَّسَ ۱۷

بہتھے ہٹ جاتے۔ سیدھے جلتے دہک جانیمالوں کی۔ اور رات کی جب اس کا اٹھان ہو۔

وَالصَّبْرِ إِذَا تَنَفَّسَ ۝۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝۱۹ ذِي

اور صبح کی جب دم بھرے ۔ مقرر یہ کہا ہے ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا۔ قوت

قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۝۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۝۲۱

رکھتا، تخت کے مالک پاس درجہ پایا۔ سب کا مانا، وہاں کا معتبر ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِبَجُونٍ ۝۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۝۲۳

اور یہ تمہارا رفیق کچھ نہیں دیوانہ ۔ اور اس نے دیکھا ہے اس کو کھلے کارے آسمان کے۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ

اور غیب کی بات پر نہیں بخیل ۔ اور یہ کہا نہیں کسی شیطان

رَّجِيمٍ ۝۲۵ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۝۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝۲۷

مردود کا ۔ پھر تم کہہ چلے جاتے ہو؟ یہ تو ایک سمجھوتی ہے جہان کے واسطے ۔

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا

جو کوئی چاہے تم میں کہ سیدھا چلے ۔ اور تم جیسی چاہو کہ

أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

چاہے اللہ جہان کا صاحب ۔

ہوں کہ مناظر روز قیامت و پیشی اعمال فیصلہ جزا و سزا

قال الله تعالى - إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ الخ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
 (ربط) سورۃ جیس کا مضمون دراصل اثبات قیامت کے موضوع ہی پر مشتمل تھا اور مقصد بیان یہ
 تھا کہ انسان کی سعادت و فلاح اور عزت و عظمت اپنی زندگی اپنے پروردگار کے ساتھ وابستہ رکھنے اور فکر
 آخرت میں ہے۔ اس کے برعکس وہ مغرور و متکبر جو نہ خدا پر ایمان لاتا ہے اور نہ ہی اس کو آخرت کی فکر ہے

وہ خدا کی نظروں میں ذلیل و حقیر ہے طالبِ حق اور سعادت کی فکر میں لگے رہنے والا انسان ہی بارگاہِ رسالت میں ہر عزت و اکرام کا مستحق ہے۔ آخر میں قیامت کے روز کی پریشانی اور بدحواسی کا عالم بیان کیا گیا کہ ہر شخص دوسرے سے بے نیاز ہوگا۔ اس کو اپنی پڑی ہوگی اس مناسبت سے اب اس سورت میں وہ ہولناک مناظر اور حوادث ذکر فرمائے جا رہے ہیں جو روزِ قیامت پیش آئیں گے اور یہی حوادث تخریبِ عالم کا ذریعہ ہوں گے چنانچہ اس سورت کی ابتداء ان ہولناک مناظر کے ذکر سے کی گئی جو قیامت کے وقت پیش آئیں گے کہ چاند سورج اور ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑنے لگیں گے اور زمین شق ہو کر جو کچھ اس میں ہوگا اگل دے گی۔ الغرض تمام نظامِ عالم درہم برہم ہو جائے گا۔

اسی سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خاص احوال اور اوصاف بیان کیئے گئے جو وحی الہی کے نزول پر پیش آئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ مشرکین و منکرین کی محرومی و بد نصیبی بھی ذکر کر دی گئی جو وحی الہی اور پیغمبرِ خدا سے اعراض و انحراف کی وجہ سے ان پر مسلط ہوئی۔

ارشاد فرمایا۔ جس وقت کہ سورج کی شعاعیں لپیٹ کر رکھ دی جائیں گی اور اس طرح آفتاب بے نور ہو کر چکی کے مانند رہ جائے گا اور جب کہ ستارے بے نور ہو جائیں گے یا اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہو جائیں گے اور جبکہ پہاڑ چلا دیئے جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑنے لگیں گے اور جب کہ دس مہینے کی کاہن اور ثنیاں چھوڑ دی جائیں گی جو ابھی بیانے کے قریب ہیں اور دودھ دینے والی ہیں اور عرب کی نظروں میں سب سے قیمتی اور قابلِ قدر مال ہے ان کی طرف بھی کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو اور جب کہ وحشی جانور جو انسانوں سے وحشت کرتے ہیں اور انسان کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ شہر اور آبادی میں جمع ہو جائیں گے اور اکٹھے ہوں گے۔ انسانوں اور پالتو جانوروں میں مل جائیں گے۔

اور جس وقت سمندر کھولا دیئے جائیں گے اور ان میں اس طرح اُبال اٹھ رہا ہو جیسے کھولتے ہوئے پانی میں اٹھتا ہو یا سمندروں کا پانی شدت گرمی کے باعث دھواں اور آگ بن جائے جو درحقیقت خداوند ذوالجلال کے غضب و قہر کے آثار ہوں گے اور جس وقت کہ تمام انسان ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے جائیں گے۔ کافر کافر کے ساتھ اور مسلمان مسلمان کے ساتھ اور بدعمل بدعمل کے ساتھ اور نیکو کار نیکو کار کے ساتھ اور جبکہ

علہ : بعض مفسرین نے حشرت کا ترجمہ مارنے کے بعد اٹھانے کا بھی کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنے فوائد میں بیان فرمایا ہے ”ابھی چند سال ہوئے گنگا جمنائیں سیلاب آیا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھپر بہتا جا رہا ہے اس پر آدمی بھی ہیں اور سانپ اور کچھو بھی اس سے لپٹے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے کوئی تعرض نہیں کر رہا۔“

علہ بعض ائمہ مفسرین نے اس آیت میں اجسام کو روحوں کے ساتھ جوڑنے کی مراد بھی بیان کی ہے۔

زندہ درگور کی ہوتی بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں ماری گئی۔
 اور ظاہر ہے کہ وہ معصوم بچی جو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دی گئی کیا گناہ اور جرم کر سکتی ہے
 جس کو عرب کے لوگ دور جاہلیت میں اپنے واسطے عار سمجھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں دفن کر
 دیا کرتے تھے تو یہ سوال ان کے جرم کو ثابت اور نمایاں کرنے کے لیے ہو گا اور جب کہ تمام صحیفے اور نام اعمال
 کھول کر رکھ دیئے جائیں گے کہ ہر ایک کو اپنا نام اعمال جو اس کے سامنے ایک کتاب منشور کی صورت میں نظر
 آرہا ہو گا اور جس وقت کہ آسمان کا جرم اس سے پھینچ لیا جائے گا، جیسا کہ کسی جانور کو ذبح کر کے اس کی کھال پھینچ
 لی جائے اور اس کے بعد اس کے تمام اعضا گوشت ہڈیاں اور رگیں نظر آنے لگتی ہیں تو اسی طرح آسمان کے
 کھل جانے سے اس کے اوپر کی تمام چیزیں نظر آنے لگیں گی جب کہ اس سے قبل کسی انسان کو نظر نہیں
 آسکا تھا کہ آسمان کے اوپر کیا ہے۔

اور جس وقت کہ دوزخ دہکائی جائیگی اور زور و شور سے اس کی پٹھیں سمندر کی موجوں کی طرح تھپیر سے مار
 رہی ہوں گی اور جب کہ جنت قریب کر دی جائے گی۔ اہل ایمان و تقویٰ کے جس کو نزدیک سے دیکھ کر اہل جنت
 فرحت و مسرت محسوس کرنے لگیں گے تو اس وقت جب یہ تمام احوال رونما ہو رہے ہوں گے تو ہر انسان جان لے گا کہ

علیٰ جاہلیت کے زمانہ میں اہل عرب بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے اور جب کسی کے یہاں بچی پیدا ہوتی
 وہ اس کو زندہ زمین میں دبا دیتا تھا۔ اکثر اہل عرب جہاں اور علیٰ واغلاقی گندگیوں میں مبتلا تھے ان میں یہ بھی ایک
 ظالمانہ انسانیت سوز عیب تھا۔ چند ایک نفوس تدریج میں بیشک ایسے ملتے ہیں جن کو اس مذموم فعل سے
 نفرت تھی۔ جیسے زید بن عمرو بن نفیلؓ ان کے تذکرہ میں ہے کہ بتوں پر جانوروں کے ذبح کرنے کو بھی شدت سے
 منع کرتے تھے اور اس طرح اس فکر میں رہتے تھے کہ کوئی معصوم بچی زمین میں نہ دبا لیا جائے تو وہ تلاش میں
 رہتے جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی اس سے جا کر کہتے بھائی تو اس کو دفن نہ کر میں اس کو پالتا ہوں تو اس کو پالتے
 جب وہ بڑی ہو جاتی تو اس کی شادی کر دیتے۔ تفصیل کے لیے صحیح بخاری، تاریخ ابن کثیر اور طبقات کی مراجعت فرمائیں۔
 حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں عمر بن الخطابؓ سے فرمایا اَلْمَوْنُ ذَا سُنْدُكُ كِ تفسیر میں بیان کیا ہے کہ
 قیس بن عاصمؓ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے جاہلیت کے زمانہ
 میں اپنی چند بیٹیاں زندہ درگور کی ہیں۔ آپ نے فرمایا اس جرم کے کفارہ میں (اگرچہ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا اور
 تم اسلام بھی لے آئے) تم غلام آزاد کر دو عرض کیا یا رسول اللہ میں تو اونٹوں دالا ہوں (غلام میرے پاس نہیں ہیں)
 تو آپ نے فرمایا ہر ایک بچی کے لیے ایک اونٹ ذبح کرو۔ اور اس کو صدقہ کر دو۔

عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَحْبَبَ مَا أَحْبَبْتُمْ جِزَاءَ الشَّمْسِ فِي رِيَّتِ يَوْمَ تَكْفِيرِ بِيَانِ كَيْفَ كُنْتُمْ أَوَّلَ بَارِهِ
 امور ہیں جن میں ہر ایک کو اس کی اہمیت اور عظمت کے باعث لفظ اذا کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ۱۲۔

اس نے پہلے سے کیا بھیجا ہے اور کیا لے کر وہ میدان حشر میں حاضر ہوا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں نیکیاں کی تھیں یا برائیاں۔ تو اس طرح ہر انسان اپنے کئے ہوئے عمل اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا۔

الغرض یہ سب باتیں دلائل و شواہد ہیں اس امر پر کہ انسان قیامت پر ایمان لانے اور اپنی عملی زندگی میں اس کی فکر اور تیاری کرے۔ ان دلائل و شواہد کی حقانیت میں کسی طرح تردد کی گنجائش نہیں پس قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جانے والے ہیں۔ سید چلتے والوں کی جو سیدھے چلتے چلتے کبھی اٹنے چلنے والے ہوتے ہیں پھر سورج کی شعاعوں میں آکر چھپ جانے والے ہیں اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈوبتے لگے اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے اور اپنی روشنی پھیلا دے۔ بے شک یہ قرآن یقیناً قول ہے ایک بھیجے ہوئے۔ قاصد کا جو بڑی ہی عزت والا ہے جو اللہ کے پیغامات لے کر اس کے رسول کے پاس آتا ہے بڑی ہی قوت والا ہے عرش والے پروردگار کے یہاں بڑے ہی اونچے درجے والا ہے اور یہ قاصد جبریل امین ہیں جن کی اطاعت کی جاتی ہے ملکوت سموات میں وہ تمام طاغوت کے سردار ہیں پھر وہ قاصد بڑا ہی امین و معتمد ہے۔ خدا کے اس قاصد نے ان تمام باتوں کی خبر خدا کے پیغمبر کو بذریعہ وحی دی۔ یہ باتیں اور بیان کردہ ہولناک حادثہ کسی عقلی استدلال یا سائنسی تحقیق کا نتیجہ نہیں کہ اس میں کوئی شخص اختلاف کرنے لگے بلکہ یہ وحی الہی ہے جو ایسی عزت و کرامت والا فرشتہ اور معتمد قاصد لے کر اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا ہے۔ اور تمہارا یہ صاحب لے کریشس کہ کوئی دیوانہ نہیں ہے۔ جیسے کہ تم میں سے بعض یہودہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہیں۔ العیاذ باللہ۔ بلکہ ان کے پاس یہ سب باتیں اللہ کا قاصد لے کر آیا ہے اور اس پر خدا کے پیغمبر کو یقین کامل ہے محض یقین ہی نہیں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس پیغمبر نے تو خدا کے

علاء :- **خُنُسِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ** ستاروں کے احوال یا ان کے نام ہیں۔ بروایت حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح ابن عباسؓ مجاہد حسن بصریؒ و غیرہم سے بھی منقول ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ یہ پانچ ستارے ہیں جن کو اہل ہیئت خمسہ متغیرہ کہتے ہیں۔ یعنی زحل بشتزی۔ مریخ۔ زہرہ و عطارد ان ستاروں کی عجیب حیرت ناک رفتار ہے یہ کبھی سیدھے چلتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کو الجوار (یعنی جاری رہنے والے اور چلنے والے) کہا گیا۔ اور کبھی چلتے چلتے اٹے ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے الخنس کہا گیا۔ کیونکہ خنس لغت میں لوتنے کو کہا جاتا ہے اور کبھی یہ غائب ہو جاتے ہیں اس بنا پر ان کو الکفس کہا گیا جو کنس سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ستر اور پوشیدگی کے ہیں یہ ستارے مغرب سے مشرق کو چلیں تو یہ سیدھی راہ ہوتی اور کبھی ٹھنک کر اٹے پھر جاتے ہیں۔

بعض مفسرین نے ان کلمات کی مراد ستاروں کے علاوہ اور کچھ بیان کی ہے تفصیل کے لیے تفسیر قطبی اور تفسیر حقالی کی مراجعت فرمائی جائے۔ -۱۲-

اس قاصد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے آسمان کے کھلے کنارہ پر اور یہ قاصد غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے بلکہ وحی الہی سے ملکوت السموات اور آخرت کی جو باتیں انسانی ادراک سے غائب ہیں اور ان پر ایمان لانا ہی ایمان ہے۔ جیسے کہ اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ میں ظاہر کر دیا گیا تو ان سب باتوں کو اللہ کا یہ قاصد پورا پورا پہنچا دیتا ہے اور قاصد کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ پیغام مکمل اور پوری طرح پہنچا دے۔ اور جب آپ نے اللہ کے اس قاصد کو دیکھ لیا تو اب کسی قسم کے تردد اور شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی اس لیے وہ کسی شیطان مردود کا کہا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ سب باتیں واضح اور ثابت ہیں کہ قرآن کریم حق و صداقت کا مجموعہ ہے اور اس میں کسی قسم کے وہم اور تخمیل کی گنجائش نہیں تو پھر لے لوگو! تم کدھر چلے جا رہے ہو اور راہِ حق سے بھٹک رہے ہو یہ تو بس ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے اس کا ہر مضمون ایک ایک لفظ ہدایت و نصیحت اور ایسا مکمل دستور العمل ہے جس سے سعادت دارین وابستہ ہے ہر اس شخص کے لیے تم میں سے جو یہ چاہے کہ میرا چلے عناد اور کجروی اختیار نہ کرے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے تم کوئی چیز نہیں چاہو گے بجز اس کے کہ جو اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا چاہے اور فیصلہ کرے اس کے فیصلہ اور ارادہ کے بغیر تو ایک پتہ بھی درخت سے نہیں گر سکتا۔ اس لیے تمہیں بھی چاہیے کہ خدا کی طرف رجوع کرو اور اسی سے توفیق مانگو۔ یہی طریقہ ہر نصیحت اور ہدایت سے منتفع ہونے کا ہو سکتا ہے۔

شمس و قمر کی قسموں سے مضمون کی مناسبت

قرآن کریم کے اسلوب بیان میں یہ اسلوب بھی نہایت ہی بلند ترین اور معجزانہ اسلوب ہے کہ مخلوقات خداوندی کی قسموں کے ساتھ کوئی مضمون ان قسموں پر مرتب کیا جائے۔ جیسا کہ گزشتہ تفصیلات سے یہ ثابت ہو چکا کہ ہر قسم کے ساتھ جو آپ قسم کے مضمون میں مناسبت اور ربط ہوتا ہے یہاں بھی شمس و قمر کے بے نور کر دینے اور پہاڑوں کو اڑانے اور سمندروں کے دہکانے وغیرہ وغیرہ کی قسموں پر

علیٰ یعنی شرقی کنارہ کے پاس اس کی اصلی صورت میں نہایت واضح طور پر دیکھ لیا اور یہ بھی سمجھ لیا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور یہی اللہ کی وحی لے کر آتا ہے تو اب کیا تردد ہو سکتا ہے کہ شبہ کیا جاسکے کہ شاید کسی جن یا شیطان کا قول ہے اس وجہ سے آیات قرآنیہ کو کسی کاہن کا قول کہنا جیسا کہ کفار کہتے تھے بعینہ اند عقل سے اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کیا شیطان ایسی پرہیزگاری اور نفی کی باتیں بتائے گا؟ -۱۲-

حشر و نشر اور قیامت برپا ہونے کا مضمون بڑی ہی قوی مناسبت رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں وحی الہی کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے بھی ایک بلند پایہ اور عظیم تر درجہ رکھتا ہے کہ ان ستاروں کا چلنا۔ ٹھہرنا۔ لوٹنا۔ اور پھر چھپ جانا ایک نمونہ ہے۔ انبیاء سابقین پر بار بار وحی آنے کا ایک مدت دراز تک اس کے نشان باقی رہنے پھر منقطع ہو کر چھپ جانے اور غائب ہونے کا اور رات کا آنا اس تاریخ دور کا نمونہ ہے جو خاتم الانبیاء والمرسلین کی ولادت باسعادت سے پہلے گذرا کہ کسی شخص کو حق و باطل کی تمیز نہیں رہی تھی جس طرح رات میں سیاہ و سپید کا فرق نہیں معلوم ہوتا مگر رات کے بعد جب صبح صادق سانس لیتی ہے اور دم بھر کر اپنی روشنی تمام عالم میں پھیلا دیتی ہے تو بالکل اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جہالت و گمراہی کی تاریکیوں کو پھاڑ کر عالم میں ہدایت کا نور پھیلا دینے والی ہے۔ انبیاء سابقین ستاروں کی طرح تھے مگر آپ کی رسالت ایک آفتاب عالم بن کر عالم کے سامنے درخشاں ہوئی۔

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے یہ دو شعر بھی نقل فرمائے۔

فاتحہ شمس فضل ہم کو اکبھا
یظہرون انوارہا للناس فی الظلم
حق اذ اطلعت فی الکوّن عمّ ہذاھا
للعلّمین و احییت سائر الاہم

بعض ائمہ مفسرین کا قول ہے کہ ستاروں کا سیدھا چلنا اور لوٹنا اور چھپ جانا فرشتے کے آنے اور واپس جانے اور عالم ملکوت میں جا چھپنے کے مشابہ ہے اور رات کا گزرنا اور صبح کا آنا قرآن کریم کے ذریعہ ظلمت کفر کے دور ہو جانے اور نور ہدایت کے پوری طرح پھیل جانے کی مشابہہ تو اس طرح ان قسموں کے ساتھ مضمون قیامت اور وحی الہی کی حقانیت کا ثبوت پوری طرح مربوط ہے اور ان میں مناسبت واضح ہے۔

ان آیات استہ انقول رسول کبریم ذی قوۃ عند ذی العرش میکین مطاع
تحریر امین میں جبریل امین کی صفات کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم جو اللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا اس میں قوۃ واسطے ہیں ایک وحی لانے والا فرشتہ (جبریل علیہ السلام) اور دوسرا واسطے پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو صفات ایسی عظیم اور بلند پایہ ہیں کہ ان کے علم کے بعد کسی قسم کا شک و شبہ قرآن کے صادق اور منزل من اللہ ہونے میں نہیں رہتا۔ کسی روایت کی صحت تسلیم کرنے کیلئے اعلیٰ سے اعلیٰ راوی وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ مرتبہ کا ثقہ عادل ضابطہ عاقل اور امانت دار ہو اور جس سے وہ روایت کرے اس کے پاس عزت و حرمت کے ساتھ رہتا ہو بڑے بڑے معتبر ثقات اس کی امانت پر اعتماد کلی رکھتے ہوں اور اس وجہ سے اس کی بات بے چون و چرا مانتے ہوں تو یہ تمام صفات جبریل امین میں موجود ہیں وہ کریم عزت و کرامت والے ہیں اور ظاہر ہے عزت و کرامت والا وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ و طہارت کا وصف رکھتا ہے۔ بقانون ان اکرمکم عند اللہ اتقوا کفر اور بڑی ہی قوت والے ہیں۔

حفظ و ضبط کی صلاحیت اعلیٰ و اکمل رکھتے ہیں اور رب العرش کے یہاں ان کا مرتبہ نہایت ہی عزت و قرب

کا ہے جس کے باعث ملکوت سموات میں وہ فرشتوں کے سردار ہیں اور سب فرشتے ان کی بات اور حکم مانتے ہیں۔ ان کے ایمن و معتبر ہونے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شبہ نہیں تو ایسے فرشتہ کے ذریعے یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ کے بندوں تک پہنچا اور جس رسول کے ذریعے دنیا کو یہ قرآن پہنچا آئندہ اس رسول خدا کی صفات و احوال کا بیان فرمادیا گیا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا کے ایسے عظیم پیغمبر نے یہ کلام پہنچایا ہے جو صدق و امانت اور عقل و دانش کا بیکر ہے۔ ایسی صورت میں قریش مکہ اور مخالفین کا ان کو یہ کہنا کہ یہ دیوانہ یا کاہن ہیں بلاشبہ خود ان کہنے والوں کی دیوانگی اور پاگل پن کی دلیل ہے (فوائد شیخ الاسلام)

ابطال جبر و قدر

ی مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّعَالَمِينَ میں انسان کے اپنے ارادہ اور مشیت کا اثبات فرمایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ انسان کا ارادہ اور مشیت اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کی تابع ہے اس کی توفیق ہی سے ہدایت اختیار کرتا ہے۔ اور ہر انسان قضا و قدر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے البتہ بات صرف اتنی ہے کہ قضا و قدر اس سے جو کچھ کراتی ہے وہ اس کے ارادہ اور اختیار کے توسط سے کراتی ہے۔ اینٹ پتھر کی طرح نہیں ہے کہ اس کو کوئی حرکت دے رہا ہو اور خود اس میں کسی طرح کا شعور و ادراک اور ارادہ و اختیار نہ ہو تو ہندہ اسی ارادہ اور اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ سے ثواب و عتاب کا مستحق ہوتا ہے تو اس آیت (لَمَنْ شَاءَ) سے جبر کا ابطال ہو گیا۔ اور اِلَّا آتَتْ يَشَاءَ اللَّهُ سے قدر کا ابطال اور فرقہ قدریہ کا رد ہو گیا۔ اور ظاہر ہو گیا کہ انسان نہ تو فاعل مختار ہے اور نہ مجبور محض بلکہ جبر و قدر کے بین بین ہے۔ مسئلہ کی تفصیل پہلے گزر چکی۔

آیاتہا ۱۹ = ۸۲ = سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ = ۸۲ = رُكُوعُهَا ۱

سورۃ انفطار مکی ہے اور اس میں اُنیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۙ ۱ وَاِذَا الْكُوَكُبُ اِنْتَثَرَتْ ۙ ۲

جب آسمان چر جاوے - اور جب تارے جھڑ پڑیں -

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۱۲ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعِثَتْ ۝۱۳

اور جب دریا بہہ پڑیں ۔ اور جب قبریں اٹھائی جاویں ۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّامَتْ وَأَخَّرَتْ ۝۱۴ يَا أَيُّهَا

جان لیوے جی جو آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا ۔ لے

الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۱۵ الَّذِي خَلَقَكَ

آدمی ! کاسے سے بہکا تو اپنے رب کریم پر ؟ جس نے تجھ کو بنایا

فَسَوِّدَكَ فَعَدَلَكَ ۝۱۶ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۱۷

پھر تجھ کو ٹھیک کیا پھر تجھ کو برا کرنا۔ جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا ۔

كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝۱۸ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ

کوئی نہیں ؛ پر تم جھوٹ جانتے ہو انصاف ہونا ۔ اور تم پر نگہبان

لِحَفِظِينَ ۝۱۹ كِرَامًا كَاتِبِينَ ۝۲۰ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۝۲۱

مقرر ہیں ۔ سردار لکھنے والے ۔ جانتے ہیں جو کرتے ہو ۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ۝۲۲ وَإِنَّ الْفَجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ۝۲۳

بیشک نیک لوگ آرام میں ہیں ۔ اور بے شک گنہگار دوزخ میں ہیں ۔

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الذِّينِ ۝۲۴ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝۲۵

پہنچیں گے (پہنچیں گے) اس میں انصاف کے دن۔ اور نہ ہوں گے اس سے چھپ رہنے والے ۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الذِّينِ ۝۲۶ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا

اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہے دن انصاف کا ؟ پھر بھی تجھ کو کیا خبر ہے کیا

يَوْمَ الذِّينِ ۝۲۷ يَوْمَ لَا تَمَلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا

ہے دن انصاف کا ؟ جس دن بھلا نہ کرے کوئی جی کسی جی کا کچھ ۔

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ۝۱۹

اور حکم اس دن اللہ کا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

حوادث ارض و سما و شمس و قمر بر قیام قیامت

سورۃ انفطار بھی کئی سورتوں میں سے ہے جس کی انیس آیات ہیں۔ اس کا مضمون بھی سورۃ تکویر کی طرح نظام عالم کے درہم برہم ہونے۔ قیامت کے وقت انقلابات کو نبیہ کے برپا ہونے پر مشتمل ہے پھر یہ کہ روز محشر ابرار دیکھو کار لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور فضا و فجار کس طرح عذاب جہنم میں مبتلا ہونگے۔ سورت کی ابتداء میں یہ ظاہر کیا گیا کہ قیام قیامت پر آسمانوں کا نظام اس طرح درہم برہم کر دیا جائے گا کہ آسمان شق ہو جائیں گے اور ستارے ٹوٹ کر گر پڑیں گے اور سمندر آگ سے دہکا دیئے جائیں گے اور مردے قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اس وقت ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے زندگی میں کیا کیا ہے اور پھر چاہے وہ کتنا ہی انکار کرے لیکن اس کے انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

جب کہ آسمان شق ہو جائے اور جب ستارے ٹوٹ کر گرنے لگیں اور جب سمندر ایلنے لگیں اور جب قبریں کھاڑ دی جائیں اور اس طرح آسمان وزمین کا نظام تباہ ہو جائے تو ہر انسان جان لے گا۔ اس نے اپنے سے پہلے کیا، بھجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے یا اس نے زندگی میں پہلے کیا کام کیا اور بعد میں کیا کیا۔ ہر عمل اور ہر چیز اس کے سامنے آجائے گی ان حقائق کو پیش نظر رکھنے کے بعد تو اس بات کا امکان نہیں رہتا کہ انسان کو اپنے پروردگار اور اس کی قدرت اور روز جزاء حساب و کتاب کے بارہ میں کسی قسم کا شبہ یاد ہو کہ باقی رہے لیکن افسوس لے انسان کس چیز نے تجھ کو تیرے رب کریم کے بارہ میں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے جس رب کریم نے تجھ کو بنایا ہے عدم سے تجھ کو وجود میں لایا۔ پھر تجھ کو ٹھیک کیا۔ پھر تجھ کو برابر کیا کہ اعضاء جسمانی ٹھیک بنائے اور ان میں ایک بہترین تناسب اور اعتدال رکھا کہ انسان کے بدن کا کوئی حصہ بے جوڑ اور غیر مناسب نہیں اور ان کی وضع و ہیئت بڑی ہی دقیق اور بلند پایہ حکمتوں پر مبنی ہے۔ پھر مزاج و اخلاط میں تناسب رکھا۔ یہ تمام باتیں اس کا موجب تھیں کہ انسان اپنے رب کو اور اس کے

انعامات کو پہنچاتا۔ اس کی اطاعت و فرماں برداری کرتا۔ لیکن افسوس بہت سے انسان غفلت و جہالت کی فلتوں میں پھٹکتے رہے اور انہوں نے اسی میں اپنی ساری عمر برباد کی سوائے لوگوں کو سن لینا چاہیے۔ خبردار بات یہ نہیں ہے کہ خالق کائنات اور تمہارے رب کی ربوبیت کوئی پوشیدہ چیز ہے بلکہ تم تو جھٹلاتے ہو انصاف کے ہونے کو اور روز جزاء یعنی قیامت قائم ہونے کو اور کہتے ہو کہ انسان کی بس یہ زندگی ہے اسی میں اسس کو رہنا ہے۔ اور جو کچھ کر لیا وہ بس گذر گیا اب نہ بعد میں زندہ ہونا ہے اور نہ ہی کیے ہوئے اعمال کی کوئی جزاء و سزا ہے۔ حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں جو بڑے ہی عزت والے اعمال کے لکھنے والے ہیں۔ جو جانتے ہیں ہر وہ بات جو تم کرتے ہو۔ اس لیے ہر ایک کے عمل کا بدلہ قیامت کے روز اس کو ملے گا اعمال خیر کی جزاء جنت کی نعمتیں ہیں اور اعمال شر کی سزا عذاب جہنم اور خدا کی ناراضگی ہے۔ یہی قانون خداوندی ہے جو ملے ہو چکا اس کی رُوسے بے شک نیک لوگ بہشت کی نعمتوں میں ہوں گے اور بدکار بے شک دوزخ میں ہوں گے جس میں وہ داخل ہوں گے انصاف کے دن اور روز محشر ہر ایک ہمارے سامنے موجود ہوگا تو وہ گنہگار لوگ اس جہنم سے دور ہونے والے نہ ہوں گے نہ بھاگ کر اس سے دور ہو سکیں گے اور نہ داخل ہونے کے بعد اس سے نکل سکیں گے بلکہ ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کیا ذلت اور مصیبت ہو سکتی ہے اور اے مخاطب جانتا بھی ہے کہ کیا ہے انصاف کا دن کتنا ہی سوچا جائے اور غور و فکر کیا جائے۔ اس کی ہیبت اور عظمت کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا پھر بھی سوچ لے جانتا ہے کیا ہے انصاف کا دن؟ اے انسان تو نہ جان سکتا ہے اور نہ اس تک تیری رسائی ہو سکتی ہے بس یہ مجھ لے وہ دن ایسا ہوگا کوئی انسان کسی انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہ ہوگا اور کوئی کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا۔ اس دن تمام رشتے ناطے اور تعلقات و روابط قطع ہو چکے ہوں گے اور کسی کو کسی کے لیے بولنے کی بھی مجال نہ ہوگی اور ہر فیصلہ اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگا ہر ایک نفسی نفسی پکارتا ہوگا نہ کوئی کسی کی مدد کر سکے گا اور نہ کسی کی سفارش کر سکے گا اور نہ ہی فدیہ اور عوض قبول ہوگا۔ ہاں بس وہی شفاعت کر سکے گا جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا **لَیْسَ کَیْفَ مَیْثِیْذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اِذْنًا کَهُ الرَّحْمٰنُ وَرَضِیَ لَهٗ قَوْلًا۔**

دنیا کے بادشاہوں کے ہاں وسائل و ذرائع اور سفارشیں کام آجاتی ہیں لیکن حکم الٰہی کمین کی بارگاہ میں یہ سب رشتے ناطے بیکار اور بے اثر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی شخص کو قیامت کا منظر دیکھنا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ **اِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ** اور سورہ **اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ** اور **اِذَا السَّمَاءُ اُنشَقَّتْ** کی تلاوت کرے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت باسناد احمد بن حنبل بشرح جہاں قرشی کی نقل کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز دیوار پر تھوکا۔ اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا۔ اے لوگو! حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے اے ابن آدم تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے۔ حالانکہ میں نے

تجھے اس تھوک جیسے حقیر بانی کے قطرہ سے پیدا کیا ہے یہاں تک کہ جب میں نے تجھ کو برابر اور متناسب اعضاء کے ساتھ بنایا تو لے انسان تو اپنے لباس (دو چادر دوں) میں اکرہ کر چلنے لگا حالانکہ زمین میں تیرے دفن ہونے کی جگہ ہے۔ تو نے مال خوب جمع کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے انکار کیا تا آنکہ جب تیرا سانس طق تک پہنچنے لگا تو کہنا شروع کیا اب میں صدقہ کرتا ہوں۔ حالانکہ اب کہاں وقت رہا ہے صدقہ کرنے کا عہ

مغزور و نافرمان انسان کو خلاق رب العالمین کی ایک دھمکی

آیت مبارکہ **يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ** "میں انسانی مغزور اور غفلت پر متنبہ کیا گیا ہے کہ انسان بحیثیت انسان ہونے کے اس امر سے نہایت ہی بعید ہے اور یہ بات اس کے واسطے قابل حیرت ہے کہ وہ اپنے رب کے معاملہ میں دھوکہ میں رہے اس کو نہ پہچانے اور اس کی اطاعت و فرماں برداری سے مغزور و تکبر اختیار کرے۔ اس کو اللہ نے عقل و فطرت کی صلاحیت سے نوازا ہے اور مخلوق میں خالق کا رابطہ اور تعلق فطری امر ہے لیکن اس کے باوجود اس کی سرکشی و نافرمانی بلاشبہ قابل حیرت ہے بعض ائمہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ "انسان" سے یہاں کافر مراد ہے۔ کیونکہ وہی قیامت کا منکر ہے اور انکار قیامت پر اصرار و دلیری اور گناہوں کا ارتکاب اور سزا سے بے پرواہ ہو کر شر بے مہار بنے رہنا اللہ سے اس کا مغزور ہے اور یہ کہ دھوکہ میں وہ مبتلا ہے۔ عطاء سے منقول ہے کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئیں کبھی اور ابن مقاتل بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مغزور کافر ابن الاسد بن کلدہ کے بارہ میں نازل ہوئیں اس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کی مگر خدا نے دنیا میں سزا نہ دی تو یہ مغزور و تکبر میں اترانے لگا۔ بغوی نے بیان کیا ہے کہ یہ آیت اسود بن شریق کے بارہ میں نازل ہوئی جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ یہاں الانسان سے ہر ایک کو خطاب ہے خواہ وہ کافر ہو یا مؤمن گناہگار ہو یا بدکار تو بطور تنبیہ سب کو یہ خطاب فرمایا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی مستغنی اس طرح کی روش اختیار نہ کرے اور آسمانی عدالت سے کسی وقت غفلت نہ برتے اگر کسی وقت بشری کوتاہی کرے اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر نادم و شرمندہ ہو کر تائب ہو یہ ہمیں کہ عیسائیوں کی طرح یہ سمجھ کر مطمئن ہو جائے کہ بس یسوع مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو چکے ہیں۔ اب ہم کو کسی بھی گناہ کی سزا جگتنی نہیں پڑے گی اور نہ یہودیوں کی طرح یہ سمجھے کہ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا کافی ہے۔ اور اگر کسی گناہ کی کچھ سزا بھی ملے تو بس چند روز کی ہوگی۔ جیسے کہ ارشاد ہے **وَقَالُوا لَسَوْفَ نَسْتَمْسِكُ النَّارَ إِلَّا آيَاتُنَا مَعْدُودَةٌ** یا ان جہلاء کی طرح دھوکہ میں نہ پڑے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ

عہ: تفسیر ابن کثیر ۴۷ -

ان کے بزرگ اور غوث و قطب ان کو بخشوا دیں گے اور ان کو نہ کسی فرض کے ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نہ کسی معصیت سے ان کو کچھ نقصان ہوگا اور نہ ہی روافض و شیعہ کی طرح یہ اعتقاد قائم کرے کہ بنی فاطمہ پر آگ حرام ہے خواہ وہ کچھ بھی کریں ان کو قطعاً سزا نہ ہوگی ایسے فاطمیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئاً۔ کہ لے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا (بغیر ایمان و عمل) میں اللہ کے یہاں تجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔

الغرض یہ اعتقادات اور تسخیمات دھوکہ ہی ہیں رب کریم کے معاملہ میں ہر انسان کو اس قسم کے دھوکہ میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔

آیت مبارکہ میں رب کے ساتھ کریم کی صفت جمع کرنے میں ایک نہایت ہی لطیف اشارہ ہے وہ خداوند عالم کی شان ربوبیت جس کا تقاضا ہر مرحلہ پر مخلوق کو پان اس کی ضرورتوں طبعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے وہ اس امر کی مقتضی ہے کہ اس سے کسی طرح کی غفلت نہ برقی جائے اور نہ ہی تکبر و غرور کی روش اختیار کرنی چاہیے پھر جب کہ وہ کریم بھی ہے اور اس کا کریم بار بار انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس کی یاد تازہ کرتی ہے اس کے انعامات و احسانات انسانی فطرت کو اس سے تعلق و محبت اور اس کی اطاعت و بندگی پر آمادہ کرتے ہیں اور اس کی ناراضگی و عقاب سے ڈراتے ہیں۔ تو حیرت ہے کہ پھر بھی انسان غافل رہے اور غرور و تکبر ہی کرتا رہے اور ہر طرح کی معصیت و نافرمانی کرنے پر بھی امیدیں قائم رکھے اور اسی گھنڈے میں رہے کہ اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اس تصور پر تو خداوند عالم نے اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد ہے تِلْكَ اَمْثَالُهُمْ اور فرمایا لَيْسَ بِاَمَانَةٍ كُمْ وَلَا اَمَانِي اَهْلِ الْكِتَابِ کہ ان امیدوں اور آرزوؤں سے کام نہیں چلے گا۔

ابو بکر ذرّان بیان کرتے ہیں کہ اگر قیامت میں مجھ سے کہا گیا مَا عَدَّ لَكَ بِدَيْتِكَ الْكُفْرِيْمُ تو میں کہہ دوں گا عَدَّ فِي كُرْمِ الْمَكْرِيْمِ کہ کریم کے کرم نے مجھے دھوکہ میں ڈالا۔ غرض اس لطیف عنوان سے انسان کی طبعی کمزوری کو نمایاں کر دیا گیا تاکہ اس عیب سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور اس عیب سے اپنی زندگی کو پاک رکھے جو انسان کو حیوان سے بھی بدتر کر دینے والی ہے۔ بس یہ حقیقت ہے۔

لطف حق با تو مواسا با کند
چونکہ از حد بگذرد رسوا کند



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِیْنَ

سورہ مطفین جس کو سورہ التطفیف بھی کہا جاتا ہے مکہ ہے۔ اس میں چھتیس آیات ہیں۔ ضحاک و مقاتل حضرت عبداللہ بن مسعود سے منقول ہے کہ یہ کی سورت ہے۔

عبداللہ بن الزبیر اور عبداللہ بن عباس نے بیان کیا کہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے آخری سورت ہے اس کے بالمقابل ایک جماعت ائمہ مفسرین کی اس کو مدنی سورت کہتی ہے چنانچہ حسن اور عکرمہ سے منقول ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لیکن قول اول راجح اور قوی ہے۔

گزشتہ سورتوں میں آخرت اور بعثت و نشر کے مضامین ذکر فرمائے گئے تھے اور اس ضمن میں اتقاد و ایمان کے اصول واضح اور متعین کرنا تھا اب اس سورت میں ایمان بالآخرت کی بنیاد پر معاملات کی اصلاح مقصود ہے اور انسانی معاشرہ کو خیانت، جھوٹ اور حق تلفی کی گندگلوں سے پاک کرنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ حقوق العباد میں خیانت وہ بدترین جرم ہے کہ انسان اس کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔

آیاتہا ۳۶ = ۸۳ = سُوْرَةُ الْمُطَفِّفِیْنَ نَبِیَّتٌ = ۸۶ = رُكُوْعُهَا ۱

سورہ تطفیف کی ہے اور اس میں چھتیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِیْنَ ۱ الَّذِیْنَ اِذَا كَتَلُوْا عَلٰی النَّاسِ

خرابی ہے گھٹانے والوں کی - وہ کہ جب آپ لیں لوگوں سے ،

یَسْتَوْفُوْنَ ۲ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ یَخْسِرُوْنَ ۳

پورا بھر لیں - اور جب آپ دیں ان کو یا تول دیں تو گھٹا کر دیں -

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۚ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝۵

کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ؟ کہ ان کو اٹھانا ہے۔ ایک بڑے دن میں۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ

جس دن کھڑے رہیں لوگ، راہ دیکھتے جہان کے صاحب کی۔ کون نہیں: لکھا

الْفَجَارِ لَفِي سَجِينٍ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِينٌ ۝۸ كِتَابٌ

گنہگاروں کا پہنچا بندی خانہ میں۔ اور سمجھ کو کیا خبر ہے کیسا بندی خانہ؟۔ ایک دفتر

مَرْقُومٌ ۙ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۚ الَّذِينَ

ہے لکھا ہوا۔ خرابی ہے اُس دن جھٹلانے والوں کی۔ جو

يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۚ وَمَا يُكذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ

جھوٹ جانتے ہیں انصاف کا دن۔ اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے، جو بڑھ

مَعْتَدٍ أَثِيمٌ ۚ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ

چلنے والا گنہگار ہے۔ جب سنائے اس کو ہماری آیتیں، کہے نقلیں ہیں

الْأُولَٰئِينَ ۚ كَلَّا بَلْ سَكَّتْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا

پہلوں کی۔ کونئی نہیں: پر رنگ پڑ گیا ہے ان کے دلوں پر، وہ جو کچھ

يَكْسِبُونَ ۚ كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ۝۱۵

کاتے تھے۔ کونئی نہیں! وہ اپنے رب سے اس دن روکے جاویں گے۔ پھر

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۚ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي

مقررہ بیٹھنے (پہنچنے) والے ہیں دوزخ میں۔ پھر کہیے گا، یہ ہے جس کو

كُنْتُمْ بِهِ تَكْذِبُونَ ۝۱۶

تم جھوٹ جانتے تھے

دعید بر اتلاف حقوق و خیانت در وزن پیمائش

قال الله تعالى - وَيٰۤاَيُّهَا الْمُطَفِّفِيْنَ عَلٰٓهٖ - الی - كُنْتُمْ بِهٖ تُكٰذِبُوْنَ

(دبط) ماقبل سورتوں میں دعید و تنبیہ تھی عقائد کی خرابی اور گمراہی پر اور اس کی بنیاد ایمان باللہ اور فکر آخرت کے وصف سے محرومی ہوتی ہے تو اب اس سورت میں ایمان بالآخرت نہ ہونے کے ثمرات میں سے معاملات کی خرابی اور لین دین میں خیانت اور دھوکہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ارشاد فرمایا۔

ہاکت و بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو گھٹانے والے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو پورا پورا بھریں اور جب ناپ کر دیں دوسروں کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیتے ہیں اگرچہ اپنا حق کسی سے پورا وصول کر لیتا کوئی نہ محوم با ست نہیں لیکن بدترین خصلت ہے کہ اپنا حق وصول کرنے میں تو ذرہ برابر عیادت چشم پوشی نہ کریں لیکن دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں خیانت و کوتاہی کریں۔ یقیناً انسان اس حرکت پر صرف اس وجہ سے آمادہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت اور آخرت میں محاسبہ اور بدلہ کا کوئی خیال نہیں۔ کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے ہیں اس بات کا کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔ ایک بہت بڑے دن کے واسطے جہاں ایک ایک ذرہ کا

علیٰ المطفئین۔ تطیف سے ماٹو ذہے جس کے معنی کنارہ اور جانب میں ہونے کے ہیں طفیف لغت میں کنارہ کو کہا جاتا ہے اور کمی کرنے کو بھی کہتے ہیں محاورات میں کہا جاتا ہے طف الاناء جب کہ برتن کو پورا نہ بھرا جائے بلکہ بھرنے کے قریب ہو تو چھوڑ دیا جائے۔

زجاج بیان کرتے ہیں مطفیف پیمانہ اور ترازو میں کمی کرنے والے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ اس میں سے کچھ مقدار دھوکہ کی صورت میں کم کر دیتا ہے اسی کو بخش کہتے ہیں۔ اکتیال کا مفہوم کوئی چیز ناپ کر لینا اور کال یکیل کوئی چیز ناپ کر دوسرے کو دینا۔

ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس کہ پانچ گنا ہوں کی سزا پانچ مصیبتوں کی شکل میں انسان پر واقع ہوتی ہے جو شخص عہد شکنی کرتا ہے۔ خدا اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے جو اللہ کا قانون چھوڑ کر دوسرے قانون پر فیصلے کرتے ہیں۔ ان میں فقر و احتیاج آجاتا ہے اور جس قوم میں بے حیائی اور زنا عام ہو جائے تو اس پر طاعون اور ایسے ہی دوسرے وبائی امراض مسلط ہو جاتے ہیں اور جو ناپ تول میں کمی کریں ان پر قحط واقع ہوتا ہے اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش روک لیتا ہے۔ (قرطبی)

اور ایک روایت میں ہے کہ جس قوم میں مال غنیمت میں خیانت اور چوری ہونے لگے اللہ تعالیٰ اس کا رعب دشمنوں کے دل سے نکال دیتا ہے اور خود دشمنوں کا ڈرانگے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ (ملاحظہ کریں تفسیر مظہری)

حساب دینا ہوگا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے سامنے اور ہر ایک بے حسنی و
بیمقراری کے عالم میں منتظر ہوگا کہ اس کی پیشی کا کیا انجام ہوتا ہے اور حساب و کتاب کے بعد اس کے بارے میں
کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ خبردار! انسان کو ہرگز دھوکہ میں نہ پڑنا چاہیے مجاہدہ ہونا ہے اور فیصلہ کے بعد بس یہی
ہے کہ بے شک بدکاروں کا اعمال نامہ سجدین میں ہے اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے سجدین وہ ایک
لکھا ہوا فیصلہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں مجرمین کے لیے عذاب و مصائب اور دہکتی ہوئی آگ کا طبقہ
ہے یا وہ دفتر ہے جہاں ان مجرمین کے نام لکھے کہ حوالہ کر دیئے جائیں گے۔ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے
لیئے جو انکار کرتے تھے ہمارے انصاف کے دن کا اور ہر چند دلائل کے باوجود وہ روز محشر اور قیامت پر ایمان

علاء : یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ کی تفسیر عقبہ بن عامر سے روایت ہے فرمایا میں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز لوگوں کی جب رب العالمین کے سامنے
پیشی ہوگی تو سورج سردوں کے قریب ایک میل کے بقدر ہوگا اور شدت کرب سے پسینہ بہتا ہوگا کسی کے گھٹنوں تک
ہوگا کسی کے اس سے اوپر اور کوئی اپنے پسینہ میں منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا۔

علاء : بعض سلف سے منقول ہے کہ یہ مقام ساتویں زمین کے نیچے ہے جو اسفل السافلین کا مصداق اتم ہوگا۔
سجدین کے معنی اصل میں قید خانہ کے ہیں یہ کافروں کی ارداح کا قید خانہ ہے۔ اکثر احادیث اور صحابہ و تابعین کے
اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہنم کا ایک طبقہ ہے جو ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ ارداح مؤمنین علیین اور
ملاء اعلیٰ میں چلی جاتی ہیں تو اس کے برعکس فاسق و فجار کی ارداح سجدین میں ہوں گی جو تنگ و تاریک مقام ہے
اور وہاں رنج و غم اور کرب و اضطراب کے سوا کچھ نہیں آگ کی لپٹیں اور سانپ بچھوڑتے ہوں گے۔

ابن ماجہ نے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما حدیث بیان کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا جب نیک اور ایماندار شخص کی روح قبض ہونے والی ہوتی ہے تو رحمت کے فرشتے جن پر اللہ
کا نور برستا ہوا ہوتا ہے اگر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑی ہی نرمی سے روح کو خطاب کرتے ہیں۔ نکل چل خدا
کی رحمت و مغفرت و باخ دیہار اور عیش و راحت کی طرف تو فوراً ہی وہ روح نشاط و فرحت کے ساتھ نکل
کر ان کے ساتھ عالم بالا کی طرف چلی جاتی ہے جہاں ملائکہ ہوتے ہیں اور جس طرف سے وہ روح گذرتی ہے
اس کی مہک اور خوشبو اس جگہ کو معطر کر دیتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کون معطر اور روشن روح ہے۔
تو بڑی تعظیم سے اس کا نام بتا دیا جاتا ہے۔ برخلات فاسق و کافر کی روح کے کہ بڑی ہی سختی اور ذلت

سے نکالی جاتی ہے اور جہاں سے بھی اس کا گذر ہوتا ہے فرشتے اس کی بدبو اور گندگی سے تکلیف
محسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کس قدر غیبت اور گندی روح ہے تو پھر اس کو سجدین
میں ڈال دیا جاتا ہے۔

اس کی تشریح آیت لَا تَفْتَحْ كَهْفَ ابْوَابِ السَّمَاءِ کے تحت گذر چکی۔

لانے کے لیے تیار نہیں ہونے اور ظاہر ہے کہ اس روز انصاف کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص جو بڑا ہی سرکش حد سے بڑھ جانے والا گناہگار ہے جس کی حالت یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے ہماری آئین پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو نقل کیے ہوئے قصے ہیں پہلے لوگوں کے ان کے حقائق و معارف اور دلائل و شواہد کو تسلیم کرنے کی بجائے ان کو گزر سے ہونے انسانی اور واقعات کہہ کر ٹلا دیتا ہے خود ہرگز ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں اس وجہ سے قلب کا ادراک ماؤف ہو گیا اور وہ صلاحیت کھو بیٹھے ہیں کہ ان حقائق کو سمجھیں۔ خبردار یہی لوگ ہیں وہ جو اپنے رب سے پردہ میں رکھے جائیں گے ان کو کبھی حق تعالیٰ کا دیدار نہ ہو سکے گا اور بارگاہِ رحمت سے ان کو دور ہی روک دیا جائے گا پھر یہ دوزخ میں گرنے والے ہوں گے اور جہنم میں جھونک دینے کے ساتھ پھر ان کو یہ کہا جائیگا دیکھ لو یہی ہے وہ جس کا تم انکار کرتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے اب تم اپنے اعمال کی بدولت اسی جہنم میں جھونکے جا رہے ہو اور تم اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جس کی تکذیب کرتے رہے اور وہی الہی کا مذاق اڑاتے رہے۔

معاملات میں عدل انصاف اور امانت

مادی زندگی اور دنیا کی حرص و لالچ میں مبتلا ہونے والا انسان اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے کہ جس شکل سے بھی ممکن ہو کچھ مالی منفعت حاصل کر لے اور اس مرض کے باعث نہ وہ کسی پر ظلم و تعدی سے گریز کرتا ہے نہ عزت و آبرو کا لحاظ زندگی کے ہر مرحلہ پر وہ خیانت اور جھوٹ ہی کے ذریعہ اپنا یہ ناپاک مقصد حاصل کرتا رہتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تجارتی امور اور لین دین میں یہی روش اختیار کیے ہوئے تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب نصیحت کی اور فرمایا۔

وَيَقْوِمِرْ اَوْ فَوِ الْاِمْكِنَالِ وَالسَّيِّئَاتِ بِالْفِسْطِ وَ لَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَقْتَسُوا فِي الْاَرْضِ مُمْسِدِينَ تَرْتَدُّ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ لَّيْسَ لَكُمْ تَأْمُرُكُمْ كُنْ تَتْرَكَ
مَا يَعْبُدُ اَبَاؤُنَا اَوْ اَنْ نَفْعَلْ فِيْ اَمْوَالِنَا مَا نَشَؤُ - جیسے کہ تفصیل سے گزر چکا۔

مگر دنیا کی محبت میں غرق ہونے والے انسان کو آخرت کی گرفت اور دنیا کے عذاب سے بے فکر نہ ہونا چاہیے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْاَبْرَارِ لَفِي

کوئی نہیں! لکھا نیکوں کا ہے

عَلِيَيْنَ ۱۸ وَمَا اَدْرَاكَ مَا عَلِيُونَ ۱۹ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۲۰ يَشْهَدُ

اوپر والوں ہیں۔ اور تجھ کو کیا خبر ہے کیا ہیں اوپر والے؟ ایک دفتر ہے لکھا۔ اسکو دیکھتے ہیں

الْمُقَرَّبُونَ ۲۱ إِنَّ الْاَبْرَارِ لَفِي نَعِيمٍ ۲۲ عَلَى الْاَرَآئِكِ يَنْظُرُونَ ۲۳

فرشتے نزدیک والے۔ بیشک نیک لوگ ہیں آرام میں۔ تختوں پر بیٹھے دیکھتے۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ۲۴ يُسْقَوْنَ مِنْ

پہانے تو ان کے منہ پر تازگی آرام کی۔ ان کو پلائی جاتی ہے۔

رَحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۲۵ خِتْمُهُ مِسْكَ وَفِي ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ

شراب ہر میں دھری۔ جس کی ہر جنتی ہے مشک پر اور اس پر چاہئے ڈھکیں

الْمُتَنَافِسُونَ ۲۶ وَفِرَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمٍ ۲۷ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا

درغبت کریں اڈھوکنے درغبت کرنے والے۔ اور اس کی طوئی اڈہر سے بڑی۔ ایک چشمہ جس سے پیتے ہیں

الْمُقَرَّبُونَ ۲۸ اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ

نزدیک والے۔ وہ جو گنہگار ہیں وہ تھے ایمان والوں

اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۲۹ وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۳۰ وَاِذَا

سے ہنستے۔ اور جب ہو نکلنے ان پاس آئیں میں میں (اشارے) کرتے۔ اور جب

اَنْقَلَبُوْا اِلَىٰ اٰهْلِہِمۡ اَنْقَلَبُوْا فِیْہِیْنَ ۳۱ وَاِذَا رَاوْہُمْ قَالُوْا

پھر کر جاتے اپنے گھر، پھر جاتے باتیں بناتے۔ اور جب ان کو دیکھتے کہتے

اِنَّ هٰؤُلَآءِ لَضَالُوْنَ ۳۲ وَمَا اَرْسَلُوْا عَلَیْہِمۡ حٰفِظِيْنَ ۳۳

بیشک یہ لوگ بہک رہے ہیں۔ اور ان کو بھیجا نہیں ان پر نگہبان۔

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۴﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ ۙ

سو آج ایمان والے منکروں سے ہنستے ہیں۔ تختوں پر بیٹھے

يَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾ هَلْ ثَوَابَ الْكُفَّارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾

دیکھتے ہیں۔ اب بدلہ پایا منکروں نے جیسا کرتے تھے۔

کرامت و عزت برائے مومنین مطہین

قال اللہ تعالیٰ۔ كَذَٰلِكَ كَتَبَ الْأَمْثَارَ إِلَىٰ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

(ربط) گزشتہ آیات میں مجرمین اور شیانت کرنے والوں پر وعید تھی۔ اب ان آیات میں اہل ایمان اور مخلصین پر ہونے والے انعام و اکرام کا ذکر ہے کہ وہ کیسی عزت کے ساتھ جنت میں اللہ کی نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا۔

ہرگز نہیں! ایسا کہ نیک اور بد کا انجام ایک ہی طرح ہو۔ یہ جو کچھ سزائیں ذکر کی گئیں فساق و فجار اور مکذبین کی تھیں۔ اس کے برعکس بلاشبہ نیکو کاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہوگا اور وہی ان کا ٹھکانا بھی ہے اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے علیین۔ وہ ایک لکھا ہوا دفتر اور طے شدہ بلند و عظیم مقام ہے۔ جس کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں بڑی ہی عزت و احترام کی نظر سے اور اس کے گرد حاضر ہوتے ہیں جو ساتویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ رب العزت نے مقربین کی ارواح کے لئے اسی کو مستقر بنایا ہے۔ بے شک نیک لوگ بڑی ہی نعمتوں اور راحتوں میں ہوں گے اپنی مسندوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ نہایت ہی فرحت و سرور کے ساتھ تمام مناظر بہشت اور رب العالمین کا بھی دیدار کرتے ہوں گے جب بھی اہل بہشت کو دیدار خداوندی سے نوازا جاتا ہوگا۔ اے دیکھنے والے جب تو ان کو دیکھے تو جان لے گا آرام و راحتوں کی تازگی اور شادابی ان کے چہروں میں۔ ان کے چہروں پر مسرت و اطمینان کی شادابی نمایاں ہوگی ان کو پلایا جاتا ہوگا خالص شراب طہور سے جو سر بہر ہوگی جس پر کسی طرح کا گرد و غبار اور ہوا کا بھی اثر نہ ہوگا۔ جس کی ہر مشگ ہوگی یہ ہیں وہ نعمتیں اور راحتیں جو علیین میں نیکو کار لوگوں کو حاصل ہوں گی۔

اور حقیقت یہی ہے بس ایسی ہی چیزیں رغبت کرنے والوں کو رغبت اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لئے مسابقت کرنی چاہیے۔ دنیا کی شراب کی لذت و راحت اس قابل نہیں کہ اس کے لئے حرص اور منافست و مسابقت کی جائے اور اس میں آمیزش ہوگی۔

تسلیم سے جو بلندی سے نیچے کی طرف گرتا ہوا ایک چشمہ ہوگا جس کی لذت و خوشبو اور لطافت احاطہ تصور سے بالا ہے۔ جسے مقربین پیتے ہوں گے جو خواص مقربین کے لیے ہوگا اور اس چشمہ سے ملا کر ان تمام اہل ایمان اور نیکو کار جنتیوں کو پلاستے ہوں گے جن کے واسطے شرابِ طہور و حقیقِ مخموم ہوگی یہ تو حال ہے اہل ایمان کا جو بہشت کی نعمتوں اور راحتوں میں ہونگے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ان کو ایمان و تقویٰ اور دنیوی لذتوں اور نفس کی خواہشات سے صبر کر نیکی وجہ سے ملا کر ان کے بالمقابل جنکی زندگی کا مقصد دنیوی عیش و عشرت اور نفس کی خواہشات اور لذتیں ہی رہیں۔ تو ایسے لوگ خدا کے مجرم و نافرمان ہونے اور بے شک یہ لوگ جو مجرم ہیں جنہوں نے دنیا میں جرم اور نافرمانی کی ایمان والوں سے ہنسی کیا کرتے تھے اور بڑی حقارت سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور جب ان پر سے گذرتے تو آنکھوں سے اشا سے کرتے تھیخیر و تذلیل کے لیے۔ اور اس طرح اپنی آنکھوں اور جھوڑوں کے اشارے سے اہل ایمان پر طعن و تشنیع کرتے اور ان کی ظاہری شکستہ حالی پر اپنی دولت و ثروت کے زعم میں مذاق اڑاتے اور جب اپنے گھر لوٹتے تو خوب ہنستے ہوئے قہقہے لگاتے۔ اور جب ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو بڑے ہی گمراہ بے وقوف ہیں کہ دنیا کے مزے چھوڑ کر قیامت کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ مجرمین کی یہ تمام باتیں احمقانہ تھیں اور کینہیں جن کا عقلاً کوئی جواز نہ تھا اور نہ کوئی شریف انسان ایسی بیہودہ باتوں کو گویا کر سکتا ہے اور یہ لوگ ان ایمان والوں پر کوئی محافظ بن کر تو نہیں بھیجے گئے تھے کہ یہ ان کے داروغہ ہوں اور ان پر اپنی فرج داری جتلائیں بہر حال دنیا میں یہ مجرم جو کچھ ذلیل حرکتیں کریں وہ کریں لیکن آج کے دن تو ایمان والے کافروں پر ہنستے ہوں گے جب کہ اپنے صندوقوں پر بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں کہ اس طرح یہ مجرم ذلت و رسوائی اور عذابِ جہنم میں مبتلا ہیں اور دنیا کے وہ سارے عیش ختم ہو گئے تو اس حالت کو دیکھ کر ایمان والے مجرموں اور کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اور اس طرح اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوں گے اور نجات دکانیابی۔ بہشت کی نعمتوں اور راحتوں پر مسرور ہو رہے ہوں گے۔ اور ان تمام مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ ہوگا اعزاز و اکرام ان ایمان والوں کا جن پر یہ

عنه: حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں۔ شراب کی نہریں تہ کسی کے محل میں بہتی ہوں گی لیکن یہ شراب طہور نہایت خاص اور نادر قسم کی ہوگی جو مشک کی مہروں سے بند کی ہوگی۔ ۱۲۔

عنه: یہ تفسیر روایتِ عکرمة کے پیش نظر ہے عبداللہ بن عباس اور حسن بصری سے منقول ہے بیان فرماتے تھے اسکی حقیقت بجز پروردگار کے کوئی نہیں جانتا وہ ایک نہایت بے بہا اور قیمتی چیز ہے جس کی نسبت حق سبحانہ تعالیٰ کا اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے اور ظاہر ہے کہ یہ کس قدر قیمتی ہوگی جو حقیقِ مخموم میں ملا کر عام اہل جنت کو پلائی جاتی ہوگی۔ ۱۲۔

عنه: یہی وہ چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اَلَا اٰخِبِكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلِّ ضَعِيفٍ مَّضْعَفٍ لَوْ اَتَمَّ عَلَى اللَّهِ لَا يَبْرَأُ — اَلَا اٰخِبِكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلِّ عَتَلٍ جَوَاطِبِ مَتَكِبِ (رواۃ البخاری و مسلم)

کافر ہنستے تھے اور مذاق اڑا کر ان کی تحقیر کرتے تھے اور کہیں گے، کیا بدلہ پایا ہے۔ منکروں نے اپنے کاموں کا۔

فائدہ کَلَّا بَلَّ زَانَ کی تفسیر میں ابن کثیر نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے بیان کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، مؤمن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کی تو وہ نقطہ زائل ہو جاتا ہے اور اس کا قلب صیقل ہو جاتا ہے، اور اگر غافل رہا تو وہ سیاہ نقطہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورے قلب پر لاپاٹ کر لیتا ہے اور یہی وہ تان ہے جس کا اللہ رب العزت نے کَلَّا بَلَّ زَانَ عَلٰی قُلُوْبِہُمْ میں ذکر فرمایا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو فرمائی گئی۔

ہر گناہ زنگے است بر مرآة دل
دل شود زین زنگہا خوار و نخل

فائدہ

کَلَّا اَنَّهُمْ عَنِ رَبِّہُمْ یَوْمَئِذٍ لَّمْ یُحْجُوْا کُوْنٌ کی تفسیر میں امام شافعیؒ سے منقول ہے فرمایا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل ایمان دیدار خداوندی سے نوازے جائیں گے جیسا کہ وَجُوْا یَوْمَئِذٍ نَّاصِرًا اِلٰی رَبِّہَا نَاطِرًا میں فرمایا گیا اور کافروں کو دیدار خداوندی سے محرومی کی دھمکی اس بات کی علامت ہے کہ قیامت کے روز کافر بھی حق تعالیٰ کے دیدار کے مستحق و متمنی ہوں گے اور دنیا میں چونکہ مادی غفلتوں کے حجاب دل پر قائم تھے اس وجہ سے دنیا کی زندگی میں خدا کا کوئی تعلق اور اس کی کوئی محبت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اب جب کہ قیامت کے دن مادیت کے سارے حجاب دور ہو جائیں گے تو کافر بھی اسی طرح دیدار خداوندی کا طالب و مستحق ہو گا جس طرح کہ مؤمن کو اس شوق کے عالم میں دیدار خداوندی سے محروم رکھنا اس پر بڑی حسرت اور تکلیف کا باعث ہو گا تو اس بنا پر بطور دھمکی فرما دیا گیا۔ کَلَّا اَنَّهُمْ عَنِ رَبِّہُمْ یَوْمَئِذٍ لَّمْ یُحْجُوْا کُوْنٌ۔

اللّٰہم ارزقنا رؤیتک فی جنّۃ النعیم واجعلنا من الذین وجوہا
یومئذ ناصراً الی ربہا ناطراً۔ آمین یا رب العلمین۔

(تم بحمد اللہ العزیز سورۃ التطفیف)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاِنشِقَاقِ

(درجہ) اس میں بھی گزشتہ کئی سورتوں کی طرح قیامت حشر و نشر اور جزاء و سزا کے مضامین ہیں۔ اور بالخصوص یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت برپا ہونے پر نظام عالم کس طرح درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کی تحقیق و تثبیت کے ساتھ انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا گیا اور یہ کہ انسان اپنی زندگی میں حصول معاش اور مادی تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کرتا ہے۔ اس کو اپنی اس عملی جدوجہد میں آخرت اور بعثت بعد الموت کو فراموش نہ کرنا چاہیے اور یہ بات ہرگز اس کو نہ بھلائی چاہیے کہ ہر انسان اپنے رب کی طرف لوٹنے والا ہے اور وہاں زندگی بھر کے اعمال کا حساب ہوگا۔

آخر سورت میں مشرکین اور منکرین قیامت پر تنبیہ و تہدید ہے ان کے ایمان نہ لانے اور خداوند عالم کی نافرمانی کی روش پر اظہارِ فسوس کیا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں کے باوجود کبھی خدا کو یاد نہ کیا اور نہ اس پر ایمان لائے اور نہ ہی اس کے احکام کی اطاعت کی۔

ان چند آیات اور مختصر کلمات میں ایسے عظیم اور اہم مضامین کا جمع کر دینا بلاشبہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جو اکثر مواقع میں ایک صاحب فہم کے سامنے اس طرح واضح ہو کر آتا ہے کہ اس پر ایمان عقل و فطرت کا تقاضا معلوم ہونے لگتا ہے۔

آیات ۲۵ = ۸۳ = سُورَةُ الْاِنشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ = ۸۳ = رُكُوْعُهُمَا ۱

سورۃ انشقاق مکی ہے اور اس میں پچیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۲ وَاِذَا

جب آسمان پھٹ جاوے ۔ اور سن لے حکم اپنے رب کا، اور اسی لائق ہے اور جب

الْأَرْضُ مُدَّتْ ۳ ۚ وَالْقَتُّ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۴ ۚ وَأَذْنَتْ

زمین پھیلائی جاوے ۔ اور نکال ڈالے جو کچھ اس میں ہے اور غالی ہو جاوے ۔ اور سُن لے حکم

لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۵ ۚ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ

اپنے رب کا اور وہ اسی لائق ہے۔ اے آدمی ! تجھ کو پہننا ہے اپنے رب تک پہنچنے میں

كَدًّا حَافِلِقِيهِ ۶ ۚ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۷ ۚ

بچ بچ کر، پھر اس سے ملنا۔ سو جس کو ملا لکھا اس کا داہنے ہاتھ میں۔

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۸ ۚ وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ

تو اس سے حساب لینا ہے حساب آسان۔ اور پھر آدے اپنے لوگوں

مَسْرُورًا ۹ ۚ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ۱۰ ۚ فَسَوْفَ

پاس خوش رفت۔ اور جس کو ملا اس کا لکھا پیٹھ کے پیچھے سے۔ سو وہ

يَدْعُو ثُبُورًا ۱۱ ۚ وَيَصْلِي سَعِيرًا ۱۲ ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ

پکارے گا موت موت۔ اور پیٹھے گا (پہنچے گا) آگ میں۔ وہ رہا تھا اپنے گھر

مَسْرُورًا ۱۳ ۚ إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۱۴ ۚ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ

خوش رفت۔ اس نے خیال کیا کہ پھر نہ جاوے گا۔ کیوں نہیں ! اس کا رب اس کو

بِهِ بَصِيرًا ۱۵ ۚ فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۱۶ ۚ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۱۷ ۚ

دیکھتا تھا۔ سو قسم کھاتا ہوں شام کی سُرخی کی۔ اور رات کی اور جو اس میں سمٹتا ہے۔

وَالْقَبْرِ إِذَا تَسَقَّ ۱۸ ۚ لَتَرَكِبَنَّ طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ ۱۹ ۚ فَمَا

اور چاند کی جب پورا بھرے۔ تم کو چڑھنا ہے کھنڈ پر کھنڈ (درجے پر درجہ) پھر کیا

لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۲۰ ۚ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا

ہوا ہے ان کو یقین نہیں لاتے۔ اور جب پڑھیے ان پاس قرآن سجدہ

يَسْجُدُونَ ۲۱) بِلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۲۲) وَاللَّهُ أَعْلَمُ

نہیں کرتے ۔ اوپر سے یہ منکر جھٹلاتے ہیں ۔ اور اللہ خوب جانتا

بِمَا يُوَعُونَ ۲۳) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۲۴) إِلَّا الَّذِينَ

ہے جو اندر بھر رکھتے ہیں ۔ سو خوشی سنا ان کو دکھ والی مار کی ۔ مگر جو

آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۲۵)

یقین لائے اور کیں بھلائیاں ، ان کو نیک ہے ہے انتہا ۔

قانون مجازات و مرتبہ جہود و عملیہ حیات انسانی

قال اللہ تعالیٰ: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ الی لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

(ربط) اگر ششہ سورتوں میں بعثت بعد الموت اور حشر و نشر کے احوال کا ذکر تھا اور دلائل سے اس موضوع کو ثابت کرتے ہوئے انسان کو فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی تھی تو اب اس سورت میں قیامت کے کچھ ہولناک مناظر بیان کیئے گئے ہیں قانون مجازات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے۔ انسانی اعمال اور اس کی جدوجہد کے مختلف اور متضاد درجات ہیں اور ہر انسان کی زندگی معروف عمل ہے اور وہ اپنے فکری اور عملی قومی کو محنت و مشقت میں ڈالے ہوئے ہے اب یہ کہ وہ سعادت کا راستہ اور منزل اختیار کرتا ہے یا شقاوت و ہلاکت؟ یہ اس کی صلاحیت فہم اور عقل و فطرت کے تقاضے پر سے کرنے یا ان کو نظر انداز کرنے پر موقوف ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔ اور جب کہ آسمان پھٹ جائے اور کان لگا لے وہ اپنے رب کے حکم کی طرف اور اس کے لیے بھی حق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے اور اسی لائق ہے کہ بایں مظلمت و درخت اپنے مالک و خالق کے سامنے گردن ڈال دے اور اس کی فرماں برداری میں ذرہ برابر بھی چون دچرا نہ کرے۔

اور وہ یہ ہے کہ اس حکم کو بھی اور قیامت برپا ہونے کی شدت و بعیت سے شق ہو جائے۔ اور جب کہ زمین پھیلا دی جائے گی عمارتیں پہاڑ سب پارہ پارہ ہو کر زمین کھلے میدان کی طرح نظر آنے لگے نہ کوئی غار باقی رہے اور نہ پہاڑ نہ عمارتیں اور درخت اور زمین ایک سطح مستوی بن جائے یا جس طرح ریزہ کو کھینچا جا رہا ہو اسی طرح اس کو پھیلا دیا جائے کہ کوئی جگہ حائل ہی باقی نہ رہے تو ایسی وسیع اور ہموار زمین پر سب کا حشر ہوگا۔

اور اس وقت نکال پھینک دے ہر وہ چیز جو اس کے اندر ہے خواہ وہ خزان و معادن ہوں یا

زمین میں دفن شدہ مردے اور ان کی مڈال، اور جسم کے اجزا ہوں اور الہ۔ سب سہہ خالہ۔ سہہ۔



اور کان لگائے اپنے رب کے حکم کی طرف اور اس کے پیچھے ہی لائق ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم سنے اور اس کو مانے تو بس اس وقت لے دیکھنے والے تو دیکھے گا کہ نظام عالم درہم برہم جو چکے گا زمین و آسمان ہی پر سارا عالم قائم ہے جب وہی شق ہو جائے اور زمین پر قائم آبادیاں پہاڑ درخت انسان سب ختم ہو جائیں اور زمین اپنے اندر کے خزانے و مردے اگل دے تو یہی وہ وقت ہوگا کہ ہر انسان اپنے رب کے سامنے حاضر کیا جائے گا اور زندگی کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ اس لیے سارے انسان تو سمجھ لے اس حقیقت کو کہ تو محنت و مشقت اٹھا رہا ہے عملی جدوجہد کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جاتے ہوئے کہ زندگی کا یہ سفر ہر انسان مسلسل طے کر رہا ہے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ اس کو قبر اور آخرت کے قریب کر رہا ہے۔ زندگی کی یہ منزلیں طے کرتے کرتے لے انسان ہر حال سمجھے اپنے رب تک پہنچنا ہے اور اس کے سامنے سمجھے ماضی دینی ہے انسانی زندگی میں یہ عملی جدوجہد ہر ایک کی اپنی اپنی استعداد و صلاحیت کے مطابق ہوتی ہے کوئی اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں محنت و مشقت اٹھاتا ہے تو کوئی بدی اور نافرمانی میں اپنی جان بھینچتا ہے اسی طرح زندگی کی یہ منزلیں ہر انسان طے کرتے ہوئے آخر اپنے پروردگار سے ملے گا کیونکہ موت کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا اور پھر اعمال کے نتائج سے دد چار ہونا ہی پڑے گا تو جس کا نامہ اعمال داپنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو بس یہ تو وہ شخص ہوگا جس کا حساب نہایت ہی آسان لیا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ اپنے لوگوں کے پاس لوٹے گا نہایت ہی خوش ہوتے ہوئے اپنی کامیابی اور نجات پر اور ان انعاماتِ خداوندی کو دیکھ کر جو اس کو عطا کیے جائیں گے۔ اب نہ تو سزا کا خوف رہے گا اور نہ کسی چیز کا غم و غصہ بڑے ہی اطمینان و سکون سے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹ رہا ہوگا اپنے جنابِ اقارب اور مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوشحیاں منانا ہوگا۔ اس کا حساب تو بس نامہ اعمال اور کاغذات کی پیشی ہوگی اور ہر دن کسی بحث و مباحثہ اور مناقشہ درگزر اور معاف کیا جاتا ہوگا۔

اور جس کسی کو اس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑا یا جائے یعنی فرشتے سامنے سے اس کی صورت بھی دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے ہوں گے اور اس طرح اس کے نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دے دیتے جائیں تو بے شک وہ پکارے گا موت اور بلاکت کو اور یہی چلبے گا کہ بجائے اس آنے والے عذاب کے مجھے موت ہلاک اور فنا کر دے تو اچھا ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کی یہ آرزو پوری نہ ہوگی اور وہ داخل ہوگا ایک دہکتی ہوئی آگ میں دنیا کی زندگی میں تو اس کو خیال تک نہ تھا کہ اس طرح میدانِ حشر میں پیشی ہوتی ہے اور اعمال کی جزاء و سزا کا مرحلہ آئے گا اس وجہ سے وہ بے شک اپنے گھر اور گھر والوں میں بڑا ہی خوش و خرم رہا کرتا تھا اس نے تو یہ خیال کر رکھا تھا اور دل میں ہی عقیدہ قائم کیے ہوئے تھا کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی طرف نہیں لوٹے گا۔ اور اب اس منکر دکافر کو نظر آ جائے گا کہ اس کے یہ خیالات لغو اور بیہودہ تھے۔ بہر کیف ہر انسان کو بلاشبہ اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ بے شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا ہے جس کی نظر سے اس کا کوئی عمل اور کوئی حال کسی بھی زمان و مکان میں مخفی نہیں رہ سکتا۔ پیدائش سے

موت تک کا ہر مرحلہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ بدن کس چیز سے بنا روح کہاں سے آئی اس کے قلب میں اعتقاد کیا تھا زبان سے کیا کیا کرتا تھا۔ ہاتھ پاؤں سے کیا کیا اور پیٹ میں کھانے اور پینے کی چیزیں کیا کیا بھری اور کس طرح بدن سے روح نکل گئی تو بدن بھی اس کی نگاہوں میں ہے۔ دیکھ رہا ہے اس کے اجزاء کہاں کہاں منتشر اور بکھر گئے تو جو پردہ دگار اول سے آخر تک ہر مرحلہ کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز کا خالق اور ہر ایک بات پر قدرت رکھتا ہے بھلا اس کے محاسبہ سے اور گرفت سے کون انسان بچ سکتا ہے نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اس کو اسی طرح عبت اور معطل چھوڑ دیا جائے اور اسکے اعمال کی جزا و سزا کچھ نہ ہو ہرگز نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں شام کی سُرخی کی اور رات کی اور ہر اس چیز کی جو رات کے اندھیرے میں سمٹ آئے اور چاند کی جب وہ پورا بھر جائے۔ تو لے انسانو! غروب آفتاب کے بعد سُرخی اور آسمان پر اس کے اثرات پھر رات کی تاریکی اور

یعنی جو دھوئیں رات کا چاند جب اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہو۔

اس آیت میں حق تعالیٰ شانہ نے شفق کی قسم کھا کر انسانی افکار کو لیل و نہار کے تغیرات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر اپنی دنیوی زندگی کی حقیقت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اکثر حضرات محدثین اور ائمہ لغت شفق کی تفسیر میں غروب کے بعد آسمان پر باقی رہنے والی سُرخی بیان کرتے ہیں خطابی نے اسی کو اختیار کیا اہل لغت سے یہ بھی منقول ہے کہ آسمان پر پھیلنے والی یہ سُرخی خواہ وہ بعد غروب شمس ہو یا قبل از طلوع دونوں کو شفق کہا جائے گا۔ خلیل بن احمد سے جو کہ لغت عربیہ کے امام ہیں یہی نقل کیا گیا۔

مصنف عبد الرزاقی میں ابو ہریرہ سے ایک روایت میں یہ نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا الشفق هُوَ البياض۔ امام راغب سے یہ منقول ہے فرمایا شفق دن کی روشنی کا رات کی تاریکی کے ساتھ مخلوط ہونے کا نام ہے۔

شیخ جلی نے شرح منیہ میں لکھا ہے شفق آسمان کے کنارہ پر باقی رہنے والی سفیدی کو کہا جاتا ہے جو سُرخی کے دور ہونے کے بعد ہو۔ امام ابو حنیفہ اسی کے قائل ہیں اور اسی بنا پر ان کے نزدیک عشاء کا وقت شفق ابیض کے غائب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔

اس کی تائید ان روایات سے ہوتی ہے جن میں لفظ جَحْتِ یَغِيبُ الافق، آتا ہے اور ظاہر ہے غیبت سفیدی کے ختم ہونے کے بعد ہو سکتی ہے اس کی مزید تائید مجاہد کی اس روایت سے ہوتی ہے۔ جس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے فَكَلَّا اُخْسِمُ بِالشُّعْرِیِّ سے اللہ نے دن کی روشنی کی قسم کھائی ہے۔ اور فرمایا کہ وَ الْبَلِّیْلِ وَ مَا وَ سَقِیِّ میں رات کی تاریکی کا بیان ہے تو اس طرح اللہ رب العزت نے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کو جمع کر دیا۔

(کذافی تفسیر ابن کثیر و فتح الملہم جلد ثانی) ۱۲۔

اس کی تاریکی میں سمٹ جانے والی مخلوقات و کائنات پھر چاند کا ہلال کی شکل میں طلوع ہونے کے بعد اپنے حد کمال تک پہنچ جانا! عالم کے یہ انقلابات اور قدرت خداوندی کی یہ عظیم نشانیاں تم کو یہ بات بتا رہی ہیں کہ یقیناً ضرور بالفرد تم کو چڑھنا ہے سیرھی پر سیرھی اور درجہ بدرجہ مختلف احوال اور ادوار سے تم کو گذرنا ہے اور اسی طرح تدریجی مراحل طے کرتے کرتے عمر کے اختتام کو پہنچنا ہے اور زندگی کی تمام آسائشیں لذتیں اور متاع دنیا کی چمک دمک زندگی کی افق میں اسی طرح ڈوب جائیں گی جیسا کہ سورج اپنی تمام آب و تاب سے طلوع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ڈھلنے لگتا ہے اور پھر افق کی تاریکیوں میں چھپ کر آسمان پر ایک بیہت ناک سرخی لے آتا ہے اور تمام فضا پر تاریکی محیط ہو جاتی ہے اسی میں چودھویں رات کا چاند کرہ ارضی پر نور کی چادر بچھا دیتا ہے یہ سب دلائل قدرت انسانی ہدایت کے لئے کافی ہیں اور عقل و فطرت کا تقاضا ہے کہ ان مشاہدات کے بعد لوگ ایمان لے آئیں لیکن انفس پھر بھی ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے اور خدا کی باتوں پر یقین نہیں کرتے اگر عقلی اور فطری صلاحیتوں سے محروم ہو چکے تھے تو چاہیے تھا کہ وحی الہی کی طرف رجوع کرتے۔ قرآن کریم کو پڑھتے اور اس کے حقائق و دلائل سے فائدہ اٹھاتے اور ان حقائق کے سامنے سرنگوں ہوتے لیکن انفس کی بات ہے کہ اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو باوجود اس کے اعجاز اور واضح دلائل و حقائق کے سجدہ نہیں کرتے سرنگوں تو کیا ہوتے اور قرآن پر ایمان کیا لاتے بلکہ یہ لوگ جو منکر ہو چکے وہ ان حقائق و دلائل کو جھٹلاتے ہیں اور بلا دلیل اپنی ضد و عناد اور سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ان کا رب ان کی یہ تمام باتیں دیکھ رہا ہے اور بلاشبہ اللہ تو وہ بھی جانتا ہے جو وہ اپنے اندر بھرے ہوئے ہیں۔ دلوں میں جو بغض و عناد اور دشمنی بھری ہوئی ہے خداوند عالم اسے بھی خوب جانتا ہے اس طرح ظاہری احوال کے ساتھ جب باطنی کیفیات اور دل میں چھپا ہوا خست بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے تو بس لے ہمارے پیغمبران کو بشارت سنا دیجیے ایک دردناک عذاب کی جو ان پر ہر حال مسلط ہو کر رہے گا اور اس وقت ان کو اپنی وہ آرزوئیں اور تمام خوشیاں خاک میں ملتی ہوئی نظر آجائیں گی جن کی وہ آس لگائے ہوئے تھے۔

بہر کیف یہی انجام ہے ایسے شخص کا جو دلائل فطرت کو نہ سمجھے شواہد قدرت کو نہ مانے اور اپنے رب کی نافرمانی اور سرکشی میں اپنی زندگی گزار دے لیکن جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں تو یقیناً ان کے واسطے ایسا اجر و ثواب ہے جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ ایسی نعمتیں جو کبھی کسی انسان کی آنکھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سیں اور نہ کسی فرد بشر کے تصور میں گذریں۔

احکام الہیہ کی قسمیں

قرآن کریم کی آیات اور احادیث و نصوص شریعت سے یہ امر ثابت ہے کہ احکام الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔

سجدہ کیا کر دیں گا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اس سورت میں سجدہ ہے اور سجالت نماز بھی تلاوت کی گئی اور سجدہ فرمایا گیا۔ یہی مسند حضرت حنفیہ کا ہے۔ مالکیہ مفصلات میں سجدہ تلاوت کے قائل نہیں ہیں۔

حساب یسیر کی تفسیر میں یہ منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ خَرَقَتْ فِقْدَهُ هَلَكَ یعنی جس کسی کے حساب میں مناقشہ ہوا تو بس وہ ہلاک ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا۔ فَسَوَّفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا كَيْسِيرًا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تو سرسری پیشی ہے لیکن جس کسی کے حساب میں جانچ پڑتال اور مناقشہ ہوگا تو عذاب و ہلاکت سے بزرگ نکلے گا۔

اور ایک روایت میں یہ مضمون ہے۔

حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک روز نماز میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ اللَّهُمَّ حَاسِبِي حِسَابًا كَيْسِيرًا۔ نماز سے فارغ ہو کر جب لوٹے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حساب یسیر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ حساب یسیر یہ ہے کہ بندہ کے نامہ اعمال پر بس نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کرتے ہوئے معاف فرمایا جائے۔ اے عائشہ جس کسی کے حساب کا وہاں مناقشہ ہو تو بس وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

اللَّهُمَّ حَاسِبِنَا حِسَابًا كَيْسِيرًا بِفَضْلِكَ وَكَرَمِكَ وَاتِّسَاقِنَا
بِئْتِي أَيْمَانِنَا إِنَّكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا يَا أَرْحَمَ
الرَّحِيمِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ وَيَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ

امین یا رب العلمین امین یا رب العلمین علیہ

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الانشقاق۔



علیہ۔ تفسیر ہذا کا مطالعہ فرمانے والے ہر صاحب سے ناچیز کی درخواست ہے کہ اس گنہگار کے لیے یہ دعا فرمادیں کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے درگزر فرماتے ہوئے حساب یسیر لے۔ اور نامہ اعمال و ائیں ہاتھ میں عطا فرما دے، خداوند عالم میرے ان کرم فرماؤں کو اپنی بے پایاں عنایات اور رحمتوں سے سرفراز فرمائے۔ امین۔

جزاہم اللہ تعالیٰ خیر الجزاء و یرحمہم اللہ عبدًا۔ قال امینا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ


سُورَةُ الْبُرُوجِ

(ربط) اس سورت میں بھی دیگر کی سورتوں کی طرح عقیدہ توحید کی اساس اور اس کے دلائل کا ذکر ہے اور یہ کہ یہی عقیدہ اسلام کی روح ہے۔ اور عقیدہ کی عظمت اس امر کی متقاضی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے۔

سورت کی ابتداء حق تعالیٰ شانہ کی کمال خالقیت اور عظمت سے کی گئی۔ بروج اور ستاروں والے آسمان کی قسم کھا کر انسانوں کے اذہان اس بات کی طرف متوجہ کئے گئے کہ وہ نظام عالم اور اس کے مدارد معیار کو دیکھیں اور پھر سمجھیں کہ جس قدرت کے ہاتھوں میں یہ سارا نظام فلکی قائم اور جاری ہے وہی قدرت جب چاہے اس کو فنا اور درہم برہم کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا ہر صاحب نظر اور عقل انسان کو قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور توحید خداوندی پر ایمان لانا چاہیے۔

اس موضوع کی تحقیق و وضاحت کرتے ہوئے اہل ایمان کی آزمائش اور ہر آزمائش میں ان کا ثابت قدم رہنا بیان کیا گیا۔ ساتھ ہی ایک قدیم تاریخی واقعہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اہل ایمان کی یہ ثابت قدمی ہوتی ہے کہ آگ کی خندقوں آگ سے دہک رہی ہوں اور ان کو صرف اس بناء پر آگ میں جھونکا جا رہا ہو کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پر کیوں ایمان لے آئے۔ تو اس کے باوجود ان کے قدم ایمان سے ذرہ برابر بھی نہ ڈگ گئے۔ اور مضبوطی سے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس مصیبت کو جھیل لینا آسان سمجھا۔

آخر سورت میں مجرمین و منکرین پر تہدید و تنبیہ کے طور پر عذاب خداوندی اور اس کی سخت گرفت کا ذکر فرمایا گیا اور چونکہ یہ جملہ حقائق وحی الہی اور قرآن نے دنیا کے سامنے کھول کر رکھے دیئے تو اخیر میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کا لوح محفوظ میں ہونا بیان فرمایا گیا۔



آیات ۲۲ = ۸۵ = سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ = ۲۴ رُكُوعَهَا ۱

سورۃ بروج مکی ہے اور اس میں بائیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے . جو بڑا مہربان نہایت رحم والا .

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدٍ

قسم ہے آسمان کی جس میں بروج ہیں - اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے - اور حاضر ہونوالے

وَمَشْهُودٍ ۳ قَتِيلِ اصْحَابِ الْاُخْدُوْدِ ۴ النَّارِ ذَاتِ

کی اور جس پر حاضر ہوں . مارے جائیو کھائیاں کھودنے والے! آگ بھری ایندھن

الْوَقُوْدِ ۵ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۶ وَهُمْ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ

سے . جب وہ اس پر بیٹھے . اور جو کچھ وہ کرتے

بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ ۷ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوْا

مسلمانوں سے سامنے دیکھتے . اور ان سے بدلہ نہ لیتے تھے ، مگر اسی کا کہ یقین لائے

بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۸ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

اللہ پر ، جو زبردست ہے خرمیوں سربراہ - جس کا راج ہے آسمانوں میں

وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۹

اور زمین میں . اور اللہ کے سامنے ہے ہر چیز -

تنبیہ و تہدید برسر تابی انسان از طاعت خداوندی تا کید استقامت ایمان

قال اللہ تعالیٰ . وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ الی وَاللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
(رابطہ) گزشتہ سورت میں قیامت کا ذکر تھا اور یہ کہ خداوند عالم جب عالم پر قیامت برپا فرمانے کا

ارادہ کرے گا تو آسمان شق کر دیا جائے گا اور ستارے منتشر ہو جائیں گے۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے غرض نظام عالم سب ہی درہم برہم ہو جائے گا۔ اب اس سورت میں حق تعالیٰ اپنی عظمت و کبریائی اور اس کے دلائل و شواہد کا ذکر کرتے ہوئے انسان کی نافرمانی اور اطاعتِ خداوندی سے سرتابی پر وعید اور تنبیہ فرما رہا ہے اور ساتھ ہی کہ ایمان والوں کو صبر و استقامت اختیار کرنی چاہیے اور راہِ حق میں استقامت کے لئے ہر قربانی اور ہر مشقت کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جانا چاہیے اس لئے میں صبر و استقامت ہی اصل منزلِ فلاح و سعادت تک پہنچانے والی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا۔ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہوتا ہے اور اس دن کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہیں عظمتیں خالق کائنات کی رب السموات والارض کی ان عظمتوں اور شواہد کو دیکھنے والوں کو چاہیے کہ اس رب العالمین پر ایمان لائیں بے شک اس کی عظمت و خالقیت برحق ہے اور اس کی وحدانیت پر ساری کائنات گواہ ہے لہذا اس کی نافرمانی بڑی ہی ہلاکت و بربادی ہے۔ ایسا کرنے والا خواہ کوئی فرد یا جماعت ہو۔ قوم ہو یا خاندان و قبیلہ اسی وجہ سے ہلاک کر دیئے گئے آگ کی خندقیں کھودنے والے ایسی آگ جو دہکنے والی تھی جس کے شعلے خندقوں سے ابل کر بلند ہو رہے تھے جب کہ وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے تاکہ خدا پر ایمان لانے والوں میں سے کسی کو بچ کر نہ جانے دیں اور ہر ایک کو ظلم و تعدی سے مجبور و بے بس بنا کر آگ کی ان خندقوں میں جھونکنے میں مصروف تھے اور وہ جو کچھ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو اپنی آنکھوں سے خوب دیکھ رہے تھے۔ شقاوت و بدبختی کی انتہاء تھی کہ یہ انسان ہونے پر مظالم جن کے تصور سے بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں دل اس ہولناکی سے پارہ پارہ ہو جائے۔ یہ بدبخت بڑے اطمینان سے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے۔

ان کو ایمان والوں سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی کہ اس کے انتقام میں ایسا کرتے۔ سب اس کے کہ وہ ایمان لا چکے تھے اس لئے بڑی عزت والا ہر حال میں قابلِ تعریف ہے۔ کائنات کی ہر چیز جس کی حمد و ثنا کرتی ہے اور ہر زمان و مکان اور ہر حال اس کی خوبی و تعریف کا پیکر ہے جس کی شانِ حاکمیت یہ ہے اسی کے واسطے ہے سلطنتِ آسمانوں اور زمین کی۔ اور اللہ تو ہر چیز پر خوب مطلع ہے اس کی نظروں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ تو اس خدائے برتر و مددہ لا شریک لہ پر ایمان لانے والوں نے ان بدبختوں کو نہ تو ستایا تھا اور نہ کوئی قصور کیا تھا بس ان کا جرم ان نافرمانوں بدبختوں کے نزدیک یہی تھا کہ وہ اس خداوندِ عالم پر ایمان لانے جن کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات اور تمام عالم کا نظام ہے ظاہر ہے کہ یہ ظلم و ستم

عہ بروج سے بعض مفسرین ستارے مراد لیتے ہیں جیسے بَكَرَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کی تفسیر میں گذر چکا ابن عباس قتادہ اور مجاہد سے بھی منقول ہے۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ وہ بارہ بروج ہیں جن کی مسافت آفتاب ایک سال میں طے کرتا ہے اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ آسمان کے وہ حصے ہیں جہاں فرشتوں کا پرہ رہتا ہے۔ ۱۲۔

درود پڑھا کر دیکھو کہ یہ دن یوم مشہود ہے۔ جس میں فرشتوں کی (بکثرت) حاضری ہوتی ہے۔ تو ان مواقع میں لغوی معنی کے لحاظ سے قیامت اور جمعہ پر مشہود کا اطلاق وارد ہوا ہے۔ جمہور مفسرین اسی کو اختیار فرماتے ہیں۔ جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں وضاحت فرمائی گئی کہ یوم موعود قیامت کا دن ہے اور شاہد جمعہ اور مشہود عرفہ ہے عید

(واللہ اعلم بالصواب)

اصحاب الاخذ و یعنی آگ کی خندقیں کھودنے والوں کا قصہ

اکثر محدثین اور ائمہ مفسرین نے اصحاب الاخذ و کا قصہ احادیث مرثوعہ سے بیان کیا ہے۔ امام ترمذیؒ اس سورۃ کی تفسیر میں باسناد عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ ٹھیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (اکثر) نماز عصر کے بعد آہستہ آہستہ کچھ پڑھتے اور ہونٹوں کو حرکت دیتے (جس سے مھوسس ہوتا کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں) تو آپ سے عرض کیا گیا آپ نماز عصر سے فارغ ہو کر کیا پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔ انبیاء (سابقین) میں ایک نبی تھے ان کو اپنی امت پر فخر ہوا اور خوشی ہوئی۔ اور کہا کہ ان کے مقابلہ کی کون تاب لا سکتا ہے۔ اور کون ہے جو ان کے مقابلہ کے لئے کھڑا ہو فوراً ہی اللہ کی وحی آئی اور اس عجب پر بطور گرفت فرمایا گیا۔ اے پیغمبر اپنی قوم کو اختیار دے دو کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں یا تو میں ان سے انتقام لے لوں یا ان پر ان کا دشمن مسلط کر دوں تو انہوں نے انتقام و نفقت کو اختیار کر لیا تھا جس پر ایک ہی دن میں اس امت کے ستر ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کے ساتھ ایک اور قصہ بھی سنایا۔ فرمایا پہلے زمانے میں کوئی کافر بادشاہ تھا اس کے ہاں ایک سار جزیعی جا دگر تھا جو بادشاہ کا بہت مقرب تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب ہوا تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ مجھے ایک نہایت ہونہار اور ہشیار لڑکا دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا یہ علم سکھا دوں اور میرے مرنے کے بعد یہ علم باقی رہے۔ چنانچہ ایک لڑکا تجو بڑ کیا گیا جو روزانہ ساحر کے پاس جا کر اس کا علم سیکھتا تھا۔ راستہ میں ایک عیسائی راہب بھی اس زمانہ کا سماوی مذہب عیسائیت تھا اور اس وقت کے لحاظ سے وہ دین حق پر تھا، لڑکا اس کے پاس بھی آنے لگا اور خفیہ طور پر راہب کے ہاتھ پر ایمان لے آیا اور اس کے فیض محبت سے ولایت و کرامت کے مقام تک پہنچ گیا۔ ایک روز لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور (شیر وغیرہ) نے راستہ روک رکھا ہے۔ جس سے لوگ پریشان ہیں۔ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعائی کہ "اے اللہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک کر دے، یہ کہہ کر پتھر اس جانور پر پھینکا جس سے فوراً ہلاک

عہ تفسیر ابن کثیر۔ قطبی۔ روح المعانی۔

ہو گیا۔ لوگوں میں بات شہور ہو گئی اور شور مچ گیا کہ اس لڑکے کو تو عجیب علم آتا ہے کسی نابینا نے سن لیا تو اس نے آکر درخواست کی میری آنکھیں اچھی کر دو لڑکے نے کہا اچھی کرنے والا میں نہیں اچھی کرنے والا وہ اللہ ہے جو یکتا ہے دعدہ لا شریک لہ اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں دعا کروں گا کہ وہ تجھے بینا کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رفتہ رفتہ یہ خبریں بادشاہ کو پہنچیں اس نے برہم ہو کر حکم دیا کہ لڑکے کو مع راہب اور اندھے کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ کچھ گفتگو کے بعد راہب اور اندھے کو قتل کر ڈالا اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ کسی اونچے پہاڑ پر لہجا کر اس کو وہاں سے گرا دو۔ اور اس طرح یہ ہلاک ہو جائے۔ مگر خدا کی قدرت کہ جو لوگ اس کو لے کر گئے وہی سب ہلاک ہو گئے اور لڑکا صحیح سالم چلا آیا اس پر بادشاہ کو اور زائد غصہ آیا اور حکم دیا کہ اس کو دریا میں غرق کر دو وہاں بھی یہی ہوا کہ جو لوگ لے کر گئے تھے وہ خود ڈوب گئے اور لڑکا صحیح سالم نکل آیا۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا تو اس طرح مجھے کبھی نہ مار سکے گا۔ میں خود ہی تجھے ایک ترکیب بتاتا ہوں اگر تو اختیار کر لے۔ وہ یہ ہے کہ تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر لے اور ان کے سامنے مجھے سولی پر لٹکا کر مجھے ایک تیر مار یہ کہہ کر بسم اللہ رَبِّ هَذَا الْعُلَام۔ اللہ کے نام سے جو رب ہے اس لڑکے کا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور یہ لڑکا اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ یہ عجیب واقعہ دیکھنا ہی تھا ایک شور مچا ہوا اور مجمع میں سے ہر ایک کی زبان سے یہ نعرہ بلند ہوا۔ اَمْثًا بِرَبِّ هَذَا الْعُلَام۔ کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ اب تک تو اٹکاؤ کا کوئی ایمان لا رہا تھا لیکن اس کی اس بات کے بعد اب یہ ساری مخلوق مسلمان ہو گئی بادشاہ نے غصہ میں آکر حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور ان میں آگ بھردی جائے جو دہکتی ہو اور اس میں سے شعلے نکل رہے ہوں۔ اور اعلان کر دو جو شخص اس دین سے نہیں لوٹے گا اس کو ان خندقوں میں جھونکا جائے گا لوگوں کا یہ ایمان اور ایمان پر استقامت کا عالم تھا کہ آگ میں جھونکے جا رہے تھے لیکن اسلام سے نہیں ہٹتے تھے۔ اسی میں ایک عورت لائی گئی جس کے پاس اس کا دودھ پیتا بچہ تھا بظاہر وہ اپنے بچہ کی وجہ سے آگ میں گرنے سے گھبرائی۔ مگر بچہ نے خدا کے حکم سے آواز دی اور بولا اُمَّاہُ اِصْبِرِي فَاِنَّكَ عَلٰی الْحَقِّ كَلِمًا تَوَصَّرُكَ كَيْوَدُكَ تَوَجَّحِيْ بِرَبِّكَ۔ یہ بدبخت بادشاہ اور اس کے وزراء و صحابین خندقوں کے پاس بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اسی کو حق تعالیٰ نے فرمایا۔ وَهَمَّ عَلٰی مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودًا۔

ایک روایت میں ہے کہ اس بادشاہ نے جب نابینا سے پوچھا کہ تیری بینائی کس نے لوٹائی تو اس نے کہا میرے رب نے۔ تو بادشاہ بولا یعنی میں نے۔ نابینا نے کہا نہیں۔ میرے رب نے اور اس رب نے جو تیرا رب ہے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا میرے سوا بھی اور کوئی رب ہے۔ نابینا نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا اور آسمان و زمین کا رب اللہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ یہ بادشاہ دانیال تھا۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بادشاہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل فترت نبوت کے زمانہ میں تھا۔

حافظ عطاء الدین ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں محمد بن اسحاق کی سند سے بیان کیا ہے کہ اہل بخران میں سے ایک شخص نے کسی ضرورت یا تعمیر کے لیے کسی جگہ کو کھودا تو اس میں سے عبداللہ بن تامر یعنی اس شہید کی لاش ملی اور وہ بالکل اسی حالت میں تھی جیسا کہ اسے ابھی دفن کیا گیا اور اس طرح کہ پٹھ پڑی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا جب کہ اس کو تیرا گیا ہو گا اس نے اپنی پٹھ پڑی پر ہاتھ یا انگلی رکھ لی ہو گی۔ اس کا ہاتھ جب اس جگہ سے ہٹا یا گیا تو تازہ خون زخم سے بہنے لگا۔ فوراً ہاتھ اسی جگہ پر رکھ دیا گیا تو خون بند ہو گیا اس کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پر لکھا ہوا تھا "کَرِيْمٌ اَللّٰهُ" یہ زمانہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ ان کی خدمت میں یہ واقعہ لکھ کر بھیجا گیا تو عمر فاروق نے حکم دیا کہ اس لاش کو اسی جگہ دفننا دو اور جو کچھ انگوٹھی وغیرہ پائی گئی وہ بھی اس کے ساتھ رہنے دو۔

حافظ ابن کثیر نے اور بھی بعض تاریخی نقول ذکر کی ہیں اور خندقوں کی تفصیل پر بھی کلام کیا ہے۔ حضرات اہل علم تفسیر ابن کثیر کی مراجعت فرمائیں۔

اِنَّ الَّذِيْنَ

جو دین سے بچلانے (بھگانے)

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمَّا يَتُوبُوا فَلَهُمْ

گئے ایمان والے مردوں کو اور عورتوں کو، پھر تو بہنے کی تو ان کو

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝۱۰ اِنَّ الَّذِيْنَ

عذاب ہے دوزخ کا، اور ان کو عذاب ہے آگ لگی کا۔ جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ

یقین لائے اور کیں بھلائیاں، ان کو باغ ہیں جن کے نیچے

تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۝۱۱ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝۱۱ اِنَّ بَطْشَ

بہتی نہریں۔ یہ ہے بڑی مراد ملنی۔ بے شک تیرے

رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝۱۲ اِنَّهُ هُوَ يَبْدِئُ وَيَعِيْدُ ۝۱۳ وَهُوَ

رب کی پکڑ سخت ہے۔ بیشک وہی کرے پہلی مرتبہ اور دوسری۔ اور وہی ہے

الْغَفُورِ الْوَدُودِ ۱۳ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ۱۵ فَعَالٍ ۱۶

بخشتا مجت کرنا - ملک تخت کا بڑی شان والا - کر ڈالتا

لِمَا يُرِيدُ ۱۷ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۱۸ فِرْعَوْنَ ۱۹

جو چاہے - کچھ پہنچی تجھ کو بات لشکروں کی ؟ فرعون

وَشَمُودَ ۱۸ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۱۹

اور شموذ کی - کوئی نہیں بلکہ سکر جھٹلاتے ہیں

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۲۰ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ

اور اللہ نے ان کے گرد سے گھرا ہے - کوئی نہیں یہ قرآن ہے

مَجِيدٌ ۲۱ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ۲۲

بڑی شان والا - لکھا تختی میں جس کی نگہبانی ہے -

تنبیہ خداوندی بدوام عذاب جہنم بر تعذیب مؤمنین و مؤمنات

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَسَوْفَ يَكُونُونَ الْأُخْرَدِ وَالْمُؤْمِنَاتِ الخ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

(ربط) گزشتہ آیات میں اصحاب الاخذ و اور آگ کی خندقیں کھودنے اور ان میں اہل ایمان کو ڈال کر ستانے والوں کا ذکر تھا۔ اب اس مناسبت سے ان آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ خداوند عالم کا قہر و غضب جو بیان کیا گیا ہے۔ ان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جس دور اور قرن میں مجرمین اس قسم کا رویہ اختیار کریں گے اور ایمان لانے والوں کو ستائیں گے۔ خواہ وہ کفار اہل مکہ ہوں یا آج کے بعد کوئی اور قوم ہو سب کو اپنا انجام سمجھ لینا۔ اور جان لینا چاہیے کہ وہ عذاب خداوندی سے ہرگز نہیں بچ سکتے۔ ارشاد فرمایا۔ بے شک جن لوگوں نے ستایا ہے مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو۔ پھر وہ تائب بھی نہ ہونے بیٹھے کہ اصحاب الاخذ و کے قصہ میں تاریخی نقول سے معلوم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں بہت سے مرد تھے اور بہت سی عورتیں تھیں۔ جنکو خندقوں کے کناروں پر کھڑا کر کے دہشتی آگ کی خندقوں

میں جھونکا جا رہا تھا تو یقیناً ان کے واسطے دوزخ کا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی ان کے لئے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ جس طرح کہ انہوں نے ایمان والوں کو ستایا تھا۔ لہذا جب تاریخ قدیم کے ایسے مجرم خدا کے عذاب اور اس کی سزائے نہیں بچ سکے تو اسی طرح کفار مکہ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کو ستانے اور ظلم و ستم ڈھانے کا انجام دنیا اور آخرت میں ان کو جھگتنا ہی پڑے گا۔

بہر کیف قانون مجازات کا یہی تقاضا ہے مگر اس کے برعکس یہ ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیکی کے کام کریں ان کے واسطے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ بلاشبہ یہی بڑی عظیم الشان کامیاب ہے۔ بہر کیف خداوند عالم کے قہر و جلال اور انعام و کرم کی یہ دونوں شانیں دیکھ لیں تو اب سمجھ لینا چاہیے اے مخاطب بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی سخت ہے۔ جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وہی ہر چیز کو ابتداء میں وجود عطا کرنے والا ہے اس کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے اور وہی اس کو لوٹانے والا بھی ہے۔ لہذا جس رب العالمین نے انسان اور تمام کائنات کو ابتداء میں وجود عطا کیا۔ وہی رب العالمین قیامت میں انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ وہ پروردگار تو اپنی شانِ رحیمی اور کرمی سے بڑا ہی مغفرت کرنے والا ہے اپنے بندوں کو جو اپنی کسی غفلت و کوتاہی سے کوئی غلطی یا معصیت کر لیں جب بھی وہ اپنے گناہوں پر استغفار و توبہ کریں۔ بڑا ہی محبت کرنے والا ہے اپنے فرماں بردار اور مطیع بندوں سے۔

بڑی ہی عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اس کی قدرت و کبریائی کی کوئی حد و نہایت نہیں۔ ایسا قادر مطلق ہے کہ کر ڈالنا ہے ہر وہ کام جو چاہتا ہے۔ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ لَا مُمْعَبَاتٍ لِّعَلْمِهِ۔ (اس کے فیصلہ کو کوئی تلا نہیں سکتا) چنانچہ تاریخ عالم اس بات کی کھلی شہادت ہے۔ اور گزرے ہوئے واقعات عالم۔ خداوند عالم کی شانِ عظمت و کبریائی اور اس کے قادر مطلق ہونے کا پورا پورا ثبوت ہیں۔ تو کیا اے مخاطب تجھے لشکروں کی خبر پہنچی ہے۔ فرعون اور قوم ثمود کی؟ ضرور پہنچی ہوگی۔ کیونکہ یہ واقعات عام طور پر عرب والوں کو بھی خوب معلوم تھے۔ اور ان کی خوب شہرت تھی۔ جو بڑے ہی طاقت ور لشکر تھے۔ مگر خداوند عالم نے اپنے قہر و غضب سے ان کو ہلاک کر ڈالا اور دنیا کی کوئی مادی طاقت خدا کا عذاب نہ ٹلا سکی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب ان باتوں کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اور کفر و نافرمانی سے

عذر۔ ان مصائب اور حوادث کی صورت میں جو ان پر قہر خداوندی کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ ۱۲
عَلَيْهِ: بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کو تلاوت کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے: "یہ سزا ان مجرمین کی اس لئے ذکر فرمائی گئی تاکہ ان کی سزا ان کے عمل کے جنس سے ہو جائے۔ کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے عمل کا بدلہ عمل کے مشابہ ہوتا ہے۔"

حسن بصریؒ سے منقول ہے فرمایا خدا کے اس جوہد و کرم کو دیکھو کہ جنہوں نے اولیاء اور اس کے محبوب بندوں کو قتل کیا۔ ان کو توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ۱۲

تائب ہو جاتے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا بلکہ یہ انکار کرنے والے کا ذرہ برابر اللہ کے پیغمبر کی باتیں جھٹلانے ہی میں لگے ہوئے ہیں اور حال یہ ہے کہ اللہ! ان کا ہر طرف سے احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ کے احاطہ اور گرفت سے بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے نہ اس کے احاطہ علم سے باہر ہو سکتے ہیں نہ اس کے ملک سے نکل سکتے ہیں اور نہ اس کی قدرت اور گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں وہ ہر طرح علماً و ملکاً و قدرۃً ان کو محیط ہے۔

یہ تاریخی حقائق ہیں نہ یہ کہ محض افسانے اور کہانیاں جیسا کہ مشرکین مکہ عناد اور بغض کی وجہ سے کہتے ہیں بلکہ یہ تو بڑی ہی عظمت اور اونچی شان والا قرآن ہے جو وحی الہی ہے۔ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جہاں نہ کسی کی نظر پہنچ سکتی ہے اور نہ کسی معاند کا ہاتھ وہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے۔ اور نہ کسی کو قدرت ہے کہ لوح محفوظ کی کوئی بات تھامے اور نہ ہی اس امر کا امکان ہے کہ وحی الہی کی کسی بات کو غلط کہہ سکے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الطَّارِقِ

اس سورت کا مضمون بھی عقیدہ توحید کی ترجمانی پر مشتمل ہے اور اسلام کی بنیاد یعنی ایمان بالآخرۃ کے ثابت کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے اپنی عظیم تر مخلوقات ارض و سما اور کوکب و نجوم کے تغیرات اور انقلابات کو بطور شہادت اور حجت پیش فرمایا ہے، اور انسانی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ سورت کی ابتداء آسمان اور نجم ثاقب کی قسم سے کی گئی۔ اور انتہاء سورت پر قرآنی حقائق کی حقیقت کا ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر پر تسلی دی گئی کہ کفار و مشرکین اور دشمنان اسلام کی سازشوں کی آپ ہرگز کوئی نگر نہ کریں۔ اگر وہ اسلام اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو کرتے رہیں۔ قدرت خداوندی بھی ایسی تدابیر سے غافل نہیں ہے جو اسلام کی عظمت و کامیابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح و نصرت کا باعث ہیں۔



آیاتہا ۱۷ = سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ = ۳۶ رُكُوعُهَا ۱

سورہ طارق مکی ہے اور اس میں سترہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۲ النَّجْمُ

قسم ہے آسمان کی اور اندھیرا پڑے آنوالے کی، اور تو کیا سمجھا کون ہے اندھیرا پڑے آنوالا۔ وہ تارا

الثَّاقِبُ ۳ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۴ فَلْيَنْظُرِ

چمکتا۔ کوئی جی نہیں جس پر نہیں ایک نگہبان۔ اب دیکھ لے

الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ۵ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۶ يَخْرُجُ

آدمی، کاسے سے بنا۔ بنا ایک اچھلتے پانی سے۔ جو نکلتا ہے

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۷ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۸

پیٹھ اور پھاتی کے بیچ سے۔ بیشک وہ اس کو پھر لاسکتا ہے۔

يَوْمَ تَبْيَأُ السَّرَائِرُ ۹ فَسَأَلَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ ۱۰ وَ

جس دن جانچے جاویں بھید۔ تو کچھ نہ ہو گا اس کو زور، اور نہ کوئی مدد کرے والا۔ قسم

السَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۱۲ إِنَّهُ

ہے آسمان چکر مارنے والے کی۔ اور زمین دراڑ کھانے والی کی۔ یہ

لَقَوْلٍ فَصَلٌ ۱۳ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵

بات دو ٹوک ہے۔ اور نہیں یہ بات ہنسی کی۔ البتہ وہ گئے ہیں ایک داڑ کرنے میں۔

وَإِكِيدُ كَيْدًا ۱۶ فَمِثْلُ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلْهُمْ رُوِيْدًا ۱۷

اور میں لگا ہوں ایک داڑ کرنے میں۔ سو ڈھیل دے منکروں کو، ڈھیل دے ان کو صبر کر۔

دعوت فکر در تخیق انسانی و شہادت ارض و سماء و نجوم بر مسئلہ بعث بعد الموت

قال اللہ تعالیٰ — وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ الی اَمْهَلْهُمْ رُوَيْدًا

اربط گزشتہ سورت ایمان اور ایمان پر استقامت اور راہ خداوندی میں صبر اور قربانی کے مضمون پر مشتمل تھی اور اس امر پر کہ دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو کفر کی طرف نہیں لوٹا سکتی۔ اب اس سورت میں قیامت اور بعث بعد الموت کا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے انسان کو اس امر کی دعوت دی ہے کہ وہ خود اپنی تخلیق و پیدائش میں غور و فکر کرے۔ ارض و سماء اور روشن ستاروں کو دیکھے اور یہ کہ زمین کس طرح شق ہو کر اپنے اندر سے نباتات اور سبزہ باہر نکالتی ہے اور وہ تخم جو زمین میں دب کر ریزہ ریزہ ہو چکا تھا اور سٹی میں مل کر خاک بن گیا تھا کیونکہ وہ پھر زمین کی سطح پر رہنا ہو کر تروتازہ اور شاداب نظر آنے لگا تو ارشاد فرمایا۔

قسم ہے آسمان کی اور رات کے اندھیرے میں نمودار ہونے والے طارق کی اور اسے مخاطب جانتا بھی ہے کیا ہے طارق۔ وہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، بے شک نہیں ہے کوئی جان والا ایسا کہ اس پر ایک نگران نہ ہو۔ بلکہ ہر ایک ذی روح انسان ہو یا دوسری کوئی مخلوق اس پر اللہ کی طرف سے محافظ مقرر ہیں۔ انسان کا کوئی قول عمل ایسا نہیں کہ خدا کے مقرر کردہ نگران اس کو محفوظ نہ کر لیتے ہوں۔ پھر ہر انسان ان ہی محافظوں کے باعث عالم میں کھری ہوئی آفات اور حوادث کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے لَمَّا مَعْقِبَاتِ الْمَوْتِ وَ بَنِي يَدْيِهِ وَ مِثْرًا مَخْفُوظًا وَ هُوَ آتِسًا لَدُنَّا۔ اور جو ہی کوئی تکوینی مصیبت یا حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے۔ یہ بھی حفاظت اس سے ہڈا ہونے ہی کی وجہ سے پیش آتا ہے۔ اور جس پر دردگار نے آسمان پر ستاروں کی حفاظت کے سامان بنائے اس کو کیا مشکل ہے کہ وہ ہر نفس کی حفاظت کا سامان بھی پیدا کر دے۔ ظاہر ہے کہ ایسے رب قدر اور علیم کی کسی لمحہ انسان کو نافرمانی نہ کرنی چاہیے اور یہ بات کبھی بھی فراموش نہ کرنی چاہیے کہ یہ انسان اپنی اس حیات کے بعد پھر دوبارہ قیامت کے روز اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے والا ہے لہذا اس انسان کو دیکھنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ وہ پیدا کیا گیا ہے ایک اُچھلتے ہوئے پانی یعنی قطرہ منی سے جو نکلتا ہے پشت اور سینہ کی ہڈیوں کے درمیان سے جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ مرد کی منی کا نصاب پیچھے سے اور عورت کا سینہ سے یا یہ کہ اعضائے زمیہ سے مادہ منویہ کا تعلق ہے تو اس حیثیت سے سینہ اور پشت کی ہڈیوں سے نکلتا بیان کیا گیا تو جو ذات قادر مطلق اپنی قدرت و حکمت سے انسان کو ایک قطرہ سے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور اس کی قدرت و حکمت سے کس طرح اس کے اعضا کی ساخت ہوتی ہے، روح پڑتی ہے حواس و مدارک تاک، کان، آنکھیں

اور ان میں بینائی پیدا ہوتی ہے۔ غرض جو ذات رب العالمین اپنی منظم قدرت اور حکمت سے ان تمام باتوں پر قادر ہے بے شک وہ ذات قادر مطلق اس انسان کو واپس لوٹانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ حالانکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس قدر عجیب نہیں جتنا کہ ابتداءً اس کو پیدا کرنا عجیب تر ہے اور ایک ایک چیز اور بدن کا ایک ایک حصہ اللہ رب العالمین کی قدرت و حکمت کا واضح ثبوت ہے۔ یہ مرنے کے بعد انسان کو لوٹایا جانا اس دن ہوگا جب کہ جانچے جائیں گے بھیدہ اور ہر قسم کے پوشیدہ راز واپس اس دن اس انسان کے لیٹے نہ کوئی طاقت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جو ایسے سخت مرحلہ پر اس کی کوئی مدد کر سکے۔ جبکہ چھپے ہوئے بھید کھل رہے ہوں اور ہر قول و فعل کا حساب لیا جاتا ہوگا۔ حتیٰ کہ جو باتیں دل میں چھپی ہوئی ہوں گی وہ بھی کھل جائیں گی اور قسم ہے اس آسمان کی جو لوٹنے والا ہے بار بار زمین پر بارشیں برسانے کی صورت میں اور قسم ہے زمین کی جو شق ہونے والی ہے جب کہ اس میں تخم ڈال دیا جائے تو بعد میں اس کے شق ہونے پر سبزہ اور درختوں کا سلسلہ نشوونما شروع ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ بارش کا نظام اور بارشوں کے برسنے کے بعد غلوں اور سبزوں کا اُگنا خداوند عالم کی کمال قدرت اور حکمت کے شواہد و دلائل ہیں جن کا ہر ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ بے شک یہ بات یا قرآن حکیم ایک فیصلہ کن قول ہے۔ تو حق دباطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور ہدایت و ضلالت کی حدوں کو جدا کر کے دکھاتا ہے۔ اور ہر طے شدہ امر کی خبر دیتا ہے۔ اور جس طرح آسمان سے بارشوں کے برسنے پر نجر زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ پھل پھول، کھیتیاں اور درخت اُگتے ہیں اور زمین اس سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح آسمان سے اس وحی الہی کے نزول سے انسانوں کی زندگی سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور انسانوں کے قلوب سے محاسن اعمال و اخلاق اور معارف و حکم کے پھل پھول اُگتے ہیں جس کے بعد حیات انسانی ایک شاداب باغ اور نافع و قیمتی پھلوں سے لدا خزانہ ہو جاتی ہے اور یہ کلام کوئی ہنسلی مذاق کی بات نہیں ہے اصولاً اور عقلاً چاہیے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کی مخالفت و دشمنی سے باز آجائیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتے اور اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو لے ایمان والو تم اس کی وجہ سے ٹھگین و پریشاں نہ ہوؤ۔ پس سن لو بے شک وہ لوگ

علہ۔ ذات الرزق کی یہ تفسیر عبد اللہ بن عباس سے منقول ہے۔ اسی کے مطابق یہ ترجمہ کیا گیا کہ آسمان ذات الرزق اس لیٹے ہے کہ بار بار بارشیں برساتا ہے۔ قتادہ بیان کرتے ہیں آسمان اس وجہ سے ذات الرزق ہے کہ وہ بارشوں کے ذریعہ بار بار رزق پیدا کرتا ہے۔ ابن ذریرہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ذات الرزق ہے کہ اس کے ستارے اور چاند سورج بار بار لوٹتے رہتے ہیں۔

علہ میرے شیخ حضرت عثمانؓ نے فرمایا قسم اور جواب قسم کی ایک مناسبت یہ ہی ہے کہ جس طرح بارش برس کر زمین کو حیات اور تازگی بخشتی ہے اسی طرح قیامت میں بھی کوئی غیبی بارش ایسی برسے گی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے۔ ۱۲ (فوائد عثمانی)

تہا سے دین کے خلاف ایک داؤ لگا رہے اور سارے دگر میں لگے ہوئے ہیں تو میں بھی لگا ہوا ہوں ایک داؤ لگانے میں۔ اب ظاہر ہے کہ خدا کی تدبیر اور اس کے داؤ سے کون دشمن بچ سکتا ہے۔ اور خدا کی تدبیر کے مقابلہ میں کس کا مکر اور سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ رہا یہ امر کہ یہ لوگ خوب غمناک رہے ہیں اسلام کے خلاف اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نہ ان پر ابھی آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو رہا ہے اور نہ زمین ان کو نکل رہی ہے تو بس اے مخاطب ڈھیل دے دے ان کافروں کو میں بھی ان کو کچھ دنوں ڈھیل دے رہا ہوں۔ اور جب ان کو عذاب میں پکڑوں گا تو بچ کر نہ جاسکیں گے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلَىٰ لَهُمُ الْآفَاتُ كَيْدِجِي مَيِّتِينَ ۚ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ ظالم کو ایک وقت تک (اپنی کسی حکمت سے) مہلت دیتا ہے لیکن جب اس کو اپنے قہر و عذاب کی گرفت میں لیتا ہے تو وہ کسی طرح بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ فرمانِ خداوندی ہے۔ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَجْهَ ظَالِمٍ إِنَّا أَخْذُهُ شَدِيدٌ۔ تعجب مد اللہ تفسیر سورۃ الطّٰرِق

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ اَلْاٰلِیِّ

اس سورت میں خاص طور پر ذاتِ خداوندی اور اس کی عظمت نیز صفاتِ خداوندی کا علو اور برتری پر بنیادی طور پر کلام فرمایا ہے اسی کے ساتھ دلائلِ قدرت اور وحدانیت کا بھی بیان ہے۔ وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت کا بھی ذکر ہے۔ نیز یہ کہ وحی الہی اور موعظہ حسنہ سے وہی قلوب منتفع ہوتے ہیں جنہیں استعداد و صلاحیت اور خشیت و تقویٰ کے آثار ہیں۔ اور جو قلوب شقاوت و بدبختی سے مردہ ہو چکے ہیں ان پر نہ دلائل اثر انداز ہوتے ہیں اور نہ وحی اور موعظہ حسنہ ان کو مفید ہوتا ہے۔

علہ عبد الرحمن بن خالد بن ابی جیل العدوانی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ مشرقِ ثقیف میں اپنی عصا یا کمان پر ٹیک لگائے کھڑے ہیں جب کہ آپ ثقیف کے یہاں تشریف لائے تھے تو میں نے سنا آپ سورۃ وَالنَّمَاةِ وَالطَّارِقِ تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو میں نے اس سورت کو اپنے اسلام لانے سے قبل ہی یاد کر لیا تھا مجھے ثقیف کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے تو میں نے ان لوگوں کو یہ سورت سنادی تھی۔ پھر جب اسلام لے آیا دوبارہ اس کو پڑھا۔ ۱۲۔ تفسیر ابن کثیر۔ ۴۲۰۔

ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت بھی سنائی کہ جو کتاب الہی آپ پر اتاری جا رہی ہے گودہ اپنی شان کے لحاظ سے بڑی ہی عظمت والی ہے۔ اور نفسِ وحی تو بے ثقیل ہے، لیکن یہ سب کچھ آسان کر دیا جائے گا۔ اور آپ ہر وہ نسیان سے محفوظ رہیں گے بجز اس کے جو خدا ہی چاہے اور اس کو مسوخ کرنے کا ارادہ فرمائے۔

آخر میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ انسانی فلاح و کامیابی ذکر الہی اور اس کی عبادت و بندگی میں مشروف رہنے ہی میں ہے۔ اور یہ مقصد اعلیٰ اس صورت میں حاصل ہے جب کہ انسان دنیاوی لذتوں کو آخرت پر ترجیح اور فوقیت دے۔

آیات ۱۹ = ۸۷ = سُورَةُ الْأَعْلَىٰ مَكِّيَّةٌ = ۸ = رُكُوعُهَا ۱

سورۃ اعلیٰ مکی ہے اور اس میں انیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ① الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ②

پاکی بول اپنے رب کے نام کی جو سبک ادا ہے۔ جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا۔

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ③ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ④

اور جس نے ٹھہرایا، پھر راہ دی۔ اور جس نے نکالا چلا۔

فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ⑤ سَنَقِرُّكَ فَلَا تَنسَىٰ ⑥

پھر کر ڈالا اس کو کوڑا کالا۔ ہم پڑھاویں گے تجھ کو، پھر تو نہ بھولے گا۔

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ⑦ وَيَسِّرُكَ

مگر جو چاہے اللہ۔ وہ جانتا ہے پکارا اور چھپا۔ اور آج سچ پہچاویں گے

لَيْسَرَىٰ ⑧ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ⑨ سَيَذَكِّرْ مَنْ

ہم سمجھو آسانی تک۔ سو تو سمجھا اگر کام کرے سمجھانا۔ سمجھ جادے گا جس کو

يَحْشَىٰ ۙ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۙ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ

ڈر ہوگا۔ اور مرک رہے گا اس سے بڑا بد بخت۔ وہ جو پیٹھے گا (سینچے گا) بڑی

الْكِبْرَىٰ ۙ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۙ قَدْ أَفْلَحَ

آگ میں۔ پھر نہ مرے گا اس میں نہ جیوے گا۔ بیشک بھلا ہوا

مَنْ تَزَكَّىٰ ۙ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۙ بَلْ تُؤَثِّرُونَ

اس کا جو سنو۔ اور پڑھا نام اپنے رب کا، پھر نماز کی۔ کوئی نہیں اتم آگے رکھنے ہو

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۙ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۙ إِنَّ هَذَا

دنیا کا جینا۔ اور پچھلا گھر بہتر ہے اور رہنے والا۔ یہ کچھ

لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۙ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۙ

لکھا ہے پہلے درتوں میں۔ درتوں ابراہیم کے اور موسیٰ کے۔

فلاح و سعادت ان کے خداوندی و انہماک و رصلوۃ و عبادت

قال الله تعالى: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ الی صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ

ربط، گذشتہ سورت میں انسان کو اس امر کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ خود اپنی تخلیق و پیدائش پر نظر ڈالے اور سوچے کہ پروردگار عالم نے اپنی کیسی عظیم قدرت اور حکمت سے اس کو وجود عطا فرمایا اور جو ذات خداوندی انسان کو ابتداً وجود عطا کرنے پر قادر ہے وہ بلاشبہ اس کے اعادہ پر بھی قادر ہے اور اس طرح مسئلہ آخرت اور بعثت بعد الموت ثابت فرمایا گیا تھا اب اس سورت میں عظمت خداوندی بیان کی جا رہی ہے، اس کی ذات اور صفات عالیہ کا ذکر کر کے اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے لئے فلاح و سعادت کی منزل صرف اسی میں مضمر ہے کہ وہ ذکر خدا یاد الہی اور اپنے رب کی عبادت و بندگی میں مصروف رہے۔ اور اس راہ میں اصل رکاوٹ ڈالنے والی چیز حُب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سے بچے اور اصل مقصد حیاتِ فانی اور عارضی لذتوں پر فوقیت دے۔ تو ارشاد فرمایا۔

پاکی بیان کر لے انسان اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند و بالا ہے جس نے پیدا کیا۔ عدم سے

(حاشیہ: اے سفر ہیں)

گئے ہیں تو دوسروں کو بھی ان سے فیضیاب کیجئے اور اپنے کمالات سے دوسروں کو بھی باکمال بنائیں جس کی شکل یہ ہے کہ پس آپ بار بار سمجھاتے رہئے۔ اگر سمجھانا اور نصیحت کرنا اس کو ناندھ پہنچائے۔ اور کمال شفقت کے باعث بار بار کے افہام و تفہیم اور نصیحت سے ہرگز نہ اکتائیے اگر کوئی آج نصیحت نہیں قبول کر رہا ہے تو بہت اُمید ہے کہ عنقریب نصیحت قبول کرے گا ہر وہ شخص جو ڈرتا ہے کیونکہ خوفِ خدا بہر کیف انسان کو درست راستہ پر لاکر ہی رہتا ہے اور کسی نہ کسی وقت ضرور وہ ہدایت قبول کر لیتا ہے اور اس نصیحت اور پیغام ہدایت سے وہی شخص دُور رہتا ہے اور بچتا ہے جو بہت ہی بد بخت اور بد نصیب ہو۔ جو جہنم کی بڑی آگ میں داخل ہوگا اور وہ جہنم کی بڑی آگ ایک ایسا شدید عذاب ہوگا کہ پھر اس میں نہ تو مسکے ہی گا کہ سر کران مصائب اور کلفتوں کا خاتمہ ہو جائے اور نہ ہی زندہ رہے گا کہ زندگی کی کوئی راحت اور چین اس کو نصیب ہو سکے۔

تو یہ ہے انجام اس بد نصیب بد بخت کا جس کے مقدر میں دوزخ کی آگ لکھی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ کہاں وعظ و نصیحت کی طرف کان لگائے گا۔ اور کہاں اس کو عبرت ہوگی۔ اور خدا کا ڈر ہوگا کہ وہ اپنا انجام سوچے اور کفر و نافرمانی سے باز آئے۔ ہاں جس کے دل میں خوفِ خدا ہوگا اور اپنے انجام کو سوچے گا وہی اپنا رخ سعادت کی منزل کی طرف کرے گا۔ اس لئے بس یہی ضابطہ خدا کی طرف سے طے کر دیا گیا کہ بیشک کامیاب وہی شخص ہو جس نے پاکی حاصل کی ہر قسم کی ظاہری باطنی اور حسی و معنوی گندگی اور سنجاستوں کو دور کر کے اس طرح کہ نہ اس کے عمل میں کوئی گندگی اور برائی باقی رہی نہ اخلاق میں نہ ظاہر میں اور نہ باطن میں قلب و اعتقاد اور عمل کی طہارت ہی فوز و فلاح کا ذریعہ ہے اور لیا اس نے اپنے رب کا نام پھر اس نے نماز پڑھی اور اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کیا۔ تقویٰ و طہارت کا مقام طے کر چکنے کے بعد فضائل اعمال اور اخلاق کی عظمتوں تک اس نے اپنے آپ کو پہنچا لیا۔ یعنی تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رب کا نام لے لیا اور اس کے بعد ارکانِ صلوٰۃ ادا کر کے عبودیت و بندگی کی منزلِ عالی تک رسائی حاصل کر لی۔ فلاح و سعادت کی منزل انابت الی اللہ اور خشیتِ خداوندی پر موقوف ہے اور اس پر مبنی ہے کہ انسان فکرِ آخرت میں

عن: بعض ائمہ مفسرین من تزکی سے صدقہ فطر کی ادائیگی مراد لیتے ہیں اور ذکوٰۃ اسفہ ذبہ سے تکبیرات عیدین۔ حضرات حنفیہ نے اس آیت سے اس امر پر استدلال کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لئے محض ذکرِ اسمِ رب جو مشعرِ تعظیم ہو کافی ہے۔ لفظ اللہ اکبر فرض اور رکن نہیں۔ بے شک احادیث صحیحہ کی رو سے اور اس اصول کے پیش نظر واجب یا سنت ضرور ہے، کیونکہ فضلی کے لفظ میں فعل صلوٰۃ کا ترتب مطلق ذکرِ اسم پر فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ ہر ذکرِ اسمِ رب کافی ہے کہ اس پر فعل صلوٰۃ مرتب ہو اور ادائیگی کا تحقق ہو جائے۔ اگر بالخصوص لفظ اللہ اکبر رکن اور فرض ہوتا تو تعبیر یہ ہوتی وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، فقال الذن اکبر و صلی۔ واللہ اعلم۔

لگ جائے گا۔ اور اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حب دنیا اور نفس کی خواہشات ہیں تو ضرورت ہے کہ اس سے اجتناب اختیار کیا جائے۔ لیکن اے انسانو! تم اپنی عقلست و لاپرواہی کے باعث اس حقیقت کی طرف توجہ نہیں کرتے بلکہ تم تو تریح اور نوبت دینے لگتے ہو۔ دنیا کی زندگی کو اور اسی کو آخرت کے مقابلہ میں پسند کرنے لگتے ہو۔ حالانکہ آخرت ہی بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے کہ وہاں کی نعمتوں کو دوامِ خلود ہے اور وہاں کی ہر ایک نعمت ایسی ہے کہ انسان نے کبھی دیکھی نہ اس کے کان نے کبھی سنا اور نہ اس کے دل میں اس کا تصور گذرا تو چاہیے تو یہ تھا کہ اعتقاد و عمل سے ثابت کیا جانا کہ آخرت کو پسند کیا جا رہا ہے۔

یہ بلند پایہ نصیحت اور فلاح و سعادت کا راز بے شک وہ ہے جو پچھلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم دوسری کے صحیفوں میں تو جو نصیحت پہلی کتابوں اور صحیفوں میں ایسے جلیل القدر انبیاء پر نازل ہوئی ہے اس کی عظمت و برتری میں کیا شبہ ہو سکتا ہے جن کی عظمت کو پہلی نسلیں اور شریعتیں تسلیم کر چکیں اور دنیا نے اس کی افادیت کو دیکھ لیا لہذا اے انسانو! تم کو چاہیے کہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوریوں سے بچو۔ حیاتِ دنیا کو پسند کرنے کے بجائے فکرِ آخرت اور حصولِ سعادت کی طرف رُخ کر لو۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الاعلیٰ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

(ربط) دیگر کئی سورتوں کی طرح اس کا مضمون بھی دو اہم بنیادی موضوعات پر مشتمل ہے، قیامت اور بعثت بعد الموت کے احوال اور اس کی شدت و پریشانیوں اور یہ کہ کافر اور نافرمان انسان کو روز قیامت کیسی مصیبتوں اور شدتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کے بالمقابل اہل ایمان کا اعزاز و اکرام اور ان پر فائز ہونے والی نعمتوں کی کوئی حد و انتہا نہ ہوگی۔

دوسرا موضوع اس سورت کا حق تعالیٰ شانہ کی وحدانیت اور اس کے دلائل و شواہد کا بیان و تحقیق ہے۔ سورت کے اخیر میں انسان کے اعمال اور محاسبہ اعمال کا ذکر کرتے ہوئے یہ یاد دلایا گیا کہ ہر کیف ہر انسان کو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جہاں اس کے اعمال کا اس کو پورا بدلہ ملے گا۔

آیات ۲۶ = ۸۸ = سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ = ۶۸ = رُكُوعُهَا ۱

سورۃ غاشیہ مکی ہے اور اس کی چھتیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

هَلْ اَتٰكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۱ وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۲

کچھ پہنچی تجھ کو بات اس چھپا لینے والی کی؟ کہتے منہ اس دن بڑے (خوفزدہ) ہیں۔

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۳ تَصَلٰی نَارًا حَامِيَةً ۴ تَسْقٰی مِنْ عَيْنٍ

محنت کرتے تھکتے - بیٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، دکھی آگ میں - پانی ملے گا ایک چشمے کھولتے

اٰنِيَةٍ ۵ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۶ لَا يَسْمِنُ

کا - نہیں اس پاس کھانا، مگر جھاڑ کاٹنے - نہ موٹا کرے،

وَلَا يَغْنٰی مِنْ جُوْعٍ ۷ وَجُوْهُ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۸

نہ کام آدے بھوک میں - کہتے منہ اس دن آسودہ ہیں -

لَسَعِيْهَا رَاضِيَةٌ ۹ فِیْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۱۰ لَا تَسْمَعُ فِيْهَا

اپنی کمالی سے راضی - اُدھے باغ میں - نہیں سنتے اس میں

لَاغِيَةً ۱۱ فِیْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۱۲ فِیْهَا سُرٌّ مَّرْفُوعَةٌ ۱۳

بکنا - اس میں ایک چشمہ ہے بہتا - اس میں تخت ہیں اُدھے بچھے -

وَاكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۱۴ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۱۵ وَزَرَابِيُّ

اور آنجورے دھرے - اور قالیچے قطار پڑے - اور نخل کے

مَبْثُوثَةٌ ۱۶ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلٰی الْاٰیٰتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۷

نہالچے کھنڈر ہے - بھلا کیا نہیں نگاہ کرتے اُدنوں پر، کیسے بنائے ہیں؟

وَالِی السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸ وَقَفَّةً ۱۹ وَوَالِی الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹ وَقَفَّةً

اور آسمان پر، کیسا بلند کیا ہے؟ اور پہاڑوں پر، کیسے کھڑے کیے ہیں؟

وَالِی الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰ وَقَفَّةً ۲۱ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۱ ط

اور زمین پر، کیسی صاف بچھائی ہے؟ سو تو سمجھا، تیرا کام یہی ہے سمجھانا۔

لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِصَیْطِرٍ ۲۲ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۲ لَا

تو نہیں اُن پر داروغہ - مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہوا -

فِيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۳ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ۲۳ لَا

تو عذاب کرے گا اس کو اللہ وہ بڑا عذاب - بیشک ہم پاس ہے ان کو پھر آنا۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۴ ع

پھر بیشک ہمارا ذمہ ہے اُن سے حساب لینا۔

تنبیہ انسان غافل از وقوع قیامت و دعوت برار جوع الی اللہ

قال اللہ تعالیٰ: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاقِبَةِ... الی... عَلَيْنَا حِسَابُهُمْ
(ربط) گزشتہ سورت میں انسان کو اس امر پر متوجہ کیا گیا تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی پاک بیان کرے۔ اور مادی زندگی میں منہمک ہو کر اپنے رب کو فراموش نہ کرے۔ ایمان و تقویٰ ہی معیار نجات ہے اور فکر آخرت ہی انسانی سعادت ہے۔ یہی وہ ہدایت و تعلیم ہے جو تخلیق عالم کے بعد سے مسلسل تمام انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی امتوں کو دیتے رہے۔ ان ہی علوم و ہدایات پر صحف ابراہیم و موسیٰ علیہما السلام بھی مشتمل تھے۔ اب اس سورت میں ہر اس غافل انسان کو وقوع قیامت سے چونکا جا رہا ہے جو مادی لذتوں میں پڑ کر آخرت اور بعثت بعد الموت کو بھلا چکا، چنانچہ ارشاد فرمایا۔

کیا (نہیں) پہنچی صحیحہ کو اسے مخاطب خیر ایک چھپا لینے والی چیز کی جو تمام مخلوق پر اس طرح چھا جائے گی۔ جیسے دن کی روشنی پر رات کی تاریکی اور تمام کائنات اور اس کے نظام کو درہم برہم کر ڈالے گی۔ اور وہ قیامت ہے؟ کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ خبر نہ پہنچی ہو کیونکہ یہ بات اللہ کے تمام انبیاء بتائے چلے آئے۔

موجودات کا تغیر و تبدل اور حوادث کے احوال اس حقیقت کی واضح دلیل ہیں اس لیے ضرور لے مخاطب تجھے یہ خبر مل چکی ہے۔

وہ چھپا لینے والی چیز ایسی ہیبت ناک ہے کہ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خائف نظر آتے ہوں گے۔ محنتیں اٹھانے والے تھکے ہوئے کہ جنہوں نے دنیا میں اگر چہ بڑی ہی محنتیں اٹھائیں تکالیف مصائب برداشت کیے لیکن اس وجہ سے کہ حق پر نہ تھے وہ سب برباد ہوئیں اور اب قیامت اور عذاب آخرت کے آثار دیکھتے ہی چہروں پر بد حواسی برسنے لگے گی اور ایسا معلوم ہونے لگے گا کہ بڑی ہی محنت کر کے یہ چہرے تھکے ہارے ناکام و ذلیل ہیں۔ خسر الدنيا والآخرة کا پورا پورا منظر نظر آ رہا ہوگا۔ جو داخل ہو رہے ہوں گے ایک دیکتی ہوئی آگ میں۔ چہروں کے بل جہنم میں جھونکا جا رہا ہوگا جیسے کہ فرمایا گیا۔ يَوْمَ يُنْفَخُ بِنَارِ النَّارِ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُرْقُومًا مِّنْ سَقَرٍ۔ اور ارشاد ہے فَكَيْفَ وَجُوهٌ هَاهُمْ حَرِيٌّ مِنَ النَّارِ جَمِيعًا یا جاتا ہوگا ایک کھولتے ہوئے عینے چھتے کے پانی سے جو بجائے پیاس بجھانے کے سوزش اور اضطراب ہی میں اضافہ کرے گا۔ جن کے واسطے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ بجز ایک خاردار جھاڑ کے۔ جو ظاہر ہے کہ نہ تو کھانے والے کو کوئی فرہی اور تو انائی پہنچا سکے گا اور نہ ہی وہ بھوک رفع کر سکے گا۔ اس لیے کہ خاردار جھاڑ میں کیا غذائیت ہو سکتی ہے کہ جس سے انسانی بدن کو کوئی تقویت پہنچے یا بھوک کی بے چینی اس سے دور ہو جائے۔ یہ تو حال ہوگا اس روز مجرمین دنیا فرماؤں کا لیکن ان کے بالمقابل بہت سے چہرے اس دن تروتازہ اور شاداب جو اپنی محنت پر خوش ہوتے ہوں گے جو انہوں نے اعمال صالحہ اور احکام شریعت کی اطاعت و پابندی میں کی تھی تو وہ اپنی اس جدوجہد کا ثمرہ اور انعام دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے۔ بہشت بریں اور جنت الفردوس کے بلند بالا محلات میں ہوں گے جہاں سکون و اطمینان کا یہ عالم ہوگا کہ بہشت بریں کے ان محلات میں کوئی بیہودہ بات بھی نہ سنتے ہوں گے اس میں بہتے ہوئے چھتے ہوں گے جن سے صاف و شفاف

علہ حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں، یہ وہ بدنصیب کافر ہیں جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضتیں کرتے تھے اور اپنے آپ کو شقت میں ڈالا ہوا تھا لیکن اللہ کے ہاں کچھ قبول نہ ہوا، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ابو عمر ان الجونی نے بتایا کہ ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک عیسائی راہب کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو اس کو آواز دی "یا راہب" اس راہب نے اوپر سے جھانکا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا۔ اور دیکھ کر ردنے لگے عرض کیا گیا اے امیر المؤمنین آپ اس کو دیکھ کر کیوں رو رہے ہیں۔ فرمایا مجھے اس وقت اسے دیکھ کر یہ آیت یاد آگئی وَجُجُوًّا كَيْفَ مَسِيحِي خَا شِعَتًا عَامِلَةً تَأْتِي نَارًا حَامِيَةً تو اس وجہ سے کہ یہ طاری ہو گیا یعنی اس کی بدنصیبی اور محمدی کے تصور سے کہ اب دنیا میں یہ کیا کیا مشقتیں اٹھا رہا ہے اور آخر میں یہ انجام ہوگا۔ ابن کثیر ج ۴ -

علہ۔ دنیا میں بھی ایسے سمندر اور چھتے موجود ہیں۔ جنکو دیکھ کر بخوبی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ۱۲

تازہ پانی ہر وقت بہتا ہوگا۔ اس بہشت میں تخت ہوں گے نہایت اونچے جن کی عظمت و بلندی تھوڑی تھی نہیں کی جاسکتی اور بڑی ہی حسن و خوبی سے آئینہ خورشید سے جمانے ہوں گے جن کی ترتیب اور ہیئت و وضع عجیب و غریب ہو گی، نظروں اُن کو دیکھ کر حیران و مبہوت ہو رہی ہوں گی۔ اور برابر گائے گئے ہوں گے نرم و لطیف ریشمی گڈے جن کی لطافت و نرمی اور زینت انسانی احاطہ خیال سے بالاتر ہے اور بکھیرے ہوئے ہوں گے ہر طرف تالین۔ یہ ہوں گی وہ نعمتیں اور عزتیں جو اس دن اہل ایمان اور اللہ کے فرمانبردار بندوں کو ملیں گی۔ اور ان انعامات پر ان کے چہرے ہشاشمش بفتاش ہوں گے اور اپنی دنیاوی زندگی کی گوششوں اور اکیکے انعامات پر خوش و خرم ہوں گے۔ غرض یہ کہ یہ ہے وہ روز قیامت جس میں مجرمین و منافقوں کی بد حالی اور مصائب کا یہ حال ہوگا کہ چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اور اہل ایمان و انعام کے چہرے فرحت و خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ عالم دنیا اور کل موجودات خداوند عالم کی قدرت و خالقیت کا واضح ثبوت ہیں۔ اور ہر ایک شے اپنی ذات اور نوعیت سے ثابت کر رہی ہے کہ روز قیامت برحق ہے وہ آکر رہے گا۔ ایسے واضح اور روشن دلائل کے ہوتے ہوئے کس کو مجال ہے کہ قیامت اور اللہ کی عظیم قدرت کا انکار کر سکے۔ آسمان و زمین دلائل قدرت سے بھرے پڑے ہیں تو پھر کیوں نہیں نظر کرتے ادنیٰ پر کہ کیسے بنائے گئے۔ جو اپنی ہیئت اور خاصیت کے لحاظ سے عجیب ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت حیرت انگیز ہے۔ پھر جس طرح وہ جنگلوں بیابانوں اور پہاڑوں میں سفر کرتا ہے۔ وہ بھی انسانی عقول اور ان کے پرداز فکر سے بالا ہے۔ محنت و مشقت برداشت کرنا، کانٹوں پر گزرنا، راتوں دنوں مسلسل اپنے مالک کی خدمت میں منہمک رہنا۔ انسان کو جہاں ایک طرف خداوند عالم کے دلائل قدرت و خالقیت مہیا کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کو یہ عبرت کا سبق سکھا رہا ہے کہ ایک حیوان اپنے مالک کی خدمت و اطاعت میں کس طرح لگا ہوا ہے لیکن اس انسان پر افسوس ہے جو ہر طرح کی نعمتوں اور راحتوں کے باوجود اپنے رب پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہوتا، اور نہ وہ اپنے رب کے انعامات کا کوئی شکر ادا کرتا ہے۔ اور کیوں نہیں نظر کرتے یہ لوگ آسمان کی طرف کہ کیسا بلند بنایا گیا ہے اور کس طرح آسمانوں کو ستاروں سے مزین کیا چاند اور سورج کو پیدا کیا اور کیوں نہیں دیکھتے پہاڑوں کو کس طرح کھڑے کر دیئے گئے۔ یہ عظیم پہاڑ اور ان کی فلک بوس چوٹیاں کس طرح زمین پر قائم ہیں۔ جو زمین ایک ناخن سے کھرچی جا سکتی ہے۔ اس پر یہ ہزار ہا میلوں میں پھیلے ہوئے بلند پہاڑ کیونکر قائم ہیں۔ پھر ان میں کیسی کیسی قیمتی چیزیں اور معدنیات اللہ نے پیدا کیں اور ان میں کس طرح چشمے جاری کیئے۔ اور کیوں نہیں دیکھتے زمین کو کہ کیسی صاف سطح کی شکل میں بچھا دی گئی باوجود کروی شکل ہونے کے سطح معلوم ہوتی ہے۔ جس پر چلنا پھرنا اور زندگی کے تمام مسائل کا پھیلا دینا بالکل آسان کر دیا گیا۔ تو یہ سب دلائل قدرت ہیں جن کا ہر ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایسے دلائل و شواہد کے بعد بھی اگر کوئی رب العالمین کی قدرت اور اس کی خالقیت پر ایمان نہ لائے تو اس کی بدنصیبی ہے۔ اس لئے ہمارے پیغمبر آپ ان کی فکر میں زیادہ پریشان و مضطرب نہ رہیں آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا ہدایت قبول کرنا نہ کرنا یہ مخاطب کا کام ہے۔ اس پر کسی کو مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ بس آپ تو

ان کو نصیحت ہی کرتے رہیں۔ آپ ان پر درود غنہ بنا کر مسلط نہیں کیئے گئے ہیں کہ زبردستی ان کو منوا کر ہی جھوڑیں۔ اور نہ ہی یہ کسی کی قدرت میں ہے کہ ان کے دل بدل ڈالے یہ کام تو بس اسی ذات مقرب القلوب کا ہے جس کے دست قدرت میں تمام انسانوں کے قلوب ہیں اس لئے آپ زیادہ فکر میں نہ پڑیں۔

مگر ہاں یہ بات ضروری ہے اور کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا کہ جو شخص بھی روگردانی کرے گا اور کفر کرے گا تو اللہ اس کو بہت ہی بڑا عذاب دے گا جس سے کوئی کافر اور منکر اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے گا۔ کیونکہ ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹ کر آنا ہے اور ہمارے ہی ذمہ ہے ان کا حساب لینا۔ بس یہ ہمارا ہی کام ہے لہذا کوئی کافر اور مجرم ہماری گرفت اور ہمارے حساب اور اعمال کی سزا سے چھٹکارا کسی بھی حالت میں نہیں حاصل کر سکتا۔

دلائل قدرت میں غور و فکر

تقاضائے فطرت اور باعث سعادت ہے

حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات یعنی اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِزْدِجَالِ كَيْفَ خُلِقَتْ، کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان دلائل کا ذکر اور ان کی ترتیب اس واقعہ سے مزید واضح ہو رہی ہے جو احادیث میں نعام بن ثعلبہ کا بیان فرمایا گیا۔ کہ ایک مسافر اپنے اردنٹ پر سفر کر رہا ہے۔ آسمان اس کے سر پر ہے بلند پہاڑ نظروں کے سامنے ہیں۔ زمین اس کے نیچے ہے جس پر وہ خلاق علیکم صنعت و حکمت کے بے شمار احوال کا مشاہدہ کر رہا ہے اور ان پر غور و فکر کے عالم میں جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو فطری انداز استدلال کے رنگ میں بات کرتا ہے چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب ہمیں (غیر ضروری) سوالات کرنے کی ممانعت کر دی گئی تھی (اور اس وجہ سے ہم سرعوب و خوف زدہ ہو کر نفس سوال کرنے کی بھی جرأت نہ کرتے تھے تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ کوئی بدوی شخص سمجھ دار آکر مجلس میں کچھ سوال کرے اور ہم سن کر حضور کے جواب مبارک سے مستفید ہو جائیں) تو ایک دن ایک شخص آیا تو اس نے آپ کو بدویانہ انداز میں خطاب کرتے ہوئے کہا یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ کا ایک قاصد ہمارے پاس آیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ اس نے سچ کہا اس پر وہ بدوی کہنے لگا تو اچھا یہ بتائے کہ آسمان کس نے بنایا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے۔ اس نے کہا یہ زمین کس نے پیدا کی آپ نے فرمایا اللہ نے۔ پھر اس نے کہا تو یہ پہاڑ کس نے قائم کیئے اور ان میں یہ فائدے کی چیزیں کس نے پیدا کیں آپ نے جواب دیا، اللہ نے۔ یہ سن کر وہ بولا تو اس

ذات کی قسم جس نے یہ آسمان بنایا اور جس نے یہ زمین پیدا کی اور جس نے اس پر پہاڑ قائم کیے اور اس میں پیدا کیا جو کچھ بھی پیدا کیا؟ اسی خدا نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جواب دیا بے شک اسی نے مجھ کو رسول بنایا اس کے بعد اُس نے ارکان اسلام کا ذکر کیا جو اس قاصد کے ذریعے معلوم ہوئے تھے۔ آپ نے ان باتوں کی بھی تصدیق کی اور جب وہ شخص اس گفتگو سے فارغ ہوا تو فوراً مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا یہ کہتے ہوئے واللہ لا ارید علی هذا ولا انقص کر خدا کی قسم میں ان چیزوں میں نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ زیادتی۔ آنحضرت نے ارشاد فرمایا ان صدق لیدخلن الجنة یعنی اگر سچا ہے تو ضرور بالفرد یہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حدیث کے مضمون سے ظاہر ہوا کہ ان دلائل قدرت پر اس سمجھ دار اعرابی کی نظر اپنے فطری تقاضے کے باعث تھی اور اسی کی وجہ سے اس کو یہ سب کچھ سعادت نصیب ہوئی جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے پیغام بشارت جاری ہوا۔

تسبحم حمد اللہ تفسیر سورۃ الفاشیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْفَجْرِ

سُورَةُ الْفَجْرِ كَتَبَتِي سُورَتٌ سَبْعٌ جِسْمٌ كِي تَمِيسُ آيَاتُ هِي. دِيكِرُ كَتِي سُورَتُوں كِي طَرَحُ اس سُورَتِ كَا مَضْمُونُ بِيحِي بِالْمَخْصُوصِ ان تَمِينِ اِهْمُ مَوْضُوعَاتُ پَرِشْتَمَلُ هِي.

- ۱- بعض اہم سابقہ کا واقعہ کہ انہوں نے اپنے رسولوں کا انکار کیا اور خدا کی نافرمانی کرتے رہے تو کس طرح عذاب خداوندی نے انکو تباہ کر دیا۔ جیسے قوم عاد و ثمود اور فرعون۔
- ۲- اللہ کا قانون حیات دنیویہ میں بندوں کی آزمائش کا۔ اور یہ کہ انسانی عمل کی خیر و شر کی جانب تقسیم اسی طرح انسانی مزاج اور طبائع کا بھی خیر و شر کی طرف انقسام۔
- ۳- آخرت اور آخرت کے احوال اور روز محشر واقع ہونے والے ہولناک امور کا بیان اور یہ کہ انسانی نفس میں نفس خبیثہ کا انجام اور اس کے بالمقابل سعید انسان کی کامیابی و عزت۔ تو ان تین بنیادی مضامین پر اس سورت کی آیات مشتمل ہیں۔

ایاتہا ۳۰ = ۸۹ = سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ : ۱۰ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ فجر مکی ہے۔ اس میں تیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْفَجْرِ ۱ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳ وَاللَّيْلِ

قسم ہے فجر کی۔ اور دس راتوں کی۔ اور جفت اور طاق کی۔ اور اس رات

اِذَا يَسِرُّ ۴ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ۵ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ

کی جب رات کو چلے۔ ہے ان چیزوں کی قسم پوری عقلمندوں کے واسطے۔ تو نے نہ دیکھا کیسا کیا

فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۶ اِرْمٰ ذَاتِ الْعِمَادِ ۷ الَّتِي لَمْ يَخْلُقْ

تیرے رب نے عاد سے؟ وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے؟ جو بنی نہیں ویسی

مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ۸ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۹

سارے شہروں میں۔ اور ثمود سے جنہوں نے تراشے پتھر وادی میں۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۱۰ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۱۱

اور فرعون سے، وہ بیخوں والا۔ یہ سب جنہوں نے سر اٹھایا ملکوں میں۔

فَاكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۱۲ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ

پھر بہت ڈالی ان میں خرابی۔ پھر پھینکا ان پر تیرے رب نے کوڑا

عَذَابٍ ۱۳ اِنَّ رَبَّكَ لَبِاْلرِّصَادِ ۱۴ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا

عذاب کا۔ تیرا رب لگا ہے گھات میں۔ سو آدمی جو ہے۔ جب

مَا اَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَاکْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ الْاَكْرَمِ ۱۵

جانچے اس کو رب اس کا، پھر اس کو عزت دے، اور اس کو نعمت دے تو کہے میرے رب کے بچے عزت دی۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

اور وہ جس وقت اس کو جانچے ، پھر بھیج کرے اس پر روزی کی ، تو کہے میرے رب نے

أَهَانِنِ ۚ وَلَا يَلْأَلُ بَلًُّا لَّا تَكْرُمُونَ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا تَحْضُونَ

مجھے ذلیل کیا ۔ کوئی نہیں ! پر تم عزت نہیں کرتے یتیم کو ۔ اور تاکید نہیں رکھتے

عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثِ الْأَكْلَامَا ۚ

آپس میں محتاج کے کھالے کی ۔ اور کھاتے ہو مردے کا مال سمیٹ کر سارا ۔

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۚ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا

اور پیار کرتے ہو مال کو جی بھر کر ۔ کوئی نہیں ! جب پست کریں زمین کو کوٹ

دَكًّا ۚ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ وَجِئْتُ

کوٹ کر ۔ اور آوے تیرا رب ، اور فرشتے آویں قطار قطار ۔ اور لائے

يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ

اس دن دوزخ کو ۔ اس دن سوچے آدمی ، اور کہاں ہے اسکو

الذِّكْرَىٰ ۚ يَقُولُ لِيَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۚ فَيَوْمَئِذٍ

سوچنا ؟ کہے کسی طرح میں کچھ آگے بھیجتا اپنے جیتے ۔ پھر اس دن

لَا يُعَذِّبُ عَذَابُهُ أَحَدًا ۚ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدًا ۚ

مار نہ دے اس کی سی کوئی ۔ اور باندھ نہ رکھے اس کا سا کوئی ۔

يَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ۚ أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً

لے گی ! چین ۔ پھرتے ۔ پھر چل اپنے رب کی طرف ، تو اس سے راضی

مَرْضِيَّةً ۚ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ وَأَدْخُلِي جَنَّتِي ۚ

وہ نگہ سے راضی ۔ پھر مل میرے بندوں میں ۔ اور بیٹھ (داخل ہو جا) میری بہشت میں ۔



تاریخ اقوام مکذبین و تقسیم فطرت انسانی بصورت شقاوت و سعادت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. وَالْفَجْرَ ذَلِيلًا عَشِيرًا إِلَى وَأَذْحُلِي جَنَّتِي؟

(ربط گذشتہ سورت میں قیامت کے احوال ذکر کئے گئے تھے اور یہ کہ ان ہولناک واقعات کا انسانی قدرت اور مادی اسباب کے دائرہ میں کوئی مقابلہ اور دفاع نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ اور مدافعت تو درکنہ اس پر بدحواسی اور اضطراب کا یہ عالم ہو گا کہ انسان اپنے آپ کو بے بس دیکھ رہا ہو گا اور مجرمین پر خداوند عالم کا ایسا عذاب مسلط ہو گا کہ اس کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ تو اب اس سورت میں بالخصوص ایسے عبرت ناک تاریخی واقعات بیان فرمائے گئے جنکو بڑھ کر ہر انسان عبرت حاصل کرے اور سمجھ لے کہ خدا کی نافرمانی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کرنے والی بڑی سے بڑی طاقت و رقوم جب اس طرح ہلاک کر دی گئی تو پھر کس کی مجال ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا انکار کرے اس کے عذاب سے بچ سکے۔ ارشاد فرمایا قسم ہے فجر کے وقت کی جس کے طلوع اور صبح صادق کی روشنی کے عالم میں پھیل جانے کے منظر کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ بس اسی طرح اب کفر و ضلالت کی ظلمتوں اور شرک و بدعات کی تاریکیوں کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رسالت دور کرنے کے لئے صبح صادق بن کر طلوع ہو چکا ہے۔ اور قسم ہے دس راتوں کی ماہ ذوالحجہ کی جو اپنی فضیلتوں اور برکتوں میں بہت ہی اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ اور قسم ہے جفت اور طاق کی جو کہ یوم النحر یعنی ذوالحجہ کی دسویں تاریخ ہے اور یوم عرفہ جو نویں تاریخ اور طاق ہے یا وہ نمازیں جو شفع اور جفت ہیں مثلاً صبح، ظہر، عصر اور عشاء اور جو طاق ہے مثلاً مغرب اور صلوة الوتر۔ یا رمضان کے عشرہ اخیرہ کی طاق اور جفت راتیں اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھلے اور گذرتے ہوئے تاریکی کی آخری منزل پر پہنچ جائے حتیٰ کہ صبح کا نور اس پر چھا جائے۔ کیا نہیں ہے ان چیزوں میں قسم پوری پوری عظمت والی عقل والوں کے لئے؟ بلاشبہ ان احوال اور اوقات کی عظمت ہر صاحب عقل جانتا ہے اور کلام الہی میں ان کی قسم کھائی گئی تو یقیناً وہ اس قسم کی عظمت کو سمجھے گا، جیسا کہ ارشاد ہے۔
وَإِنَّكُمْ لَقَوْمٌ تَفَكَّرُونَ عَزِيمٌ اور بلاشبہ غور کرے گا کہ جن احوال اور زمانوں کو بطور قسم ذکر کیا جا رہا ہے جو اب قسم اور مدعی کو ثابت کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اور یہ قسم بہت بڑی قسم ہے بے شک

ع۔ ان الفاظ میں اشارہ ہے اس امر کی طرف یہ مضمون اور اذاکیسر کا مفہوم آیت مبارکہ ذالیل اذ

اذ ذیل والصبیح اذ آسفرت ہی والا مضمون ہے۔

وہ پروردگار بڑی قدرت و عظمت والا ہے وہی یکتا خالق و قادر ہے اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تیار ہو جائے اس کے پیغمبر کی بات پر ایمان لائے اور سمجھ لے کہ نافرمانی کا انجام ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی دعویٰ ہی نہیں بلکہ تاریخی حقائق اور وہ عبرتناک واقعات ہیں جن سے اہل عرب بھی سخیل واقف ہیں تو اسے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیسا کیا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ جو اہم میں تھے بڑے بڑے ستونوں والے۔ ان کی عالیشان عمارتیں اور بلند ستونوں پر قائم محلات اور سیروسیاحت میں اونچے اونچے حصے ان کی عظمت اور طاقت و شوکت کے واضح نشانات تھے۔ کہ ان جیسی کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی تھی۔ دوسرے تمام شہروں میں خود ان کے ڈیل ڈول طویل تدو قاسم اور مضبوط بدن اور مال و دولت کی فراوانی اور عیش و عشرت کا یہ مقام کہ اونچے معلوں اور قلعوں میں زندگی گزار رہے ہوں تاریخی لحاظ سے اسی قوم کو یہ تمام عظمتیں اور نعمتیں حاصل تھیں اور قوم ثمود کے ساتھ جنہوں نے پتھروں اور چٹانوں کو تراشا دادی میں اور وادی القریٰ میں پہاڑوں کو تراش کر محفوظ مضبوط مکانات بنائے تھے اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا کہ اس کی سرکشی و ظلم کی حد نہ تھی اور لوگوں کو دیوار کے ساتھ ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھوک کر نصب کرتا تھا۔ جنہوں نے سرکشی اختیار کر رکھی تھی شہروں میں اور جگہ جگہ ظلم و ستم ڈھاتے پھرتے۔ بس ان کی شان و شوکت اور فوجی طاقت اس بات کے لیے تھی۔ تو انہوں نے خوب دل کھول کر فساد برپا کیا ان شہروں میں۔ معصوموں اور بے گناہوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ خدا کی نافرمانی کے علاوہ یہ ظلم و ستم اور سرکشی کا انجام ظاہر ہے کہ ہلاکت اور بربادی کی صورت میں رونما ہونا تھا۔ چنانچہ خوب برسایا ان پر لے مخاطب تیرے رب نے عذاب کا کورا اور وہ ایسا عذاب تھا کہ ان قوموں کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ بے شک تیرا رب تو نگاہا ہے گھات میں ایسے مجرموں کی، پھر کون مجرم ہے جو اس کی گرفت سے نکل سکے۔ چنانچہ یہ قومیں جن کو ان کے مال و دولت عیش و عشرت اور طاقت و سلطنت نے مغرور و مست بنا دیا تھا۔ اور طغیانی و سرکشی میں انہوں نے وہ ظلم و ستم ڈھائے کہ حد نہ چھوڑی اور ایسا سراٹھایا کہ گویا ان کے سروں پر کوئی حاکم ہی نہیں اور تصور تک نہ رہا کہ ان سے انتقام لینے والا بھی کوئی حاکم موجود ہے تو اس رب العالمین نے جو کائنات کا مالک ہے اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ان کو اپنی گرفت میں ایسا پکڑا کہ پلک بچکنے کی بھی مہلت نہ مل سکی، انا فانا ان

عنه: بعض مورخین کہتے ہیں کہ ارم قوم عاد کے جدا علی کا نام تھا، ان ہی کو عاد اولیٰ بھی کہا گیا۔ ۱۱

عنه: بعض مفسرین ذوالاوتاد اور میخوں والے کی تفسیر میں اس کا لاؤ لشکر بیان کرتے ہیں کہ جب وہ باہر نکلتا اور اس کا لشکر ساتھ ہوتا تو جنگوں اور میدانوں میں ٹھہرنے کے لیے خیمے گاڑے جاتے اور ان خیموں کو نصب کرنے کے لیے میخیں ساتھ ہوتیں تو اس لحاظ سے فرعون کو ذوالاوتاد یعنی میخوں والا کہا گیا۔ ۱۲

طاقتور اور مغرور قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وہ قادر مطلق مجرموں سے غافل اور لاعلم نہیں ہوتا بلکہ وہ گھاس اور تاک میں رہتا ہے کہ کب اور کس وقت ان کو عذاب سے تباہ کرے۔ یہ اس کی حکمت سے موقع کا انتظار اور مہلت ہوتی ہے۔ نہ کہ غفلت اس لئے کسی مجرم کو خدا کے مقابلہ میں برکشی اور بغاوت کا خیال بھی نہ لانا چاہیے۔ یہ تاریخی واقعات اور قدرتِ خداوندی کے شواہد ایسے ہیں کہ ہر ایک کو اس ربِّ کائنات کی قدرت و عظمت پر ایمان لانا چاہیے۔ مگر کیا کہا جائے انسان اپنی طبعی افتاد سے عجیب واقع ہوا ہے منعم کی نعمتوں کا شکر اور اطاعت تو درکنار عموماً ہی ہوتا ہے کہ بس جب بھی کسی انسان کو اس کے رب نے آزما یا پھر اس کو عزت دی اور نعمتوں سے مالا مال کر دیا تو کہنے لگا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی کیونکہ میں اسی لائق تھا اور اس کی طرف سے مجھے عزت اور نعمتوں سے فائدہ نامیری خوبیوں کی وجہ سے تھا اور جب اس انسان کو ایک اور انداز سے آزما یا پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیا تو کہنے لگا میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا اور میری بے قدری کی اور میں اپنی خوبیوں اور اوصاف سے جن چیزوں کا مستحق تھا وہ مجھے نہیں دی گئیں تو یہ انسان بھی اپنی طبعی خصلت اور مزاج کے لحاظ سے عجیب واقع ہوا کہ خدا کے انعامات کو انعاماتِ خداوندی نہیں سمجھتا ہے اور جب شامتِ اعمال سے مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بجائے عبرت اور توجہ کرنے کے شکوہ و ناراضگی کا رخ اختیار کرتا ہے اور بڑی بے حیائی سے کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا۔ اور پھر یہ نہیں سمجھتا کہ راحت و عزت اور نعمت و مصیبت ہو سکتا ہے کہ اس کی عملی زندگی کا نتیجہ ہو۔ اس لئے اسے مخاطبوا تم اس حقیقت سے ہرگز غافل نہ بنو کہ نبوی معاشبہا اذقات انسان کے بُرے اعمال کی شامت ہوتے ہیں چنانچہ تمہاری عملی خرابیوں پر ہم متنبہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خبردار یہ نہیں کہ عزت و راحت سے نکل کر مصیبت و ذلت میں مبتلا ہونا خداوندِ عالم کی طرف سے کسی پر کوئی ظلم اور زیادتی ہے بلکہ تم خود ایسے ہو کہ یتیم کو عزت سے نہیں رکھتے ہو۔ اور نہ تم ایک دوسرے کو سکیں محتاج کو کھلانے کی تاکید و ترغیب کرتے ہو یہ تو کیا ہوتا کہ محتاجوں اور سکیںوں پر خرچ کرتے ان کو کھلاتے اور اس کے برعکس تم تو مردے کا مال سارا ہی سمیٹ کر کھا جاتے ہو، حلال و حرام حق و ناحق کی تمیز نہیں کرتے مرنے والوں کے دارتوں اور یتیم بچوں کا کوئی خیال نہیں کرتے بس جو ہاتھ لگا اس کو کھا گئے۔ اور حرص و لالچ کی کوئی انتہا نہ رہی یہاں تک کہ تم مال کی محبت کرتے ہو جی بھر کر محبت کرنا گویا اس کی محبت تمہارے دل کے رگ و ریشہ میں رچ گئی ہے۔ اس کی پرستش کو اپنا شیوہ بنا لیا۔ مال کی اس قدر محبت کہ اس کو کعبہ مقصود ٹھہرا لے، صرف کافر کا شیوہ ہو سکتا ہے۔ خبردار ایسے دھوکہ اور غلطی میں کسی انسان کو ہرگز مبتلا نہ ہونا چاہیے۔ اس کو سوچنا چاہیے جب زمین کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ اور لے مخاطب آجائے گا تیرا پروردگار اپنی قبوری تجلی کے ساتھ جس طرح بھی اس کی شان کبریائی کے لائق ہو اور فرشتے بھی آجائیں گے قطار در قطار صف بستہ

عہ: یہ الفاظ میرے محترم شیخ رحمہ اللہ کے ہیں جو انہوں نے اپنے فوائد میں تحریر فرمائے۔ ۱۲

حکم خداوندی کے منتظر ہوں گے۔ میدان حشر ہوگا۔ تمام مخلوق اور فرشتے منتظر ہوں گے کہ فرمان الہی کیا صادر ہوتا ہے۔ اور لائی جائے گی جہنم اس دن محشر والوں کے سامنے۔ لاکھوں فرشتے اس کی جگہ سے کھینچ کر محشر والوں کے سامنے لے آئیں گے تو اس دن یہ انسان سوچے گا کہ یہ کیا ہوا اور میں نے کس قدر سخت غلطی اور بھول کی کہ ساری زندگی غفلت اور نافرمانی میں گزار دی۔ مگر کہاں کام آئے گا اس کے واسطے اس وقت سوچنا۔ سوچتے اور دیکھتے کا جو موقع تھا وہ تو اس نے ضائع کر دیا۔ وہ دارالعمل دنیا کی زندگی تھی اب یہ تو دارالجزاء ہے۔ اس لیے جو موقع ہاتھ سے نکل چکا وہ کیونکر اس کو حاصل ہوگا۔ اس وجہ سے بڑی ہی حسرت سے کہتا ہو گا کہ کاش میں پہلے سے کچھ بھیج دیتا اپنی زندگی کے لیے جو مجھے کچھ کام آجاتا۔ اصل زندگی تو یہی ہے دنیا کی زندگی تو اس حیات جاودانی کے لیے سامان ہتیا کرنے کے لیے تھی جو میں نے ضائع کر ڈالی۔ تو بس یہ دن ہوگا ایسے شدید اور ہولناک عذاب کوئی خدا دینے والا ایسا عذاب نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی پکڑ سکتا ہے اس جیسی پکڑ کرنا۔

غرض یہ عذاب و ذلت اور گرفت ہر نازمان انسان کے لیے ہے جو غفلت میں اپنی زندگی گزار دے اور نفس آمارہ اس کو سرکشی اور ظلم و عدوان کے راستہ پر چلاتا رہے لیکن انسانی نفس میں جس نفس کو رضاء خداوندی اور اس کی اطاعت و بندگی پر آمادہ کر لیا گیا اور وہ اسی پر مطمئن ہو گیا۔ استقامت و سچائی سے اتباع حق کو اپنا شیوہ زندگی بنا لیا تو اس کے لیے بارگاہ خداوندی سے ایسا اعزاز و اکرام ہو گا کہ کہا جائے گا اے نفس مطمئنہ تو

علیہ: یہ تفسیر اس حدیث کے پیش نظر کی گئی جو صحیح مسلم میں عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے۔ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس روز جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا۔ اس طرح کہ ستر ہزار زنجیروں میں جکڑی ہوگی اور ہر زنجیر پر ستر ہزار فرشتے اس کو گھسیٹ کر لاتے ہوں گے۔ قیامت اور احوال آخرت کا انسانی افکار و عقول ادراک نہیں کر سکتیں جبکہ ہماری نظروں میں نظر آنے والا کوئی ستارہ زمین کے کرہ سے کروڑ ہا کروڑ بڑا ہے تو ظاہر ہے کہ ملکوت سمادست کی وسعت کیا ہوگی۔ اور عالم جہنم کتنا وسیع عالم ہوگا۔ اور اس کا کھینچ کر لانا یا اس کا چلنا اور حرکت کرنا کیا باعث تعجب ہو سکتا ہے، چاند سورج اور مریخ یہ متحرک سیارے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں تو خداوند عالم کی قدرت اس طرح اگر جہنم کو ایک مقام سے گھسیٹ کر کسی دوسرے مقام (محشر) تک لے آئے تو کیا تعجب ہے۔ آمنا یا اللہ العزیز و علی قدرتم وما اخبینا بہا رسولنا صلی اللہ علیہ وسلم۔

علیہ: "نفس مطمئنہ" نفس کی ریاضت و تربیت کے بعد نفس کی اس حالت کا نام ہے جب کہ نہ وہ آمارہ بالسرائے ہے۔ جو اس کا مزاج اور طبعی خاصہ ہے کہ براہیوں پر آمادہ کرنا۔ اور نہ وہ لوامر رہے جبکہ وہ دوران تربیت اگرچہ مطمئنہ کی شان تو حاصل نہیں کرتا لیکن اس قدر صلاحیت حاصل کر لیتا ہے کہ بُرائی کے ارتکاب کے بعد لامت کرنے لگتا ہے۔ تو یہ درجہ آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کے بعد نفس رضائے الہی کا تابع اور طالب بن جاتا ہے۔ اب یہ نفس اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جو حدیث انس بن مالک میں ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یكون هواہ تبعالما جنت بہ اور ثلث من کن فیہ وجد جہنم حلاوة الایمان۔ -۱۲-

اللہ کی بندگی پر راضی و مطمئن ہوا اور اسی کی رضا و خوشنودی کو اپنے لیے سکون و چین بنا لیا۔ لوٹ جاتا تو اپنے رب کی طرف اس طرح کہ تو بھی خوش ہونے والا ہوا اپنے رب کے انعامات پر اور تجھے پسند کیا جا رہا ہو۔ تیرے رب کی بادگاہ میں تیرے ایمان و عمل صالح کو قبول کرتے ہوئے۔ صرف اسی حد تک اعزاز و اکرام نہ ہو گا کہ یہ بشارت اپنے مرنے کے وقت سن لے۔ جب کہ فرشتے اس کی روح قبض کر کے اُسے اس کے پروردگار کے پاس لیجا رہے ہوں جہاں سے وہ آیا تھا اور اب اپنی اصلی جگہ لوٹ کر جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو خطاب لفظ ارجعی یعنی لوٹ جاتو سے کیا جاتا ہو گا اور اللہ کا جو مقرب بندہ اس مقام پر پہنچا ہو گا وہ بلاشبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق ہو گا مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ۔ بلکہ مزید برآں یہ بھی کہا جائے گا۔ پھر داخل ہو جا میرے مخصوص و مقرب بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ جو فردوس اعلیٰ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کے واسطے اس کو مہیا کر رکھا ہے۔ جن پر اس کا خصوصی انعام ہو گا۔ اور اس طرح یہ نفس مطمئنہ رکھنے والا مؤمن بندہ مطیع و منیب الی اللہ ہونے کی وجہ سے اسی گروہ میں شامل کر دیا جائے گا۔ جن کے بارہ میں ارشاد فرمایا گیا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔

قدیم اقوام میں ارم ذات العباد کی تاریخی عظمت اور قہر خداوندی ہلاکت

اس آیت مبارکہ «أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلْنَا بِعَادٍ إِذْ أَمَّا ذَاتِ الْعِمَادِ» میں حق تعالیٰ نے قوم عاد کے اس تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو اس عظیم اور طاقتور قوم کی ہلاکت و بربادی کا اہل عرب میں مشہور معروف تھا۔ ارم ذات العباد لفظ عاد سے بدل اور اس کا بیان ہے جو بطور تفسیر و توضیح لفظ عاد کے بعد ذکر فرمایا گیا۔ یہ قوم عاد ارم کے عنوان سے معروف تھی۔ اور ان کو عاد اولیٰ بھی کہا جاتا تھا جیسا کہ «أَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ» آیت میں گذر چکا۔ ارم ان کے جد اعلیٰ کا نام تھا۔ اور عرب میں قوموں اور قبیلوں کا انتساب جد اعلیٰ کی طرف مروج تھا یہ لوگ نہایت بلند قد و قامت والے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی کی بھی حد نہ تھی۔ بلند ترین مکانات، قلعے اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کو ذات العباد یعنی ستونوں والے کے لقب سے تاریخ میں تعبیر کیا گیا۔ یہ قوم اپنے بزرگوں کے مقابر بھی نہایت بلند اور عالیشان بنایا کرتے تھے ان کی عمارت اور شان شوکت کے آثار خود اپنی مثال تھے دیگر علاقوں اور شہروں میں اس کی مثال مشکل تھی تو اس بناء پر ان کی حالت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم نے «كَمْ يُخَلِّقُ مِثْلَهَا» فِي السَّيِّدَاتِ بھی فرمایا۔ تاریخی نقول سے معلوم ہوتا ہے کہ عاد و فرعون پر مشتمل قوم گذری ہے۔ ایک عاد اولیٰ جس کو عاد قدیم بھی کہا جاتا تھا۔ ان ہی کو اس مقام پر عاد ارم سے تعبیر کیا گیا۔ ان کے جد امجد

ارم کے نام سے یہاں ایک خوبصورت شہر بھی تھا۔ جو عرب علاقوں میں بے مثال شہر ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ملک یمن کے علاقہ حضرموت میں احقاف کی سرزمین میں رہا کرتے تھے۔ خداوند عالم کی دی ہوئی نعمتوں کے اس قدر مست ہوئے کہ حد نہ رہی، عیش و عشرت نفس پرستی اور بدکاری اپنا شیوہ بنا لیا۔ ان ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے، جیسا کہ ارشاد ہے: **وَاللّٰی عَادِ اٰخَا هُمْ هٰؤُلَاءِ لٰكِن جَب نَافِرٰنِیْ اَدْرَسَ كَشِیْ حَدَّیْ بَرَسَطَ هُوَ اَدْر ہَلَاك كَر دِیْثَیْ كَیْ بَعْضِ مَوْرَثِیْنِ** کا خیال ہے کہ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد یمن میں آباد ہوئی۔ ان کا عروج اس حد تک پہنچا کہ عرب، مصر اور بعض دیگر ممالک پر بھی ان کی سلطنت ہو گئی۔ بدکاری اور عیاشی میں اس قدر بڑھ گئے کہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ انبیاء علیہم السلام نے ہر چند نصیحت کی لیکن راہ راست پر نہ آسکے حتیٰ کہ ہود علیہ السلام کا زمانہ آیا اور ان کی نافرمانی میں جب حد سے زیادہ غلو ہوا تو ہوا کے طوفان نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ اور عذاب الہی کا کوڑا جب ان پر برسنا شروع ہوا تو سلطنتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تمام عیش و عشرت کے سامان بھی ہاتھ سے نکل گئے اور مصائب اور پریشانیوں میں اس قدر گھرے کہ شاید ہی دنیا میں کوئی قوم ایسے افلاس و مصائب کا شکار بنی ہو۔ عاد قدیم اور عاد ادنیٰ سے بچے کچھ لوگوں کو عاد اخیرہ سے بھی تعبیر کیا گیا۔

حضرت علامہ حقانی دہلوی قدس سرہ نے اپنی تفسیر میں ان تاریخی نقول کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ”مروی ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے۔ شدید اور شداد۔ یہ ملکوں پر قابض ہوئے۔ شدید مر گیا تو شداد اس کا قائم مقام ہوا۔ اس کے اقبال نے ترقی کی بڑے بڑے شہر اس کے سطح ہو گئے۔ اس نے (انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات میں) جنت کا ذکر سنا تو کہا کہ میں بھی ایک ایسی بہشت تیار کرتا ہوں تب اس نے یمن کے بعض جنگلوں میں شہر ارم کی بنیاد ڈالی اور تین سو برس میں ایک شہر آباد ہوا جس میں سونے چاندی کے محل اور زبرجد کے ستون تھے۔ اقسام و انواع کے اس میں باغ نکائے، نہریں جاری کیں۔ یہ شہر جب بن کر تیار ہو گیا تو تمام ارکان سلطنت کو جمع کر کے اپنے ساتھ لے کر اس شہر کی طرف چلا (تاکہ اپنی تیار کی ہوئی بہشت کی سیر کر لے)۔ شداد جب اپنی بہشت کے قریب پہنچا تو آسمان سے ایک ہیبت ناک کڑک آئی۔ اور اس نے سب کو ہلاک کر ڈالا۔ تاریخی نقول سے ظاہر ہوتا ہے (قوم عاد جس جہانی لحاظ سے تو مند ذلیل و ذلیل میں مضبوط طویل القامت ہوتے تھے اسی طرح ان کی عمریں بھی طویل ہوتی تھیں اس بنا پر تاریخی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ) شداد نو سو برس تک زندہ رہا۔

یہ بھی ایک روایت بعض کتب تواریخ میں مذکور ہے (واللہ اعلم بالصواب) کہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنا گمشدہ اونٹ تلاش کرتے ہوئے اس جنگل میں جا نکلے جہاں شہر ارم تھا۔ وہاں ان کو کچھ جواہرات ملے جو اٹھا لائے۔ امیر معاد یہ رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو بلا کر وہاں کے احوال دریافت کیے اور سن کر یہی خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ وہی کھنڈرات ہوں جہاں ارم شہر آباد تھا۔

(کذا فی تفسیر فتح المنان المعروف بہ تفسیر حقانی - ۸۷)

عذابِ خداوندی کی عظمت و شدت

فَيَوْمَ مَثَلًا لِّعَذَابِ عَذَابَةِ أَحَدًا كُن تفسیر بالعموم مفسرین کے یہاں یہی کی جاتی ہے کہ ان الفاظ میں حق تعالیٰ شانہ نے روزِ قیامت مجرمین پر جو عذاب ہوگا اس کی شدت بیان کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے روز جو عذاب اللہ رب العزت مجرمین کو دے گا دنیا اور دنیا کی طاقت اس طرح کا شدید عذاب دے ہی نہیں سکتی یہ مفہوم تو واضح اور ظاہر ہے جس طرح آخرت کی نعمتوں اور راحتوں کے برابر دنیا کی کوئی راحت و نعمت نہیں ہو سکتی تو بالکل اسی طرح آخرت کی کلفت اور عذاب کی ہم پلہ کوئی اور کلفت و عذاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خدا کی قید اور گرفت بھی ہے لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ ان کلمات کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ اس روز نہ مارے گا اس کا سامان کرنا کوئی نہ آگ نہ دوزخ کے منوکل نہ سانپ پتھو جو دوزخ میں ہوں گے کیوں کہ ان کا مارنا اور دکھ دینا عذابِ جسمانی ہے اور حق تعالیٰ کا عذاب اس طور سے ہوگا کہ مجرم کی روح کو حسرت اور ندامت میں گرفتار کر دے گا۔ جو عذابِ روحانی ہے اور ظاہر ہے کہ عذابِ جسمانی کو عذابِ روحانی سے کیا نسبت۔ نیز نہ ہاندھے گا اس جیسا باندھنا کوئی۔ کیونکہ دوزخ کے پیادے ہر چند کہ دوزخوں کے گلے میں طوق ڈال دیں گے اور زنجیروں سے جکڑیں گے اور دوزخ کے دروازے بند کر کے اوپر سے سرپوش رکھ دیں گے (جیسے کسی غار کو چٹان سے ڈھانک دیا جائے اور بند کر دیا جائے) لیکن اس کی عقل اور خیال کو تو بند نہ کر سکیں گے اور عقل اور خیال کی عادت ہے کہ بہت سی باتوں کی طرف التفات کرتا ہے اور ان میں سے بعض باتیں بعض دوسری باتوں کے واسطے حجاب ہو جاتی ہیں اسی لیے عین قید کی تنگی میں انسان کو عقلی اور خیالی وسعت حاصل ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس (مجرم) شخص کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خیال اور عقل کو ادھر ادھر جانے سے روک دے اور بالکل ہمتن دکھ اور درد ہی کی طرف متوجہ رکھے تو ایسی قید بدنی قید سے ہزاروں درجہ سخت ہے (اور ظاہر ہے کہ ایسی قید کسی کی طاقت میں نہیں) اس قید و گرفت میں بس اللہ ہی پکڑ کر سکتا ہے، اسی لیے محزون سودائیوں کو سین باغوں اور جنگلوں کی سیر کے وقت بھی (باوجود باغوں کی شادابی اور جنگلوں کی وسعت کے) تنگی اور گھبراہٹ، وہم و خیال کے سبب پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ باغ اور وسیع جنگل اس کی نظر میں تنگ معلوم ہوتے ہیں۔

(از فائدہ شیخ الاسلام حضرت عثمانی)

شاہ ولی اللہ قدس سرہ ازالۃ الخفاء میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ کی مجلس میں آیۃ **فَائِدَةٌ** یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ تَلَاوت کی۔ اور اس مجلس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے آپ نے فرمایا: لے ابو بکر! بوقت وفات فرشتہ تم سے ہی کہے گا اور یَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ کہہ کر تمہیں مخاطب کرے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْبَلَدِ

سُورَةُ الْبَلَدِ بھی کی سُورَت ہے، جس کی بیس آیات ہیں۔ اس سُورَت کا موضوع بھی دیگر کئی سُورَتوں کی طرح عقیدہ توحیدِ ایمان قیامت اور جزاء و سزا کو ثابت کرنا ہے۔ اور یہ کہ انسانوں کے دو گروہ ابرار و اختیار اور فساق و فجار مختلف گروہ ہیں۔ ہر ایک کے اعمال اور اطوار جدا جدا ہیں۔ ایک گروہ سعادت و نجات کی طرف جا رہا ہے تو دوسرا گروہ ہلاکت اور عذاب میں اپنے آپ کو مبتلا کر رہا ہے۔

سُورَةُ الْبَلَدِ کی ابتداء سرزمین حرم کی قسم سے کی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد وطن ہے وہیں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ اور ہدایت اور روحانیت کے فیوض و برکات عالم میں اسی سرزمین سے پھیلتے۔

ہدایت و سعادت کی دعوت تو انسانی زندگی کے لیے بہت ہی بڑی نعمت تھی۔ اس دعوت کو تو چاہیے تھا کہ اہل مکہ قبول کرتے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے دوڑتے۔ مگر ان کی بد نصیبی کہ اس سے انحراف کیا اور رسول خدا کے ساتھ دشمنی اور مقابلہ شروع کر دیا۔ اسی مناسبت سے دنیا میں انسانوں کی دو گروہوں کی تقسیم فرمادی گئی۔ اور قانون جزاء و سزا کا بھی ذکر فرمایا گیا۔

آيَاتُهَا ۲۰ = ۹۰ = سُورَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ = ۳۵ = رُكُوعُهَا ۱

سورة بلد مکہ ہے۔ اس کی بیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

لَا اَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۱ وَاَنْتَ حَلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۲

قسم کھاتا ہوں اس شہر کی - اور تجھ کو قید نہ رہے گی اس شہر میں -

وَالِدٍ وَمَا وَلَدًا ۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۴

اور جننے کی اور جو جنا - ہم نے آدمی بنایا محنت میں -

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۙ يَقُولُ أَهْلَكَ

کیا خیال رکھتا ہے کہ اس پر بس نہ چلے گا کسی کا ؟ کہتا ہے میں نے کہا

مَا أَلْبَدًا ۙ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۙ لَمْ يَجْعَلْ

مال ڈھیروں - کیا خیال رکھتا ہے کہ دیکھا نہیں اس کو کسی نے - بھلا ہم نے نہیں دیا

لَهُ عَيْنِينَ ۙ وَلسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۙ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ ۙ

اس کو دو آنکھیں - اور زبان اور دو ہونٹ - اور سو بھاریں اس کو دو گھاٹیاں -

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۙ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۙ فَكُّ

سو نہ ہمک سا گھاٹی پر - اور تو کیا بوجھا کیا ہے وہ گھاٹی - چھڑانا

رَقَبَةٍ ۙ أَوْ اطْعَمْنِي يَوْمَ ذِي مَسْغَبَةٍ ۙ يَتِيمًا ذَا

گردن کا - یا کھلانا بھوک کے دن میں - بن باپ کے لڑکے کو

مَقْرَبَةٍ ۙ أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۙ ثُمَّ كَانَ مِنَ

جوانے دار ہے - یا محتاج کو جو خاک میں رُلتا ہے - پھر ہوا ایمان

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۙ

والوں میں ، جو تقید کرتے ہیں سہارنے کا ، اور تقید کرتے ہیں رحم کھانے کا -

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۙ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا

وہ لوگ ہیں بڑے نصیب والے - اور جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ،

هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۙ عَلَيْهِمُ نَارٌ

وہ ہیں کم بختی والے - انہی کو آگ میں

مَوْصَدًا ۙ

موندنا ہے -



کی سورت میں رونما ہوا۔ آپ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور سردارانِ عرب سرنگوں معافی مانگتے ہوئے آپ کے سامنے حاضر ہو رہے تھے اور آپ ان کو معاف فرماتے جاتے۔ اور قسم ہے باپ کی اور اولاد کی یعنی آدم اور اولاد آدم کی۔ بے شک ہم نے انسان کو بڑی ہی مشقت میں پیدا کیا۔ ابتداء آفرینش سے لے کر عمر بھر کے تمام مرحلے مشقتوں اور طرح طرح کے افکار و آلام اور مصائب میں گزرتے ہیں جن سے ہر ذی عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہر انسان عاجز محض ہے اور اس کی زندگی میں پیش آنے والے تغیرات کسی قادر مطلق کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور اس کا فطری تقاضا یہی تھا کہ ہر انسان اپنے خالق کا مطیع و فرمانبردار ہوتا۔ لیکن نافرمان۔ و کافر انسان بڑی غلطی میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اس چیز سے غافل ہے کہ قیامت اور جزاء و سزا کا مرحلہ آنے والا ہے۔ تو کیا انسان بیخیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہ ہوگی پیکر کی

علیہ، سورۃ الفجر کے مضمون سے اس سورت کے مضمون کی مناسبت ایک وجہ سے اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ سورۃ فجر میں عاد و ثمود اور قوم فرعون کی ہلاکت کا ذکر تھا کہ ان پر کس طرح خدا کا عذاب نازل ہوا اب اس مناسبت سے سورۃ البلد میں مکہ مکرمہ کی عظمت بیان کر کے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ جگہ ہے جس کو اللہ نے امن کی جگہ بنایا حتیٰ کہ وَمَنْ ذَخَرَ لِحَافٍ كَانَتْ اٰمِنًا اور اس سرزمین کے گھاس اور درختوں کے کاٹنے سے بھی منع کر دیا گیا۔ جانوروں کا شکار بھی حرام کر دیا گیا۔ اس طرح یہ شہران مقامات کے قطعاً برعکس ہو لوہ علاقے محل عذاب تھے، یہ امن و عافیت کی جگہ۔ حتیٰ کہ اس جگہ کے بحرین بھی عذاب خداوندی سے محفوظ کر دینے گئے جیسا کہ فرمایا گیا۔ وَمَا كَانِ الْاَنْهَارُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ رَحِيْمٌ وَمَا كَانِ الْاَنْهَارُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ - ۱۷۔

علیہ: حسن بصریؒ۔ وَاَنْتَ جَلِيْلٌ كَبِيْرًا الْبَلَدِ الْاَبْدِيّٰ كِي تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لینے حرم مکہ کی حلت کا مفہوم بیان فرمایا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے یہ وہی بات ہے جو حدیث بخاری اور مسلم میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ مِّنْ اَللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَاَلْاَرْضِ فَهُوَ حَرَامٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَا يَعْصُدُ شَجْرًا وَلَا يَخْتَلِقِيْ خَلَاةً وَاِنَّمَا اَحَلَّتْ لِيْ سَاعَةٌ مِّنْ نِّهَارٍ وَّقَدْ عَادَتْ حَرَمَتُهَا الْيَوْمَ كَحَرَمَتِهَا بِالْاَسْمِ۔ اَلَا فَلَیْبَلِّغُ الشّٰهَدُ الْغَائِبِ۔ ان آیات میں مکہ مکرمہ کی قسم کھانے کے بعد وَوَالْبَلَدِ الْمَكِّيِّ وَمَا وَكَلَدُ كِي قسم کھائی گئی۔ جبہر مفسرین کی رائے یہی ہے کہ والد سے مراد آدم علیہ السلام اور ولد سے ان کی ذریت اور اولاد آدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی قسم کھانا گویا آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کی خلافت فی الارض کی طرف اشارہ ہے اور ذریت کی قسم کھانا گویا تاریخ عالم میں انسانوں کے احوال ان کے ادوار، ان کے اعمال و اخلاق اور ان کے عادات و طبائع سے عظیم تر تفاوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہر مخاطب کی نظروں کے سامنے عالم انسانیت کا پورا نقشہ پیش کر دیا اور ظاہر (یعنی حاشیہ) لکھے صلی ہیں

اور اس کے کفر و نافرمانی پر سزا دینے کی۔ یہ انسان کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا ہے۔ جیسا کہ کفار مکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف اپنی دولت خرچ کر کے کہتے۔ یا یہ انسان وہ ہے جو اپنے واسطے محفوظ مکانات کی تعمیر میں خادموں، محافظوں کی تنخواہوں، اپنے خاندان کے لوگوں پر انعام و اکرام اور امداد و اعانت میں۔ راحت و آرام اور عیش و عشرت کے اسباب مہیا کرنے میں خرچ کر کے کہتا ہے میں نے تو بہت سا مال خرچ کر ڈالا ہے تو اب ان محفوظ قلعوں اور اس قدر محافظین اور جانثار فوج اور خادموں کے ہوتے ہوئے مجھے کون پکڑ سکتا ہے۔ اور کون ہے جو مجھے کسی مصیبت و پریشانی میں ڈال سکے۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں مجھے اس کی سزا کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن اس انسان کا یہ سوچنا اور کہنا قطعاً غلط ہے۔ اس کے یہ تمام وسائل و اسباب ہرگز ہرگز خداوند عالم کی گرفت اور اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتے وہ قادر مطلق ہے۔ ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اس کے احاطہ قدرت اور علم سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کیا اس کا یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اس کے اعمال کسی قادر مطلق کی نظروں کے سامنے نہیں۔ یہ بات بھی قطعاً عقل و شعور کے خلاف ہے۔ جھلا کیا نہیں دی ہیں اس کو دو آنکھیں جن سے یہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اور کیا ہم نے

عہ۔ حافظ ابن کثیر دمشقی نے اپنی تفسیر میں بروایت ابن عساکر کجول کی سند سے یہ روایت ذکر کی ہے۔ بیان کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے ابن آدم میں نے تجھ پر بڑے عظیم انعامات کیے ہیں جن کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ میرے عظیم تر انعامات میں سے یہ ہے کہ میں نے تجھے دو آنکھیں دی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور ان پر ایک پردہ بھی بنا دیا ہے تو ان آنکھوں سے تو وہ چیز دیکھ جو تیرے واسطے حلال ہے۔ اور اگر تیری نگاہیں ایسی چیز پر پڑیں جو میں نے تجھ پر حرام کر دی تو اپنی آنکھیں اس پردہ سے بند کر لے اور تجھے زبان دی اور اس کے واسطے ایک غلاف بنا دیا (یعنی دہن اور ہونٹ) اس لئے اس زبان سے تو وہ چیز بول جو تیرے لئے حلال ہے۔ اور جس چیز کا زبان سے بولنا میں نے حرام کر دیا ہے تو اس بے زبان کو اپنے دہن میں بند رکھ۔ الیٰ آخر الحدیث۔

وَهَكَذَا يَتَأَمَّرُ الْمُجْتَنِبِينَ۔ لغت میں التجنّب طریقت اور راستہ کو کہا جاتا ہے۔ تو نجدین سے دونوں قسم کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(باقی حاشیہ) ہے کہ عظمت خداوندی کا اس طرح ثبوت کلیتہً بہم پہنچ رہا ہے۔

مجاہد اور حسن بصری سے منقول ہے۔ فرمایا رب العزت نے تَاَمَّرُوا بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر کی قسم کھائی جو ام القریٰ اور ام المسکن یعنی انہی جگہوں میں سب سے پہلی جگہ (جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّ اَذَلَّ بَيْتٍ قُضِعَ لِلْقَائِمِ لَكَذِبِي بِنِكَاحٍ مِّمَارًا) تو اس کے بعد مناسب ہوا کہ دنیا کے ساکنین میں اس ساکن کی قسم کھائی جائے جو سب سے اول اور اصل ہے زمین پر تمام آباد ہونے والوں کی۔ وہ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ۲۰

نہیں بنائی ہے اس کی زبان اور دہونٹ جن سے یہ دن رات بولتا ہے اور خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں کھا رہا ہے۔ اور کیا ہم نے اس کو نہیں دکھلا دیں دو گھائیاں اور رہنمائی نہیں کر دی ہے دونوں راستوں خیر اور شر کی کہ عقلی اور فکری صلاحیت سے سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز خیر ہے اور کیا چیز شر ہے۔ کون سی بات مفید ہے اور کون سی مضر۔ تو جو رب العالمین اس انسان کو دو آنکھیں عطا کرنے والا ہے اور ہر جاندار مخلوق کو اس نے مینائی دی ہے کیا وہ اس انسان اور اس کے اعمال و اطوار کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ جو رب ساری دنیا کو مینائی دے وہ خود کچھ نہ دیکھ سکے گا یہ تصور کوئی پاگل انسان ہی اپنے دماغ میں قائم کر سکتا ہے۔ پھر جس خالق حکیم نے اپنی قدرت و حکمت سے انسان میں ان تمام چیزوں اس کی زبان اس کے دہونٹ اور تمام پیکر جسمانی مع اپنی تمام خوبیوں اور کمیتوں کے پھر اس نے عقل و شعور کی صلاحیت دی ہو جس کے ذریعہ انسان ہر خیر و شر کو پہچان سکتا ہے اس کی قدرت اور عظمت سے کوئی انکار کر سکتا ہے اور اس قادر مطلق کی گرفت سے یہ نافرمان انسان کیسے بچ سکتا ہے۔

یا یہ کہنے کہ جب اس پروردگار نے اس انسان کو آنکھیں دی ہیں تو اس کو چاہیے تھا آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے مناظر اور دلائل دیکھتا زبان دی تھی، اس کو چاہیے تھا کہ کسی سے پوچھ لینا کسی کی زبان میں اگر گویائی نہ ہو تو گوئیوں کی طرح ہونٹوں کے اشارہ سے بات کرنا اور معلوم کرنا ممکن تھا۔ پھر عقل دی اور خیر و شر باریت و ضلالت اور حق و باطل دلائل کی روشنی میں واضح کر دینے تو شر سے بچ کر خیر کا راستہ اختیار کر سکتا تھا۔ گمراہی اور باطل سے بیزار ہو کر حق قبول کر سکتا تھا۔ مگر افسوس صد افسوس! ان تمام باتوں کے باوجود یہ انسان جب گمراہی پر ڈٹا رہا۔ نافرمانی اور فسق و فجور کے سوا زندگی میں کوئی کام ہی نہ کیا تو اب اس کے بعد کیسے عذاب خداوندی اور اس کی گرفت سے بچے گا۔ خدا کی عطا کی ہوئی ان نعمتوں اور صلاحیتوں سے تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کا مطیع و فرمانبردار ہوتا۔ جب یہ سب اس کو بارگاہ رب العزت سے

(باقی حاشیہ) راستے ہوئے خیر و شر کے۔ چنانچہ سفیان ثوری نے عبد اللہ بن مسعود سے یہی تفسیر کی ہے۔ حضرت علی بن عباسؓ بجا ہدیکر منہ اور عطا فرمائی سے بھی اسی طرح منقول ہے۔ ابن دہب نے بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اے لوگو! یہ دو راستے ہیں (جن کو قرآن انجدریں فرما رہا ہے) کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر عقل و شعور سے سمجھ کر یا کسی سے پوچھ کر خیر و فلاح ہی کا راستہ اختیار کرے۔ بعض مفسرین نے عورت کے دونوں پستان بھی مراد لیے ہیں **ذَلِكُمْ رُفَاتٌ**۔ رقبہ گردن کو کہتے ہیں اور ناک کسی گرفت کو کھولنا اس میں ہر پریشان اور گرفتار مصیبت شخص کو مہائب کی گرفت سے چھڑانا بھی داخل ہے جیسے کسی غلام کو غلامی سے رہا کرنے میں حصہ لینا یا پورے طور پر اعتاق رقبہ یعنی اس کو آزاد کر دینا جب کہ وہ اسی کا ملوک ہے۔ ۱۲۔ روح المعانی ج ۲۰

ملا تھا تو پھر کیوں نہ گھس پڑا گھائی میں ایسی گھائی جس میں ہر طرح کی آنت و مصیبت سے حفاظت ہو سعادت و فلاح کے خزانہ وہاں حاصل ہو سکیں۔ اور لے مخاطب تجھے خبر بھی ہے؟ کیا ہے وہ عقبہ (گھائی)؟ وہ چھڑانا ہے کسی گردن کا غلامی یا کسی بھی بوجھ اور گرفت سے یا کھانا کھلانا ہے کسی بھوک کے دن قیم کو بالخصوص جو قربت والا ہو۔ یا کسی محتاج کو جو اپنے فقر و احتیاج کے باعث خاک میں رُل رہا ہو اور فقر و تنگدستی سے خاک میں لوٹ رہا ہو۔ درحقیقت خرچ کے تو یہ مواقع ہیں، اس انسان کو چاہیے تھا کہ ایسے مواقع میں اپنے مال کو خرچ کرتا۔ اور ان ہی مصارف میں مال کا خرچ کرنا سعادت اور فوز و فلاح کی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اور یہی وہ گھائی ہے جس میں گھس کر انسان امن و عافیت اور دنیا کے ہر فتنہ اور مصیبت سے محفوظ حاصل کر سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور ہے محض ان مکارم اخلاق اور تیروں سکینوں کی اعانت و ہمدردی سے فلاح کامیابی نہیں حاصل ہوتی بلکہ چاہیے کہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے۔ اور ایمان و تقویٰ اور عمل صالح خداوند قدوس کی عبادت و بندگی کے ساتھ ان لوگوں میں ہو جائے جو ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں صبر کی اور ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں مہربانی کرنے کی کہ حقوق و فرائض ادا کرنے میں صبر و تحمل اور استقامت اختیار کریں۔ اور اس راہ میں اپنے نفس کی شہوات اور لذتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں اور خدا کی مخلوق پر مہربانی اور رحم کو نبی تاکید کریں کیونکہ یہی راستہ یعنی ایمان و عمل صالح اور مخلوق خدا پر رحم کرنا آسمان زمین کے قیام و بقا کا ذریعہ ہے جیسا کہ حضور اکرم کا ارشاد ہے۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السمآء کر زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا (تو بس یہی لوگ ہیں بڑے نصیب والے اور کامیاب ان ہی کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیئے جائیں گے۔

اور اس کے برعکس جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہوئے اور نافرمانی اختیار کر لی وہ بدسختی والے ہیں۔ ان کی نحوست شامت اعمال ان کو ہرگز نہ بخش سکے گی۔ یہاں تک کہ ان کا ہر ایک آگ ہوگی جو ڈھانک دی گئی ہوگی جیسے کسی ڈھکنے یا سر پوشش سے کوئی چیز بند کر دی جائے اور اس کو ڈھانک دیا جائے کہ اس کے بعد نہ اس کی بھاپ اور شعلے نکل کر کم ہو سکیں گے اور نہ ہی باہر کی کوئی ہوا یا کوئی چیز اس میں داخل ہو کر اس کی شدت اور لپٹ کو کم کر سکے گی یا یہ کہ جہنم کے تمام دروازے بند کیئے ہوئے ہوں گے تو یہ کیونکر ممکن ہوگا کوئی مجرم اس میں سے نکل بھاگنے کا تصور کر سکے۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا بَلَا آدْصَافٍ سَمِيف

ہونے کے علاوہ پھر یہ بھی ہو کہ وہ ایمان والوں میں سے ہو۔ تو لفظ ثُمَّ اس مقام

فائدہ

ع۔ اتمام نعت میں کہا جاتا ہے کسی تنگ جگہ میں داخل ہو جانے کو یا تیزی سے کسی مکان میں گھس جانے کو تو اس لفظ کو قرآن کریم نے استعمال کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ درحقیقت یہ وادی اور گھائی امن و عافیت کی ایسی ہے جس میں انسان کو چاہیے کہ تیزی اور تورت کے ساتھ داخل ہو جائے۔ اگر خارج میں موافق پیش آرہے ہوں تو توری تورت سے ان کی مزاحمت کرنا ہوا اندر داخل ہو جائے۔

پر محض تراخی ذکر کی گئی ہے جو اہل عربیہ کے یہاں متعدد امور کے ذکر کے بعد کوئی مضمون بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تراخی و توہمی کے لیے ہے یعنی اگر کسی شخص کا فرنے اپنی کفر کی زندگی میں اعمال خیر کیے، صدقہ صلہ رحمی وغیرہ کیے تو یہ اعمال قابل قبول اور باعثِ رضاء خداوند اس وقت ہیں جب کہ وہ شخص ایمان لے آئے۔ چنانچہ حکیم بن حزام نے اسلام لانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں کچھ نیک کام کیے ہیں؟ دیکھا وہ قبول ہوں گے یا نہیں آپ نے فرمایا اَشْكَلْتَ اَسْكَفْتَ مِنْ خَيْرٍ كَمْ اَنْ تَمَامَ نِيكِيُوں كَسَا تَحْتَا اِيْمَانِ لَانِي هُوَ جَوْتَمِ پَهْلِي كَر چكِي۔ ہم نے ترجمہ آیت کے درمیان اضافہ کیے ہوئے الفاظ میں ان دونوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔

تواصي بالصبر الفردي والاجتماعي فلاح كما باعث ہے

صبر کا مفہوم ضبط نفس ہے جو استقامت اور پابندی کے معنی کو متضمن ہے۔ نفس کو خواہشات سے روکنا اور فرائض دین کا پابند بنانا اتباع شریعت کی روح ہے۔ لفظ صبر کا استعمال علی اور عن دونوں صلوٰں کے ساتھ کلام میں پایا گیا۔ ائمہ لغت فرماتے ہیں علی کے ساتھ استعمال کسی چیز پر بھنگلی استقامت اور دوام ہوتا ہے یا کسی چیز کو برداشت کرنا مثلاً کہا جائے صبر علی الضلّٰل یعنی میں نے فرائض کی پابندی کی اور کہا جاتا ہے فلان صبر علی البلاء یا کہ فلان شخص نے مصائب و تکالیف کا تحمل کیا۔ اور عن کے ساتھ استعمال مثلاً صبرت عن المعاصی قمرادیہ ہوگی کہ گناہوں اور نافرمانیوں سے صبر اور پرہیز کیا۔ صبرت عن الشهوات یعنی نفس کی خواہشات سے بچا۔ تو اس طرح صبر کی عملی شکل انسانی حیات میں فرائض کی پابندی مشقتوں کی برداشت، گناہوں سے پرہیز اور خواہشات نفس سے اجتناب کی صورت میں رونما ہوگی اور ظاہر ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں ان چار پہلوؤں کی تکمیل کمال سعادت اور ایمانی زندگی کا پیکر ہے اور ان بنیادی عملی پہلوؤں کی دوسروں کو تلقین اصلاح معاشرہ کی ضامن اور اجتماعی زندگی کو اعلیٰ دار فاع بنانے والی ہے۔ صبر و علم اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑا ہی محمود وصف ہے۔ ارشاد ہے وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ خَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ کہیں اس کو انبیاء علیہم السلام کا خلق عظیم ہونے کی حیثیت سے بیان کیا۔ فَا صْبِرْ كَمَا صَبَرَ اَوْلَآءُ الْعَزْمِ مِنَ الْمُرْسَلِ۔ اِنَّمَا يُوَفَّى الْقٰسِيُوْنَ وَاَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔

اصل یہ ہے کہ انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی دو چیزیں ہیں ایک قوت غضبیہ، دوسری قوت شہویہ۔ ان دونوں کا غلبہ انسان کو فسق و فجور اور شہوات و بد آئنی سفک دماغ و علم و عدوان جیسی باتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وصف صبر سے ان دونوں قوتوں کو انسان اپنے ضبط اور قابو میں لائے گا۔ اور اس طرح جو بھی بے راہ روی اور سرکش انسان کی عملی زندگی میں واقع ہوتی ہے اس سے محفوظ رہے گا۔ ساتھ ہی

شدائد و تکالیف کا تحمل اور احکام دین پر استقامت و پابندی اس کو مزید کمال و عظمت کی منزل تک پہنچانے والی ہوگی۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ البلد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

سورۃ شمس بھی مکی سورت ہے۔ جس کی پندرہ آیات ہیں۔ اس سورت میں خاص طور پر ایک تو انسان کے نفس اور اس کے تقاضوں کے متعلق خالق کائنات نے ایسی بنیادی باتیں ذکر فرمائی ہیں جن کو محسوس کر کے انسان نفس کے فریب اور اس کی شہوتوں میں مبتلا ہونے سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ دوسری اہم بات ذکر فرمائی گئی کہ انسان کی فطرت میں خیر و شر اور ہدایت و ضلالت کی استعداد رکھی گئی ہے لیکن یہ اس کے شعور اور فکر پر موقوف ہے کہ خیر و شر میں سے کس پہلو کو اختیار کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اختیار کرنا خود انسان کا اپنا عمل اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس بناء پر اصولاً یہ درست ہے کہ خیر اور نیکی پر اجر و ثواب اور نجات کا مستحق ہو اور شر پر عذاب و ہلاکت کا۔ دنیا کے انسان ان ہی دو راستوں پر چل رہے ہیں۔ اس ذیل میں قوم ثمود اور ناقہ صالح کا بھی ذکر فرمادیا گیا۔ تاکہ ایک قدیم تاریخ کے حوالہ سے یہ ظاہر ہو جائے کہ خدا کے پیغمبر کے مقابلہ میں سرکشی اور نافرمانی سے کس طرح یہ عظیم قوم تباہ ہوئی اور آج کی تاریخ میں اس کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔

آیَاتُهَا ۱۵ = ۹۱ = سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ = ۲۶ = ذِكْرُهَا ۱

سورۃ شمس مکی ہے۔ اس میں پندرہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارِ إِذَا

قسم ہے سورج کی اور اسکی دھوپ چڑھنے کی۔ اور چاند کی جب آوے اسکے پیچھے۔ اور دن کی جب

جَلَّهَا ۲) وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۳) وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَاهَا ۴)

اسکو روشن کرے۔ اور رات کی، جب اسکو ڈھانک لے۔ اور آسمان کی، اور جیسا اسکو بنایا۔

وَالْأَرْضُ وَمَا طَحَّهَا ۵) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۶) فَأَلْهَمَهَا ۷)

اور زمین کی اور جیسا اسکو پھیلایا۔ اور جی کی جیسا اسکو ٹھیک بنایا۔ پھر سمجھ دی اسکو

فَجَوَّرَهَا وَتَقْوَاهَا ۸) قَدْ أَفْلَحَ ۹) مَنْ زَكَّاهَا ۱۰) وَقَدْ

دھڑائی کی اور بیچ پلنے کی۔ مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوارا۔ اور نامراد ہوا۔

خَابَ ۱۱) مَنْ دَسَّاهَا ۱۲) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۱۳) إِذْ

جس نے اس کو خاک میں ملایا۔ جھٹلایا ثمود نے اپنی شرارت سے۔ جب

أَتْبَعَتْ أَشْقَاهَا ۱۴) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ

اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدبخت۔ پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے خبردار ہو اللہ کی اونٹنی ہے

وَسُقِيهَا ۱۵) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۱۶) فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ ۱۷)

اور اُسکے پینے کی باری سے۔ پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر وہ کاٹ ڈالی پھر اُلٹ مارا

رَبُّهُمْ يَذِئِبُهُمْ فَسَوَّاهَا ۱۸) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۹)

ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ سے، پھر برابر کر دیا۔ اور وہ نہیں ڈرتا کہ پیچھا کریں گے۔

استعداد خیر و شر در طبیعت بشریہ

ومعيار السعادت و شقاوت

قال الله تعالى . وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا الى وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

(رابطہ) گذشتہ سورت میں انسانی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا تھا کہ وَهَدَىٰ بَيْنَاةَ النَّجْدَيْنِ یعنی انسان کو دونوں راستے دکھادیئے خیر کا راستہ بھی اور شر کا بھی ہدایت بھی اور گمراہی بھی اور اس پر تاکید و

ترغیب دی گئی کہ انسان سعادت اور سعادت کی گھاٹی اختیار کر لے۔ تو اس مناسبت سے اب اس سورۃ و الشمس میں یہ ظاہر فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی فطرت اور جبلت کے لحاظ سے خیر و شر ہر دو کی استعداد رکھتا ہے اور یہ کہ نفس انسانی جب ان دونوں صلاحیتوں کا حامل ہے تو ضروری ہے کہ اس نفس کو عملی راستہ پر ڈالنے اور چلانے والی طاقت یعنی اس کی عقل خیر کی طرف اس کا رخ کرے اس کو ہر گندگی سے پاک رکھتے ہوئے فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچ جائے۔ اس کے برعکس اگر انسان کی قوت عاقلہ گمراہی کی ظلمتوں سے اندھی ہو کر شر کا راستہ اختیار کر لے تو اس کا انجام نفس انسانی کو گندگی میں آلودہ کرنا۔ اور سعادت و فلاح سے محروم کر کے نفس کو ہلاکت و تباہی میں ڈالنا ہوگا تو فَانَّهُمْ لَمَّا دُجُوا رَحْمًا وَ تَقْوَاهَا ۚ وَ قَدْ اَخْلَجَ مَدْرًا زَكٰتَهَا وَ قَدْ خَابَ مَنۢ دَشِيۡهَا ۙ اِسی مقصد کو واضح اور ثابت کرنے کے لئے اس مقام پر حق تعالیٰ نے سات چیزوں کی قسم کھائی جو بالترتیب لفظ وَ الشَّمْسِ ۙ وَ النَّفْسِ وَ مَا سَوَّاهَا ۙ تک مذکور ہیں۔ اور یہ اس طرح ثابت کیا گیا کہ حیات دنیوی کیسے جس طرح سورج اور مکی روشنی ضروری ہے دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اپنے تناوب و تعاقب سے نظام حیات کے سلسلہ کو قائم رکھے ہوتے ہے۔ بالکل اسی طرح خیر کی راہنمائی اور انسان کی روحانی زندگی کا نظام آفتابِ نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے جس طرح سورج کی روشنی میں انسان سیاہ و سپید اور نافع و مضر کا امتیاز کر سکتا ہے اسی طرح تعلیمات نبویہ سے انسان خیر و شر اور سعادت و شقاوت کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔

آفتاب و مہتاب دن اور رات آسمان اور زمین سے انسانی حیات کا رشتہ کسی حال میں بھی منقطع نہیں ہو سکتا مثلاً دنیا کی کھیتی میں آفتاب کی گرمی سے زمین میں ڈالے ہوئے بیج شق ہو کر باہر نکلتے ہیں۔ پھر یہی حرارت اس کی نشوونما کرتی ہے۔ آفتاب ہی کی گردش سے موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ چاند کی برودت سے پھل اور پھولوں میں تازگی آتی ہے اور ان میں رُس پڑتا ہے۔ دریا میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے رات کی تاریکی میں وہ آفتاب کا خلیفہ اور بدل ہے دن میں کاروبار کا سلسلہ رہتا ہے تو رات میں آرام کیا جاتا ہے اور دن بھر کی تکان کے بعد سکون حاصل ہوتا ہے۔ رات کی شبنم دن کی گرمی اور تپش کا تدارک کرتی ہے۔ آسمان سے بارشیں کا برسا زمین سے اُگنے والے جملہ نباتات کھیتیوں پھل اور پھولوں کی حیات کا سامان ہوتا ہے۔ اور یہ تمام تعارفات اس زمین پر ہو رہے ہیں جس میں تخم ڈالا گیا تھا تو بالکل اسی طرح نفس انسانی جس میں زمین کی طرح اللہ رب العزت نے اپنی معرفت و ربوبیت اور اطاعت و فرمانبرداری کا تخم عہد الست سے ودیعت رکھ دیا ہے۔ آفتابِ نبوت کی روشنی اور حرارت و گرمی سے نشوونما پاتا ہے اور اس پر پھل پھول لگتے ہیں۔ آفتابِ نبوت کے ساتھ وحی الہی کی بارشیں اس کی حیات و لہاء کا سامان اور جس طرح آفتابِ نہار کے پیچھے قدرت خداوندی نے اس کے نائب چاند کو لگا دیا ہے تو اسی طرح آفتابِ نبوت کے بعد اس آفتاب کا جانشین اور خلیفہ حضرات خلفاء راشدین کا وجود وَ الْقَمَرِ اِذَا تَلَمَّهٖا کے مانند بنا دیا گیا۔ خلفاء راشدین کے وجود ماہتاب نے آفتابِ نبوت کی جانشینی اور اپنے نور سے روحانی زندگی

کے لئے راستہ بتایا اور یہ بات قطعاً وہی ہوگئی عَیَسَکُمْ حَسُنَتْی و سُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِیْنَ الْمُهَدِّدِیْنَ۔ اور چاند کا نور سورج ہی کا پر تو ہوتا ہے جیسا کہ مشہور ہے نور القمر مستفاد من نور الشمس تو خلفاء راشدین کا نور علم اور ضیاء ہدایت درحقیقت آفتابِ نبوت ہی کا پر تو تھا۔

ایمانی زندگی بھی مادی زندگی کی طرح میل و نہار میں منقسم ہے۔ تو ان کے اوقات میں مختلف عبادات اور اعمالِ حسنہ کے ذریعے آخرت کا سرمایہ کمایا جاسکتا ہے اس کے بالمقابل رات کا وقت بالعموم راحت اور غفلت کا ہوتا ہے اسی لئے تہجد اور قیام میں کی خاص فضیلت بیان فرمائی گئی۔

زمین اپنی فراخی اور استعداد کے لحاظ سے بارانِ رحمت کا اثر قبول کرتی ہے کسی حصّہ میں شادابی اور پھل پھول لگتے ہیں تو کسی حصّہ میں سوائے سوائے جھاڑیوں اور کانٹوں کے کچھ نہیں آگتا۔ جیسے کہ ارشادِ الْبَلَدُ الْغَطِیْبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِاِذْنِ رَبِّهِ وَالتَّوْبٰی حَبِیْبٌ لَا یَخْرُجُ رِیْلًا نَبِیْدًا۔ بالکل اسی طرح انسانی طبائع اپنی اصلاحیتوں اور وسعتوں کے لحاظ سے آسمانی ہدایت اور علومِ نبویہ سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی کم کوئی زیادہ اور کسی کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچتا قطعاً محروم ہی رہتا ہے۔

باران کہ در لطافت طبعش خلاف نیست

در باغ لاله روید و در شور بوم و خس

رہی یہ بات کہ آسمانِ نبوت سے برسنے والی بارشوں سے کسی کا محروم رہنا۔ اور اس کے اثرات کو قبول نہ کرتے ہوئے کشر اور گمراہی کے راستہ ہی پر چلتے رہنا اس میں نہ بارش کی کوتاہی اور نہ مصدرِ فیض اور بر رحمت نے کوئی سخل کیا بلکہ خود ان ہدایات نے انسانی فطرت میں بھی خیر و شر کی معرفت رکھ دی تھی تو اس کے بعد تعلیمی ہدایات نے بھی اس فطری جوہر کی بار بار تجدید و تقویت بھی کی مادی اور نفسانی لذتوں میں انہماک نہ اس جوہر کو اگر مردہ یا خوابیدہ کر دیا تھا۔ تو ان تعلیمات نے ترغیب و ترہیب اور انذار و تمہید سے اس کو زندہ اور بیدار کرنا چاہا پھر بھی اگر محروم رہا تو ظاہر ہے کہ اس پر کرم اور آسمانِ نبوت سے برسنے والی بارش کا کوئی سخل اور قصور نہیں۔

پھر آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی کا ذکر کر کے انسانوں کے مراتب میں بلندی و پستی اور تفاوتِ درجات کو نمایاں کر دیا۔

غرض آیاتِ مبارکہ میں ان چھ چیزوں اور آخری ساتویں چیزِ نفس کی قسم کھا کر انسانی افکار کو ان امور کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اسی وجہ سے وَفَضْلِی قِیَامًا سَوَیًّا فَالْمَعْمَیْرُ رَیًّا وَتَقْوٰیہَا کے بعد متصلاً اصل مقصد بیان مرتب فرمایا یعنی قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّیْهَا وَتَذَخَّرَ مِنْ دَشِیْمَہَا آفتاب کی روشنی کی طرح نورِ نبوت کا تمام عالم میں پھیلنے کا ذکر کتابِ یسعیاہ علیہ السلام ساٹھویں باب میں اس طرح بطور بشارت مذکور ہے۔

اُٹھ روکشن ہو کہ تیری روشنی آئی۔ اور خداوند کے جلال نے تجھ پر طلوع کیا ہے کہ دیکھ تارکھی زمین پر چھا گئی اور تیرگی قوموں پر۔ لیکن خداوند تجھ پر طلوع کرے گا۔ اور اس جلالِ تجھ پر نمودار ہوگا

اور قومیں تیری روشنی میں اور شاہان تیرے طلوع کی تجلی میں! انتہی - (کتاب یسعیاہ باب ۶۰)

ان کلمات کے اشارہ سے یہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آفتاب ہدایت ہے تو اس کے نور سے عالم دنیا روز روشن بن گیا۔

اور چاند اپنی طبعی نوعیت سے سورج کے پیچھے ہے تو آفتاب نبوت کے بعد اس کے قائم مقام خلفاء راشدین کا دور ماہ کامل اور بدر منیر کی حیثیت میں جلوہ گر ہوگا جس طرح اصل چاند کا نور آفتاب کے نور کا خلیفہ ہے تو اسی طرح اس خلیفہ اور بدر منیر کے نور کو بھی قدرت خداوندی نے دنیا کی ہدایت کے لئے ایک خلیفہ بنایا وہ نور ولایت ہے جو نور خلافت کے لئے ناسب کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام حضرات صحابہ اور ائمہ و فقہاء امت کا نور ہے۔

اور جس طرح آفتاب کی روشنی کو دن اور دوپہر کا وقت مکمل کرتا ہے جس کو وَالنَّهَارُ إِذَا جَاءَتْهَا میں فرمایا تو اسی طرح اس آفتاب نبوت کی روشنی تمازت اور قوت کو خلفاء راشدین بالخصوص حضرت عمر فاروقؓ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما کے دور خلافت کی فتوحات اور غلبہ نے مکمل کیا اور دین محمدؐ کا ظہور اور غلبہ اسی دور میں دنیا کے سامنے ظاہر ہوا جو آفتاب نبوت کے طلوع ہونے کے بعد کچھ وقت گزرنے پر آیا تو بالکل ایسا ہی ہوگا۔ جیسے آفتاب جب طلوع ہوا تو اس کی روشنی کمزور تھی لیکن اس کے طلوع ہی سے نمودار ہونے والے دن نے اس کو مکمل روشن و مجلی کر دیا۔ تو یہ منظر پوری طرح نظروں کے سامنے آگیا کہ گویا خلافت راشدہ کے روز روشن نے اپنی قوت و غلبہ اور شوکت سے سورج کی روشنی کو مکمل کر دیا تو یہ بات وَالنَّهَارُ إِذَا جَاءَتْهَا سے ظاہر ہو رہی ہے اور جو وعدہ لِيُظْهِرَهُنَّ كَأَنَّ عَلَى السَّيِّئِينَ كَلْبًا میں فرمایا گویا وہ خلافت عمر فاروقؓ اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں الحمد للہ تم الحمد للہ پورا ہو گیا۔

پھر وَالسَّمَاءُ وَمَا بَيْنَهُمَا سے آسمان شریعت کی رفعت و بلندی کی طرف ذہن متوجہ کر دیا گیا کہ جیسے آسمان جملہ کو اکب شمس و قمر کو محیط ہے تو اسی طرح آسمان شریعت انسان کے جملہ مقدس احوال و افعال اور عقائد و مکام اخلاق کو محیط ہے۔ اور جیسے آسمان میں بروج اور منازل ہیں تو اسی طرح شریعت کے امور میں بھی ابواب و اقسام ہیں اور سالکین و عارفین کے منازل ہیں اور ان منازل کی طرف چلنے والے سورج اور چاند ستاروں کی طرح کو اکب کہ کُلُّ فَخْرٍ فَلَئِكَ يَسْتَبْخَوْنَ اور ان تمام کو اکب کی سیر ایک ہی منزل کی طرف ہے اس لئے ان میں کسی قسم کے تصادم اور نزاع کا کوئی خطرہ نہیں۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور وَالْأَرْضُ وَمَا طَرَفُهَا کی طرح انسان کی ذات ہے جو اپنی دستوں کے لہانے سے عالم ارضی کا نور ہے بالکل کائنات کا نور ہے اس وجہ سے انسان کو عالم صغیر سے تعبیر کیا گیا تو آفتاب کی روشنی دن کی تمازت گرمی۔ رات کی تاریکی بارشوں کا نزول کرۂ ارضی پر اپنے عجیب و غریب کرشمے دکھاتے ہیں اسی طرح آفتاب ہدایت کا نور اور علوم الہی کی بارشیں اور اس کے لیل و نہار انسانی حیات کی سطح پر بڑے ہی عجیب و غریب کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں اور جو قوائے علیہ انسان کی فطرت میں ودیعت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس ابر رحمت کے برسنے کے بعد کیسے شاداب و سرسبز اور

شجر کی صورت میں رونما ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی اس طرح کہ سورج آسمان کے کناروں سے طلوع ہونے کے بعد بلند ہو رہا ہے اور وقت صبحی میں داخل ہونے کے باعث اس کی دھوپ چڑھ رہی ہے۔ اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے پیچھے چلے۔ جیسے فلکیات کے اصول سے ظاہر ہے یا یہ کہ چاند کی روشنی سورج کے عذوب ہونے کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ سورج کو روکشن کر دے اس کی تازت اور شعاعوں کو نصف النہار پر پہنچ کر یہ روز روشن سورج کے نور کو مکمل اور قوی تر کر دے۔ اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ اس کو ڈھانک لے۔ اور رات کی تاریکی دن پر اس طرح چھا جائے کہ سورج کی روشنی کا کچھ بھی نشان دکھائی نہ دے۔ اور قسم ہے آسمان کی اور جو کچھ یا جیسا کہ اس کو بنایا۔ اس میں پیدا کی ہوئی تمام چیزیں جملہ کو اکب و سیارے اور بروج و منازل اور خود آسمان کی عظمت کہ کسی شانِ عظمت سے اس کو بنایا۔ اور قسم ہے زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلا یا کہ کسی عجیب حکمت اور قدرت سے کر ڈارہی پھیلا دیا گیا کہ اس پر بود و باش سہولت سے ہو سکے۔ پھر اس میں مخلوق کی ضرورت کی تمام چیزیں پیدا کر دیں۔ اور قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کی کہ اس کو برابر بنایا اعضاء کا عجیب تناسب رکھا اور کیسی بہترین ساخت سے پیکر جسمانی مرتب فرمایا کہ تَقَدَّ خَلْقُنَا اِلَّا لِنَسَانِ رَفِيٍّ اَحْسَنَ تَقْوِيْمٍ۔

صرف یہی نہیں بلکہ عناصر اربعہ اور اخلاط اربعہ میں بھی ایک ایسا اعتدال عطا کیا کہ اس کا نظام جسمانی بڑی ہی خوبی کے ساتھ قائم و جاری رہے۔ پھر حواس ظاہری کے علاوہ باطنی حواس سے اس کو آراستہ کیا تاکہ وہ فلاح و سعادت کے امور جان سکے اور سمجھ سکے۔ پھر اس کے دل میں ڈالا اس کا بُجور و تقویٰ۔ یعنی ڈھٹائی اور سبک چلنے کی صلاحیت۔ فسق و فجور نافرمانی اور تقویٰ و طہارت اور اطاعت و بندگی کا شعور اور صلاحیت یعنی اول تو اجمالی طور پر عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کے ذریعہ بھلائی اور برائی میں فرق کرنے کی صلاحیت دی پھر تفصیلی طور پر انبیاء اور رسولوں کے ذریعے اور صحیفوں اور کتابوں میں آخری کتاب قرآن کریم میں تحقیق و تفصیل

علہ، هذا مقتبس من كلام الشيخ محمد دالف ثاني والنشاه ولي الله المدهلوي
والامام السرازي والعلامة المحدث ابى محمد عبدالحق المحقاني
المدهلوي قدس الله اسرارهم - ونفعني الله تعالى وجميع اهل
العلم من علومهم امين -

عنه : ان الفاظ سے مفسرین کی اس رائے کی طرف اشارہ کیا جو اس جگہ ما کو مصدر یہ یا موصولہ لیتے ہیں اور بعض مفسرین نے ما کو من کے معنی میں لیا۔ اسے ومن کہلہا مراد یہ کہ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس کی جس نے آسمان بنایا۔

عنه : یہاں بھی مصدر یہ موصولہ ہے اور بعض کے نزدیک من کے معنی میں ہے۔ - ۱۰ -

عنه : یہ ابہام کا ترجمہ ہے تفصیل گزر چکی۔

سے بنا دیا گیا کہ کون سا راستہ بدی اور برائی یعنی فجور کا ہے اور کون سا راستہ پرہیزگاری اور تقویٰ کا ہے بیشک فلاح و کامیابی حاصل کر لی۔ اس شخص نے جس نے کہ اس نفس کو پاک بنا لیا اور اسی نے اپنی مراد پالی اور بیشک ناسراد ہوا اور ذلیل و ناکام ہوا وہ جس نے گندگیوں میں اس کو آلودہ کر لیا۔ اور اپنے اس نفس کو خاک میں ملا چھوڑا۔ عفت و تقویٰ کی طہارت سے محروم کر کے شہوت و غضب کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دیدی۔ عقل و شریعت سے کوئی سروکار نہ رکھا فطرت کی صلاحیت اور تقاضوں کو بھلا کر خواہش اور ہوائے نفس کا غلام بن گیا۔ اشرف المخلوق ہونے کے باوجود وہ مقام اختیار کیا کہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ ایسی ہلاکت و تباہی کی روشنی اختیار کرنے والے دنیا میں بہت گزرے ہیں۔ تاریخ عالم میں ان کا عبرت ناک کردار روشن کی طرح ظاہر ہے۔ چنانچہ ایک عبرتناک مثال یہ ہے کہ جھٹلا یا ثمود نے اللہ کے رسول اور اس کی باتوں کو اور نفس کی پاکیزگی کے بجائے اس کو گندگیوں سے آلودہ کیا۔ اپنی سرکشی سے۔ جب کہ اٹھ کھڑا ہوا ان میں ایک بدبخت ترین انسان خدا کے پیغمبر صلی علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالنے اور ہلاک کرنے کے لئے حالانکہ وہ اونٹنی خود اس قوم کی فرمائش پر بطور معجزہ پہاڑ کی ایک چٹان میں ہو کر نکلی تھی اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے صالح اگر اس چٹان سے ایک اونٹنی آپ نکال دین تو پھر ایمان لے آئیں گے مگر بجائے ایمان لانے کے اس اللہ کی نافرمانی کے دشمن بن گئے اور یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی نوبت کے روز بھی گھاٹ سے پانی پیئے۔ جس پر اللہ کے رسول نے ان سے کہا خبردار ہو جاؤ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا پانی بند

علاء : ان الفاظ سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ الہام فجور کے معنی یہ نہیں کہ انسان کو کہا گیا کہ تو فجور کا کام کر۔ بلکہ اس سے مراد صلاحیت اور شعور ہے جس سے وہ سمجھ لے کہ بدی اور نیکی کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں کہ الہام فجور و تقویٰ کا یہ بھی مفہوم ہے کہ فجور سے بچنے کا حکم دیا اور تقویٰ کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔

استاد محترم شیخ الاسلام اپنے فوائد میں فرماتے ہیں "اس کے بعد قلب میں جو نیکی کا رجحان یا بدی کی طرف میلان ہو تو ان دونوں کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ گو اول میں فرشتہ واسطہ ہوتا ہے اور ثانی میں شیطان پھر وہ رجحان و میلان کبھی بندہ کے قصد و اختیار سے مرتبہ عزم تک پہنچ جاتا ہے اور صدور فعل کا ذریعہ بنتا ہے جس کا خالق اللہ اور کاسب بندہ ہوتا ہے۔ اور اسی کسب غیر و شریعت پر مجازات کا سلسلہ بطریق تسبیب قائم ہے۔ کذا فی الفوائد۔ اس مسئلہ کی توضیح و تحقیق مسئلہ تقدیر اور مجازات اعمال کامیاب اور اس کی حکمت کے سلسلہ میں پہلے گذر چکی۔ حضرات قارئین مراجعت فرمائیں۔ ۱۲۔"

علاء : ابتداء سورت یعنی وَالشَّمْسِ سے قسموں کا سلسلہ شروع ہوا اور نَفْسِ وَ مَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فِئ
کے بعد قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا جواب قسم ہے۔

علاء : تفصیل سورۃ اعراف و ہود اور دیگر مواقع میں گذر چکی۔ ۱۲۔

کرنے سے، تم پر کوئی عذاب آجائے مگر وہ لوگ باز نہ آئے اور پھر اللہ کے رسول کو جھٹلایا۔ عملاً رسول خدا کی مخالفت کرتے ہوئے۔ رسول خدا نے منع کیا کہ اس کو پانی سے نہ روکو مگر ان بد بختوں نے شقاوت و بد بختی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ پھر اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ جس کا انجام یہی ہوا کہ وہ مارا ان کے رب نے ان پر اپنا قہر و عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کو ایسا الٹ مارا کہ برابر کر دیا سب کو زمین کی سطح سے اور اس طرح ہلاک کر ڈالا کہ ان کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ اور وہ پروردگار تو اپنی شانِ عظمت و کبریائی کے باعث کسی کو سزا یا کسی مجرم قوم کی ہلاکت و بربادی کے انجام سے قطعاً نہیں ڈرتا ہے اور نہ اس کو اس بات کا ڈر اور ڈرہ برابر پرواہ ہے کہ کوئی مجرم قوم اس کا تعاقب یا پھینچا کرے گی۔

قوم ثمود کی اجمالی تاریخ

ثمود اس قوم کے بزرگ کا نام تھا جو کئی واسطہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا۔ قوم عاد عرب کے جنوبی حصہ میں تھی اس کے ہلاک و برباد ہونے کے بعد شمال عرب میں یہ قوم زور آور ہوئی تھی یہ قوم شام اور حجاز کے بیچ میں آباد تھی ان کے اس شہر کا نام جو شام کی طرف تھا حجر تھا اور جو حجاز کی طرف تھا اس کا نام وادی القرئی تھا ان دونوں شہروں کے درمیان اور بھی بہت سے قریات اور شہر اس قوم کے تھے جن کی تعداد بعض مورخوں نے ایک ہزار سات سو بتلائی ہے اس قوم میں مال و دولت بہت تھا بڑے بڑے عالی شان مکان بناتے تھے اور سنگتراشی کا فن خوب جانتے تھے اس لیے پہاڑ کھود کھود کر بڑے بڑے عجیب و غریب مکان بنائے تھے اور عمیق کنوئیں اور باڈلیاں کھودی تھیں مگر اس کے ساتھ بت پرستی اور بدکاری بھی غضب کی تھی۔ درندہ پن سفاکی اور بے رحمی کا بھی کچھ ٹھکانا نہ تھا۔ الغرض قوت شہوانیہ و غضبیہ وغیرہ کا دریا جوش زن تھا۔ خدا پرستی رحم دلی۔ پرہیزگاری کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ ایسی حالت میں رحمت الہی نے انہی میں سے ایک شخص صالح بن عبیدہ کو منتخب کیا اور نور نبوت سے منور فرمایا۔ جناب صالح علیہ السلام نے اس بد بخت قوم کی اصلاح اور عطا و پند میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا تھا مگر ان کی تقدیر میں شقاوت ازلیہ تھی کب ماننے والے تھے پھر جو مصائب اور ایذا میں ایسی قوم کے وعظ و نصیح مشفق کو پہنچیں کم ہیں؟

ایک بار قوم نے صالح علیہ السلام کو لا جواب کرنے کے لیے ایک معجزہ طلب کیا وہ یہ کہ فلاں پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے جو ایسی اور ایسی ہو اور پھر نکل کر وہ اسی وقت سچے بھی دے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی ویسی ہی اونٹنی پہاڑ پھٹ کر برآمد ہوئی اور اس نے باہر آکر سچے بھی دیا قوم نے یہ معجزہ آنکھ سے دیکھا مگر سبجہ جند بن عمر رئیس قوم حلاس کے اتباع کے اور کوئی ایمان نہ لایا۔ صرف یہی ایک جماعت ایمانداروں، نیکو کاروں کی تھی اور قوم ویسی کی ویسی رہی اور اب اور بھی ایذا و ظلم کا دروازہ کھول دیا۔ ادھر اونٹنی کی سینٹے چونکہ وہ قوی بسکل تھی اور جانور اس کو دیکھ کر بدکتے تھے یہ ٹھہرا کہ ایک روز گھاٹ پر یہ پانی پینے آئے تو دوسرے روز اور لوگوں کے جانور۔ چند سے اس قوم نے اس پر صبر کیا مگر ایک فاحشہ عورت نے جس کی ایک

شخص شریک سرکش قید از نامی سے آشنائی تھی یہ فرمائش کی کہ تو اس اونٹنی کا کام تمام کر دے کیونکہ میرے جانوروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ وہ بدبخت اپنے باروں کو لے کر اس کی تاک میں نکلا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور پھر سب نے تلواروں سے مار مار کر ہکڑے کر ڈالا اور قوم میں اس کا گوشت بنا سب نے خوشی سے چکا کر کھایا اور حضرت صالح علیہ السلام پر تھپھے لگائے مگر حضرت صالح علیہ السلام نے پہلے بھی اس کام سے منع کر دیا تھا۔ اور کہہ دیا تھا کہ اگر اس کو ہاتھ لگایا تو جان لینا کہ غضب الہی آگیا مگر اب تو صاف صاف کہہ دیا کہ تین روز کی مہلت ہے اگر ایمان لایا جائے اور توبہ کی جائے تو کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور علامت ہلاکی یہ ہوگی کہ ازل روز تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے۔ دوسرے روز سرخ تیسرے روز سیاہ چنانچہ صبح کو جب اٹھے تو سب کے چہرے زرد تھے۔ یہ دیکھ کر قیدار اور اس کے شریکوں کو حضرت صالح علیہ السلام پر بڑا غصہ آیا چاہا کہ عذاب آنے سے پہلے اونٹنی کی طرح ان کا کام بھی تمام کر دیا جائے یہ قصد کر کے نوبہ معاش بشنون کی نیت کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر راست کو آنے۔ حمایت الہی نے حضرت صالح علیہ السلام کو بچالیا وہ بد معاش صبح کو وہیں مردہ پڑے پائے گئے یہ دیکھ کر قوم کو اور بھی جوش آیا اور ان کا بدلہ لینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ آور ہوئے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کی جماعت بھی جنگ پر آمادہ ہو گئی آخر یہ فیصلہ ٹھہرا کہ صالح اور ان کی اتباع کرنے والے شہر سے باہر نکل جائیں۔ چنانچہ یہ سب لوگ نکل گئے اور اس بات کو غنیمت جانا۔ یہ روزان کے چہرے سرخ ہونے کا تھا سب کے منہ لال ہو رہے تھے اگلے روز آیا سب کے منہ سیاہ ہو گئے اور یہ دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ اب ضرور کوئی بلا آنے والی ہے اس لیے وہ اپنے ان پہاڑوں کے تراشے ہوئے مکانوں میں پلے گئے جن کی نسبت ان کو گمان تھا کہ یہاں نہ بجلی کا اثر پہنچے گا نہ زلزلہ کا نہ بادشیں کا۔ اتنے میں سیاہ آندھی آئی اور اس کے بعد زلزلہ آیا اور کوک شمع موع ہوئی۔ متواتر تین بار ایسی ہیبت ناک آدازیں آئیں کہ سب کی روح پرواز کر گئی کوئی بھی زندہ باقی نہ بچا عذاب دفع ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اس بدبخت قوم کے پاس آئے ان کی لاشیں اور ان کو اوندھے منہ پڑے دیکھ کر حسرت بھر کے انداز میں فرماتے تھے کہ ہائے تم نے میرے کہنے کو نہ مانا اے بدبخت قوم میں نے تم کو بہت سمجھایا ہے مگر تم نہ سمجھے۔

یہ ہے اس قوم کی مختصر سرگذشت جو عرب میں متواتر منقول تھی۔ اس واقعے کو عموماً ہر شخص جانتا تھا یہ شہر کہ جہاں عذاب آیا حجر ہے۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوة تبوک میں صحابہ کے ساتھ درحجر سے گذرے تو صحابہ کو اس بدبخت قوم کے کنوؤں سے پانی لینے اور وہاں ٹھہرنے سے بھی منع فرمادیا تھا۔ عرب میں اب تک سیاہوں کو قوم ثمود کے آثار باقیہ شام جاتے آتے دکھائی دیا کرتے ہیں جو اس بدبخت قوم کے حال زار پر عبرت کے آنسوؤں سے رو دیا کرتے ہیں۔

اسی پر موقوف نہیں اب بھی اس کے قریب قریب حادثات بدبخت قوموں پر گذرتے ہیں مگر وہ اس کو کبھی زلزلہ اور کبھی سمندر کی طغیانی اور کبھی زلزلہ باری بجلی کا صدمہ بتایا کرتے ہیں۔ تھوڑے

دنوں پہلے یورپ میں آتش فشاں مادے سے بستیاں غارت ہوئیں اور اٹلی وغیرہ بلاد میں زلزلہ سے ہزاروں شخصیں ہلاک ہوئے شہر اجاڑ ہو گئے۔ متعدد واقعات ایسے پیش آئے کہ آسمان سے پتھر برسے۔ ہواؤں کا طوفان آیا اور بستیوں کے نام و نشان ہی مٹ گئے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ مادہ پرست انسان ہمیشہ اس قسم کے واقعات کو اتفاقات پر یا کو اکب کے عمل پر محمول کرتے ہیں۔ سبب الاسباب اور قادی مطلق کی قدرت پر ایمان و یقین نہیں ہوتا۔

فَاتَا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِمْ رَاٰجِعُونَ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ اٰیْلِ

سورۃ ایل بھی کسی سورت ہے۔ اس سورت میں بالخصوص اس امر کو بڑی تفصیل و تحقیق سے بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی عملی کوششیں مختلف قسم کی ہیں ان عملی جہود میں ایک نوع ایمان و تقویٰ جو دو سخاوت، احسان، سروت کی ہے تو دوسری نوع تکذیب حق، غرور و استکبار، سخی و حق تلفی اور یہ کہ ایمان و تقویٰ مکارم عالیہ اور اخلاقِ حسنہ کا رخ اختیار کرنے والا فوز و فلاح کا مستحق ہوتا ہے اور اسی کی راہیں اس پر آسان کر دی جاتی ہیں اس کے برخلاف تکذیب حق اور غرور و استکبار کا رخ انسان کو شقاوت و محرومی کا منزل پر پہنچا دیتا ہے۔

سورت کی ابتداء راست کی محیط تاریخی اور دن کی روشنی اور اولادِ آدم میں مذکور نمونہ کی تفریق کی قسم کھا کر کی گئی۔ جس سے قدرتِ خداوندی کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح روز و شب کی ظلمت و نور میں فرق ہے اور انسانوں میں مذکور نمونہ کا تفاوت ہے اسی طرح انسان کی جہودِ عملیہ میں بھی تفاوت ہے۔

سورت کے اخیر میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ مال و دولت کے نشتر میں کبھی بھی دھوکہ میں نہ پڑے کہ یہ دنیوی مال و منال کوئی عزت کی چیز ہے یا دنیا کی دولت اس کو کسی ہلاکت و پریشانی سے بچا سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ اس مؤمن صالح کا ایک تاریخی نمونہ بھی (جس نے ایمان و تقویٰ اور جو دو سخاوت سے سعادت کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا) ذکر کیا گیا۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔

آیاتہا ۲۱ = ۹۲ = سُوْرَةُ الْيَسْلِ مَكِّيَّةٌ = ۹ = رُكُوْعُهَا ۱

سورہ یسئل کی ہے اس کی اکیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْيَلِ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

قسم رات کی جب چھا جاوے۔ اور دن کی جب روشن ہو۔ اور اس کی جو اُس نے پیدا کیے

وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَ

نر اور مادہ۔ تمہاری کمائی بھانت بھانت ہے۔ سو جس نے دیا اور

أَتَقَى ⑤ وَصَدَّقَ بِالْحَسَنَى ⑥ فَسَنِيْرَةٌ لِّلْيَسْرِ ⑦

ڈر رکھا۔ اور سچ جانا بھلی بات کو۔ تو اس کو ہم سچ کہہ پنجا دیں گے آسانی میں۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ⑨

اور جس نے نہ دیا اور لے لے پروا رہا۔ اور جھوٹ جانا بھلی بات کو۔

فَسَنِيْرَةٌ لِّلْعَسْرِ ⑩ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪

سو اس کو ہم سچ کہہ پنجا دیں گے سختی میں۔ اور کام نہ آوے گا اس کو مال اس کا، جب گڑھے میں گرے گا۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ⑫ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ⑬

ہمارا ذمہ ہے سوچنا دینا۔ اور ہمارے ہاتھ ہے پہچلنا اور پہلی۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى ⑭ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ⑮

سو میں نے سنا دی تم کو خبر ایک تپتی آگ کی۔ اس میں وہی بیٹھے گا (پہنچے گا) جو بڑا بدبخت ہے۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ⑯ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ⑰ الَّذِي

جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔ اور بچا دیں گے اس سے وہ بڑا ڈر والا۔ جو

يُوتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۱۸ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ

دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو۔ اور نہیں کسی کا اسس پر احسان جس کا

يُجْزَى ۱۹ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۲۰ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۲۱

بلدے۔ مگر چاہ کر منہ اپنے رب کا جو سب سے اوپر۔ اور آگے وہ راضی ہو گا۔

تقسیم ہو عملیہ درجیات انسانی و ترتیب ثمرات سعادت و شقاوت

قال الله تعالى: وَالَّذِينَ إِذَا أَكْفُتُوا... الخ... وَلَسَوْفَ يَرْضَى

(رابطہ) گزشتہ سورت میں نوز و فلاح اور شقاوت و بد نصیبی کے اسباب پر کلام تھا اور یہ کہ انسانی نفس اگر طہارت و تزکیہ سے آراستہ ہو تو اس پر دنیا کی عزت و سر بلندی اور آخرت کی کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اگر نفس کو شہوات کی گندگی میں آلودہ کر لیا جائے تو انسانی شرف سے محرومی کے بعد دنیا کی تباہی اور عذاب آخرت میں مبتلا ہونے کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں بڑی سے بڑی طاقت و رقومیں اسی شقاوت و بد نصیبی کا شکار ہو کر ہلاک ہوئیں اور تاریخ عالم اس کی گواہی دیتی ہے۔ قراب اس سورت میں انسان کی عملی جدوجہد کا تفاوت اور اس کا انقسام الی الخیر والی الشر بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی تاریخی حیثیت سے مکرم اخلاق ایمان و تقویٰ کے ایک عظیم پیکر یعنی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے اور یہ کہ ہر عمل میں اخلاص اس عمل کی عظمت و قبولیت کی روح ہے تو ارشاد فرمایا۔

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور اپنی تاریکی سے تمام فضاء کو ڈھانک لے۔ اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو اور اس کی روشنی تمام عالم پر محیط ہو جائے اور قسم ہے اس کی جو اس نے پیدا کیا نرا اور مادہ۔ تو جس طرح رات اور دن اور نر و مادہ مختلف ہیں اپنی صورت میں اور آثار و خواص میں بالکل اسی طرح بے شک لے انسانو! تمہاری کوشش اور عملی محنت طرح طرح کی ہے۔ ہر ایک کے اعمال دوسرے سے مختلف و متعارض ہیں۔ صورت و شکل میں بھی اور نتائج و ثمرات میں بھی۔ سو جس شخص نے عطا کیا یعنی خدا کی راہ میں دیا اور خرچ کیا اور خدا کا تقویٰ اختیار کیا اس کی نافرمانی اور برائیوں سے ڈرتا رہا اور تصدیق کی جھلی بات کی۔ ایمان لایا اور ایمان کی باتوں کو سچ سمجھتا رہا تو ہم اس کے واسطے آسان کر دیں گے راحت و سہولت کا راستہ

کہ جس پر عمل بھی آسان ہوگا اور اس راستہ پر چل کر انجامِ راحت و سہولت ہی کا ہوگا اور اعلیٰ و اکملِ راحت کا مقام جنت ہے جس کا وہ اپنے ایمان و اعمال اور طاعت و بندگی کی محنتوں سے مستحق سمجھا جائے گا۔ مگر اس کے بالمقابل جس نے یہ سعادت حاصل نہ کی اور سخل کیا اور بے پروا ہی اختیار کی اور خدا سے بے نیاز رہا اور بھلی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کے واسطے آسان کر دیں گے دشواری کا راستہ اور وہ عملی اندازہ اور طریقہ کار جس کا انجامِ مشقت اور مصیبت کے سوا کچھ نہیں اور تمام تر آلام و مصائب اور مشقتوں کا ابدی مقام جہنم ہے۔

اور اس وقت کام نہ آنے کا اس کو ذرہ برابر اس کا مال جب کہ وہ اس ہلاکت و مشقت کے گڑھے میں گرے گا اس انسان کو زندگی میں اس کی نافرمانیوں پر ڈھیل دی جائے گی اور بتدریج یہ اپنی شقاوت و بدبختی کے کاموں میں اور غلو و انہماک ہی اختیار کرتا جائے گا تا آنکہ اپنی بد اعمالیوں کا انجام دیکھ لے جیسا کہ پہلے شخص کو اپنی ترفیق سے نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں نکلنے رکھا۔ بالکل ہی نوعیت ہوتی ہے کہ لَا تَدْرُکُ حَتَّىٰ تَلْمِزَکَ وَ تَلْمِزَکَ لَیْسَ لَکَ مَلْجَاؤُا مِنْہُمْ وَ لَکَ عَذَابٌ عَظِیْمٌ۔ بے شک ہمارے ذمہ تو بس راہ دکھا دینا ہے نیکی اور تقویٰ کی اور بدی و گمراہی کی ان دونوں راہوں میں سے کسی بھی راہ کا اختیار کرنا خود انسان کا اپنا کام ہے اس لئے وہ جس راہ کو اور جیسے بھی عملی طریقہ کو اختیار کرے گا اس کا ثمرہ اس پر مرتب ہوگا اور بے شک ہمارے ہی لیٹے اور ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت بھی اور دنیا بھی۔ تو لے انسان! میں نے ڈرا دیا ہے۔ ایک ایسی آگ سے جو دہکتی ہوئی ہے۔ اس کے شعلے سمندر کی موجوں کی طرح ہیں جو مجرموں اور نافرمانوں کے لئے مخصوص ہے جس میں کوئی نہیں داخل ہوگا بجز اس شخص کے جو نہایت ہی بدبخت ہے جس نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا اور اللہ کی فرماں برداری سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑ لیا تو جہنم کی اس دہکتی ہوئی آگ میں جو کفار و نافرمانوں کے لئے مخصوص کر دی گئی ہے بس ایسے ہی بدبخت انسان داخل ہوں گے اور اس آگ سے دور رکھا جائے گا ایسا شخص جو زیادہ سے زیادہ پرہیز گار ہو جو اپنا مال دے رہا ہو اللہ کی راہ میں اس لئے کہ وہ پاک ہو جائے ہر قسم کی کوتاہی اور ہر نوع کی گندگی سے خواہ نفس کی ہو یا عمل کی اور محض رضاً الہی اس کی غرض ہے اور یہ نہیں کہ کسی کا اس پر احسان ہے کہ اس کا بدلہ ادا کیا جا رہا ہے بجز اس کے کہ اپنے رب اعلیٰ کی خوشنودی طلب کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس اخلاص و تقویٰ سے اعلیٰ کوئی مقام نہیں تو ضرور اس بندہ کا یہ عمل اس کے رب اعلیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اور عنقریب اپنے پروردگار کی طرف سے ہونیوالی عنایات پر خوش ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ہر انعام اور نوز و فلاح پر مسترت و خوشی طبعی تقاضا ہے۔ بالخصوص اہل ایمان کا تو شعار ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم پر فرحان و شادمان ہوں۔ کما قال اللہ تعالیٰ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔

ایمان و تقویٰ اور جود و سخا کا پیکرِ عظیم


سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ

وَسَيَجْتَنِبُهَا الْاَلْفُ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ.

ہر فروع کی گرفت اور آخرت کی ہر تکلیف محفوظ اور دور رہنے کے لیے اس آیت میں جو اوصاف ذکر فرمائے گئے ان میں ایک وصف تقویٰ ہے دوسرا وصف راہ خدا میں مال خرچ کرنا۔ تیسرا وصف تزکیۃ طہارت ہے چوتھا وصف اخلاص ہے جو الا ابتغاء و جبہا ربہ الا علی میں فرمایا گیا۔

آیت مبارکہ کے الفاظ عام ہیں اور مراد بھی اسی علوم کے ساتھ ہر ایمان و تقویٰ اور اخلاص کا وصف رکھنے والے کے لیے اس سعادت کو ثابت کرنا ہے لیکن جہر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارہ میں ہے۔ چنانچہ کلام الہی کی شہادت سے یہ ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے صدیقین کے سرخیل اور پیشوا ہیں۔ اسی طرح وہ سیدالانقیاء ہیں۔ کیونکہ اتقی صیغہ اسم تفضیل اسی معنی پر دلالت کرتا ہے پھر اس کے ساتھ قرآن کریم نے یہ بھی گواہی دے دی کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو آدمی ہی تھے۔ اس کے بعد پھر یہ کہہ کر "یتزکی" یہ واضح کر دیا کہ تزکیہ و طہارت کا مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔

اور اخیر میں یہ فرما کر "وَمَا لِاحِدٍ عِنْدَهُ مِنْ نَفْسٍ تُجْرِي كَمَا سَرَّابٍ يَدْرِي كَيْفَ يَكْسِبُ غَيْبًا وَيَعْلَمُ الْغُيُوبَ" اور "وَمَا لِحَدِيثٍ عِنْدَهُ مِنْ نَفْسٍ تُجْرِي كَمَا سَرَّابٍ يَدْرِي كَيْفَ يَكْسِبُ غَيْبًا وَيَعْلَمُ الْغُيُوبَ" کے کمال اخلاص پر مہر ثابت کر دی اگرچہ اسی قدر فرما دینا کافی تھا۔ مگر اب رب العالمین نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ابتغاء و جبہا ربہ الا علی کی تفسیر کے حقیقی شانہ کی رضا جوئی صدیق اکبر کی صفت طبعیہ کی حیثیت سے بیان کر دی کہ یہ ان کا مزاج تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی فرد کو مشاڑا یہ ملتے ہوئے قرآن کریم نے سوائے صدیق اکبر کے یہ عظیم تر شہادتیں کسی بھی فرد کے لیے ذکر نہیں کیں۔



حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت

کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مستحق خلافت تھے

آیت وَ سَيَجْعَلُهَا آلَاتِنَا کا نزول تو باجماع صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی کی شان میں ہے جیسا کہ ذکر کیا گیا بلکہ روایات سے یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ پوری سورت ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارہ میں نازل ہوئی اور بعض مفسرین نے تو اس کو سورۃ اُنی بکرہ بھی کہا ہے جب کہ انہوں نے سات غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ جن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے۔

ابن عباسؓ فرماتے تھے آلَاتِنَا سے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے پیش نظر جس میں ارشاد ہے اِنَّ اَكْبَرَ مَكْتُمٍ عِنْدَ اللّٰهِ اَقْتَضٰكُمْ۔ یہ لازم آیا کہ امت میں سب سے زیادہ عظمت و کرامت اور بزرگی کے مستحق ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور سورہ نور کی آیت وَلَا يَأْتِي تِلْكَ الْفَضْلَ مِنْكُمْ۔ جو باجماع امت ابو بکر ہی کے بارہ میں نازل ہوئی ثابت کر رہی ہے کہ امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے یہی ہیں جن کو قرآن اولوالفضل کے لقب سے تعبیر کر رہا ہے۔

روایات سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس وقت وہ قریش میں بڑے ہی مالدار تھے اور ان کا شمار اہل مکہ کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا۔ اسلام لانے کے وقت چالیس ہزار درہم یا دینار کے مالک تھے۔ سبک اسلام کی راہ میں خرچ کر ڈالا اور خلیفہ ہونے کے بعد جو خود انہوں نے اپنا وظیفہ مقرر فرمایا وہ صرف دودہم یومیہ تھا جو وہ بیت المال سے لیتے۔

انتقال کے وقت فقیر و نادار تھے ایک دینار بھی ترکہ میں نہیں تھا جس چادر میں بیماری کے دن گزارے اسی میں وصیت فرمائی کہ کفن دیا جائے۔ اہل دیہات کے پئے زمین و جائیداد تو درکنار ایک جہ بھی نہیں چھوڑا۔ اپنے زمانہ خلافت میں اپنے عزیز واقارب میں سے کسی کو عہدہ یا منصب نہیں دیا۔ حالانکہ پورا حجاز سجدہ یمن طائف اور بحرین و عمان سب ان کے زیر نگیں تھے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ ابتدا میں فقیر و نادار تھے۔ خلافت ملنے کے بعد اپنے بعض خویش واقارب کو عہدے دیئے عبداللہ بن عباسؓ کو بصرہ کا والی بنایا اور عبید اللہ بن عباسؓ کو یمن کا والی بنایا اور اپنے چچا عباسؓ کے دو بیٹوں قثمؓ اور عبید اللہ کو حرمین کا والی بنایا اور اپنے بھانجے ام ہانیؓ کے بیٹے جعد بن ہبیرہ کو خراسان کا۔ اپنی اہلیہ کے ایک بیٹے کو مہر کا۔ اور اپنے بعد حضرت حسنؓ کی خلافت پر رضامندی کا بھی اظہار کیا۔ اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ یقیناً خلافت کے مستحق تھے۔ لیکن اس تمام تفصیل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دنیا کے عہدوں سے اپنے واقارب و اعزہ کو کس طرح دور رکھا۔ اگرچہ حضرت علیؓ نے جن افراد کو والی بنایا وہ اپنی اپنی

خوبیوں سے اس کے اہل تھے کہ ان کو دالی بنایا جائے۔ ابو بکر صدیقؓ کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان تمام چیزوں سے اپنے خاندان اور عزیزوں کو دور رکھا حتیٰ کہ ان کے اجباب اور نخلصین ہر چند کوشش کرتے رہے کہ عمر فاروقؓ اپنے صاحبزادہ عبد اللہ بن عمرؓ کو اپنا جانشین بنا دیں لوگ ان کے فضائل و اوصاف بیان کر کے اس امر کے برحق ہونے کو ثابت بھی کرتے رہے مگر فاروق اعظمؓ نے ان باتوں میں کسی بات کی طرف ادنیٰ توہر بھی نزدی۔ اور جواب میں یہ فرمایا کہ اس امر کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تو خطاب کی اولاد میں سے بس عمرؓ ہی کافی ہے (بسمان اللہ) کیسی احتیاط تھی۔ حتیٰ کہ آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے واسطے جو مجلس شوریٰ مرتب فرمائی اس میں بھی اپنے بیٹے کو نہ رکھا اور صرف اس حد تک اجازت دی کہ وہ مجلس میں بیٹھ کر باتیں سن سکتا ہے۔ اور اگر کوئی بات اس کے خیال میں آئے تو کہہ سکتا ہے لیکن اصولاً ان کا شمار ان اراکین شوریٰ میں نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو کسی فیصلہ کا حق ہوگا۔ تفصیل کے لیے ملاحظہ فرمائیں۔

المنتقى الذہبی ص ۴۸۔ سنہاج السنہ لابن تیمیہ ص ۱۲۹ تا ص ۱۳۱۔ ۴۷۔

حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سب سے زیادہ اپنے جان و مال سے مجھ پر احسان کرنے والا (صرف) ابو بکرؓ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا دنیا میں مجھ پر جس کسی نے بھی احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا اور اس کے احسان کو اتار دیا مگر ابو بکرؓ کا احسان کہ اس کو میں نہیں اتار سکتا۔ اس کا بدلہ بس اللہ ہی ان کو قیامت کے روز ادا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا تو بت یہاں تک پہنچی کہ پہننے کے لیے کپڑے بھی نہ رہے۔ ایک کبل میں درخت کا کاٹنا لگا کر اپنے بدن پر پھیٹ رکھا تھا اسی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں جبریل امین بھی نازل ہوئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ کو کہہ دو کہ خدام کو سلام کہتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے ابو بکرؓ کیا تم اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا دل میں کچھ کدورت ہے۔ یہ سننا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور بیقراری کے عالم میں روتے ہوئے کہنے لگے ہائے ہائے کیا مجھے اپنے مولیٰ سے کدورت ہو سکتی ہے۔ انا عن ربی راض۔ انا عن ربی راض کے الفاظ زبان سے جاری ہو گئے اور دیر تک یہی کہتے رہے کہ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو روایت مشکوٰۃ میں ہے اس میں صراحتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضل اور زہد کا ذکر ہے۔ اس میں ہے کہ جب آپ سے دربارہ خلافت ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد ابو بکرؓ کو امیر بناؤ گے تو ان کو زہد فی الدنیا اور راغب فی الآخرة پاؤ گے۔ اور یہ وصف آپ نے کسی اور صحابی کی شان میں نہیں فرمایا اور یہ وصف آثار و احوال نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔

نیز حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اشجع الناس ہونے کی بھی گواہی دیتے تھے اور فرماتے تھے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے گھیر لیا میں دیکھتا رہا۔ مجھ سے کچھ نہ ہو سکا۔ یہاں تک کہ ابو بکرؓ آئے اور مجمع میں گھس گئے آپ کی مدد کی اور آپ کو بچایا۔

محدثین نے بالعموم اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے کہ ایک بار آپ کے صاحبزادہ محمد بن الحنفیہ نے پوچھا کہ بتائیے سب سے زیادہ بہادر کون ہے تو اس پر آپ نے جواب دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اور پھر اس کے ثبوت میں یہ روایت ذکر کی جو صحاح ستہ میں موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صرف اشجع الناس ہی نہیں بلکہ ارحم الناس بھی تھے جیسا کہ احادیث میں ان کا یہ وصف موجود ہے ارشاد ہے **أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ**۔ اسی پر حد نہیں بلکہ اعدل الناس بھی تھے۔ جیسا کہ یہ اظہر من الشمس ہے اس لیے کہ جس ذات میں امانت و دیانت۔ زہد و تقویٰ۔ ایثار و سخاوت اور علم کامل ہوگا۔ بلاشبہ وہ اعدل الناس ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے اور ظاہر ہے کہ ظالم ان اوصاف سے محروم ہوتا ہے۔ جب ہی تو وہ ظلم کا مرتکب ہوتا ہے اور ظلم کا باعث خُب دنیا اور خیانت اور عدم ترم ہے تو جو شخص ان خرابیوں سے قطعاً منزہ اور پاک ہو بلکہ اس کے بالمقابل وہ کمالات اور خوبیوں سے منصف ہو وہ کیسے ظالم ہو سکتا ہے اور بلاشبہ وہ اعدل الناس ہی ہوگا اور عدل کے ثمرات میں سے شفقت بھی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس خوبی میں بھی سب سے بڑھ کر تھے۔

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان تمام خوبیوں کے علاوہ اعلم الناس کے شرف اور فضل سے بھی منصف تھے جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز خطبہ میں یہ فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندہ کو دنیا کی نعمتوں میں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے وہ آخرت کو تو اس بندہ نے اللہ کو یعنی آخرت کو اختیار کر لیا ہے یہ سن کر ابو بکر صدیق فوراً بے قرار ہو کر رونے لگے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ یہ بزرگ اس بات کو سن کر کیوں رو رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ایک بندہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہ بزرگ رونے لگے۔ فرماتے ہیں بعد میں ہمیں معلوم ہوا کہ وہ عبد مجتہد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور ہم نے سمجھ لیا کہ ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ اعلم تھے کہ پہلی ہی مرتبہ اس اشارہ کو سمجھی گئے۔

پھر یہ کہ عہد رسالت میں ہی آپ کا لقب صدیق تھا اور آیت مبارکہ **وَالَّذِي بَكَاءُ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ** میں سب سے پہلا تصدیق کرنے والا آپ کو ہی فرمایا گیا اور یہ امر ظاہر ہے کہ فہم و فراست اور علم و حکمت میں نبی کے بعد درجہ صدیق ہی کا ہے اور صدیق کے بعد درجہ فاروق کا ہے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی بدیہی اور قطعی ہے کہ علم میں فضل و کمال کا دار مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت اور مجالست پر ہے تو ابتداء سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق کامل محب خاص اور مخلص بااختصاص تھے۔ سفر و حضر میں آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ کو جو بھی مہم پیش آئی آپ اس میں ابو بکر سے مشورہ لیتے تھے۔

اور آیت مبارکہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**۔ مفسرین کے بیان کے مطابق ابو بکر و عمر ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ مشورہ اسی سے لیا جاتا ہے جو اعلم و افہم ہو ان تمام اوصاف اور فضائل کے


علاوہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما اعلیٰ الناس بھی تھے۔ جس کی دلیل ان کے دورِ خلافت کے ملکی انتظامات کی حسن و خوبی۔ فتوحاتِ عظیمہ اسلام کی ترقی اور عامۃ الناس کی خوش حالی ہے۔ آیت اختلاف اور تمکین فی الارض کے یہی حضرات مصداق ہوئے۔ اور ملکی امن و امان کا جو وعدہ فرمایا گیا وہ ان ہی دو حضرات کے ہاتھ بڑا اس طرح ظاہر ہوا کہ پوری دنیا اس میں ذرہ برابر بھی تردد اور شبہ نہیں کر سکتی۔

اس کے بالمقابل حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دائرہ سلطنت و خلافت کو ذکے مضامین تک محدود رہا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہر کسی اختلاف کے تمام صحابہ کا ابو بکرؓ کے ہاتھ پر بصد رضاء و رغبت بیعت کر لینا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جملہ فضائل و شمائل حسنہ کا مجموعہ اور صدقاتِ امانت کا بیکر تھے اور اس امر کا واضح ثبوت تھا۔ تمام حضرات صحابہؓ اس پر متفق تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے اول جانشین اور خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔

پھر یہ کہ ابو بکرؓ ہی کو آپؐ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے مصلیٰ پر مسلمانوں کی امامت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور کسی بھی کوشش کو اس کے بالمقابل پھینچنے نہ دیا۔ بلکہ اس پر ناگواری سے تنبیہ فرمائی گئی اور سب مسلمانوں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے کر یہ بتا دیا کہ اب تمہارے امام اور امیر یہ ہیں۔ ابو بکرؓ ہی کو قرآن کریم نے ثانی الشہین کہا۔

اور ایک حدیث میں آپؐ نے فرمایا کہ میرے دو وزیر آسمان میں ہیں اور دو وزیر زمین میں ہیں آسمان میں میرے وزیر جبریلؑ و میکائیلؑ ہیں اور زمین میں میرے وزیر ابو بکرؓ و عمرؓ ہیں۔ تو آپؐ نے خود ہی اس ترتیب سے اپنے وزیر اور خلیفہ متعین فرمادئے تھے۔ جس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ ذرہ برابر تردد اور تامل کی گنجائش نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

هَذَا مَا اسْتَفَدْتُ مِنْ أَمَلِي حَضْرَتِ الْوَالِدِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ أَدْرِيسِ الْكَانْدَهْلَوِيِّ
رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ. وَاسْبَغَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمِهِ وَأَسْكَنْهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ.
آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الضُّحٰی

سورۃ الضحیٰ بھی کئی سورت ہے اس میں بالخصوص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیتِ عظیمہ کے اہم ترین اوصاف ذکر کیے گئے ہیں اور ان انعامات کی تفصیل ہے جن سے آپ کی ذات اقدس کو نوازا گیا۔ ابتداء سورت میں دن کی روشنی اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر مخاطبین کے اذہان میں یہ بات ڈالی گئی کہ جس طرح عالم میں پھیلنے والا نور رات کی تاریکی کو مٹا دیتا ہے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت نے عالم سے کفر و گمراہی کی تاریکیاں مٹا دیں اس کے بعد ان انعامات کا ذکر کیا گیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیے گئے اور یہ کہ اگر اللہ کا پیغمبر دنیوی مال و منال اور دولت سے خالی ہاتھ ہو تو یہ اس رسول کی شان میں کسی طرح کا نقص پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ اصل نعمتیں تو آخرت کی نعمتیں ہیں اور وہ تمام تر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لئے ہیٹھا کر دی ہیں۔ اور ان میں سب سے بڑا انعام رضاء الہی ہے۔ جس سے آپ کو سرفراز فرما دیا گیا۔

آیاتہا ۱۱ = ۹۳ = سُورَةُ الضُّحٰی مِکِّيَّةٌ = ۱۱ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ ضحیٰ کئی ہے۔ اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالضُّحٰی ۱ وَاللَّیْلُ اِذَا سَجٰی ۲ مَا وَدَّعٰكَ رَبُّكَ وَمَا

قسم دھوپ چڑھتے وقت کی۔ اور رات کی جب چھا جاوے۔ نہ رخصت کیا تجھ کو تیرے رب نے، نہ

قَلٰی ۳ وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰی ۴ وَكَسُوْفٌ

بیزار ہوا۔ اور البتہ پچھلی بہتر ہے تجھ کو پہلی سے۔ اور آگے دے گا

يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۙ

تجھ کو تیرا رب، پھر تو راضی ہو گا۔ بھلا نہ پایا تجھ کو یتیم پھر جگہ دی !

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۙ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۗ

اور پایا تجھ کو بھٹکتا، پھر راہ دی ! اور پایا تجھ کو مفلس، پھر محفوظ کیا۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ ۙ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۗ

سو جو یتیم ہو، اس کو نہ دبا۔ اور جو مانگتا ہو اس کو نہ جھڑک۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۗ

اور جو احسان ہے تیرے رب کا، سو بیان کر۔

العلامات خاصہ

بروزات اقدس نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام

وامر باء شکر

قال الله تعالى: وَالصُّحُفِ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ الخ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

(ربط) گزشتہ چند سورتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ثابت کیا گیا تھا اور ایمان کا دار و مدار آخرت پر ایمان و یقین کی شکل میں ہے تو اس کے دلائل بھی ذکر فرما دیئے گئے اب اس سورت میں ان خصوصی انعامات کا ذکر ہے جن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو سرفراز فرمایا گیا۔ اور ان انعامات کے ضمن میں آپ کی رسالت کے دلائل بھی ذکر کر دیئے گئے۔ اور جن خاص کمالات اور اخلاق حسنہ سے پیغمبر کی ذات متصف ہونی چاہیے۔ ان کو بھی بیان کر دیا گیا۔ ارشاد ہے۔

قسم ہے دھوپ چڑھتے وقت کی اور راست کی جیب کہ اس کی تاریکی فضا پر چھا جائے۔ ان تمام چیزوں کی قسم کھلتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ دشمنوں کے خیالات اور ان کی یہ بیہودہ باتیں سب غلط ہیں۔ ہرگز نہیں چھوڑا ہے آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی آپ سے بیزار ہوا۔ اس لئے نزول وحی میں تاخیر سے دشمنوں کا یہ کہنا کہ

بس اب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور ناراض ہو گیا ہے۔ قطعاً لغو اور مبہل بات ہے۔ اور بے شک آخرت (یعنی بعد والی چیز) جو اللہ رب العزت اس صعوبت و مشقت کے دور کے بعد فراغی اور فتح کی صورت میں آپ کو عطا کرے گا۔

یا آخرت کی نعمتیں جو حیاتِ اخروی میں عطا کی جائیں گی، بہتر ہے آپ کے واسطے بہ نسبت اولیٰ کے یعنی پہلی حالت یا دنیا کی زندگی سے۔ اور آپ کا رب اس کمی زندگی کے بعد وہ عزت و راحت اور نعمتیں عنقریب عطا کرے گا کہ آپ اس پر خوشش ہو جائیں گے۔ اور یہ حاصل ہونے والی خوشی اور رضا ان تمام نعموں اور تکلیفوں کو مٹا دے گی جو اس ابتدائی دور میں پیش آرہی ہیں اور اس بشارت پر کسی کو حیرت اور تعجب نہ ہونا چاہیے۔ اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس دور کو جو ہر طرح کے مصائب و آلام کا مجموعہ ہے کیونکہ راحت و غلبہ اور بڑے بڑے

علیہ، یہ زمانہ بظاہر فزرت و وحی کا زمانہ تھا۔ یا کسی بھی وقت جبکہ نزل وحی میں تاخیر ہوئی اور آسمان سے آیات کا نزل نہ ہوا اور آپ اس تاخیر پر مغموم و مضطرب بھی تھے تو آپ کے اس غم اور اضطراب کو دور کرنے کے لیے یہ آیات نازل ہوئیں۔ حافظ ابن کثیر نے محمد بن اسحاق کی سنداً اسی طرح نقل کیا ہے اور ممکن ہے کہ اسی دوران وہ قصہ بھی پیش آیا ہو جو بعض احادیث صحیحہ میں وارد ہوا کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے باعث دو تین رات نہ اٹھ سکے تو ایک خبیث عورت کہنے لگی۔ اے محمد معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ (یہ عورت ام جلیل ابو لہب کی بیوی بیان کی گئی ہے) تو ان تمام بیہودہ اور لغو باتوں کا جواب دیتے ہوئے آپ پر نازل کردہ خصوصی انعامات کا ذکر کیا گیا۔

اس موقع پر اختیار کردہ قسم اور جواب قسم میں مناسبت ظاہر ہے کہ جن طرح رات کی تاریکی کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے مگر پھر دن کی روشنی اس کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ توقف اور تاخیر عارضی ہے اس کو اللہ کی وحی اور اس کا نور دور کر دے گا۔ یا یہ کہہ دیجیے کہ جس طرح رات کی تاریکی اور ظلمت دن کی روشنی سے دور ہو جاتی ہے اسی طرح مشرکین کے یہ لغو اعتراضات اور ان کی ظلمت بھی دور ہو جائے گی۔ یا یہ کہ وحی کی تاخیر سے (جیسا کہ فزرت و وحی کے زمانہ میں واقع ہوئی تھی) آپ کے قلب مبارک پر جو گھٹن ہے وہ اسی طرح کھل جائے گی اور ختم ہونے لگی جیسے کہ رات کی ظلمت سورج کی شعاعوں سے ختم ہو جاتی ہے۔ ۱۲۔

علیہ: حافظ ابن کثیر نے ابراہیم نخعی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس کی پٹیوں کا نشان آپ کے پہلو پر نظر آ رہا تھا آپ کے اٹھنے پر میں ہاتھ سے ان نشانات کو چھونے لگا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت مرحمت فرمادیں تو ہم اس چٹائی پر کوئی بستر یا نرم گدا بچھا دیا کریں۔ آپ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا مجھے دنیا اور دنیا کی راحتوں سے کیا واسطہ بس میرا تو دنیا کے ساز و سامان سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کہ کوئی ایک سوار مسافر دوران سفر کسی درخت کے نیچے کچھ دیر ٹھہرا پھر اسے چھوڑ کر آگے روانہ ہو گیا۔ (ترمذی)

انعامات سے بدل دیا جائے گا؟ اس کی تو بہت سی مثالیں موجود ہیں جن کا مشاہدہ ہو چکا تو کیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم کہ پھر اس پروردگار نے آپ کو ٹھکانا دیا۔ باوجودیکہ ولادت باسعادت سے قبل آپ کے والد وفات پا چکے تھے۔ چھ سال کی عمر تھی کہ والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ پھر آٹھ سال کی عمر تک اپنے دادا کی کفالت میں رہے جس کے بعد اس یتیم کی پرورش اور دیکھ بھال چچا نے کی اور اس میں شبہ نہیں کہ آپ کے چچا ابوطالب نے آپ کی نصرت و حمایت میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔ مگر ہجرت سے کچھ قبل وہ بھی انتقال کر گئے۔ ان تمام حالات یا حادثات کے بعد آخرت کریم نے ایسی عزت و کرامت کا ٹھکانا عطا فرمایا کہ تاریخ عالم میں اس سے بڑھ کر کوئی عزت و کرامت کا مقام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ مدینہ منورہ کی ہجرت تھی۔ جہاں پہنچ کر وہاں کی دونوں عظیم قومیں اوس و خزرج آپ کے مطیع و فرماں بردار بن گئے۔ آپ کے اشاروں پر جان دینے کے لئے تیار انصار و مہاجرین سب مل کر شمع رسالت کے پردے نے نظر آتے تھے اللہ نے وہ قوت و حکمت عطا کی کہ فتوحات کا سلسلہ وسیع ہو گیا۔ مکہ طائف۔ حنین اور بحرین فتح ہو گیا۔ تو یہ تھی بعد کی حالت جو مکہ کی پہلی حالت سے کس قدر بہتر شاندار اور عزت و عظمت والی بن کر تاریخ عالم میں ظاہر ہوئی اور حقیقی آخرت کی بہتری اور بلندی کا نواسانی انکار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مَا لَا عَيْن رَأَتْ وَلَا أُذُن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

اور کیا نہیں پایا تھا اللہ نے آپ کو بے خبر دھی الہی اور آسمانی علوم سے تو پھر راہ بھائی۔ علوم البیہ۔

عہ: لفظ ضالاً کا ترجمہ بے خبر کیا گیا کیونکہ لغت کے لحاظ سے ضلال کے معنی بے خبری کے بھی آتے ہیں۔ ضلال اور ضلالہ کا مفہوم صرف گمراہی نہیں ہے۔ اگرچہ اس مفہوم پر بھی اطلاق آتا ہے۔ بے خبری کا یہ مفہوم حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اختیار فرمایا اور یہ ترجمہ ہے اسی آیت مبارکہ کا اَوْ ضَالًا اَيْلِكَ تُدْعَوْنَ اَمْرًا كَمَا مَا كُنْتُمْ تُدْعَوْنَ مَا الْكُتُبُ وَلَا الْاَيْمَانُ وَ لَكِنْ جَعَلْنَا كُنُوزًا مَّخْدُومًا بِهٖ مَنَى نَفْسًا مِّنْ حَبَا دِنَا۔ بعض مفسرین نے ضالاً کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آپ تلاش حق میں راہوں اور میدانوں میں پھرتے تھے کہ حق بل جائے۔ اسی سلسلہ میں آپ کا غار حرا میں جانا اور وہاں علوت نشینی اختیار کرنا ہوتا۔ یا یہ کہ آپ تعلق مع اللہ اور اس کی محبت میں حیران و مضطرب تھے اس معنی کی تائید سورہ یوسف کی اس آیت سے ہو سکتی ہے جس میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے اپنے والد کو یوسف کی محبت میں مضطرب و بے چین دیکھ کر کہا۔ تَا دَلَّيْنَاكَ كَيْفَ ضَلَّيْنَاكَ الْفَدْيِيْمِ اَوْرَاْنَا لَكَ اَحَا حِفْ ضَلَالٍ مُّبِيْنٍ۔

بے خبری کے عالم میں حق تعالیٰ آپ کے قلب پر علوم و معرفت کے دروازے کس طرح کھولے گا اس کی توضیح کرتے ہوئے شیخ الاسلام علامہ عثمانی فرماتے ہیں جب حضرت جو ان ہوئے تو قوم کے مشرک اور بت پرستوں اور یہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں خدا سے وحدہ کی عبادت کا جذبہ پوری قوت کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

احکام شریعت اور معارف ربانیہ کی اور پاپا تھا آپ کو محتاج و مغلس تو پھر غنی کر دیا اور ایسا غنی و بے نیازی کا مقام عطا کیا کہ کسی چیز کی بھی بدوا اور احتیاج نہ رہی بہر حال یہ ہیں وہ انعامات لے لے ہمارے پیغمبر جن سے آپ کو نوازا گیا تو اب ان انعامات کا حق یہ ہے کہ جو بھی کوئی یتیم ہو اس کو آپ نہ دبائیں بلکہ اس پر نہ کوئی زیادتی کریں اور نہ ڈانٹ ڈپٹ سے اس کو مغلوب یا آزرده کریں اور جو سائل ہو اس کو نہ جھڑکیں بلکہ اس کی اعانت و مدد کرتے رہیں۔ اور آپ کے رب کا جو انعام ہے سو اس کو آپ بیان کیجئے۔ اور جن جن نعمتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا ہے اس کا شکر بھی ادا کیجئے۔ اور جو علوم و ہدایت آپ کو عطا کیئے گئے ہیں ان کو بیان کیجئے۔ لوگوں تک انہیں پہنچا دیجئے۔ اور ظاہر ہے کہ محسن کے احسانات کا بر نیت شکر گذاری بیان اور چرچا کرنا عقلاً و شرعاً محمود امر ہے۔ فخر و مباہات الہتہ بڑی چیز ہے۔

الانعامات خدوندی اور مکارم نبوی

اس سورت مبارکہ میں حق تعالیٰ شانہ نے دن کی روشنی اور دھوپ اور رات کی پھیلنے والی تاریکی کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ مَا وَدَّ عَلٰکَ رَبُّکَ وَمَا فَلَیٰکَ کہ آپ کے رب نے نہ تو آپ

عہ : ان کلمات سے لفظ فحش کے ان متعدد معانی کی طرف اشارہ کر رہے جو مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں اور نعمت رب میں سب سے بڑی نعمت فہدیٰ میں علوم و ہدایت عطا کرنے کی ہے تو اس کا بیان و تبلیغ اور تعلیم فحش کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے لفظ حدیث ارشادات، افعال اور احوال رسول کے لئے مخصوص ہو گیا۔ کیونکہ ان ہی علوم و ہدایت کا بیان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ۱۲۔

(باقی حاشیہ) ساتھ موجزن تھا۔ عشق الہی کی آگ بڑی تیزی سے سینہ میں جھڑک رہی تھی و ہول الی اللہ اور ہدایت خلق کی اس اکل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کر نفس قدسی میں ودیعت رکھا گیا تھا اندر ہی اندر جوش مارتا تھا۔ لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مفصل راستہ اور مفصل دستور العمل بظاہر دکھائی نہ دیتا تھا جس سے اس عرش و کرسی سے زیادہ وسیع قلب کو تسکین ہوتی۔ اس جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بیقرار و سرگرداں پھرتے۔ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر ناک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر اللہ نے غار حراء میں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجا اور وصول الی اللہ اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں اور دین حق نازل فرما دیا۔ یہی ہے جو ارشاد فرمایا گیا۔

مَا كُنْتُمْ تَدْرِيْنَ مَا الْكُتُبُ وَلَا الْاٰیْمَانُ وَلَا كُنْ جَعَلْتُمْ شُرَكَاءَ لَّكُمْ دِیْنًا

یہاں سے نساہت من عبادنا۔ ۱۲۔

کو چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہوا اور ان الفاظ سے رب العالمین نے اپنے رسول کے ساتھ اپنا کمال تعلق اور قرب بیان فرمادیا۔ اور پھر اس کے ثمرات و نتائج کے طور پر تین خاص اور عظیم انعامات کا ذکر فرمایا۔

۱۔ اولاً بحالت یتیمی۔ بے تجربی اور لاعلمی میں علوم ہدایت کی عطا اور افلاکس و تنگدستی کے عالم میں غنی اور فراخی، غنا اور فراخی مال کا انعام تو قبل از بعثت ہی شروع ہو گیا تھا جب کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے تجارتی کاروبار میں شریک کر لیا اور اس سے نفع حاصل ہوا۔ پھر نکاح کی درخواست کر کے آپ کی زوجیت کا شرف حاصل کر لیا جس کے بعد اپنا کل مال ہی آپ کے لیے حاضر کر دیا۔ یہ تو ظاہری غنا تھا لیکن اسی کے ساتھ آپ کے قلب اور باطن کو جو غنا عطا کیا گیا وہ تو اللہ رب العالمین جو عَنِّي وَعَنِ الْعَالَمِينَ ہے۔ وہی جانتا ہے اور دنیا نے مشاہدہ کر لیا کہ روئے زمین پر کوئی فرد بشر آپ کے برابر باطنی اور قلبی غنا کی صفت سے متصف نہیں ہوا۔ یتیمی کی حالت میں ٹھکانا عطا کیا جانا یہ بھی عظیم الشان انعام ہے اور جس نوعیت کے ساتھ بے سروسامانی اور یتیمی کے عالم میں خدا نے آپ کے سہارے مہیا فرمائے اور آخری اور کامل و اعلیٰ ٹھکانا مدینہ منورہ ہوا۔ جہاں سے بے شمار فتوحات اور تمکین و قدرت اور غلبہ و ظہور کا سلسلہ شروع ہوا۔ تیسرا انعام علوم ہدایت سے سرفراز فرمایا جانا تو ہر ایک انعام کے بالمقابل ایک حق ذکر فرمادیا گیا کہ یتیمی میں جب آپ پر خدا کا ہر انعام ہوا تو آپ یتیم پر کوئی زیادتی اور دباؤ نہ ڈالیں نہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں بلکہ اس کو ٹھکانا دیں۔ جیسے کہ اللہ نے آپ کو ٹھکانا دیا اور چونکہ اللہ نے آپ کو عزت و احتیاج کے عالم میں غنی کر دیا اس لیے آپ کسی سائل کو ہرگز نہ جھڑکیں نہ اس کو دھتکاریں اور علوم ہدایت آپ کو عطا کیے گئے تو اس کا حق یہ ہے کہ ان علوم کو بیان کیجئے پھیلائیے۔ ان کی تبلیغ و اشاعت فرمائیے۔

ان اوصاف کا آپ کی ذات اقدس میں ایسا کامل اور مکمل ظہور ہوا کہ بدو وحی کے وقت جب آپ پر گھبراہٹ و بے چینی طاری تھی تو حضرت خدیجہ نے آپ کے مکارم اخلاق اور اوصاف حمیدہ میں ان ہی اوصاف کا ذکر کیا۔ جیسا کہ احادیث میں ہے فرمایا آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ سچ بولتے ہیں۔ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ محتاجوں کی اعانت کرتے ہیں۔ کما کر ان کو کھلاتے ہیں۔ مہمان کی ضیافت کرتے ہیں۔ تو ہرگز خدا تعالیٰ آپ کو ناکام نہیں کرے گا۔ گویا جن اوصاف اور مکارم اخلاق سے متصف ہونے کے لیے ان آیات میں خطاب فرمایا جا رہا ہے۔ الحمد للہ آپ کی ذات ستودہ صفات بعثت و نبوت کے پہلے ہی مدونہ سے متصف تھی۔

ایک حدیث میں ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا و کافل الیتیم کھاتین اور اپنی دو انگلیوں کو جمع کر کے اشارہ فرمایا۔

تم بحمد اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ الضحیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاِنْشٰرِاحِ

سورة الانشراح بھی کی سورت ہے جس کی آٹھ آیات ہیں۔

اس سورت کا خاص مضمون آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کا انشراح اور امر نبوت پر اطمینان کامل اور قلب پر پیدا ہونے والے بوجھ اور اس فکر و تشویش کو دور کرنے کی بشارت پر مشتمل ہے جس کی گرائی سے آپ کے قوی شکستہ ہو رہے تھے اور جو ہمت شکن احوال پیش آرہے تھے ان کے دور کرنے کی خبر کے ساتھ آپ کی عزت و عظمت کا بیان ہے اور قسلی دی جا رہی ہے کہ کئی زندگی کے شداؤد اور مشقتوں سے آپ خاطر برداشت نہ ہوں۔ یہ قانون قدرت ہے کہ ہر تنگی کے بعد سہولت ہوتی ہے۔

آیاتہا ۸ = ۹۴ = سُوْرَةُ الْاِنْشٰرِاحِ بَلٰیغَةً = ۱۲ = رُكُوْعُهَا ۱

سورة انشراح کی ہے اس کی آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ

کیا ہم نے نہیں کھول دیا تیرا سینہ ۔ اور اتار رکھا تجھ سے بوجھ تیرا ؟

الَّذِي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَاِنَّ

جس نے کڑا لانی پیٹھ تیری ۔ اور اونچا کیا مذکور تیرا ۔ سو البتہ

مَعَ الْعَسْرِ يَسِّرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعَسْرِ يَسِّرًا ۙ فَاِذَا فَرَغْتَ

مشکل کے ساتھ آسانی ہے ۔ البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے ۔ پھر جب تو فارغ ہو،

فَانصَبْ ۙ وَ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

تو محنت کر - اور اپنے رب کی طرف دل لگا۔

بشارت بانشر صد و رفع گرائی قلب وازالہ شدائد بہت شکن

قال اللہ تعالیٰ: اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اِلَىٰ وَ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

ربطاً گزشتہ سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی طرف سے فائز کردہ انعامات خاصہ کا ذکر تھا۔ اور اسی کے ضمن میں آپ کے معالی اخلاق اور محاسن اوصاف بھی بیان کر دیئے گئے تھے۔ اب اس سورت میں مزید ایک انعام کشرح صدر کا بیان کیا جا رہا ہے۔ امور نبوت اور اللہ رب العالمین کے تکوینی امور پر قلب کا اطمینان و انشر بہت بڑی نعمت ہے اور اسی پر کمال یقین استقامت اور اخلاص جیسے احوال مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس سورت میں اس انعام کو بیان کرتے ہوئے یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ کئی زندگی کے احوال اور شدائد و مصائب جو انسان کی بہت توڑ دیتے ہیں اور واقعی وہ بوجھ افکار آلام کا ایسا ہی ہے کہ اس نے آپ کی کمر بھی شکستہ کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب وہ تمام بوجھ اور شدائد آپ سے دور کر دیئے جائیں گے موجودہ دشواری اور سختی کا دور گزار لیجئے اس کے بعد آسانی اور سہولت ہی سہولت ہوگی۔ اس وقت اگر چہ مشرکین کہ آپ کو ہر طرح ستانے پر تلے ہوئے ہیں اور آپ کی تحقیق تو ہین میں بھی کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ آپ کا نام اور آپ کا ذکر اونچا اور بلند ہوگا اور ظاہر ہے کہ جس کا نام اونچا ہوگا اس کی شان کس قدر بلند ہوگی اور اس کا دین کس قدر مقبول و سر بلند ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا۔

کیا ہم نے کشادہ نہیں کر دیا ہے آپ کا سینہ آپ کی خاطر؛ بلے شک ایسا ہی کر دیا ہے کہ علم و معرفت کے لئے آپ کا سینہ اس قدر کشادہ کر دیا کہ تمام علوم حکوت السموات اور وحی الہی کے سمیٹ کر آپ کے قلب میں ودیعت رکھ دیئے گئے کہ علوم و معارف کے سمندر آپ کے قلب میں اتار دیئے اور پھر وہ حوصلہ اور بہت عطا کر دی کہ لوازم نبوت اور فرائض رسالت ادا کرنے کے لئے ہر مشقت اور تکلیف بڑی بہت اور اولوالعزمی سے برداشت کر رہے ہیں۔ تبلیغ دین میں مخالفین خواہ ہزاروں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ لیکن آپ کے قلب میں وہ جمعیت اور قوت پیدا کر دی ہے کہ یہ ہاتھیں منصب رسالت کی ذمہ داریوں میں قطعاً حائل نہیں۔ اور اتار دیا ہے ہم نے آپ کا بوجھ جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی کہ مصائب و آلام کو

آسان کر دیا۔ وحی جس کی عظمت و ہیبت سے پہاڑ بھی چورا چورا ہو جاتے ہیں۔ اس کا تحمل کیا۔ جس کے بوجھ سے اس کی پیشانی بھی پسینہ پسینہ ہو جاتی تھی اس کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا قریش مکہ کی مخالفت جو انسانی قوی اور ہمت کو شکستہ کر دینے والی تھی۔ مگر آپ کے رب نے اس کا بوجھ بھی آپ سے ہلکا کر دیا اور یہی نہیں کہ قلب کا انفراج و اطمینان و تسکلی اور استقامت ہو اور مصائب و آلام کا بوجھ دور کر دیا جائے۔ مزید یہ انعام بھی فرمایا کہ اور بلند کر دیا ہم نے آپ کا ذکر۔ اس طرح کہ آپ کا دین بھی مشرق و مغرب تک پھیلا۔ نام بھی اس قدر بلند ہوا کہ اذان کے کلمات میں اللہ کے نام کے ساتھ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کی صدا فضاؤں میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ بلاشبہ یہ انعامات جو اللہ کی طرف سے آپ پر فائز کیے گئے بہت عظیم اور بلند ترین انعامات ہیں۔

قومی زندگی میں پیش آنے والے وقتی مصائب اور شدائد سے گھبرانانا چاہیے کیونکہ یہ قانون قدرت ہے۔ بس ہر ایک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک ہر دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپ نے جو سختیاں برداشت کیں اور جو مصائب جھیلے ہر ایک سختی اور مشقت کے نتیجہ میں آسانی اور سہولت ہوگی۔ ایک نہیں بلکہ کئی کئی آسانیاں اور راحتیں ایک ایک

عہ حضرات اصولین اور علماء عربیہ کہتے ہیں کہ معرفہ کا اعادہ معرفہ کی شکل میں کیا جائے تو دوسری مرتبہ کے معرفہ کا مفہوم عین وہی ہوتا ہے جو پہلے معرفہ کا ہے۔ لیکن جب نکرہ کا اعادہ نکرہ کی شکل میں کیا جائے تو اول کے علاوہ دوسرا مراد ہوتا ہے تو یہاں اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا میں الْعُسْرُ معرفہ مکرر لایا گیا تو ایک ہی سختی اور دشواری مفہوم ہوتی۔ اور اس پر ہر مرتبہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا لانا دو سہولتوں کا مفہوم ادا کرنے والا ہوا۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے لَنْ يَغْلِبَ عَسْرُ يُسْرَيْنِ کہ ایک دشواری ہرگز دو سہولتوں پر غالب نہیں آسکتی۔ اسی معنی پر بعض عارفین کا یہ قول مشتمل ہے لَوْ جَاءَ الْعُسْرُ فَدَخَلَ هَذَا الْبَحْرُ لَجَاءَ هَذَا الْيُسْرُ حَتَّى يَدْخُلَ عَكْبَسٌ فَيُخْرَجُ جَاءً۔ کہ اگر کوئی مصیبت اور دشواری آکر اس سوراخ میں داخل ہو جائے تو فوراً ہی اس کے پیچھے پیچھے اس سوراخ میں سہولت داخل ہو کر اس دشواری کو نکال پھینکے گی۔

اسی ضابطہ پر یہ چیز مقرر کر دی گئی ہے کہ جو شخص بھی کسی سختی پر صبر کرے اور سچے دل سے اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھے اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس خدا ہی کی طرف ٹوٹ جائے اور اس کے فضل و رحمت کا امیدوار بن جائے گا تو دیکھے گا کہ کس طرح قدرت خداوندی اس کی تکالیف و مشکلات کو راحتوں اور نعمتوں سے بدل دالتی ہے۔ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ سے جو الفاظ نقل کیے گئے وہ سعید بن منصورؒ عبدالرزاقؒ عبد بن حمیدؒ جن بھری اور بھتی نے مرفوعاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی روایت کی ہے۔ مسند بزار میں بھی اسی مضمون کی ایک روایت ہے۔ حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی انبساط و خوشی کے عالم میں حجرہ سے باہر تشریف لائے اور یہ فرما رہے تھے۔ (باقی ماشیہ اگلے صفحہ پر)

شدت و مشقت کے بعد میسر ہوں گی۔ تو اس طرح آپ کے قلب کو سکون و سنجلی حوصلہ اور ہمت کی بلندی اور آپ کے ذکر کی عظمت ہم نے قائم کر دی کہ اذان و اقامت میں۔ تشہد میں خطبہ میں۔ درود میں۔ ہر مواعظ و نصیحت میں اللہ کے نام کی عظمت کے ساتھ آپ کے نام کی عظمت والبتہ کر دی گئی۔

بہر کیف جب آپ کو یہ نعمتیں عطا کر دی گئیں تو اب آپ ہمت سے اپنے کام میں لگے نہیں۔ اور جب آپ منصب رسالت کی ذمہ داریوں۔ تبلیغ احکام اور تعلیم امت سے فارغ ہو جایا کریں تو دیگر امور اور اپنی ذات خاص سے متعلقہ عبادات میں محنت کیا کیجیے۔ اور ان تمام مخالفتوں اور دشواریوں سے بے نیاز ہو کر اور ہر طرف سے ٹوٹ کر بس اپنے رب ہی کی طرف رُخ کر لیجیے۔ وہی کار ساز ہے وہی ہر تدبیر کو کامیاب بنانے والا ہے۔ نصیحت و تعلیم اور تبلیغ یہ بے شک آپ کے کام ہیں مگر ان سب سے فارغ ہو کر اصل ہی ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وہی ان تمام گوششوں کو کامیاب بنانے والا ہے۔ ان ہدایات و تعلیمات سے مخلوق کو نفع بھی اللہ ہی کی توفیق و مشیت سے ہوگا اور ہر عملی جدوجہد بھی خدا ہی کے فضل اور اس کی اعانت سے کامیاب اور قبول ہوگی۔ اس لئے ان تمام محنتوں کے بعد نظر اپنی سعی اپنی کسی محنت اور کسی صفت پر نہ ہونی چاہیے بلکہ ہر محنت و سعی اور اداء فرض اور ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد رجوع الی اللہ ہی اصل چیز ہے وہ ہونا چاہیے۔ اسی پر فوز و فلاح کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔

فائدہ ان انعامات کی تعبیر میں کہ ضمیر خطاب کے ساتھ ان کو ذکر فرمایا۔ شرح صدر۔ وضع دزر۔ اور رفع ذکر۔ و رزقک۔ رکعتنا لک۔ اگرچہ از روئے عہدیت یہ کافی تھا کہ بغیر صلہ کہ ان انعامات کو بیان کر دیا جاتا لیکن ان انعامات کا آپ کی ذات اقدس کے ساتھ اختصاص ظاہر کرنے کے لئے ترکیب اضافی کے ساتھ ضمیر خطاب بھی لائی گئی۔ ہم نے اسی وجہ سے "اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ" کے ترجمہ میں لفظ آپ کی خاطر کا اضافہ کیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

شانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی

آیت مبارکہ "وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ" میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی بیان کی

باقی حاشیہ ۴۸۰ بے شک ایک عمر (صحتی) دو لیر (آسانی) پر غالب نہیں آسکتی۔ کسی نے یہی بات اس طرح شعر میں ادا کر دی ہے۔

اذا اشتدت بک البلوی ففکر فی الم نشرح

ففسر بین یسرین اذا فکرتہ فاشرح

گئی کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آپ کا نام اونچا کیا۔ چنانچہ آپ کے نام مبارک کی عظمت و بلندی کا یہ مقام ہے کہ اذان میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پانچ وقت آپ کا نام مبارک بھی پکارا جاتا ہے۔ خطبہ میں حضرت پرشاد و درود ہوتی ہے۔ کلمہ جو ایمان کی جڑ ہے اس کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے۔ ہر حال میں باسنتنا موضع چند جہاں حق سبحانہ کا ذکر ہے وہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ عالم غیب میں آپ سلطان ہیں کوئی جگہ اور کوئی محل نہیں جہاں آپ کا ذکر خیر نہ ہو۔ قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ ملائکہ بھی پوچھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع تھا یا نافرمان۔ ان پر ایمان بھی لایا تھا یا نہیں۔ جنت کے دروازے اور عرش کے کنگروں پر بھی اسم گرامی مکتوب ہے۔ موافق یا مخالف کی کوئی ایسی تاریخ نہیں جس میں حضرت کا ذکر نہ ہو۔ منکر بھی محامد ہی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اب معورہ دنیا پر ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں آپ کا ذکر نہ ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر اور کیا رفعت ہوگی۔ حضرت علامہ حقانیؒ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں۔

اس رفعت ذکر کو ایک محل رفیع الشان سے تشبیہ دی جاوے کہ جس میں بارہ کمرے ہوں تو نہایت ہی مناسب ہے۔ ہر ایک میں آپ ہی حاکم اعلیٰ ہوں۔ جس کی توضیح یہ ہے کہ ایک کمرہ میں ایک بادشاہ عظیم الشان بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے روئے زمین کے بڑے بڑے بادشاہ عرب و عجم روم۔ شام ایران و ہندو وغیرہ ممالک کے دست بستہ حاضر ہیں اور تذاویر مملکت اور قوانین جہاننداری آپ سے دریافت کر رہے ہیں اور جو کچھ آپ فرماتے ہیں اس کو سرا اور آنکھوں پر رکھتے ہیں۔ کہیں ہارون الرشید دست بستہ کھڑے ہیں کسی گوشہ میں ناموں ہیں کسی میں سلاطین سلجوقیہ ہیں۔ پھر ان سے پیچھے کہیں خلفائے مسر ہیں۔ پھر ان سے پیچھے کہیں سلطان بایزید یلدرم ہیں اور کہیں سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ ہیں۔ اور کہیں تیمور صاحبقران ہیں۔ اور کہیں علاؤ الدین خلجی اور سلطان محمود۔ الغرض ہر ملک اور ہر زمانہ کے نامور باقبال بادشاہ جن کے تذکروں سے کتب تواریخ مزین ہیں اور جن کے کارنامے زبان زدِ خلایق ہیں ایک شاہنشاہ کے سامنے مسلح حاضر ہیں اور حکم کے منتظر ہیں اور ان جملہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے۔ وہی ذات بابرکات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔

پھر دو سو کمرہ میں ایک حکیم استاد زمانہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے دنیا بھر کے حکماء اور فیوض دست بستہ حاضر کھڑے ہیں اور علوم سیاست منزل۔ تہذیب اخلاق و درستی آداب حاصل کر رہے ہیں۔ کہیں ابوعلی سینا کھڑا ہے۔ کہیں ابوریحان بیرونی کھڑا ہے کہیں ابو نصر فارابی۔ اور کہیں شہرستانی اور کہیں نصیر طوسی وغیرہ حکماء و ہر علوم کا استفادہ کر رہے ہیں اور وہ استاد کل صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اس کی استعداد و فہم کے موافق تعلیم دے رہے ہیں۔

تیسرے کمرہ میں قانون محمدی کی بہت سی کتابیں دھری ہوئی ہیں ہدایہ وغیرہ۔ اور ایک قاضی القضاة علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑی تمکنت اور وقار سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کے سامنے بڑے بڑے معارف فہم اور موجد قوانین سیاسیہ و نوابیہ حاضر ہیں۔ کہیں امام ابوحنیفہؒ ہیں تو کہیں قاضی ابویوسفؒ اور امام محمدؒ اور امام مالکؒ امام شافعیؒ

حاضر ہیں۔ پھر ان کے پیچھے امام الحرمین و ابن دقیق العید و تاج الدین سبکی وغیرہ حاضر ہیں اور آپ کے فیصلہ جاتا اور ارشادات کو اپنا دستور العمل بنا رہے ہیں۔

چوتھے کمرہ میں ایک مفتی متبحر سنداً افتاء پر بیٹھے ہوئے ہیں اور علوم و فنون کے دریا جو اس کے سینہ میں جوش زن تھارواں ہیں کہیں تو سنئے واقعات کے احکام کتاب و سنت سے قواعد اصول کے مطابق نکال کر توضیح کی جا رہی ہے۔ کہیں محدثین فخر روزگار فنون احادیث سے بحث کر کے مستفید ہو رہے ہیں اور کہیں مفسرین زبان قرآن مجید کے جلو میں جو جو اسرار و دیبعت رکھے ہوئے ہیں ان سے استفادہ کر کے قلم بند کر رہے ہیں۔ اور کہیں واقعات قرآنیہ کی تحقیق کر رہے ہیں۔ اور کہیں اہل دل ان آیات سے جن میں روحانی جذبات مذکور ہیں۔ استفادہ کر کے حفظ و افراٹھا رہے ہیں۔ کہیں فرائض نویسوں کی ایک جماعت مسائل فرائض و میراث دریافت کر رہی ہے۔ اور کہیں قراء بیٹھے ہوئے تصحیح قرأت کر رہے ہیں۔ اور الفاظ قرآنیہ کو انہیں کلب و لہجہ سے ادا کرنا سیکھتے ہیں اور کہیں نماز و روزہ حج و زکوٰۃ وغیرہ فرائض کے آداب و سنن پوچھ رہے ہیں اور کہیں معاملات بیع و رہن وغیرہ کے متعلق مسائل دریافت کر رہے ہیں اور کہیں متکلمین علم عقائد کے مسائل کا استفادہ کر رہے ہیں۔ مخلوق کی ابتداء اور انتہاء اور صفات باری اور اس کے افعال اور وجود ملائکہ اور انکے پیغمبروں اور ان کی کتابوں اور ان کے شرائع سے سوال کر رہے ہیں کہیں مرنے کے بعد سے لیکر جو کچھ اخیر تک روح پر واقعات گورتے ہیں ان کا حال دریافت کر رہے ہیں اور کہیں دنیا بھر کے مذاہب کا حال دریافت کر رہے ہیں کہ ان میں سے کون کون سے غلط اور خیالات جاہلانہ پر مبنی تھے۔ اور کون سے من اللہ ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام کی معرفت دنیا میں ظاہر ہوئے تھے مگر بعد میں ان میں تحریف و تبدیل ہو کر ان کی صورت بگڑ گئی اور کہیں ایک جماعت اسرار احکام الہی دریافت کر رہے ہیں اور کہیں علم زہد و رقائق کے دقائق حل کر رہے ہیں۔ یہ مفتی متبحر وہی سردر کائنات ہیں۔ علیہ فضل التمجید والصلوة۔

پانچویں کمرہ میں ایک مختص باوقار مسند حکومت پر بیٹھا ہوا ہے اور احکام الہی سے نافرمانی کرنے والوں کو سزائیں دلوار رہا ہے کہیں زانی سنگسار ہو رہا ہے اور کہیں جو رکے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں اور سکرات کے استعمال کرنے والوں پر ڈرے پڑ رہے ہیں۔ کہیں ظلم و تعدی کرنے والوں کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ اور کہیں ہجو و لعب ناچ بدمعے والوں پر کڑے پڑ رہے ہیں۔ شہوات اور فسق و فجور کے رسوم مٹانے جا رہے ہیں۔ دغا بازوں، مکاروں، فریبوں پر سزائیں ہو رہی ہے۔ مرتش حکام سے باز پرس ہو رہی ہے یہ صاحب وقار محتسب بھی وہی عالی جناب ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

چھٹے کمرہ میں ایک ملکی تدابیر اور پولیٹیکل خیالات کا حل کرنے والا نہایت عزد و وقار سے مسند پر بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مدبران ملک دست بستہ زمانہ کے موافق تدابیر پوچھ رہے ہیں پھر کہیں سلطنت کے اصول بیان فرما رہے ہیں۔ افسر ہنر شوری کا اشارہ کر کے کاروبار سلطنت کے لئے مدبران قوم کو کیسی مجلس قائم ہونے کا حکم دے رہے ہیں اور تمام شاہی اختیارات قومی مشورہ کے سپرد فرما رہے ہیں اور کہیں سلطنت کے

استحکام کے لیے قومی لشکر جہاد کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔

وَأَعِزُّوا نَفْسَكُمْ مِمَّا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا أَمْرَ السُّلْطَانِ الْمَعْرُوفِ وَالْعَدْلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

کی تاکید فرما رہے ہیں۔ اور طرزِ ان سلطنت کو انہوں کی اطاعت کا حکم مؤکد صادر فرما رہے ہیں۔ من اطاع امیرہ فقتدا طاعنی پھر قرب و جوار کی سلطنتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ اس کے قوانین و دستور کی تعلیم دے رہے ہیں کہیں ملک میں امن و امان قائم کرنے کی تاکید شدید کر رہے ہیں کہیں جہاد ناموں کی پابندی پر مجبور فرما کر قوم کے عزت و وقار کو قائم رکھنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ کہیں قوم کو ماتحتوں پر رحمت و شفقت کی ترغیب دلا رہے ہیں اور کہیں سرکشوں۔ غیرہ چشموں سے سختی اور جو انہر دی کرنے کی تاکید فرما رہے ہیں کہیں لیتے کہ قیام سلطنت کے ہی اصول ہیں۔ کہیں قوم کو نیک چلنی اور پرہیزگاری کی تعلیم و عیش و نشاط میں پڑنے کی ممانعت کر رہے ہیں اور باہمی اتحاد و محبت کے اصول جماعت کی نماز جمعہ و عیدین اور حج اور بیمار کی پرسش اور سلام کا جواب دینا۔ حاجات میں کام آنا۔ معاملات میں درگزر کرنا وغیرہ تعلیم کر رہے ہیں۔ اور کہیں فتوحات کے حوصلے دلا رہے ہیں اور احدی بن کر گھر میں بیٹھ رہنے کی برائیاں بیان فرما رہے ہیں یہ کون ہیں؟ وہی علیؑ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔

ساتویں کمرہ میں ایک عابد و زاہد دنیا و مافیہا پر لات مارے کس استغناء سے بیٹھا ہوا ہے اور صبح سے شام تک اور رات دن میں اپنی عمر گرانمایہ کی ایک گھڑی تو کیا پل بھی بیکار نہیں کھوتا۔ کبھی تکادست قرآن مع اللہ بر التمام ہے اور کبھی نوافل میں مشغول ہیں کبھی تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں اور اوراد و دعویہ صبح و شام رات اور دن میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کرتے۔ ایک خشک ٹکڑے اور پانی کے گھرنٹ اور موٹے پرانے کپڑوں پر اقتصار ہے۔ اور کسی غار یا ٹوٹے پھوٹے مکان کے گوشہ میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر انوار چمک رہے ہیں۔ لوگوں کو ان سے دلی انس ہے۔ حالانکہ علوی و مغلی بھی ان کے پاس آتے ہیں اور بندگان خدا بھی جوق در جوق آکر مستفید ہوتے ہیں پھر کسی کو نوافل اور تہجد میں اوراد و اشغال کی تعلیم ہے کسی کو دن کے وظائف کی تلقین ہے کسی امیر کی پروا نہ کسی دولت مند کے آنے کی تمنا یہ حضرت بھی وہی سردور کائنات ہیں۔ صلوة اللہ علیہ وسلم

آٹھویں کمرہ میں ایک عارف کامل تشریف رکھتے ہیں جو کہ ذات و صفات کے اسرار اور عالم ناسوت و ملکوت کے حقائق اس کے دل فیض منزل پر منکشف ہیں حقائق و معارف مواجید و اشواق کا اس کی زبان فیض ترجمان سے دریا جاری ہے نفوس الحکم و فتوحات کعبہ وغیرہ کتابیں اسی ذات مقدس کے بیانات سے لکھی جا رہی ہیں وہ بھی آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم۔

نویں کمرے میں ایک واعظ منبر پر بیٹھا ہوا۔ لوگوں کی روح اور دلوں کو اپنے کلام کی تاثیر سے ہلارہا ہے اور ایسا سکھ جمار ہے کہ پھر وہ دور ہی ہمیں ہوتا۔ کسی کو ثواب عظیم و اجر جلیل کی ترغیب سے راہ پر لا رہا ہے اور کسی کو عذاب قبر اور عذاب جہنم کی پشیمیں دکھا کر توبہ کر رہا ہے۔ اور کسی کو دارِ آخرت کے درجات اور

حیاتِ جاودانی کے برکات دکھا کر نیک کاموں پر آمادہ کر رہا ہے۔ ہزاروں کافر و بت پرست کفر و بت پرستی سے توبہ کر کے ایمان لارہے ہیں۔ بدکار اپنی بدکاری پر نادم ہو کر رو رہے۔ سنگدلوں کا دل موم ہو کر پگھلا جا رہا ہے۔ مجلس میں آہ و بکاکی آواز دلوں کو ہلا رہی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ اثر میں وہ قیام ہے کہ پھر دور ہی نہیں ہوتا جو ایک بار بھی اس مجلس میں آگیا اس پر بھی ایسا رنگ جما کر عمر بھر نہ اترتا۔ خوشخوار خوبی ایسے رحم دل ہو گئے کہ چڑیا کے بچے پر بھی اپنے بچوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ شہوت پرست پر ہمیزگار بن گئے۔ سست و غافل ہوشیار بن گئے۔ کنجوس اور کتر سخی ہو گئے۔ دنیا کی کاپیٹ گئی۔ یہ حضرت داعظ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

دوبی کرہ میں ایک بڑے مرشد کامل صاحب طریقہ و صاحب دل بیٹھے ہوئے ہیں جس کی نگاہ خاک کو کیمیا کر رہی ہے طالبانِ خدا کا اس کے ارد گرد ہجوم ہے وہ ہر ایک کے اس کی استعداد کے موافق حجاب دور کر رہے ہیں اور وصول الی اللہ کے رستے بتا رہے ہیں اور ان کے مقامات و احوال اور مراتب و مناصب ظاہر کر رہے ہیں اور مریدین کے باطن میں رنگ و رنگ تو جہات و تاثیرات پیدا کر رہے ہیں کسی کو وجد آ رہا ہے کوئی حیرت زدہ ہو رہا ہے کوئی لطائف پر نظر کر رہا ہے کسی پر فناء کا غلبہ ہے تو کسی پر بقا کا۔ کوئی معیت کے دریا میں ڈوبا ہوا ہے تو کوئی تفرید کے جنگل میں ٹکرا رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی و شبلی و سید عبد القادر جیلانی و شیخ احمد بردوی و معین الدین چشتی و نظام الدین محبوب الہی و شیخ شہاب الدین سہروردی و خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی وغیرہ اولیاء کرام ہیں۔ یہ مرشد کامل بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

گیارہویں کرہ میں ایک نور پیکر بیٹھا ہوا ہے جس کے رخساروں پر آفتاب و ماہتاب قربان ہو رہے ہیں۔ اور آسمان کے ستارے نثار۔ وہ جمال الہی کا پورا آئینہ ہے ازلی محبوبیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ اس میں ایک ایسی کشش جو تمام بنی آدم کے دل بخود اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ مخلوق پروردانہ کی طسرح بے اختیار اس شمع پر قربان ہو رہی ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔

بارہویں کرہ میں ایک رسول صاحب کتاب نہایت عز و شان کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت ابراہیم و اسحاق و یعقوب و داؤد و سلیمان دوسرے و بیٹے علیہم السلام ان کے ارد گرد تشریف رکھتے ہیں اور یہ خاتم النبیین ان کی شریعتوں میں اصلاح کر رہے ہیں۔ کہیں ضرورت زمانہ کے لحاظ سے کچھ احکام بڑھا رہے ہیں کہیں گھٹا رہے ہیں۔ کہیں بیٹے ہوئے نشانوں کو از سر نو قائم فرما رہے ہیں۔ اور سب تسلیم کر رہے ہیں اور اپنا استاد مان رہے ہیں۔ یہ بھی وہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔

یہ ہے وہ شرح صدر اور یہ ہے وہ رفیع ذکر جس کی پوری شرح ایک کتاب میں بھی ناممکن ہے۔ حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ۔ اس شانِ رفعت کی ترجمانی اس طسرح فرمایا کرتے تھے۔

من اللہ مشہور ریلح و یشہد
اذا قال فی الخمس المؤمن اشہد

اغتر علیہ للنبوة خاتم
وکتم اللہ اسم النبی مع اسم


وَشَقُّ لَدُنَّ مِنْ أَسْمَاءٍ لِيَجْلِسَ
فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ هَذَا مُحَمَّدٌ
تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْشُرِاحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُورَةُ التَّيْنِ

سورۃ التین مکی سورت ہے جس کی آٹھ آیات ہیں۔ مکی سورتوں کے مضامین کی طرح اس سورت کا بھی اہم موضوع اور مقصد بیان ایمان بالآخرۃ حساب اور جزا اعمال ہے۔ سورت کی ابتداء انجیر اور زیتون کے درخت کی قسم کھا کر کی گئی اور ان دو عظیم المنفعۃ درختوں اور پھلوں کی قسم کے ساتھ اماکن مقدسہ یعنی طور سینا اور یلدایین مکہ مکرمہ کی بھی قسم کھا کر ان کی برکتوں کی طرف ذہن کو متوجہ کیا گیا۔ جو ان مقامات مقدسہ میں ودیعت رکھی گئی ہیں کہ طور سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت سے شرف ہمکلامی نصیب ہوا۔ اور سرزمین مکہ مہبط وحی ہے ان عظیم الشیاء کی قسم کھا کر بطور جواب قسم انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا۔

انجیر و زیتون کثیر المنفعۃ اور جامع الفوائد ہونے کی وجہ سے انسان کی حقیقت جا سور سے پوری پوری مشابہت رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے جواب قسم کے مضمون میں لَعَدُوْا خَلْقَنَا اِلَّا نَسْاٰنًا فِیْ اَحْسَنِ نَفْوٰیْنِمْ فرمانا نہایت ہی مناسب ہوا۔ پھر تخلیق انسانی میں یہ فرمانا کہ اس کو ایک بہترین پیکر اور حسین ساخت میں اللہ نے بنایا ہے۔ قدرت خداوندی کی اکل ترین دلیل کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد کفار پر وعید اور تنبیہ فرمائی گئی جو بعث بعد الموت کا انکار کرتے تھے اور اخیر میں دلائل قدرت کو انسانی عقول اور نظروں کے سامنے نمایاں کرتے ہوئے یہ سوال کیا گیا کہ اب اس کے بعد کوئی منکر انسان آخر کس بنا پر قیامت اور بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے جب کہ ہر انسان کی تخلیق اس کے وجود اور اس کے تغیرات میں ان سبب امور کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ تمام مشاہدات اس سر پر انسان کو آمادہ بلکہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ قیامت پر ایمان لائے۔ حساب و کتاب پر یقین رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کو احکم الحاکمین ماننے لے۔



آیاتھا ۸ = ۹۵ = سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ = ۲۸ = وَكُوعَهَا ۱

سورہ تین مکی ہے اس کی آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۱ وَطُورِ سِیْنِیْنِ ۲ وَهَذَا الْبَلَدِ

قسم انجیر کی اور زیتون کی - اور طور سینین کی - اور اس شہر

الْاَمِیْنِ ۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ۴

امن دالے کی - ہم نے بنایا آدمی خوب سے خوب اندازہ پر۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنِ ۵ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا

پھر پھینک دیا اس کو نیچوں سے نیچے - مگر جو یقین لائے، اور کریں

الصَّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُونٍ ۶ فَمَا یُكْذِبُكَ بَعْدُ

بھلائیاں - سو ان کو نیک ہے بے انتہا - پھر اس سے بچھے تو کیوں جھٹلاوے

بِالَّذِیْنِ ۷ اَلِیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۸

بدل ملنا - کیا نہیں ہے اللہ سب حاکموں سے بہتر حاکم -

شہادت اشجار و اماکن بر خالقیت

رب العالمین و مبدئو معاد انسان

قال اللہ تعالیٰ وَالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ الی بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ

(ربط) گزشتہ سورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خاص انعامات سے نوازا گیا تھا۔ ان کا ذکر تھا۔

آپ کے قلب کو وحی الہی اور منصب رسالت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کے لئے کھول دیا اور آپ کے حوصلہ کو اس قدر بلند اور قلب مبارک کے وسیع کر دیا کہ اس میں علوم و معارف اور حقائق و حکم کے سمندر سما گئے۔ اور آپ کا نام بلند کر دیا۔ اور شان اس قدر اونچی کر اس سے بڑھ کر کسی عظمت و بلندی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اب اس مناسبت سے اس سورت میں انجیر، زیتون جیسے عظیم المنفعہ پھلوں اور درختوں اور طور سینین اور بلدۃ الحرام جیسے متبرک اور مقدس مقامات کی قسم کھا کر انسانی تخلیق کا ذکر فرمایا اور اس کی زندگی میں واقع ہونے والے تغیرات سے بعد الموت اور مسئلہ مجازات کو ثابت فرمایا گیا۔ ارشاد فرمایا۔

قسم ہے انجیر کی اور اس کے درخت کی اور زیتون کی اور اس کے درخت کی۔ اور قسم ہے طور سینین کی یعنی طور سینا کی جہاں حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہمگلا می بخشا۔ اور وہ تقرب عطا فرمایا جو قَسْرَ بِنَاءٍ نُجَيًّا میں ذکر فرمایا گیا اور قسم ہے اسن والے شہر مکہ مکرمہ کی جہاں سے سارے عالم کو علوم ہدایت سے سیراب کیا گیا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت کے آفتاب نے وہاں سے طلوع ہو کر پوری دنیا کو روشن کر ڈالا جب کہ عالم پر جہالت اور کفر کی ظلمتیں محیط تھیں اسی شہر میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی امانت (یعنی قرآن) نازل فرمائی۔ بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ایک بہترین پیکر میں اور نہایت ہی حسین ساخت میں قدر قامت صورت و شکل اور تناسب اعضاء کے باعث بڑا ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ یعنی جس طرح اس کو معنوی خوبی عقلی اور فکری صلاحیتوں کی عظمت و بلندی عطا کی تھی۔ ظاہری پیکر کے لحاظ سے بھی اس کو احسن تقویم اور بہترین ساخت میں پیدا کیا تاکہ معنوی شرف و عظمت کے ساتھ پیکر انسانی کی مطابقت ہو جائے۔ پھر ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں سے نیچے طبقہ میں اور پستی کی حالت میں۔ ایسے بڑھاپے میں پہنچا دیا کہ نہ قوی رہے۔ نہ صورت و شکل کا وہ حسن و جمال باقی رہا۔ پیدائش ضعف کی حالت میں ہوئی ہاتھ پاؤں کمزور تھے لیکن نشوونما پا کر جوان ہوا۔ بدن میں قوت و مضبوطی پیدا ہو گئی۔ پیکر جسمانی کا حسن و جمال بھر پور ہو گیا مگر یہ چند مدت تک کی بات تھی۔ پھر بڑھاپے نے انحطاط و ضعف کی طرف لوٹنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ ضعف و پستی کی آخری منزل تک پہنچ گیا۔ جیسے کہ ارشاد مبارک ہے۔

عہ بعض مفسرین نے اسفل السافلین کی تفسیر میں ازل عمر تک انسان کا پہنچانا بیان کیا ہے کہ جس عمر میں پہنچ کر انسان کے ہوش و حواس بھی جاتے رہیں۔ آنکھوں اور کانوں سے بھی محتاج ہو جائے۔ ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا انہوں نے فرمایا۔ قرآن کریم کا ماحفظ اور اس کی تلاوت کا شغف رکھنے والا۔ اس نوبت تک پہنچنے سے محفوظ رہے گا اور عمر اس کی خواہ کتنی ہی بڑی ہو جائے اس کے ہوش و حواس بجا رہیں گے۔ مجاہدؓ اور ابوالعالیؓ اسفل السافلین سے جہنم کے طبقات میں سے نیچے سے نیچا طبقہ مراد لیتے تھے۔ تو مراد یہ ہو گی کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا۔ اور اس کے بہترین قالب میں ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس حسین قالب میں سجانے والی چیزیں (اعمال و اخلاق اور کردار) بھی بہترین ہی ہوں تاکہ قالب کی خوبی اور شرافت کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ الْاَيَةِ لَكُمْ جِوْجَ اِيْمَانٍ لائِيْ اُوْر
 نیکی کے کام کیے تو ان کے واسطے یقیناً اس قدر اجر و ثواب ہو گا کہ جو کبھی بھی منقطع نہ ہو تو یہ ایمان و عمل صالح
 والے اسفل السافلین کی طرف نہیں لوٹانے جائیں گے ان کو ذلت و پستی کے مقام میں گرنے سے مستثنیٰ کر لیا جائے
 گا۔ الغرض جب خداوند عالم کی قدرت کے یہ مناظر نظروں کے سامنے ہیں کہ انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا جا
 رہا ہے۔ وہ کمزوری سے قوت و جوانی کی طرف اور پھر جوانی سے بڑھاپے اور کمزوری یا پستی کی طرف لوٹ رہا
 ہے تو انسانی بدن میں یہ تغیرات قادر مطلق کی قدرت اور حکمت کا عظیم ثبوت ہیں ایک انسان کی ذات میں
 رونما ہونے والے یہ تغیرات عالم پر واقع ہونے والے تغیرات اور عالم کے شباب کے بعد کے بعد بڑھاپے اور زوال پر زبان حال سے پوری
 پوری گواہی دے رہے ہیں۔ ان دلائل کا مشاہدہ کرنے والا یہ قدرت و جزأت نہیں رکھتا وہ قیامت اور بعثت
 بعد الموت کا انکار کر سکے۔

تو پھر لے مخاطب بتا اس کے بعد کون سی وہ چیز ہے جو سمجھ کو منکر بنا رہی ہے، قیامت کے روز جزاء
 و سزا کے معاملہ میں اور کون سی وہ بات ہے جو اس امر پر انسان کو آمادہ کر رہی ہے کہ وہ بعثت بعد الموت
 اور اعمال کی جزاء و سزا کو نہ مانے، حالانکہ یہ تمام دلائل و شواہد موجود کر رہے ہیں کہ انسان قیامت پر ایمان
 لائے اور جزاء و سزا پر یقین کرے۔ ان تمام دلائل اور عالم کے جملہ احوال و تغیرات کو دیکھنے والے انسان
 بتا۔ کیا نہیں ہے اللہ سب سے بڑا حاکم تمام حاکموں سے، ضرور بالضرور وہی سب سے بڑا حاکم ہے، سب مانتے
 ہیں اور ماننے پر مجبور ہیں، عقل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کے احکام کا ثبات پر نافذ و جاری
 ہیں اور کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے سامنے سرنگوں ہے، دنیا جب سے قائم ہے اس کے حکم سے زمین آسمان
 میں کوئی بھی مرتابی نہیں کر سکا، جانور، سورج، ہوا میں، بارش اور بادل پر مداور پر نہ غرض ہر چیز اسکی مطیع و فرمانبردار ہے۔

ابو باد و مہ و خورشید و فلک در کارند تا تو نمانے بکف آری و بغفلت نہ خوری
 آب و باد و خاک آتش بندہ آند با من و تو مردہ با حق زندہ آند

(باقی حاشیہ) ساتھ اعمال و کردار کی خوبی اور عظمت بھی جمع ہو جائے، لیکن یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ وہ
 اپنے نفس کی ہوس و گندگی میں پڑ کر پستی کا مقام اختیار کر لیتا ہے اور اسفل السافلین کی طرف لوٹ جاتا
 قضا و قدر کے فیصلہ یعنی تقدیر الہی سے ہے اس وجہ سے اس کی نسبت حق تعالیٰ نے اپنی جانب نرمائی
 اور انسان چونکہ اپنے اعمال و افعال کا خود اپنے ارادہ اور اختیار سے کام لے رہا ہے اس وجہ سے ظاہر ہے کہ اس
 ارتکاب پر وہ سزا کا مستحق ہو گا۔

لیکن اس ذلت اور پستی کے مقام میں گرنے سے وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ تو
 یقیناً تعز و ذلت اور پستی میں گرنے سے مستثنیٰ رہیں گے تو اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحٰتِ کَالاِسْتِثْنَاءِ بِنظاہر اس مفہوم
 کی تائید کر رہا ہے۔ اور یہی مفہوم زیادہ احسن معلوم ہوتا ہے۔ ۱۲- (واللہ اعلم بالصواب)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سورۃ
والتین پڑھتے ہوئے اس آیت ”الْاِنْسِ اَللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ“ پر پہنچے تو اس کو کہنا چاہیے۔ بکلی وانا علی
ذٰلک و من الشّٰہدین کہ بے شک اللہ ہی ضرور احکم الحاکمین ہے اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔
فقہاء حنفیہ فرماتے ہیں نماز کے سوا جب بھی یہ آیت تلاوت کی جائے تو ان کلمات کا کہنا سنون ہے۔ لیکن دیگر فقہاء
ائمہ نماز میں بھی سنوینت کے قائل ہیں۔

تین اور زیتون کی تفسیر

ائمہ مفسرین اور حضرات محدثین و مؤرخین سے تین و زیتون کی تفسیر میں متعدد اقوال نقل کیے گئے ہیں۔
۱۔ اکثر علماء کا قول تو یہی ہے کہ تین سے انجیر کا درخت اور زیتون سے یہی زیتون کا معروف
درخت اور ان کے پھل مراد ہیں ان کے قسم کھانے کی غرض اور ان قسموں پر انسانی شرف کے مضمون کو
مرتب کرنے کی حکمت یہی ہے کہ ان میں بڑے ہی فوائد و منافع قدرت نے رکھے ہیں۔ چنانچہ انجیر عجیب
پھل ہے جس میں نہ گٹھلی ہے نہ پوست۔ غذا بھی اور دوا بھی جو متعدد امراض کے لیے نہایت نافع ہے
اور سریع الہضم بھی ہے۔ اطباء کے بقول گردوں کو صاف کرتا ہے بلغم اور اس کے اثرات کو دور کرتا ہے۔
جگر اور طحال کے لیے بھی مفید ہے اور مصلح ہے۔ پھر یہ کہ بلا تکلف کھایا جاسکتا ہے۔ اس کے درخت میں نہ کانٹا
ہے اور نہ درخت اس قدر اونچا ہے کہ اس پھل کے حاصل کرنے میں کوئی دقت و مشقت ہو اسی طرح
زیتون بھی ہے کہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتا ہے تو یہ دونوں پھل گویا اپنی خوبیوں کے باعث انسانی کمالات
سے مشابہت رکھتے ہیں۔

۲۔ دوسرا قول یہ ہے جیسا کہ کعبہ سے منقول ہے کہ تین و زیتون دو شہروں کے نام ہیں ”تین“ قدیم
تاریخ میں دمشق کو کہا جاتا تھا۔ اور ”زیتون“ بیت المقدس کا نام ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دونوں شہر اس
 لحاظ سے کہ حضرات انبیاء کا مولد و مسکن ہوئے ہیں متبرک ہیں بیت المقدس وہ اللہ کا گھر ہے جو اولادِ آسمان
 اور بنی اسرائیل کے انبیاء کا قبلہ اور اسلام میں بھی ہجرت کے بعد سولہ یا سترہ ماہ کے لیے قبلہ رہا جس کو قرآن
 کریم نے اَلَّذِیْ ہَاکُنَّا حَقُوْلًا فرمایا۔

اور ظاہر ہے کہ جو سرزمین انبیاء علیہم السلام کا مولد و مسکن ہو اور اللہ کے پیغمبر و اہل عبادت کرتے
 رہے ہوں بلاشبہ بڑی ہی بابرکت زمین ہے۔

۳۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں اور بعض ائمہ مفسرین و محققین اسی قول کو زیادہ بہتر
 قرار دیتے ہیں۔ تو رات سفر استثناء باب ۳۳ کی بشارت کے پیش نظر جس میں یہ فرمایا گیا ”خداوند سینا
 سے آیا اور ثنا غیر سے ان پر طلوع ہوا۔ فاران ہی کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا اس ہزار قدسیوں کے ساتھ
 آیا اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت ان کے لیے تھی اس بات کو تو اہل کتاب بھی تسلیم کرتے

ہیں کہ سینا سے کہہ سیکرہ ہے اور وہاں سے خداوند کا آنا حضرت موسیٰ پر تجلی کرنا اور شرف ہم کلامی عطا کرنا لیکن
تفسیر اور فاران سے جلوہ گر ہونے کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر معمول کرنے کی بجائے
فلسطین کے دو پہاڑوں کے نام بتاتے ہیں۔ بالفرض اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے تو پھر دس ہزار قدسیوں کی کیا
تاویل کریں گے۔ اس لئے حقیقت یہ ہے کہ تفسیر سے بیت المقدس کے پہاڑ مراد ہیں۔ مگر وہ پہاڑ جس پر شہر
بیت المقدس واقع ہے اس کے دو ٹکڑے ہیں۔ جن میں ایک کو اب تک جبل زیتون کے نام سے تعبیر
کرتے ہیں۔ اور دوسرے کو تین کہتے ہیں اور فاران ظاہر ہے مکہ مکرمہ کا پہاڑ ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور فتح مکہ کے وقت آپ نے دس ہزار قدسیوں کے ساتھ مکہ فتح کیا۔ اور آپ کے ہاتھ
کی آتشی شریعت نے مکہ کے بُت خانوں کو جلا کر خاک کر ڈالا اور عالم سے کفر و شرک کو مٹا دیا تو اس بشارت سے
بھی ان چار مقدس مقامات کا مفہوم واضح ہو رہا ہے۔ اور مناسب ہوا کہ ان کی قسم کھا کر جہاں سے نبوت و
رسالت کا آفتاب طلوع ہوا اور اس کے نور نے دنیا کو منور کیا۔ انسان کی سعادت و شقاوت کا مضمون بطور جوب
قسم مرتب کیا جائے۔

تم بحمد اللہ تعالیٰ تفسیر سورۃ التین .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ العلق

سورۃ العلق مکہ ہے جس کی انیس آیات ہیں

وحی الہی کا آغاز اسی سورت مبارکہ کی ابتدائی پانچ آیات سے ہوا۔ اسی پر تمام امت اور ائمہ مفسرین
کا اجماع ہے اس سورت کا سب سے پہلا موضوع تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدائی کیفیت
اور حالت کا بیان کرنا ہے پھر انسان کی اس کمزور اور غلط فطرت کا بیان ہے کہ جس قدر اس پر اللہ کے
انعامات ہوں اس کی سرکشی و طغیانی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں مشرکین مکہ میں خاص اشقیاء
کی شقاوت کا ذکر ہے۔ جیسے کہ ابو جہل۔ وہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
حرم مکہ میں نماز ہی پڑھ لیں۔ چنانچہ اس نے ایک روز غلاظتوں کا انبار اور ایک ذبیح شدہ اونٹ کا اوجھ
جو گوہر اور نجاستوں سے بھرا ہوا تھا۔ پشت مبارک پر لا کر رکھ دیا۔ وہ اور اس کے ساتھی اس بیہودگی پر توب
ہنسنے اور تہقیرے لگانے لگے۔ تو اس سورت میں اس تاریخی شقاوت کا بھی ذکر ہے اور ساتھ ہی تعالیٰ شانہ

کے عذاب اور قہر کی وعید ہے کہ اللہ رب العزت کے علم اور نظر سے یہ بدبختی کا عمل مخفی نہیں اور وہ وقت عنقریب آنے والا ہے کہ جہنم کے فرشتے ایسے مجرموں کو پکڑ پکڑ کر فکڑے کر ڈالیں گے، بلکہ دنیا ہی میں اللہ نے اپنے قہر اور گرفت کا منظر دکھا دیا کہ یہ تمام اشقیاء اور بدبخت غزوة بدر میں مارے گئے۔ ابو جہل زخمی ہوا اس کا سر قلم کرنے والے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے کان میں رسی باندھ کر کھینچے ہوئے حضور کے سامنے لے آئے۔ اور حرم مکہ میں جن بدبختوں کے نام لے لے کر حضور نے بددعا فرمائی وہ سب کے سب مارے گئے اور ان کے مردار اور لاشیں بدر کے ایک کنوئیں میں ڈال دی گئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف لاکر ان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اهل دَجْدُكُمْ مَا دَعَدْتِكُمْ حَقًّا۔ اِنَّكُمْ لَمَارِعِدْنَا رَبَّنَا حَقًّا کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ پورا پایا۔ جو تم سے کیا گیا تھا۔ ہم نے اس وعدہ کو پوری طرح پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیا تھا۔

ابتداء سورت میں قرآء اور تعلم کی دعوت دی گئی اور سورۃ کی انتہاء نماز اور بارگاہِ خداوندی میں سجدہ اور امر بالتقرب کے مضمون پر کی گئی جس سے یہ ظاہر ہو کر انسانی فز و فلاح کی ابتداء قراءت اور علم سے ہے اور اس کی منزل و مقصود و انتہاء عبادت اور قرب خداوندی ہے تو اس طرح کا تَجِدُ وَاَقْرَبُ پر سورت ختم فرمائی گئی۔

آیات ۱۹ = ۹۶ = سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ = ۱ = رَكْوَعُهَا ۱

سورۃ علق مکی ہے اس میں انیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۱ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ

پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے بنایا - بنایا آدمی ہو کی

عَلَقٍ ۲ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۴

پھنکی سے - پڑھ ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے - جس نے علم سکھایا قلم سے -

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۵ كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكَنَّاظٍ ۶

سکھایا آدمی کو جو نہ جانتا تھا - کوئی نہیں! آدمی سر چڑھتا ہے -

کی گئی۔ ان پانچ آیات کے نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ سلسلہ وحی منقطع رہا۔ اور اس انقطاع یعنی فترتِ وحی کے بعد سب سے پہلے یَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ نازل ہوئی۔ اور حضرت جابرؓ سے جو سورہ مدثر کی نزول میں روایت بیان کی گئی۔ اس کا یہی مفہوم ہے۔ چنانچہ امام بخاریؒ نے اس کی وضاحت دھو يحدث عن فترة الوحي کہہ کر فرمادی۔

اس سورت مبارکہ کی کیفیت نزول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے اس طرح ثابت ہوئی جیسے کہ امام بخاریؒ نے اس حدیث کو صحیح بخاری کے، باب کیفیت کان بدء الوحي الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے وحی کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ پہلے آپ کو مبارک اور سچے خواب نظر آنے لگے اور جو خواب بھی دیکھتے وہ صبح صادق کی روشنی کی طرح ظاہر و نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو غلوت نشینی کی رغبت ہو گئی۔ آپ غار حراء میں جا کر عبادت کرنے لگے جہاں کچھ دن اور راتیں رہتے پھر گھر آتے اور کچھ توشلے کر چلے جاتے یہاں تک کہ اسی غار حراء میں آپ پر حق ظاہر ہوا اور اللہ کا فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور کہا اِنشأ (پڑھو) جس کے جواب میں آپ نے فرمایا مَا أَنَا بِقَارِيءٍ (کہ میں تو ایسا نہیں کہ پڑھ سکوں) فرمایا فرشتہ نے مجھ کو پکڑ کر بھینچا اور خوب زور سے دبایا کہ مشقت اور تکلیف انتہا کو پہنچ گئی اور پھر چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ میں نے پھر وہی جواب دیا مَا أَنَا بِقَارِيءٍ۔ فرشتہ نے اسی طرح پھر تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور چھوڑ کر کہا اِنشأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ رَاحِلٌ وَرَبُّكَ الْكَوْكَبُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ان آیات کے — نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے اور آپ پر کئی اور لرزہ طاری تھا۔ آپ نے گھر جا کر فرمایا زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي تو گھر والوں نے کبل یا چادر اڑھائی اور پھر آپ نے غار حراء کا قعر بیان کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا اِنِّي خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي، کہ مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہوا وحی کی ہیبت و عظمت اور فرشتہ کو ایسی حالت میں دیکھ کر۔ اس کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی کہ آپ میں یہ کمالات ہیں کہ آپ سچ بولتے ہیں۔ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں بے سہارا لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں۔ جہاں لوازی کرتے ہیں اور پیش آنے والے حوادث و واقعات میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو جب آپ میں یہ کمالات اور اوصاف حسنہ ہیں تو خداوند عالم ہرگز آپ کو ناکام اور شرمندہ نہ کریں گے پھر آپ کو اپنے ابن عم ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو انجیل کا ترجمہ کر رہے تھے اور شرک و بت پرستی سے نفرت کرتے ہوئے اس زمانہ کا دین سادہ یعنی نصرانیت اختیار کر لی تھی۔ ورقہ بن نوفل نے تمام واقعہ سن کر تصدیق کی اور کہا هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَىٰ۔ یعنی یہ تو وہی اللہ کا ناقص ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر اتارا تھا۔ اور اس بات کی بھی تمنا کی کہ کاش اس زمانہ میں جب کہ آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ اگر میں زندہ ہوں تو آپ کی بڑی ہی قوت و ہمت کے ساتھ مدد کروں گا۔ تو اس طرح آپ کو حضرت خدیجہ نے استدلالی عقلی کے رنگ میں تسلی دی۔ اور

درقہ بن نوفل نے استدلالِ شرعی کے انداز میں تسلی دی اور آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی اس کے بعد سلسلہ نزولِ وحی منقطع ہو گیا اور مشہور و رائج قول کی بناء پر تقریباً پونے تین سال وحی منقطع رہی تاکہ پھر وحی کا سلسلہ سورہ مدثر کے نزول سے شروع ہوا۔ اور آیات يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ کے نزول سے آپ مامور بالرسالة فرما دیئے گئے۔ اور تبلیغ و دعوت کا حکم دے دیا گیا اور پھر پے در پے سلسلہ نزولِ وحی کا شروع ہو گیا۔ تو یہ پانچ آیات سب سے پہلی آیات ہیں جن سے وحی الہی کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کو منصبِ نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ اور اللہ کے فرشتہ کی طرف سے اقرآ کے خطاب اور امر بہد آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا مَا آتَانَا بِقَادِرِي کہ میں تو ایسا نہیں ہوں کہ پڑھ سکوں۔ اس کے جواب کے طور پر وحی الہی کا آغاز ہی ان کلمات سے ہوا اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یعنی آپ کو قرأت اور پڑھنے کا حکم بارگاہِ رب العزت سے آپ کی صلاحیت اور قدرت کی بناء پر نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے اور اس کے نام کی مدد سے۔ جس نے پیدا کیا ہے ہر چیز کو اور کائنات کی ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرمایا۔ تو جو ذات عدم سے وجود عطا کرنے والی ہے وہ ایک جاندار اور حس و شعور رکھنے والے انسان کو قرأت کا وصف کیسے نہیں عطا کر سکتی۔ اس کی شانِ خالقیت اور حکمت کے سوتے تو اظہر من الشمس ہیں۔ چنانچہ اس نے پیدا کیا انسان کو ایک جسمے ہوئے خون سے۔ جو نطفہ کی شکل سے جسے ہونے طون کی شکل اختیار کرتا ہے پھر وہی خدا اس میں نشوونما کی صلاحیت دیتا ہے اور اس میں ہاتھ پاؤں آنکھ ناک۔ کان بنانا یہ سب کچھ اسی کی صناعی ہے تو جس خلاق حکیم نے ایک قطرہ کو اس طرح تغیرات کے ساتھ یہ سب کچھ عطا کیا ہے وہ ایک زندہ بینا و بصیر انسان میں جو اگرچہ پڑھا ہوا نہیں قرأت کی صفت نہیں دے سکے گا تو آپ کو اس رب خالق اور صانع حکیم کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھیے اور اگر یہ تصور و خیال ہو کہ ایسی عظیم صفت اور خوبی کس طرح دے دی جائے گی تو فرمایا گیا اور آپ کا رب تو بڑا ہی کرم والا ہے۔ اس لیے یہ گرانقدر فضل و انعام اس رب کریم کی طرف سے حاصل ہونے میں کوئی تعجب اور تاثر نہ ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ سوچنے کی گنجائش ہے کہ اتنا عظیم اور بھاری کام کس طرح انجام دیا جائے گا تو وہ رب کریم اپنی غیبی مدد سے اس کو آسان کر دے گا۔

لیکن اس کے بعد اگر یہ خیال ہو اور تردد و تحسس کہ آخر اس قدر بڑی نعمت کس طرح حاصل ہوگی تو اس حیرت و تردد کو دور کرنے کے لیے فرمایا۔ وہ رب جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعہ۔ اور یہی قلم دنیا میں ایک

عہ پہلی مرتبہ اقْرَأْ نفس قرأت مطلوب ہونے کی حیثیت سے فرمایا گیا تو دوسری مرتبہ اس امر سابق کی تعمیل پر آمادہ ہونے اور اس کی عملی صورت میں پورا کرنے کے لیے کہا گیا کہ بس پڑھیے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اقرآء اول سے علوم باطنیہ کا پڑھنا مراد ہے اور اقرآء ثانی سے علوم ظاہرہ۔ لیکن پہلی توجیہ عربیت کی رو سے زیادہ توی ہے۔ - ۱۲ -

قرن سے دو سو سے زائد تک اور ایک نسل سے دوسری نسل تک علوم منتقل کرنے والا ہے کیا وہ اپنے فرشتے کے ذریعے لوح محفوظ اور طلاء اعلیٰ کے علوم اپنے پیغمبر کی طرف نہیں منتقل کر سکے گا؟ جس نے انسان کو وہ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو جب قلم کے ذریعے دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک اور ایک قوم سے دوسری قوم تک علوم پہنچتے ہیں اور انسان وہ علوم سیکھ جاتا ہے جو اس کو پہلے معلوم نہ تھے۔ تو اے ہمارے پیغمبر آپ کو کیا تعجب ہے کہ اسی طرح خداوند عالم جبریلؑ اور ملائکہ مقررین کے ذریعے طلاء اعلیٰ کے وہ علوم آپ کو سکھادے جو اس سے پہلے آپ نہ جانتے ہوں۔ اور وہ پروردگار یہ علوم خواہ کسی ذریعہ اور واسطہ سے پہنچائے یا براہ راست قلب پر وارد کر دے۔ وہ ہر صورت پر قادر ہے آخر انسان خواہ میں غیب کی بہت سی باتیں دیکھتا ہے اور خود آپ کو بھی اس سے کچھ عرصہ قبل سچے اور مبارک خواب دکھائے گئے جو وحی الہی کا دیا چہ و تمہید تھے اور آفتاب رسالت کے طلوع سے قبل والی صبح صادق تھی۔ جن سے آپ کو سخوٹی اندازہ ہو گیا کہ اتمام غیبی کی بہت سی صورتیں ہیں اور ان پر اللہ کو قدرت کاملہ ہے اور ان میں اصل وحی کے نزول اور وحی الہی کی قرأت پر قدرت کا ثبوت مکمل طور پر موجود ہے تو ان امور کے باعث آپ کو یہ خطاب الہی ہے اِقْسَأْ اور ان دلائل کے پیش نظر اب اس جواب کی گنجائش نہیں ما انا بقادری الغرض قدرت خداوندی کے یہ عظیم اور واضح دلائل اور نشانیاں ہوتے ہوئے اس امر کی گنجائش اور توقع نہ تھی کہ کوئی شخص اللہ کی خالقیت اور اس کی ربوبیت و وحدانیت سے انکار کرے مگر افسوس خبردار! بے شک یہ سرکش انسان بہت ہی حد سے بڑھ جاتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ بے نیاز ہو گیا ہے۔ مال و دولت نے اس کو غنی کر دیا بلاشبہ یہ ایسے انسان کی غلطی اور بہت بڑا دھوکہ ہے اے مخاطب تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یقیناً تیرے رب کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اور جس پروردگار نے اس کو پہلے پیدا کیا اسی کی طرف آخر لوٹنا ہے۔ اس وقت ایسے مغرور و سرکش انسان کی نخوت اور اس کا عجز و تکبر سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس سرکشی و خود فراموشی کی حقیقت کھل جائے گی۔ نہایت ہی حیرت اور افسوس کا مقام ہے۔ انسان باوجود ان دلائل و شواہد کے اپنے خالق کو نہ مانے اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے کہ دوسروں کو بھی رب حقیقی کی بندگی اور عبادت سے روکے تو اے مخاطب کیا دیکھا تو نے اس بدبخت انسان کو جو روکتا ہے اللہ کے ایک برگزیدہ بندہ کو اللہ کی بندگی سے جب وہ نماز پڑھے تو ظاہر ہے کہ اس ترمز اور سرکشی سے بڑھ کر کیا درجہ ہو سکتا ہے کہ خود تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ رہا ہے دوسرے کو بھی خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ جیسا کہ ابوجہل بعین

عہ : یہ ہیں وہ پانچ آیات اِقْسَأْ سے مَا لَكُمْ يَعْزُبُ عَنْكُمْ جوسب سے پہلے غارِ حرا میں نازل ہوئیں اور ان پانچ آیات میں درحقیقت آغاز وحی پر اقرآن کے خطاب پر آپ نے ما انا بقادری کہا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا۔ یا اس پر ایشانی و حیرت کو دور کیا گیا جو آپ پر اس وقت طاری ہوئی تھی جیسا کہ تفصیل سے ذکر کر دیا گیا۔ ۱۲۔

نے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم مکہ میں جب نماز پڑھتے دیکھا تو براز و ختم ہو کر کہنے لگا کہ اگر میں نے آئندہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو دیکھا کہ کعبہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو میں الیاذ باللہ ان کی گردن روند ڈالوں گا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بد بخت ایسا کرے گا تو خدا کے فرشتے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔ اس طرح کہ لوگ اس منظر کو مینا نا دیکھتے ہوں گے۔

بھلا اے مخاطب تو نے دیکھا اللہ کا بندہ اگر ہدایت پر ہے یا اس نے تقویٰ کا درد دل کو حکم دیا۔ اور خدا کے عذاب سے ڈرنے کی تلقین کی تو اس میں کون سی بات اس قدر مخالفت اور دشمنی کی تھی بلکہ ان دو باتوں میں اگر صرف ایک ایک ہی بات ہوتی تب بھی یہ صفت اس امر کی موجب تھی کہ ایسے بندہ کی موافقت کی جاتی چہ جائیکہ اس کا مقابلہ اور دشمنی تو اس میں غصہ اور اشتعال کی کیا بات تھی؛ لیکن افسوس اس کے برعکس اے مخاطب کیا تو نے دیکھا کہ اگر اس نے اللہ کی بات کو جھٹلایا اور منہ موڑا اور سرکش و نافرمانی پر ڈٹا رہا تو ہمارا اس نے کیا بگاڑا خود اپنا ہی نقصان کیا۔ اور ہلاکت میں اپنے کو ڈالا۔ اس قسم کی روش سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سرکش و نافرمان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس بات پر بے شمار دلائل موجود ہیں تو کیا اس کو اب تک علم نہیں ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خیر جو کچھ بھی ہوا اب اس سرکش انسان کو سن لینا چاہیے کہ وہ اپنی ان حرکتوں سے باز آجائے۔ خیر دار اگر یہ باز نہ آیا تو ہم گھسیٹیں گے اس کو پیشانی سے پکڑ کر ایسی پیشانی جو جھوٹی نافرمان خطا کا ہے۔ جب کہ دوزخ کے فرشتے پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ کی طرف لے جاتے ہوں گے اور اگر اس کو اپنی جماعت پر ناز ہے جیسا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ مکہ میں میری پارٹی سب سے بڑی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی جماعت کو بلا لے ہم بھی بلا لیں گے اپنے پیارے اور جلاؤ جو اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالیں گے۔ یہ ملائکہ عذاب ہوں گے ایسے مجرمین اور ان کے مرغز ابو جہل لعین اصل تو قیامت کے روز عذاب جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے۔ لیکن اللہ نے ان کے واسطے اس

علقہ ۱۰: ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل لعین نے اس موقع پر یہودگی سے بات کی اور غصہ سے اونچی آواز سے تہدید و تنبیہ کے انداز میں بولنے لگا۔ آپ نے فرمایا لے ابو جہل مجھے کیوں دھمکی دے رہا ہے کہتے لگا تمہیں خبر نہیں اس وادی میں میری جماعت سب سے بڑی ہے (یعنی میں پیڑ میں پارٹی ہوں) تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں خذِذْخُ كَذٰبِيْهَا۔ الخ - ۱۲۔


علقہ ۱۱: اس تعبیر میں لفظ اذ کی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔

علقہ ۱۲: روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا۔ جبکہ آپ نماز میں مشغول تھے بے ادبی کرنے کے خیال سے ابھی وہاں پہنچا بھی نہ تھا کہ گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ لوگوں نے سبب دریافت کیا تو کہا کہ مجھے اپنے اور مجھ کے درمیان آگ کی ایک دہکتی ہوئی خندق نظر آئی۔ جس کے سامنے مجھے پُر رکھنے والی مخلوق نظر آرہی تھی۔ زبانیہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے دوزخ کے فرشتے بیان کیے ہیں۔

عذاب و ذلت کو دنیا میں بھی مقدر فرما دیا۔ چنانچہ عزوہ بدر میں ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں بدر کے ایک کنوئیں میں ڈال دی گئیں۔ اور یہ مردار لاشیں جب اس گڑھے میں بھر دی گئیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کھڑے ہو کر ان پر لعنت طامست فرمائی۔ علیہ۔

اسے مخاطب خبردار! اس قسم کی باتوں سے کبھی مغالطہ اور دھوکہ میں نہ پڑنا۔ ہرگز اس کی بات نہ ماننا اور نہ اس کی دنیوی دجاہت اور مال و دولت سے متاثر ہونا۔ بلکہ پورا پورا اجتناب و پرہیز کرنا اور ایسی باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے ہی رب کو سجدہ کرتے رہنا عینہ اور اس کا قرب حاصل کرنا۔ کیونکہ سجدہ بندہ کے واسطے اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ هُوَ سَاجِدٌ فَكَثْرُ ذَاتِنَا الدُّعَاءِ قَمِيمٌ أَنْ يُسْتَجَابَ۔ یعنی بندہ کو اپنے پروردگار سے زیادہ قرب اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو۔ اس وجہ سے سجدہ میں کثرت سے دعا مانگو۔ قریب تر ہے کہ اس حالت میں تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں۔

تم بحمد اللہ العزیز تفسیر سورۃ العلق۔



علیہ۔ الفرض لَنْسَقَعًا بِالْقَاصِمَاتِ ان مجرمین کے لئے دنیا میں بھی ہوا اور آخرت میں بھی اللہ کے فرشتے ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گھسیٹے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔

کافروں کو پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹنا ان کی ذلت و خواری کے لئے ہوگا۔ پیشانی انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت اور کرامت کی چیز ہے تو اس کے ذریعہ کسی کو گھسیٹنا انتہائی تذلیل و تحقیر ہے تو کافر کے جس سرنے عزت و نجات کی وجہ سے خدا کے سامنے جھکنے سے اعراض کیا۔ وہ اسی لائق ہے کہ اس کے بل گھسیٹ کر اس کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ چنانچہ یہی وہ چیز ہے جو ارشاد فرمائی گئی۔ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوقُوا أَمْسَسَ أَمْسَسًا — اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ۔ آمین۔

علیہ۔ قرآن کریم میں آیات سجود میں یہ سب سے آخری آیت ہے اور عبور فقہاء اس پر وجوب سجدہ کے قائل ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْقَدْرِ

اس سورت میں خاص طور پر نزولِ قرآن کی ابتداء اور شبِ قدر کی عظمت و فضیلت بیان کی گئی ہے اور یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کو تمام زمانوں اور اوقات میں کیسی برتری عطا فرمائی کہ اس ایک رات ہی کو ہزار مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر قرار دیا۔ اور اس میں اللہ کی خاص تجلیات اس کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جبریل امین اور فرشتوں کی جماعتیں طلاءِ اعلیٰ سے زمین پر اترتی ہیں۔ عابدین و ذاکرین کی مجالس عبادت و ذکر میں حاضر ہوتی ہے اور اہل اللہ کے قلوب پر خاص سکینت و باطنی انوار کا درود ہوتا ہے۔

آیات ۵ = ۹۶ = سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ = ۲۵ رُكُوعَهَا ۱

سورۃ قدر کی ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۱ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ

ہم نے آنا را شب قدر میں - اور تو کیا بوجھا کیا ہے شب

الْقَدْرِ ۲ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۳ تَنْزِيلُ

قدر ؛ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینے سے - اترتے ہیں

السَّلٰوٰةِ وَالرُّوْحِ فِيْهَا يٰۤاٰذِنُ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ اَمْرٍ ۴

فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔

سَلَّمَ تَشَاهِي حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

ان سے وہ رات صبح کے نکلنے تک۔

عظمتِ شبِ قدر و ماہِ رمضان بنزولِ قرآن

قال الله تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إلخ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ
 (رابطہ) گزشتہ سورۃ افسس میں آغاز اور ابتداء بعثت کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں نزولِ قرآن کا
 زمانہ اور شبِ قدر کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن جیسی نعمت اور عظیم کتاب
 ہدایت نازل فرمائی۔

یا یہ کہہ دیجئے کہ گزشتہ سورت میں انسان پر عنایات و الطائف خداوندی کا ذکر تھا۔ اور اس کی ترقیاً
 کا۔ اب اس مناسبت سے انسانی سعادت اور فوز و فلاح کی اصل اساس کتاب الہی اور قرآن حکیم کا نزول
 بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ شبِ قدر میں ہوا۔ جس میں عقائد، عبادات، معاملات، تہذیب، نفس اور سیاست، مدینہ
 کے جملہ اصول و احکام موجود ہیں اور پھر یہ کہ انسان حصولِ سعادت میں جدوجہد کا محتاج ہے اور عملی زندگی
 ہی اس کو فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ اہم سابقہ طویل طویل مدتوں تک۔ عبادات شاکہ کر کے
 بارگاہِ رب العزت میں جو تقرب حاصل کرتی تھیں۔ وہ اس امت کے لئے ایک رات کی چند گھنٹوں میں
 ہی مقدر فرمادیا۔ ارشاد مبارک ہے۔

بے شک اتنا ہے ہم نے اس قرآن کو شبِ قدر میں۔ اور لے مخاطب تو جانتا بھی ہے کہ کیا ہے
 شبِ قدر اس کی عظمت و برکت کیا ہے۔ اور کس وجہ سے کتاب الہی اس شبِ قدر میں اتاری گئی اس کا عند اللہ
 کیا درجہ ہے اور اس میں عبادت و ذکر الہی کا اجر و ثواب کس قدر ہے؟ اس کی حد اور حقیقت کا بیان
 تو کسی کے احاطہ فہم میں نہیں آسکتا بس اتنا سمجھ لے کہ شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے کہ اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں
 کی عبادت کے ثواب سے بڑھ کر اور بہتر ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس میں اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس
 یعنی جبریل امین اپنے رب کی اجازت اور حکم سے ہر امر خیر لے کر زمین کی طرف اور اللہ کی عبادت کرنیوالے
 ایماندار بندوں کی جانب جو راست سراپا سلام ہے کہ اس کا ایک ایک لمحہ سلامتی اور برکت و رحمت کا ہے
 جس میں فرشتوں کے گروہ پیغام سلامت و رحمت لے کر زمین والوں پر اترتے ہیں۔ ان کے واسطے دعا
 کرتے ہیں۔ ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور یہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے۔ کہ بزدب شمس سے لے کر یہ
 انوار و برکات اور اللہ رب العزت کی تجلیات طلوع فجر تک مسلسل رہتی ہیں جس کا لازمی نتیجہ یہی ہے کہ اس
 کے جس جہتہ میں بھی عبادت ہوگی وہ ان رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہوگی جو اس شب میں اللہ کی طرف

سے رکھی گئی ہیں۔ اس میں قلب کو سکون و سرور حاصل ہوتا ہے۔ اہل اللہ اپنے قلب میں ایک چین دھندک محسوس کرتے ہیں۔ خشیت الہی کے آثار ان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور عجیب و غریب قسم کی طائیت اور لذت و جلالت اپنی عبادت میں محسوس کرتے ہیں۔

شبِ قدر اور نزولِ قرآن

اس سورۃ مبارکہ نے واضح طور سے یہ بیان کر دیا کہ نزولِ قرآن لیلۃ القدر میں ہوا۔ سورۃ بقرہ میں حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْقُرْآنِ جِسْمٌ لِّمَا كَرِهَ اللَّهُ لِعَذِبِ الْعَذَّتِ لِنَافِ كِتَابِ الْقُرْآنِ مَكِيمٍ نَّازِلٌ فَرَمَانِ كَيْفَ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ كَالْمُهَيْبَةِ مَخْتَصِ فَرَمَايَا أَدْرَاسِ مِيْنِ مَنَاسِبَتِ ظَاهِرِ هَيْ كَرَاللهِ كَالْكَلَامِ مَعْجَزِ نِظَامِ

عہ: لفظ قدر دال کے فتح اور سکون کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ لغت میں دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ دال کے فتح کے ساتھ اسم ہے اور سکون کے ساتھ مصدر۔ از روئے لغت اس کے ایک معنی اندازہ کے ہیں جیسا کہ ارشاد ہے اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ۔ اور قدر شرف و منزلت کو بھی کہا جاتا ہے۔ اہل لسان کہا کرتے ہیں لَمَّا نَزَّلْنَا دُوْقَدْرٍ۔ بھلان عند خلاق قدر تو لیلۃ القدر میں دونوں باتیں ہیں۔ شرف و منزلت بھی۔ اور یہ کہ اس کی عبادت کا اندازہ اللہ کے نزدیک ہزار ہینے سے بڑھ کر ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے کہ اس رات میں سال بھر میں پیش آنے والی باتیں طلاءِ اعلیٰ سے طے کر دی جاتی ہیں۔ اور ایک معنی اور لفظ قدر کے تنگی کے بھی ہیں اور اس معنی کے لحاظ سے اس آیت میں لفظ قدر کا استعمال ہوا ہے۔ وَ مَنِّي قَدْرٌ عَدِيْهِ رِزْقُهُ كَجِسْمِ كَالرِّزْقِ اس پر تنگ کر دیا گیا تو یہ معنی بھی لیلۃ القدر کے عنوان میں موجود ہیں اس طرح کہ کہہ دیا جائے لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں طلاءِ اعلیٰ سے زمین پر اور فضا میں وہ انوار و برکات پھیل جاتے ہیں کہ زمین اور فضا اس کے بیٹے تنگ ہو جاتی ہے۔ زہری سے منقول ہے کہ اس رات میں نیک بندوں اور ان کے اعمالِ صالحہ کی خدا تعالیٰ اور طلاءِ اعلیٰ میں بڑی قدر و منزلت ہے اس وجہ سے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے ابو بکر و راق کہتے ہیں اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں اللہ نے جو کتب اتاری وہ بھی قابلِ قدر اور جس پیغمبر پر اتاری گئی وہ بھی قابلِ قدر اور ان فضل الانبیاء ہے اور جس امت کے لیے نازل کی گئی وہ بھی قابلِ قدر اور خیر الائم ہے اور کوئی تعجب نہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں لفظ تین بار ان ہی تین عنفتوں کی طرف اشارہ کے لیے لایا گیا ہو۔ ۱۲۔

اس کے انوار و تجلیات کا مظہر ہے اور خیرات و برکات کا سرچشمہ ہے اور رمضان المبارک کا زمانہ اس کی تجلیات کا مظہر ہے اس وجہ سے حکمت الہیہ سے بھی مقدر فرمایا گیا کہ قرآن کریم رمضان المبارک اور شب قدر میں نازل ہو اور پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں کسی کے بیٹے یا مکان نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیدارِ خداوندی کر سکے تو اللہ نے اپنا کلام پاک نازل کر دیا اور اس کے کلام میں اس کی تجلیات، اس کا جلال و جمال ہے تو اس طرح مجین و عشاق کے بیٹے یہ صورت عطا فرمادی گئی کہ وہ اس کا دیدار اس کے کلام میں کر لیں۔ اس کے کلام میں اس کا جلوہ جمالِ جلال سب کچھ نظر آجائے گا۔ تَبَارَكَ الَّذِي سَمُرَتْ لَيْلَتُهُ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اور یہ امر یہی ہے کہ کلام کے پردہ میں مستکمل کا چہرہ نظر آتا ہے۔

در سخن مخفی منم ہوں، رونے گل در برگ گل

ہر کہ دیدن میل داد در سخن بیند مرا

یہی وہ چیز ہے جو بیان کی گئی۔

چیت قرآن لے کلام حق شناس رونمائے رب ناس آمد ناس

متعدد احادیث میں ہے کہ توراہ و انجیل اور زبور بھی ماہ رمضان میں اتاری گئیں۔ یکم رمضان المبارک کو حضرت ابراہیم پر صحیفے نازل ہوئے پھر رمضان کو تورات بارہ رمضان کو زبور اور اٹھارہ رمضان کو انجیل نازل ہوئی اور اخیر عشرۂ رمضان شب قدر میں قرآن کریم نازل فرمایا۔

کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باہرِ خداوندی تیس دن عبادت کی۔ اس مدت کے پورا ہونے پر اللہ نے مزید دس دن کا اضافہ فرما کر چالیس دن پورے کر دیئے جیسا کہ ارشاد ہے: وَ اَمَدْنَا مُوسٰی ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَاَتَمَمْنٰهَا بِعَشْرِيْنَ۔ چالیس روز سے رکھے اعتکاف کیا۔ اس پر تورات عطا کی گئی۔ اللہ نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ ہم کلامی اور مناجات کی لذت سے شوق دیدار پیدا ہوا اور درخواست کر ڈالی کہ تَبَارَكَ الَّذِي سَمُرَتْ لَيْلَتُهُ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اس کے بعد تجلیات میں سے ایک بہت ہی قلیل مقدار تجلی کوہ طور پر پڑی تو جَعَلَهُ ذِكْرًا لِّمَنْ حَوَّرَ مُوسٰی صٰحِحًا تو یہ جملہ احوال دامور یا کرامات و فضائل جو حضرت موسیٰ کو حاصل ہوئے خداوند عالم نے ان سب کو رمضان مبارک میں جمع کر دیا۔ روزہ و اعتکاف بھی آگیا اور تمام بعشر کی تعداد کو اعتکاف ہی کے ضمن میں ودیعت فرما دیا گیا کہ عشرۂ اخیرہ میں اعتکاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اَتَمَمْنٰهَا بِعَشْرِيْنَ ہو گیا اور رمضان کے تیس دنوں میں فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ اَزْبَعِيْنَ لَيْلَةً کا درجہ پورا ہو گیا۔ تراویح اور قرآن کریم کی تلاوت میں ذِكْرًا لِّمَنْ حَوَّرَ مُوسٰی کا مقام آگیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مناجاتِ خداوندی اور کلام ربانی سے شوق دیدار پیدا ہوا تھا مگر جواب ملا تھا۔ لٰكُنْ تَرَانِيْ، مگر اس اُمت پر خاص عنایت یہ فرمائی گئی کہ اس نے اپنا کلام قدیم نازل کر کے اسی میں لذت دیدار رکھ دی۔ اسی میں اپنے جلال و جمال کے جلو سے ودیعت فرمادیئے۔ کوہ طور پر تجلی ظاہر فرمائی گئی تھی تو اس اُمت کو بھی تجلیِ خداوندی سے محروم نہ رکھا گیا۔ شب قدر کی صورت میں اللہ نے اپنی تجلیات

انوار سے نواز دیا۔ پھر وہ کوہ طور والی سحلی تو بظاہر عظمت و وسیت کے رنگ میں ظاہر واقع ہوئی تھی جس کا یہ اثر ہوا تھا۔ جَعَلَهُ ذِكَاؤًا وَخَيْرًا مِّنْ سُلَيْمٍ صَحَقًا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو سحلی عطا کی گئی وہ سحلی اُمید سلا م کی شان لے کر نطف و جمال اور سکینت و طمانیت کی شکل میں واقع ہوئی۔ جس کی ٹھنڈک و طمانیت اہل اللہ اپنے قلوب اور حتیٰ کہ اپنے اجسام میں محسوس کرتے ہیں غرض وہ تمام مقامات جو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو عطا فرمائے تھے۔ رمضان۔ قرآن اور شب قدر میں امت محمدیہ علیٰ صاحبہا الف الف صلوة و تحیتہ کو دے دیئے گئے۔ فَلَئِمَّا لَمَّا لَمَّا لَمَّا۔

حدیث میں ہے کہ جبریل امین رمضان مبارک میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کا دوہا کرتے تھے اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس میں دو مرتبہ دوہا کیا۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ نہایت مبارک ہے مگر وہ انوار و برکات جو اس ماہ کے دنوں سے وابستہ ہیں وہ اور ہیں اور وہ انوار و برکات جو راتوں سے متعلق ہیں وہ اور ہیں اور دن کے انوار و برکات روزہ کی صورت میں حاصل ہوتے ہیں اور رات کے انوار و برکات افطار کی صورت میں۔ بظاہر یہی وجہ ہے کہ شریعت نے سحر کی تاخیر اور افطار کرنے میں تعجیل کی ہدایت فرمائی اور ارشاد فرمایا لَا تَزَالُ امْتَشِي بِيخِيمٍ مَا تَجَلُّوْا الْفِطْرَ وَآخِرُوا السَّجُورَ۔

حضرت مجدد الف ثانی ایک اور مکتوب میں فرماتے ہیں کہ "حق تعالیٰ شانہ نے سال بھر کے انوار و برکات رمضان مبارک میں جمع کر دیئے۔ اور ان تمام برکات کا جو ہر عشرہ اخیرہ میں رکھ دیا اور پھر اس جو ہر کالیاب اور عشر شب قدر میں ودیعت فرمادیا۔

یہ بات تو ظاہر ہے کہ مدت نزول قرآن تیس برس ہے اور حسب ضرورت اور مصلحت تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا تو اس لحاظ شب قدر میں قرآن کریم اتارے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ پورا قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزۃ میں جو آسمان پر ایک جگہ ہے بیک وقت اتارا گیا۔

چنانچہ حافظ ابن کثیر نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ انزل اللہ القرآن جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى البيت العزرة من السماء الدنيا ثم نُزِلَ مُفَصَّلًا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزۃ (جو آسمان دنیا میں ایک مقام ہے) پر ایک ہی مرتبہ نازل فرمادیا تھا پھر حسب ضرورت و حکمت تیس برس کی مدت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا رہا۔ اس بنا پر یہ بات قابل تردید نہ رہے گی کہ ابتداً وحی غار حراء سے ہوئی اور غار حراء کا واقعہ بروایت مؤرخین شوال کے مہینہ میں تھا۔

قرآن کریم میں ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ۔ اور لیلہ مبارکہ کی تفسیر اکثر مفسرین بروایت عکرمہ لیلۃ البراءۃ یعنی شعبان کی پندرھویں رات کرتے ہیں۔

تو بظاہر غلبان ہو سکتا ہے کہ لیلۃ مبارکہ میں نزول بظاہر لیلۃ القدر میں نزول کے خلاف ہے تو کچھ ائمہ مفسرین نے اس غلبان کو رفع کرنے کے لئے لیلۃ مبارکہ کے معنی لیلۃ القدر کے کر دیئے۔ لیکن بالعموم حضرات مفسرین روایات مرفوعہ کی تفسیر نیز اس وصف کے پیش نظر کہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، لیلۃ البراءۃ کے معنی کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ صفت لیلۃ البراءۃ ہی کی ہے (جیسا کہ گذر چکا) اس وجہ سے مناسب یہ ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ لیلۃ البراءۃ میں بارگاہِ خداوندی سے لوح محفوظ سے بیت العزۃ میں اتارنے کا فیصلہ ہوا۔ اور پھر اس فیصلہ کے مطابق شب قدر میں بیت العزۃ پر پورا قرآن اتارا گیا اس کے بعد مختلف اور متعدد مواقع اور امکان میں۔ آیات قرآنیہ کا نزول ہوتا رہا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے نازل ہونے کے بعد کاتبین وحی کو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں جگہ اور سورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو۔ تاکہ اس طرح یہ ترتیب بیت العزۃ اور لوح محفوظ میں جس ترتیب سے قرآن کریم ہے اس کے مطابق ہو جائے۔

شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیت

بعض حضرات مؤرخین و محققین کا اس امر میں اختلاف نقل کیا گیا کہ لیلۃ القدر امم سابقہ میں بھی تھی یا نہیں۔ بعض مؤرخین نے بروایت مالکؒ یہ نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کی طرف سے اس امر پر مطلع کیا گیا کہ آپ کی امت کی عمریں بہ نسبت امم سابقہ کے بہت کم ہوں گی تو آپ نے فرمایا ہے پروردگار پھر تو میری امت کے لوگ اعمال صالحہ اور عبادات کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے جو پہلی امتوں کے لوگ اپنی طویل ترین عمر کے باعث حاصل کر چکے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور اس کو ختمیہ و من آلف شہیرا بنا یا۔

علاوہ ازیں حدیث عبد اللہ بن عمرؓ جو تمثیل امم کے مضمون میں وارد ہوئی جس میں آپ نے اپنی امت کی مثال بہ نسبت پہلی امتوں کے یہ فرمائی کہ ایک جماعت مزدوری پر صبح سے ظہر تک لگائی گئی اور انہوں نے ظہر تک عمل کیا اور ان کو حسبِ معاہدہ ایک قراط دے دیا گیا۔ دوسری جماعت نے ظہر سے عصر تک کام کیا اور ان کو بھی ایک ایک قراط دے دیا گیا پھر تیسری جماعت لائی گئی اور انہوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا اور ان کو دو دو قراط دے دیئے گئے تو پہلی جماعتوں نے اعتراض کیا۔ نحن اکتف عسلاً و اقلن اجراً فقال هل ظلمتم و هذا فضلی اوتیتم منی اشاء۔ کہ لے آقا ہم نے کام تو زیادہ کیا اور مزدوری ہم کو کم ملی یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے کام کم کیا ان کو اجرت زیادہ دی گئی تو مالک نے اس پر کہا۔ کیا تم پر

کوئی ظلم کیا گیا۔ بلکہ جو طے ہوا تھا وہ دے دیا گیا اور یہ جو زائد اس آخری جماعت کو دیا گیا یہ تو میرا انعام ہے جس کو چاہوں دوں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کر کے فرمایا۔ اے میری امت کے لوگو! بس تم ہی ہو وہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے ہو اور اس مختصر وقت میں عمل کر کے اجرت اور ثواب تم ان لوگوں سے زیادہ حاصل کر سچے ہو جو عمل تم سے بہت زیادہ کرنے والے تھے۔

جمہور صحابہ اور ائمہ مفسرین و محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیرہ کی کسی بھی طاق رات میں ہے ۲۱ سے لے کر ۲۹ تک کوئی بھی شب ہوتی ہے اور حکمت خداوندی سے اس کو مخفی ہی رکھا گیا اور حضرت ابوسعید خدریؓ یا ابی بن کعبؓ سے جو ۲۱ سے ۲۶ کی روایت صحیح میں منقول ہے وہ ان علامات کو دیکھنے کی بناء پر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی ذکر فرمائی تھیں تو جس نے جو علامت جس رات میں دیکھی اسی کے بارہ میں بیان کر دیا اور اللہ کی حکمت اسی کو متقاضی تھی کہ ایک نوع سے اس کو اگر ظاہر کر دیا گیا تو دوسری نوع سے اس کو مبہم رکھا جائے تو اس لحاظ سے علامات میں ایسی علامات بیان کی گئیں جو شب قدر گزرنے کے بعد ظاہر ہوں مثلاً آپؐ کا یہ فرمانا کہ وہ رات ہے جس کے بعد صبح کو سورج طلوع ہو گا تو اس کی شعاعیں نہ ہوں گی بلکہ صرف اس کا قرص نظر آتا ہو گا جس طرح کھڑاؤ ہلکے بادلوں میں شعاعوں کے بغیر سورج نظر آتا ہو (تفصیل کے لئے تفسیر ابن کثیر روح المعانی اور کتب حدیث ملاحظہ فرمائیں)

تم بحمد اللہ تفسیر سوۃ القدر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ الْبَيِّنَاتِ

اس سورت کا نام سورہ لم یکن بھی ہے لیکن جمہور مفسرین نے بروایت صحیحہ اس کا نام سورہ البینہ اختیار کیا ہے۔ یہ سورت اکثر حضرات محدثین و ائمہ مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ سے بھی یہی منقول ہے بعض مفسرین نے اس کو مکہ بھی کہا ہے یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو مکہ ہی فرمایا کرتی تھیں اس میں آٹھ آیات ہیں۔

بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ منکرین خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے سے انکار کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب تک کوئی بینہ (دلیل و حجت) اسامنے نہ آئے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو اس

میں تمام جنت کے طور پر بھی فرمایا گیا کہ یہ لوگ اس طرح کا عذاب و بہانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا رسول اور ان کی بعثت و نبوت ان کے کمالات و اوصاف بڑا ست خود بیتہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیات تلاوت کرنے سے بڑھ کر اور کون سا بیتہ ہوگا۔ تو اس ضمن میں اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے اعراض و بے رخی اور دلائل خداوندی سے بے توجہی کا ذکر ہے اسی کے ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا کہ عبادت کی روح اخلاص و توحید ہے۔ اخیر میں یہ ذکر کیا گیا کہ اہل سعادت اور اہل شقاوت کا آخرت میں کیا انجام ہوگا اور اس پر بطور نتیجہ یہ امر مرتب کیا گیا کہ "سعادت و غیر البریہ ہیں۔ اور وہ کفار و منکرین جو شقاوت و بدبختی میں مبتلا ہیں شر البریہ ہیں۔"

آیات ۸ = ۹۸ = سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ مَكِّيَّةٌ = ۱۰۰ = رُكُوْعُهُمَا ۱

سورہ بیتہ کی ہے اس میں آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

نہ تھے وہ لوگ، جو منکر ہیں کتاب والے اور مشرک والے

مُنْفِكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۝۱ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُو

باز آتے، جب تک کہ پہنچے ان کو کھلی بات۔ ایک رسول اللہ کا پڑھتا

صُفْحًا مَّطَهَّرَةً ۝۲ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝۳ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ

درق پاک - ان میں کھلی کتابیں مضبوط - اور پھوٹے جو ہیں، جن کو

أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ ۝۴ وَمَا

ملی ہے کتاب، سرجب آچکی ان کو کھلی بات - اور انکو

أُمْرًا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۝۵

حکم یہی ہوا کہ عبادت کریں اللہ کی نری کر کہ اس کے واسطے بندگی۔

حُفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ

ابراہیم کی راہ پر، اور کھڑی کریں نماز اور دیں زکوٰۃ، اور یہ ہے

دِينُ الْقَيِّمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

راہ مضبوط لوگوں کی - وہ جو منکر ہوئے کتاب والے -

وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ

اور شریک والے، دوزخ کی آگ میں، سدا رہیں اس میں - وہ لوگ ہیں

هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

بہتر سب خلق کے - وہ لوگ جو یقین لائے اور کئے بھلے کام،

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ جَزَاءُ وَّهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ

وہ لوگ ہیں بہتر سب خلق کے - بدلہ ان کا ان کے رب کے ہاں، باغ ہیں

عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ

بسنے کے، نیچے بہتی ان کے نہریں سدا رہیں ان میں ہمیشہ،

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۗ

اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی - یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرا اپنے رب سے۔

ذات رسول کریم ﷺ و آیات قرآن پر چشمہ علوم و برہان ہدایت

قال الله تعالى: كَفَرُوا بِالَّذِينَ كَفَرُوا... الى... ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
در لفظ اگر شتہ سورت القدر میں شب قدر کی عظمت و فضیلت کا ذکر تھا، اس مناسبت سے اب
اس سورت میں قبولیت عبادت کی اساس بیان کی جا رہی ہے کہ وہ بندہ کا اخلاص اور قلب کی طہارت ہے
اور اسی کا نام حقیقت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شعار تھا۔ نیز یہ کہ سورہ قدر میں یلۃ القدر کی فضیلت

بیان کی گئی تھی تو اب اس سورت میں سعادت و شقاوت کے اصول بیان کیے گئے تاکہ ایمان و کفر اور ہدایت و گمراہی میں کسی کو التباس نہ رہے۔ تو ارشاد فرمایا۔

نہیں تھے ہاں آئے والے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں اور مشرکین یہاں تک کہ نہ آجائے ان کے پاس واضح دلیل و حجت۔ وہ واضح دلیل و حجت اللہ کا رسول جو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے۔ ایسے صحیفے جو پاکیزہ ہیں جن میں ایسے مضامین ہیں لکھے ہوئے جو نہایت ہی درست اور مضبوط ہیں وہ صحیفے اور مکتوب مضامین قرآن کریم کی آیات ہیں جن کی مضبوطی اور دلائل و براہین کی رُو سے استقامت میں ذرہ برابر فرق نہیں فلاح و سعادت کے اصول ایسے روشن ہیں کہ کسی قسم کا ابہام و خفا نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسے رسول کی آمد بذات خود ایک بتینہ اور کھلا ثبوت ہے۔ پھر اس رسول خدا کا قرآن کریم جیسی پاکیزہ کتاب اور بلند پایہ مضامین رشد و فلاح کی عظمت و بلندی کی بھی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے اسی رسول کی اور ان کی طرف سے تلاوت آیات ہی کی یہ برکت تھی کہ دور جاہلیت کے وہ عرب جو کفر کی ظلمتوں میں غرق تھے نور ہدایت سے مشرف ہوئے۔ ورنہ توقع نہ تھی کہ اس طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہونے والی قوم راہ راست پر آتی۔

بہر کیف اس واضح دلیل اور کتاب ہدایت کے بعد چاہئے تو یہ تھا کہ کم از کم اہل کتاب جو کہ اہل علم و فہم تھے وہ ایمان لاتے اور اس سعادت کی طرف دوڑتے لیکن عجیب بات کہ ایسا نہ ہوا اور اس کے برعکس نہیں مختلف و متفرق ہوئے اہل کتاب مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ثبوت آچکا۔ خود ان کی کتابوں اور ان کے انبیاء کے ذریعے کہ یہی رسول خدا اللہ کے آخری پیچھے رسول ہیں اور ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم اللہ کا کلام ہے تو اس طرح اہل کتاب میں سے کچھ ایمان لائے جیسے کعب اجازہ۔ عبد اللہ بن سلام اور سلمان فارسی وغیرہ۔ اور کچھ نے انکار کیا محض عناد اور تعصب کی وجہ سے جب اہل کتاب ہی علم اور دلائل کی معرفت کے باوجود اللہ کے رسول اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے بجائے مختلف و متفرق ہو گئے تو مشرکین کا کیا کہنا۔ وہ نہ کتاب والے تھے اور نہ ان کے پاس کسی نبی کی کوئی شہادت اور بشارت تھی، بہر کیف ایسے رسول عظیم اور کتاب بلند پایہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب مل کر حق کو قبول کرتے اور کوئی بھی گروہ اس میں اختلاف نہ کرتا۔ حالانکہ ان کو تو صرف ہی حکم دیا گیا تھا کہ بس اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتے ہوئے کہ غیر اللہ کا کوئی شاہدہ بھی نہ ہو کیسو ہو کہ ہر باطل سے اپنا منہ موڑ کر اور احکام خداوندی کی اطاعت کرتے ہوئے نماز قائم کرتے رہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ بس یہی طریقہ ہے مضبوط اور صحیح ملت و شریعت کی پیروی کا اسی کی اتباع و پیروی میں ہدایت اور نجات مضمر ہے۔

جب کہ اس کا میثاق اہل کتاب سے لے لیا گیا تھا جیسے کہ ارشاد ہے وَكَعَدُ اللَّهُ رَبِّمِثَاقًا

عہد، حضرت شاہ عبدالعزیز نے یہاں بتینہ کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کو قرار دیا ہے جو کھلی نشانیاں لے کر آئے اور فارقلیط کی بشارت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت سنائی اور ان پر ایمان لائے۔

اِسْرَآءِیْلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَبِیًّا۔ وَقَالَ اللهُ اِنِّیْ مَعَكُمْ لَ اِنْ اَقَمْتُمْ الصَّلٰوةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكٰوةَ
 وَ اٰمَنْتُمْ بِرُسُلِیْ۔ الخ۔ تو اس عہد و پیمان کا تقاضا یہی تھا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لانے پابندی سے احکام دین
 کی اطاعت کرتے مگر یہیت سے اہل کتاب نے ایسا نہ کیا تو اس طرح نبی کریم پر ایمان نہ لانے اور قرآن کریم
 کو نہ ماننے سے خود اہل کتاب نے اپنی کتاب کا اور خود اپنے رسول ہی کا کھر کیا۔ اس وجہ سے بے شک جو لوگ
 اہل کتاب ہیں سے منکر و کافر ہوئے اور مشرکین وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے
 اور یہ لوگ بلاشبہ بدترین خلائق ہیں اور بیشک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کیئے وہ بہترین خلائق ہیں جن کے
 ایمان و اعمال صالحہ کا صلہ یہ ہوگا کہ ان کے پروردگار کے نزدیک باغات ہوں گے ہمیشہ رہنے والی بہشت کے
 جن کے مہلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جہاں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے نہ ان نعمتوں کا زوال ہوگا اور نہ ہی
 یہ لوگ ان نعمتوں کو چھوڑ کر مفارقت کر جائیں گے جیسے انسان دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر مفارقت کر جاتا ہے۔ ان
 انعامات کی عظمت و بڑتری اپنی جگہ بہت بڑی چیز ہے جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا مزید ان سب نعمتوں سے
 بڑھ کر اللہ کی رضا ایک انعام خاص ہوگا خدا ان سے راضی ہوگا اور یہ خدا کی عنایات و رحمتوں سے خوش
 ہوں گے اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ایمان و اخلاص احکام دین کی پابندی۔ پھر اس پر انعامات خداوندی، جنت
 اور جنت کی بے پایاں نعمتیں اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کی رضا و خوشنودی اس شخص کے لیے ہے جو
 اپنے رب سے ڈرتا ہو خشیت و تقویٰ ہی ان تمام ترکالات اور فوز و فلاح کی اصل بنیاد ہے۔
 تم بحمد اللہ تفسیریں سورۃ البینہ۔



عہد۔ یہ سورت اپنے مضامین کے اعتبار سے نہایت ہی بلند پایہ ہے جیسا کہ ظاہر ہے امام مسلم اور دیگر
 ائمہ محدثین نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے
 فرمایا اے ابی اللہ نے مجھے اس بات کا امر فرمایا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورۃ لَسُوْ یٰکُنُ الدِّیْنُ کَکْثُرًا
 پڑھوں اور تم کو پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ سے یہ فرمایا آپ
 نے فرمایا۔ یا اللہ نے تمہارا نام لے کر ہی کہا ہے۔ انس بیان کرتے ہیں ابی بن کعب یہ سن کر رو پڑے اور
 بیقراری کے ساتھ ان پر گریہ طاری ہوا اور زبان سے یہ کلمات جاری ہوئے۔ وَقَدْ ذُکِرْتُ عِنْدَ
 رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اچھا میرا نام لیا گیا اور ذکر ہوا رب العالمین کی بارگاہ میں۔ ۱۲۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الزَّلْزَالِ

سورۃ الزلزال مدنی سورت ہے جبہر مفسرین کا یہی قول ہے ابن عباسؓ اور قتادہؓ سے اسی طرح نقل کیا گیا۔ عبداللہ بن سعوطؒ، عطاءؒ اور جابرؒ کا قول بعض مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ لفظ ہر اس قول کا منشاء یہ ہوگا کہ اس سورت کا اسلوب بیان بھی سورتوں جیسا ہے کہ قیامت اور احوال قیامت کا ذکر ہے اس کی آٹھ آیات ہیں۔

(ربط) اس سے قبل سورت میں جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَذِیْبِ الْاٰہْلِ اِیْمَانٍ و طاعات پر ہونے والے انعامات کا بیان تھا۔ ظاہر ہے کہ اہل ایمان کو یہ بشارت سن کر شوق و اشتیاق ہو سکتا تھا کہ یہ نعمتیں انکو کب ملیں گی تو اب اس سورت میں اس کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ روز قیامت ہے اور قیامت کس حقیقت کا عنوان ہے اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے اور اس کی آمد پر جو انقلاب برپا ہوگا وہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کس طرح آسمان و زمین اور نظام کائنات درہم برہم کر دیا جائے گا؟ ان امور کو بیان فرماتے ہوئے یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ انسان کا عمل خواہ اچھا ہو یا بُرا اس کا بدلہ اس کو ضرور ملے گا۔ کسی کا عمل خیر ضائع نہیں ہوتا اور کوئی شخص برے عمل کے انجام اور سزا سے نہیں بچ سکتا۔

آیات ۸ = ۹۹ = سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ = ۹۳ = رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ زلزال مدنی ہے اس کی آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ

جب ہلانیے زمین کو اس کے بھونچال سے - اور نکال ڈالے زمین اپنے

أَتَقَالَهَا ۲ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۳ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ

بوجھ - اور کہے گا آدمی اس کو کیا ہوا! اس دن بتا دے گی اپنی

أَخْبَارَهَا ۴ يَا نَرَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۵ يَوْمَئِذٍ يُصْدِرُ النَّاسُ

باتیں - اس واسطے کہ اس کے رب نے حکم بھیجا اس کو۔ اس دن ہو پڑیں گے لوگ

أَشْتَاتًا ۶ لِيُرَوُا أَعْمَالَهُمْ ۷ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

بھانت بھانت کہ ان کو دکھائیے انکے کیئے۔ سو جس نے کی ذرہ بھر بھلائی، وہ

خَيْرًا يَرَهُ ۸ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۹

دیکھ لے گا۔ اور جس نے کی ذرہ بھر بُرائی، وہ دیکھ لے گا۔

حوادث زلازل بوقت وقوع قیامت

قال الله تعالى: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ... الخ ... ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

در ربط اگر مشہور سورت کا مضمون اہل سعادت و شقاوت کے اعمال و انعال اور ان کے انجام پر مشتمل تھا اور اصول سعادت اور حق تعالیٰ کے انعامات کے استحقاق کی بنیاد یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ خشیت خداوندی ہے اور ذَلِكُمْ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ فَمَنْ اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا تھا۔ اب اس سورت میں سعادت و شقاوت کے ثمرات مرتب ہونے کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت ہے اور قیامت کا قائم ہونا نظام عالم کا درہم برہم ہو جانا ہے اور وہی دن یوم جزاء ہے اور ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ اس روز دیکھے گا اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرتا رہے کس طرح میں احکم الحاکمین کے رو برو کھڑا ہوں گا۔
تو ارشاد فرمایا۔

جس وقت کہ بلا دی جائے گی زمین جیسا کہ اس کو بلانا چاہیے اور جس قدر بھی اس کو ہلایا جائے اس کی

عہ: بعض مفسرین نے بیان کیا کہ عرب کے کسی فصیح و بلیغ شاعر نے یہ فقرہ بنایا تھا: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا تَوْجِبُهَا آيَتِ نَارِلِهَا وَهِيَ أَوْ لَفْظًا زِلْزَالَهَا كَمَا سَجَّئِهَا (باقی حاشیہ لگے صفحہ پر)

عظمت کے لحاظ سے اس نوعیت سے کہ اب نفعِ صورت کے بعد قیامت برپا ہوتی ہے تو ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ جس سے پہاڑ اور بڑی سے بڑی بلند و بالا عمارتیں گر کر چورا چورا ہو جائیں گی اور سمندر ابلے لگیں گے جیسا کہ فرمایا گیا۔ **وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّدَتْ**۔

اور نکال ڈالے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ خزانے۔ دینے اور گرمے ہوئے مردے اور جو بھی کوئی چیز اس کی تہوں میں دبی ہوئی ہو۔ اس ہیبت ناک زلزلہ سے سب کچھ باہر آجائے گا اور انسان کہے گا کی ہو گیا ہے اس زمین کو اس کے باغات عمارتیں کہاں گئیں۔ اور اس کی وہ رونق جس پر لوگ فریفتہ تھے کہاں چلی گئی۔ مال و دولت پر انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ قتل و غارتگری پر آمادہ رہتے تھے لیکن ہلے اب اس زمین کے اندر سے یہ سارے خزانے باہر اُگلے پڑے ہیں اور منکر لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا تو یہ سب مردے باہر نکل پڑیں گے۔ یہ دن وہ ہوگا کہ زمین بیان کرے گی اپنے واقعات کو اور ان حالات و افعال کو جو اس پر کینے گئے زمین کے جس مکڑے پر گناہ ہوا تو وہ بناٹے گی کہ فلاں نے فلاں جگہ زنا کیا۔ جہاں قتل ہوا وہ جگہ بتائے گی کہ یہاں فلاں نے فلاں کو قتل کیا اور جس جگہ کسی نے نماز پڑھی ہوگی یا جو بھی عملِ عبادت کا کیا ہوگا وہ گواہی دے گی کہ فلاں نے یہاں مجھ پر نماز پڑھی ہے۔ عرض نیک بدہر کام اور عمل کی خبر دیتی ہوگی۔ اس وجہ سے کہ لے مخاطب تیرے رب نے اس کو اس امر کی وحی کی ہے کہ وہ اپنے اوپر کینے ہونے کام کی خبر کر دے تو جس طرح زمین اپنے جگر کے مکڑوں کو اگل دے گی اسی طرح اس پر پیش آنے والے احوال و افعال کو بھی اگل دے گی اور ظاہر کر دے گی یہ دن وہ ہوگا کہ لوگ

علہ امام مسلم اور ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اپنے جگر کے مکڑے سے تے کر دے گی اور چاندی سونے کے ستونوں جیسے مکڑے نکل کر باہر آجائیں گے قاتل ان کو دیکھ کر حسرت سے کہے گا ہائے میں نے اسی کے لئے قتل کیا تھا قطع رحمی کرنے والا کہے گا ہائے اسی کے لئے میں نے قطع رحمی کی اور جو دیکھ کر کہے گا ہائے اسی کی وجہ سے (چوری میں) میرا ہاتھ کاٹا گیا پھر آواز دی جائے گی اٹھا لو اس کو گر وہ کچھ بھی نہ لے سکیں گے اور اسی آواز اور حالت میں قیامت برپا ہو جائیگی۔
علہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز یہ آیت **يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا** تلاوت کر کے فرمایا جانتے ہو کہ زمین کا خبر دینا کیا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(باقی حاشیہ) **زَلَّزَلْنَا** ہوا تو وہ اس کو سُن کر دھم میں آگیا۔ کیونکہ زلزلہ محض مصدر زلزلہ کی عظمت و ہیبت بیان کرنے سے قاصر تھا۔ قرآن نے جب اس کو مصدرِ اضافت الی الارض کی صورت میں بیان کیا تو معنوی عظمت و بلندی کی حد نہ رہی اور بے ساختہ بول اٹھا میں اس کلام کی فصاحت پر ایمان لایا۔

انہما ہے بیان کرنا ہے۔ اور ایسے دلائل کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ سلیم الطبع انسان اس کو قبول کرنے میں قطعاً تامل نہیں کر سکتا اس کے ساتھ بالخصوص اس امر کو بیان کیا گیا کہ گھوڑے باوجود جانور ہونے کے اور ان عقلی و فکری صلاحیتوں سے محروم ہونے کے جو ان کو دی گئی ہیں۔ اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہیں اور اس کے حکم پر اپنے آپ کو کس قدر مہالک اور شہادت میں ڈالنے ہیں اور اپنے مالک کے دشمن کا مقابلہ کس مستعدی اور ہمت سے کرتے ہیں۔ لیکن انفس انسان اشرف المخلوق ہو کر بھی اپنے آقا کا نافرمان ہے اس کا شکر نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس کی اطاعت و فرماں برداری میں کوئی جفاکشی و ہمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل حرص و لالچ اور نفس کی شہوات ہی کی اتباع میں نگارہتا ہے جس کا انجام سوائے ہلاکت و تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور یہ سب اس پر موقوف ہے کہ وہ فکر آخرت سے غافل ہے۔

آیاتہا ۱۱ = ۱۰۰ = سُوْرَةُ الْعَدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ = ۱۲ = رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ عادیات مکی ہے۔ اس میں گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْعَدِيَّتِ ضَبًّا ۱۱ فَاَلْمُورِيَّتِ قَدْحًا ۱۲ فَاَلْمَغِيْرَتِ

تسم ہے دوڑتے گھوڑوں کی، ہانپتے۔ پھر آگ سلگاتے جھاڑ کر - پھر دھاڑ دیتے

صَبًّا ۱۳ فَاَثْرَنَ بِهٖ نَقْعًا ۱۴ فَوْسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۱۵

صبح کو - پھر اٹھاتے اس میں گرد - پھر پیٹھ جاتے اس وقت فوج میں۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۱۶ وَاِنَّهٗ عَلٰی ذٰلِكَ

بیشک آدمی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور وہ یہ کام سانسے

لَشٰهِيْدٌ ۱۷ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۱۸ اَفَلَا

دیکھتا ہے - اور آدمی محبت پر مال کے مضبوط ہے - کیا نہیں

يَعْلَمُ اِذَا بُعِثَ رَمٰلِی الْقُبُوْرِ ۱۹ وَحٰصِلَ مَا فِی

جانتا وہ وقت کہ کب سے جاویں جو قبروں میں ہیں - اور تحقیق ہو جو



الصُّدُورِ ۱۰ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ ۱۱ ع

جیوں میں ہے ۔ بیشک ان کے رب کو ان کی اسوں سب خبر ہے ۔

سرگرمی بہائم در اطاعت مالک و نافرمانی و ناشکری انسان با قہور رب العالمین

قال اللہ تعالیٰ - وَالْعَدِيدِ صَبْحًا الی رَانَ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ خَبِيرٌ
(رابط) گزشتہ سورت میں مجازات اعمال کا قانون بیان کیا گیا تھا اور یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی نیکی یا بدی کا عمل کرے گا روز قیامت اس کا بدلہ پا کر رہے گا۔ اب اس سورت میں انسان کی غفلت و لاپرواہی اور اپنے رب کی ناشکری کی مذموم غصلت بیان کی جا رہی ہے اور یہ کہ دراصل اس رکوش کاغشا حرم مال بلاج اور نفس کی خواہش ہے۔ اس کے پیچھے پڑ کر انسان اپنے رب کو بھلا دیتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت کا دن حساب و کتاب اور اعمال کے بدلہ کا دن ہے تو ارشاد فرمایا۔

قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے اپنے مالک کی اطاعت و محبت میں اور اس کے دشمنوں کو شکست دینے کے لیے میدانِ معرکہ میں اس شدت و قوت سے دوڑتے ہیں کہ ہانپتے ہوتے ہیں۔ پھر کہیں پتھروں اور پہاڑوں پر ٹا پین مار کر آگ چمکاتے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پہاڑوں پر ان کی دوڑ اور تیز رفتاری سے ان کے نعل آگ جھاڑتے ہوتے ہیں۔ پھر تاخت و تدارج ڈالنے والے ہوتے ہیں صبح کے وقت کہ علی الصباح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر قوموں کا یہ دستور ہے کہ دشمن پر یلغار و حملہ صبح ہی کے وقت کیا جاتا ہے پھر اڑانے والے یا اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ اس سے گرد و غبار پھر گھس جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک فوج میں ان پر حملہ کرتے ہوئے اس بات سے بے پرواہ ہوتے ہوئے کہ دشمنوں کی فوج پر حملہ کر کے وہ زندہ بھی بچیں گے یا نہیں۔ عرض اس طرح یہ گھوڑے اپنے آقا کی اطاعت اور اس کی وفاداری میں سرگرم محنت و مشقت ہیں۔ شدائد اور مہالک میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں۔ میدانوں اور چٹانوں پر ٹا پین مارتے ہیں۔ جس سے گرد و غبار کے ڈھیراڑ رہے ہیں اور ٹاپ کی رگڑ سے پتھروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں اور ان تمام شدائد کو برداشت کرتے ہوئے صبح ہی صبح دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور بے دریغ دشمن کی فوجوں کے اندر گھس جاتے ہیں تو یہ کردار ایک حیوان کا ہے جو اپنے آقا اور مالک کے لینے اس کی زندگی کے آخری سانس تک قائم و باقی ہے لیکن اس کے بالمقابل اگر یہ دیکھو کہ انسان اپنی تمام

عقلی اور فکری صلاحیتوں کے ساتھ اپنے مالک کا۔ اپنے خالق کا اور اپنے منعم و محسن اور پروردگار کا کیا حق ادا کرتا ہے۔ اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں اس کی کیا سرگرمی اور جدوجہد ہے تو اس کا عمل یہ بتانے کا کہ بیشک انسان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر ہے اور وہ خود اس بات پر مطلع ہے اور جانتا ہے کہ میں اپنے رب کے انعامات کا کوئی حق اور شکر نہیں ادا کر رہا ہوں اور اس کا عمل طرز زندگی اس کی شہادت بھی دیتا ہے۔ ذرا بھی اگر وہ اپنے ضمیر کی طرف توجہ کرے تو خود اندر سے اپنے ضمیر کی یہ آواز سن لے گا کہ وہ بہت ہی ناشکر ہے۔

اور یہ سب کچھ صرف اس بناء پر ہے کہ بیشک وہ مال کی محبت میں بہت ہی مضبوط ہے۔ جس مال نے اس کو فکر آخرت سے بھی بیگانہ بنا دیا اور اپنے آقا و مالک سے بھی بے رخی اور بے تعلقی اختیار کر لی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں چاہیے تھا۔ تو کیا یہ انسان نہیں جانتا ہے کہ جس وقت باہر نکال لیئے جائیں گے وہ تمام مردے جو قبروں میں ہیں اور ان کو نفعی صور کے بعد زندہ کر کے میدانِ حشر میں جمع کر دیا جائے گا اور پھر کھول کر رکھ دیئے جائیں گے وہ تمام راز جو سینوں میں ہیں تو اس وقت انسان دیکھ لے گا کہ یہ کیسا ہیبت ناک دن ہے جس سے وہ غافل بنا رہا اور اٹکا کر رہا اور اس وقت وہ دیکھ لے گا جس مال کی محبت میں وہ خدا کا ناشکر اور نافرمان رہا وہ مال اس کے قطعاً بھی کام نہ آیا۔ تو کاش اگر انسان کو اس بات کا علم ہوتا ہرگز یہ روش نہ اختیار کرتا۔

بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس روز بڑا ہی باخبر ہے کہ انسانوں کے تمام احوال و اعمال

علیہ: یہ کلمات اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں کہ لفظ علی ذلک تشہید کے ایک معنی مطلع اور باخبر کے ہیں اور دوسرے معنی گواہی اور شہادت کے ہیں۔

علیہ، وَالْعُلْدَانِ سے مجاہدین کے گھوڑوں یا مطلق گھوڑوں کی قسم کھا کر ان کی سرگرمی عمل اور اپنے آقا کی فرمانبرداری میں مبالغہ و شدائد میں گھس جانا بطور قسم بیان کر کے جواب قسم ان اِلَّا نَسَانِ بِسَوْبِهِ كُنْتُمْ؟ فرمایا گیا۔ اس جواب قسم کی مناسبت و لطافت قسم اور قسم یہ کے تعلقات سے بڑی ہی خوبی سے ظاہر ہے۔

علیہ: استاد محترم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں "مکن ہے کہ گھوڑوں کی قسم کھانا مراد ہو جیسا کہ ظاہر ہے اور مکن ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سواروں کی قسم ہو جن کی سرفروشی اور جان بازی بتاتی ہے کہ وفادار اور شکر گزار بندے ایسے ہوتے ہیں؟"

ظاہر عنوان سے ہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ گھوڑوں ہی کی قسم کھانی ہے اور غرض یہ ہے کہ غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ خود گھوڑا زبانِ حال سے یہ شہادت دے رہا ہے کہ جو لوگ مالکِ حقیقی کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں اور اس کی بے شمار نعمتوں سے شب و روز متمتع ہوتے ہوئے بھی اس کی فرمانبرداری

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کا جیسے دنیا میں احاطہ کیے ہوئے تھا اور زندگی میں کیا ہوا ہر کام اس کی نظروں کے سامنے رہا ہے آج اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے تو اس روز یہ بات ہر ایک پر ظاہر و عیاں ہوگی اور کسی کو انکار کی گنجائش نہ رہے گی تو اس طرح اس دن یہ چیز ہر ایک کو خوب نظر آجائے گی کہ بے شک انکا پروردگار ان کے احوال سے خوب باخبر ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ

سورہ قارعہ باتفاق ائمہ مفسرین کی سورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ و دیگر صحابہ مفسرین سے اسی طرح منقول ہے کہی سورتوں کے مضامین کی طرح اس سورت کا مضمون بھی اثباتِ قیامت اور حشر و نشر کے موضوع کو دلائل سے بیان کرنا ہے اس سے قبل سورتوں میں سعادت و شقاوت کے اصول احوالِ آخرت اور جزاء و سزا کا ذکر تھا۔ اب اس سورت میں خاص طور سے وہ ہولناک واقعات جن کو حوادثِ دہر اور قوارخ زمانہ کہا جاسکتا ہے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ انسان غفلت سے چونکے اور فکرِ آخرت کے بیٹے تیار ہو جائے۔ قرآن کریم میں ایسے تمام مضامین اور آیات کو جو طبع بشری کو جنبش دینے والے ہوں۔

(باقی حاشیہ) نہیں کرتے وہ جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل و حقیر ہیں۔ ایک شائستہ گھوڑے کو مالک گھاس کے نیگے اور تھوڑا سا دانہ کھلاتا ہے وہ اتنی سی تربیت پر اپنے مالک کی وفاداری میں جان لٹا دیتا ہے جدھر سوار اشارہ کرتا ہے ادھر چلتا ہے دوڑتا اور ہانپتا ہوا ٹاپا پیٹتا ہوا اور غبار اٹھاتا ہوا گھاس کے معکوں میں بے تکلف گھس جاتا ہے گولیوں کی بارش میں تلواروں اور سنگینوں کے سامنے پڑ کر سینہ نہیں پھیرتا بلکہ بسا اوقات وفادار گھوڑا اپنے سوار کو بچانے کے لیے اپنی جان خطرہ میں ڈال دیتا ہے۔

کیا انسان نے ایسے گھوڑوں سے کچھ سبق سیکھا ہے کہ اس کا کوئی پالنے والا ہے مالک ہے جس کی وفاداری کے لیے اسے جان و مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا اور نالائق ہے کہ ایک گھوڑے سے بلکہ کتے کے برابر بھی وفاداری نہیں دکھلا سکتا۔ فوائد عثمانیہ۔

علیہ: ان الفاظ کا اضافہ اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہے جو یہاں خداوند عالم کے باخبر ہونے کو اس روز کی خصوصیت سے بیان کیا گیا۔

بعض ائمہ مفسرین نے قارع قرآن کے عنوان سے تعبیر کیا ہے۔

اس سورت کی گیارہ آیات ہیں جس کی ابتدا ہی ایسے ہیبت ناک عنوان سے کی گئی جو طبع بشری کو خواب غفلت سے بیدار کر دے اور انسانی جامد قوی میں حرکت پیدا کر دے۔ بالخصوص وزن اعمال کا بیان کرتے ہوئے نجات و کامیابی اور ہلاکت کا راز ظاہر کر دیا گیا اور انسانی فطرت کو متنبہ کیا گیا کہ وہ ہلاکت و بربادی کے راستے سے اجتناب کرے۔

آیاتہا ۱۱ = سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ = ۳۰ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ قارعہ مکی ہے اس کی گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

الْقَارِعَةُ ۱ مَا الْقَارِعَةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۳

وہ کھڑکھڑاتی - کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی؟ اور تو کیا بوجھا؟ کیا ہے وہ کھڑکھڑاتی -

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۴ وَتَكُونُ

جس دن ہو دیں لوگ جیسے پتے بکھرے - اور ہو دیں

أَجْبَالٌ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۵ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ

پہاڑ جیسے رنگی ادن دھن - سو جس کی بھاری ہوئیں

مَوَازِينُهُ ۶ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۷ وَأَمَّا مَنْ

تو لیں - تو اس کو گزران ہے من مانتی - اور جس کی

خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۸ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ۹ وَمَا أَدْرَاكَ

ہلکی ہوئیں تو لیں - تو اس کا ٹھکانا گرٹھا - اور تو کیا بوجھادہ

مَا هِيَ ۱۰ نَارٌ حَامِيَةٌ ۱۱

کیا ہے؟ آگ ہے دہکتی -

حوادثِ زمان و قوارع دہر بروزِ محشر و تنبیہ برائے بیداری از خوابِ غفلت

قال اللہ تعالیٰ - الْقَارِعَةُ مِمَّا الْقَارِعَاتُ الخی نَارٌ حَامِيَةٌ

(ربط) گزشتہ سورت میں انسانی فطرت میں رچی ہوئی تین بنیادی خرابیوں کا بیان تھا۔ ناشکری۔ مال و دولت کا حرص اور غفلت و لاپرواہی از منعم و مالک حقیقی۔ اب اس سورت میں روزِ محشر برپا ہونے والے ہولناک واقعات کا ذکر ہے تاکہ انسان اپنی غفلت سے باز آسے۔ اپنے رب کی نعمتوں کا شکر گزار ہو اور وہ مرضِ ضیعت جو تمام تر خرابیوں کی اساس ہے یعنی حرص و لالچ اس سے بچے تو فرمایا۔

کھر کھر ادا دینے والی چیز کیا ہی عظیم الشان کھر کھر ادا دینے والی چیز ہے۔ جس کی عظمت و ہیبت کو انسان اپنی قوتِ فکر یہ یا عقلی کا دوش سے نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی ہیبت انسانی تصور سے بالاد برتر ہے اس لیے اے مخاطب بتا اور تو جانتا بھی ہے کیا ہے اور کیسی ہے وہ کھر کھر ادا دینے والی چیز؟ یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کیا اور کیسی ہے۔ اس لیے ہم ہی تجھ کو بتاتے ہیں وہ اس دن ہوگی جب کہ آدمی ہول کے بکھرے ہوئے پردانوں کی طرح پریشانی اور بدحواسی میں جن کو نہ تو کسی طرح قرار ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ٹمکن اور ٹھیراؤ۔ اور پہاڑ ہو جائیں گے دُھنی ہوئی ردنی کے گالوں کی طرح یا بکھری ادن کے ذرات۔ جو نہایت ہلکی اور کمزور ہوتی ہے۔ اور فضا میں ہوا کے ساتھ بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی بدحواسی کے عالم میں جب کہ انسان پردانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ ردنی کے گالوں کی طرح فضا میں اڑ رہے ہوں گے۔ میدانِ حشر میں انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا اور ان کے اعمال تو لے جائیں گے تو جس شخص کا ترازو سنے اعمال میں نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ بہت ہی راحت و خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ اس کو ہر پسندیدہ اور مطلوب چیز وہاں ملے گی۔ اور جس شخص کا نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانا بادیا ہوگا اور اے مخاطب تجھے معلوم بھی ہے کیا ہے بادیا؟ وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے جس کے شعلے سمندر کی موجوں کی طرح ایک طوفانی شکل میں نظر آتے ہونگے۔ یہ جہنم ان بد نصیبوں کے لیے ہوگی جن کے پاس نہ ایمان اور نہ عمل صالح اور نہ اس میں اخلاص اور قیامت کے روز میزانِ اعمال میں وزن تو ایمان و اخلاص ہی کا ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی ترازو ہے اس میں مادی وزن اور ثقل نہیں بلکہ روحانی عظمت تولی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے پلے پلے ہوں گے جیسا کہ ارشاد ہے۔

عہ: حافظ علامہ ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ القارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسما و قیامت میں القارعہ۔ الحاقہ۔ الطامہ۔ الفاقہ اور الغاشیہ وغیرہ کلمات قرآن کریم نے استعمال کیے ہیں۔ ۱۲۔

فَلَا تُفِيحُمْ كَهْفُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ زُنَا. اس کے برعکس اہل ایمان اور نیکو کاروں کے اعمال کا وزن اس ترازو میں بھاری ہوگا اور ان کے پلے بھاری ہونے کی وجہ سے نجات و کامیابی حاصل ہوگی اور جنت میں ان کو پسندیدہ اور محبوب زندگی نصیب ہوگی۔ اور یہی فوز و نلاح ہے۔

مادی اجسام کا ثقل اور روحانیت کی لطافت

مادیت کثافت کا نام ہے اور روحانیت میں لطافت ہے۔ اجسام میں خدا تعالیٰ نے ایک قسم کا ثقل اور بوجھ رکھا ہے۔ جب کہ روحانیت میں تجرد اور لطافت ہے اور یہ ایک قدرتی امر ہے جس کا ہر ایک مشاہدہ کرتا ہے اور یہی ثقل اور وزن اس کو سکون و قرار کی طرف مائل کرتا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو حیز طبیعی کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے تو مادیت میں جھکاؤ ثقل جسمانی کے باعث ہوگا لیکن روحانیت میں ثقل بھی روحانی ہوگا اور اسی کے باعث جھکاؤ ہوگا تو دنیا کے ترازو میں مادی اثقال و اوزان تو لٹنے کے لئے ہوتی ہیں تو ان ترازوؤں کا پلہ اس وزن کی وجہ سے جھکتا ہے تو آخرت کی ترازو جس میں روحانیت کا وزن ہوگا۔ اس کا پلہ لامحالہ روحانی اوزان کے باعث جھکے گا اس بنا پر یہاں قَامًا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور دَامًا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کا عنوان اختیار فرمایا گیا۔ ایمان و اعمال کا ثقل اس طرح سمجھ لیا جائے جیسے دنیا میں معنوی ثقل میں وقار و استقامت صبر و علم جیسے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے یہ انسان اپنے عزم اور حوصلہ میں پہاڑ واقع ہوا ہے اور بالعموم صبر و استقامت میں حوصلہ مند اور باوقار انسانوں کو پہاڑوں سے تشبیہ دی جاتی ہے اس طرح دنیا میں ایک ثقل و استقامت پہاڑوں کی ہے جو حسن اور ظاہری ہے اور ایک وزن و استقامت معنوی ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے تو قیامت کے وقت عالم میں برابر ہونے والے انتشار و اضطراب کو نظر ہر کرنے کے لئے قرآن کریم نے پہاڑوں کو تورونی کے اڑتے ہوئے گالوں کی طرح بتایا کہ وہ سب کچھ وزن و قوت سے عاری ہو کر اڑنے والے روٹی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور وہ ادوالعزم اور باعزم لوگ جو پہاڑوں سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے ہیں وہ بکھر سے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور اس روز دیکھ لیا جائے گا دنیا کے اثقال و اوزان خواہ وہ جتنی ہوں یا معنوی ان کا یہ حشر ہو رہا ہے اس روز جو ثقل و وزن ہوگا وہ صرف اعمال صالحہ اور ایمان کا ہوگا اور قیامت کے روز میزان اعمال ایسے ہی ثقل کو تولنے کے لئے ہوگی۔

میزان اعمال اور وزن اعمال کی بحث گذر چکی اور تفصیل سے معترضہ کے اس باطل قول کا رد بھی کر دیا گیا۔ جو میزان اعمال کا انکار کرتے ہیں اہل سنت اور جمہور متکلمین کے نزدیک وزن اعمال ثابت ہیں اور اعمال کے تولنے کی ترازو برحق ہے جیسے کہ ارشاد ہے۔ وَ نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ۱۰۱
یہ بھی تفصیل کے ساتھ گذر چکا کہ میزان اعمال میں وزن کے بارہ میں یہ تینوں باتیں از روئے نصوص و احادیث ممکن ہیں کہ نفس اعمال کا وزن ہو۔ یا نامہ ہلے اعمال کا وزن ہو یا صاحب اعمال کا وزن ہو۔

نفس اعمال کا وزن تو اس حقیقت پر مبنی ہے کہ دنیا میں کیئے اعمال و افعال قیامت کے روز حقائق پر جوہر کی شکل ہوں گے اور ان کا وزن ہوگا۔ نامہ اعمال کے وزن کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص لایا جائے گا اور اس کے ننانوے^{۹۹} سے دفتر ہوں گے گن ہوں گے جو پیش کیئے جائیں گے۔ اس کے مقابلہ میں جب اس کی ایک نیچی جو کاغذ کے ایک پڑ سے پر لکھی ہوگی تو وہ کہے گا۔ اے پروردگار ان گناہوں کے ڈھیر کے مقابلہ میں اس ایک کاغذ کے پڑ سے کی کیا حقیقت ہے؟ لیکن جب وہ تو لاجائے گا تو ان ننانوے دستاویزوں پر بھاری ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ نامہ اعمال تو لے جائیں گے۔ اور صاحب اعمال کے تو لےنے کی تائید جامع ترمذی کی اس حدیث سے ہوتی ہے۔ جس میں ہے کہ قیامت کے روز ایک نہایت ہی بھاری بھر کم موٹا تازہ شخص پیش کیا جائے گا تاکہ اس کو میزانِ عمل میں تو لاجائے لیکن چونکہ اس میں ایمان اور عمل صالح کا کوئی روحانی وزن نہ ہوگا تو اس ترازو میں رکھے جانے کے بعد اس کا کوئی وزن نہیں ظاہر ہوگا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اگر تمہارا دل چاہے تو یہ آیت پڑھ لو۔

فَلَا تَبْقِيُمْ كَهْفُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَفًا»

ترجمہ بحمد اللہ، تفسیر سورۃ القارعت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ التَّكَاثُرِ

سورہ تکاثر کی سورت ہے۔ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔

بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کیوں نہیں تم لوگ ہر دن میں ہزار آیتیں پڑھ لیتے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر روز کوئی شخص ہزار آیتیں کس طرح پڑھ سکے گا آپ نے فرمایا کیا تم سورہ اَنْهٰلِكُمْ التَّكَاثُرُ ہمیں پڑھ سکتے۔

اس سورت کا موضوع انسان کی اس غفلت پر تنبیہ ہے کہ وہ مال و اولاد ہی کی فکر میں اپنی ساری زندگی برباد کر دیتا ہے اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آخرت کے لئے کچھ تیاری کرے اور اس کا یہ انتہاک مادی زندگی اور مال و دولت جمع کرنے میں مسلسل باقی رہتا ہے۔ اور مرنے کے وقت تک وہ اسی میں نگارہتا ہے حتیٰ کہ دنیا سے گذر جاتا ہے اور قبر کے مراحل سے اس کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور وہ

دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی عمر برباد کر ڈالی۔
سورت کا اختتام اس وعید و تنبیہ پر کیا گیا کہ انسان کو دنیا میں جو نعمتیں اور راحتیں دی گئی ہیں۔ ان کا ایک
حق ہے اور یقیناً اس بارہ میں اس سے باز پرس ہوگی کہ اس نے حق نعمت کیا اور کس طرح ادا کیا۔

آیاتہا ۸ = ۱۰۲ = سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ = ۱۶ = رُكُوْعُهَا ۱

سورہ تکوین نامی ہے۔ اس میں آٹھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اَلْهٰکُمْ التَّکٰثِرُ ۱ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ کَلَّا سَوْفَ

غفلت میں رکھاتم کو بہتایت کی حرص نے جب تک جا دکھیں قبریں - کوئی نہیں آگے

تَعْلَمُوْنَ ۳ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۴ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ

جان لوگے - پھر بھی کوئی نہیں! آگے جان لوگے - کوئی نہیں اگر جانو

عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا

یقین کر جانف - بیشک تم کو دیکھنا دوزخ - پھر دیکھنا یقین کی

عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۷ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۸

آنکھ سے - پھر پوچھیں گے تم سے اس دن آرام کی حقیقت۔

تنبیہ و تہدید بر غفلت از آخرت و عید بر حرص مال و دولت

قال اللہ تعالیٰ: اَلْهٰکُمْ التَّکٰثِرُ الی یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ

(ربط) سورہ الفارغہ میں انسان کو قیامت پر پیش آنے والے ہولناک حوادث سے آگاہ و خبردار

کیا گیا تھا۔ اب اس سورت میں جو اسبابِ غفلت ہیں ان سے باخبر کیا جا رہا ہے کہ مال و دولت کی حرص انسان کو آخرت سے غافل اور دور کرنے والی چیز ہے۔ اسی طرح مال و اولاد پر تفاخر و مغرور بھی کوئی اچھی بات نہیں۔ انسان کو چاہیے ان فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنے اصل مقصد یعنی فکرِ آخرت کو فراموش نہ کرے۔

قتادہ اور مقاتلؒ سے یہ منقول ہے کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ جبکہ مدینہ میں پہنچنے والے یہود اس پر تفاخر کرتے تھے کہ میرے پاس اس قدر مال ہے اور میری اولاد اتنی ہے، اور ہر ایک اسی فکر میں رہتا اور اس میں اس قدر انہماک اور غلو اختیار کیا کہ اپنا دین بھی بھول گئے اور اس سلسلہ میں جو بھی کچھ کرنا پڑا۔ حلال و حرام کی پرداہ کیئے بغیر گزرے۔ لیکن یہ روایت باعتبار اسناد محدثین کے نزدیک صحیح نہیں۔ اس لئے اس سورت کا کئی ہونا ہی جمہور نے اختیار کیا ہے۔

بعض مفسرین اس کا سبب نزول۔ قریش کے دو قبیلوں بنو عبد مناف اور بنو سہم کے درمیان اس نزاع اور باہمی قتال کو بتاتے ہیں جو اسی طرح باہمی تفاخر اور سرداری کے لالچ کی وجہ سے پیش آیا۔ آپس میں خوب لڑنے قبروں کے گننے کی نوبت آگئی۔ انسان کے اس فطری عیب کو بیان کرتے ہوئے اس لہر کی بھی تلقین کی گئی کہ دنیا میں اس کو نعمتیں عطا کی جاتی ہیں ان کا حق ہوتا ہے اور اگر انسان اس حق کو ادا کرنے میں کوتاہی کرے تو مواخذہ اور سزا سے ہرگز نہ بچ سکے گا۔ تو ارشاد فرمایا لے لوگو! غافل بنا دیا ہے تم کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے اور اس کی کثرت پر فخر کرنے نے اور تم اس تفاخر و تکثار سے باز نہ آؤ گے یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو تو مرنے تک اسی طرح باہمی تفاخر اور مال و دولت جمع کرنے کی حرص میں مبتلا رہو گے اور یہ غفلت کا پردہ اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک کہ تم قبر میں نہیں چلے جاؤ گے۔ خبردار ہرگز یہ چیز غفلت کی نہیں اور نہ قابل انکار بے شک غفریب تم جان لو گے کہ قیامت برحق ہے۔ اور دنیوی زندگی کے اعمال و افعال کا حساب بدلہ ہے۔ خبردار ہرگز یہ چیز قابل غفلت نہیں دنیا کی زندگی خالی ہے۔ بے شک پھر تم بہت جلد معلوم کر لو گے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں ایک خواب ہے۔

عنه ان الفاظ میں اشارہ ہے کہ تکثار کے دونوں معنی ہیں۔ مال و دولت زیادہ جمع کرنے کی حرص اور مال و اولاد پر تفاخر ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے۔ ۱۲۔

عنه : ترجمہ کے درمیان اضافہ کردہ کلمات سے کلاً سَوَّكَ تَعْلَمُونَ کے تکرار کی طرف اشارہ ہے۔ ۱۲۔
عنه : حدیث میں ہے کہ عبد اللہ بن الشخیر صحابی ایک روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سورۃ آلہکم التکثار پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے۔

يقول ابن آدم مالي و هلي كذا

کہ ابن آدم یہ کہتا ہے میرا مال میرا مال حلال کہ

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

یہ حقیقت اگرچہ دنیا میں کچھ لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے اور دنیا کی زندگی اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں لیکن جب انسان قبر میں پہنچے گا تو پھر اصل حقیقت کھل کر نظروں کے سامنے آئے گی تو سمجھو و خبردار ہرگز تمہیں خاک بھی علم نہیں۔ بے شک اگر تم جان لو آخرت کا حال علم یقین کی صورت میں تو یقیناً ایسی تمام غفلتوں نافرمانیوں اور مال و دولت جمع کرنے کی حرص اور تفریح سے باز آکر اصل کام میں لگ جاؤ اور آخرت کی تیاری میں ہمہ تن مصروف ہو جاؤ مگر انفس ایسا نہیں ہوتا بلکہ انسان اسی طرح غفلت و جہالت میں زندگی گزار دیتا ہے۔ لہذا اس کو لے لوگو! ضرور بالفرد تم جہنم دیکھو گے۔ یہ یہی نہیں کہ بس دور سے دیکھ لو اور وہ نظر آجائے بلکہ یقیناً تم اس دوزخ کو دیکھو گے آنکھوں کے مشاہدہ اور یقین کے ساتھ۔ جس میں کسی نوع کا شبہ باقی نہ رہے گا۔

اس میں تم اپنی غفلت اور نافرمانیوں کے باعث داخل ہو گے اور اس کا مزہ چکھو گے پھر اس

عہ: بعض حضرات مفسرین کا خیال ہے کہ اس مقام پر دوزخ کے دو مرتبہ دیکھنے کے ذکر میں اول مرتبہ دیکھنا مرنے کے بعد عالم برزخ میں ہے اور دوسری مرتبہ دیکھنے سے حشر کے روز دیکھنا مراد ہے۔ عارفین بیان کرتے ہیں کہ علم کے تین درجے ہیں۔ علم الیقین جیسے کسی نے دریا کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا۔ دوسرا عین الیقین ہے جبکہ اس کے کنارہ پر پہنچ کر پانی چٹو میں لے لیا۔ تیسرا حق الیقین ہے جبکہ دریا میں گھس کر غوطہ کھا لیا۔ اور ظاہر ہے کہ عین الیقین کا درجہ علم الیقین سے بڑھ کر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی گمراہی اور گوسالہ پرستی پر اللہ نے مطلع کر دیا تھا اور اللہ کی وحی سے جو علم حاصل ہوا وہ بلاشبہ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

من مالک إلا ما اکتف فافیت
أولست فابلیت او تصدقت
فامضیت۔

ایک روایت میں ہے کہ اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو انسان سے جدا ہونے والا ہے اور آدمی دوسروں کے واسطے چھوڑ کر جانے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کی طبعی حرص کی کوئی حد نہیں۔ اسی کا ان کلمات میں بیان ہے نوکان لابن آدم وادیان من الذهب لا بتغی ثلثا ولا یصل مؤجوف ابن آدم الا المتراج ویتوب اللہ علی من تاب۔ یعنی اگر ابن آدم کے لئے دو میدان ہی سونے کے بھرے ہوئے ہیں تو بھی تیسری وادی کی تلاش میں لگ جائے گا۔ اور انسان کا پیٹ ہرگز کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے مٹی کے اور اس کی حرص کا خاتمہ بس قبر ہی میں جا کر ہو گا ۱۲۔

روزِ تم سے ضرور بالضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارہ میں جو تم پر حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے کی گئیں کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا تم نے ان نعمتوں کے بعد ان کی عظمت کو چھپانا یا نہیں؟ تم نے اپنے منعم کی محبت اور جذبہ اطاعت کو اپنے دل میں محسوس کیا یا نہیں؟ تم نے اپنے منعم کی ناراضگی سے ڈرے یا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ان سوالات کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں بالخصوص اس دن اور اس عالم میں جہاں ظاہر و باطن کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا اور زبان سے صرف وہی بات ادا ہو سکتی ہے جو حقیقت اور عین صداقت ہے۔ پس انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان بے پایاں نعمتوں پر جن کی شان یہ ہے **وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَنَا اللَّهُ لَا تَحْصُوهَا** محاسبہ اور مواخذہ پر وہ کیا جواب دے گا۔ نعمتوں کی بے شک کوئی حد و انتہاء نہیں۔ ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں جسمانی نعمتیں روحانی نعمتیں۔ پھر ہر قسم میں متعدد انواع و اقسام اور مراتب غرض ایک وسیع سلسلہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا انسان پر ہمہ وقت قائم و جاری ہے۔ حیات و تندرستی اعضاء کی خوبی اور سلامتی حسن و جمال اور اک عقل و فہم۔ اسباب راحت و آسائش اور اقسام و انواع کے فوکر اور رزق اور حملہ نعام غرض ہر شعبہ حیات بے شمار انعامات کا مرکز نظر آتا ہے۔ تو بلاشبہ ان کے حق کا سوال ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے غافل و مغرور نہ ہو بلکہ اس کی تیاری میں لگ جائے کہ روزِ محشر جب ان نعمتوں کا حق ادا کرنے کا سوال ہوگا تو میں کیا جواب دوں گا۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور ان کو دیکھ کر فرمایا یہاں تم لوگ کیوں بیٹھے ہو۔ دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ ہمیں کسی بھی چیز نے گھر سے باہر نہیں نکالا ہے سوائے بھوک کے۔ کہ اس بے چینی میں گھر سے باہر نکلے ہیں کہ شاید کوئی چیز کھانے کو مل جائے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا خدا کی قسم مجھے اس کے سوا اور کسی چیز نے باہر نہیں نکالا۔ یہ تینوں حضرات ایک انصاری کے پاس پہنچے ان کی بیوی نے دیکھ کر کہا اہم جیسا مبارک دن ہے ایسے مبارک اور معزز یہاں میرے یہاں آگئے اور بتایا کہ انصاری تو بیٹھا پانی لینے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ بھی آگئے۔ ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے پکا کر لایا گیا اور کچھ چھوہارے بھی پیش کیئے گئے۔ ان حضرات نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ ٹھنڈا پانی پیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا **لَنْتَمَلِكَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجْوَى**۔ بے شک اس روز تمہارے سے ان نعمتوں کے بارہ میں سوال ہوگا۔ تمہیں گھر سے بھوک نے نکالا اور تم واپس لوٹنے سے پہلے ان نعمتوں سے بہرہ ور ہو گئے۔

(باقی حاشیہ) علم یقین ہے۔ لیکن جب انہوں نے واپس پہنچ کر اپنی آنکھوں سے اس مشرکانہ عمل کو دیکھا تو غصہ کی کوئی حد نہ رہی حالانکہ علم یقین تو اللہ کی وحی سے ہو چکا تھا۔ آنکھوں سے دیکھا تو عین یقین کا مقام حاصل ہوا تو جو غصہ پہلے علم پر نہ تھا وہ دوسرے علم پر ہوا۔

تو یہ کس قدر اللہ کا انعام ہے۔ انسان اگر اس حقیقت کو سمجھ لے تو اس کو قدم قدم پر اللہ کی بے پایاں نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگے گا۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الفہم التکاشر

آیاتہا ۳ = ۱۰۳ = سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ = ۱۳ = رُكُوعُهَا ۱

سورۃ عصر کی ہے۔ اس میں تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

وَالْعَصْرِ ۱ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۳

قسم اترتے دن کی۔ مقرر انسان پر ٹوٹا ہے۔ مگر جو یقین لائے اور

عملاً الصلحت و توأصوا بالحق و توأصوا بالصبر ۳

کئے بھلے کام، اور آپس میں تقید کیا کچے دین کا، اور آپس میں تقید کیا سہار کا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْعَصْرِ

سورۃ عصر بالاتفاق مکی سورت ہے تمام ائمہ مفسرین کا اس پر اجماع ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے البتہ بعض مفسرین قتادہؓ سے اس کے بارہ میں مدنیہ ہونے کا قول نقل کرتے ہیں۔

اس سورت میں زمانہ کی قسم کھا کر انسان کے خسارہ اور اس کی عاقبت کی تباہی کا بیان ہے اور بطور بنیادی اصول چار چیزوں کو معیار فرمایا گیا جو انسان کو خسران و محرومی سے بچانے والی ہیں۔ ایمان، عمل صالح، توأصی بالحق اور توأصی بالصبر۔

انسان کی زندگی ایک عظیم سرمایہ ہے تو اس کے خسارہ اور کامیابی کی دونوں جانبوں کو بڑی ہی وضاحت

سے بیان فرمایا گیا۔

سورۃ تکوین میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان اپنی زندگی اسی حرص و شوق میں گزار دیتا ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو۔ عیش و عشرت کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ اور اسی پر وہ فخر کرتا ہے۔ تو اب اس سورت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوری سے اپنی زندگی ہی تباہ و برباد کرتا ہے اور اس قیمتی سرمایہ حیات سے جو نفع اٹھانا چاہیے تھا وہ نہیں اٹھاتا تو اس طرح انسان اپنی زندگی برباد کرتا ہے اور اس محرومی اور خسران سے بچنے کے یہ اصول اربعہ ہیں۔ ایمان و عمل صالح۔ توامی بالحق۔ اور توامی بالصبر گویا اصول فلاح و سعادت کے موضوع پر یہ سورت نہایت ہی جامع سورت ہے۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے: "اگر اللہ رب العزت قرآن کریم میں اس سورت کے علاوہ اور کچھ نہ اتارتے تو تب بھی یہی ایک سورت تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کافی تھی۔ تو ارشاد فرمایا: قسم ہے زمانہ کی جس کے انقلابات کا انسان ہمہ وقت مشاہدہ کرتا ہے عزت و ذلت امیری و فقری۔ تندرستی و بیماری۔ راحت و تکلیف اور کامیابی و ناکامی اور غمی و خوشی۔ غرض یہ تمام احوال اور زندگی میں واقع ہونے والے افعال خیر و شر سب ہی باتیں اس بات کی گواہ ہیں۔"

بے شک انسان اپنی فطرت اور طبعی کمزوریوں کے باعث عمر عزیز گزارتا ہے مگر سرمایہ ضائع کر ڈالتے کی وجہ سے بڑے ہی خسارہ میں ہے۔ دنیا میں ہر خسارہ کی تلافی ممکن ہے۔ لیکن اس خسارہ کی تلافی کا کوئی امکان نہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکی کے کام کیے اور باہم ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ اور ایک دوسرے کو صبر و برداشت اور پابندی اعمال پر تاکید اور ہدایت و نصیحت کرتے رہے تو بس یہ لوگ تو خسارہ سے بچیں گے اور بلاشبہ نفع اٹھاسکیں گے اپنے سرمایہ حیات سے۔

کلام اللہ میں زمانہ کی قسم کھانا انسانی حیات کو ضیاع و خسران سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے

اس سورۃ مبارکہ میں حق تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر انسانی حیات کی تباہی و بربادی یا اس کے سود مند اور کارآمد ہونے کا ایک جامع ضابطہ اور مکمل ہدایت کے اصول بیان فرمائے۔

عہ: سلف صالحین سے منقول ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں بیٹے تو بعد اہموتے وقت ایک دوسرے کو یہ سورت سنایا کرتے۔ ۱۲

انسان کی زندگی بلاشبہ ایک قیمتی سرمایہ ہے اور ہر سرمایہ نگار نے والا یہ سوچا کرتا ہے کہ اس کو نگائے ہوئے سرمایہ پر کیا نفع ملے گا یا اصل سرمایہ بھی ضائع و برباد کیا۔ اسی حقیقت کی طرف انسانی اذہان و افکار کو متوجہ کرنے کے لئے قرآن کریم نے یہ آیت نازل فرمائی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُمُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ۔** ان الفاظ سے یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان کو اپنی زندگی جو نہایت ہی گرانقدر سرمایہ ہے اس سے نفع اٹھانے کی شکل صرف یہی ہے۔ **فَوَيْسُؤُنَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَارًا هَدُودًا فَخَسِبَ لِلَّهِ يَا مَعْزِلُكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔** تو اس چند روزہ عمر میں انسان اگر نفع اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے لئے دو باتیں ضروری ہیں۔ اول یہ کہ اپنی حیات میں کمال حاصل کرے۔ دوسرے یہ کہ بعد الحیات ایسا سلسلہ باقی چھوڑے جو باقیات الصالحات ہوں اور حسنات ہمیشہ اس کو پہنچتے رہیں ورنہ عمر تو انسان کی بہت ہی مختصر ہے۔ کچھ حصہ تو بچپن کا گذر جاتا ہے کچھ لہو و لعب میں اور کچھ بیماریوں اور بڑھاپے میں۔ بس درمیان کی ایک مختصر سی مدت ہے اس میں بھی ہزاروں موانع نفس کی خواہشات کا جال فتنوں کا سیلاب طبعی غفلتیں مادی مسرفیات غرض اس مختصر سی مدت میں کتنے لمحے ایسے نصیب ہوں گے جن سے وہ ابدی نفع حاصل کر سکے گا۔ تو اسی امر کے پیش نظر بالعموم نوع انسان کو خسارہ اٹھانے والا فرما کر اس سے سچاؤ اور تحفظ کے یہ اصول اربعہ متعین فرما دیئے گئے۔ ایمان عمل صالح تو اوصی بالحق۔ اور تو اوصی بالصبر۔ ایمان سے معرفت کا مقام حاصل ہوگا۔ عمل صالح اطاعت و فرماں برداری جو تہذیب نفس کا باعث ہے۔ اور اس حالت میں روح کی بدن سے مفارقت موجب سعادت ہوگی۔ تو اس حد تک کمال اعتقاد اور صلاح عمل کا مقام تو مکمل ہو جائے گا۔ مگر انسانی سعادت اس امر کی بھی متقاضی ہے کہ صلاح ذات یا تہذیب نفس کے ساتھ اصلاح کا پہلو بھی جمع ہو۔ اور وہ اسی میں مضمر ہے کہ حق اور صداقت کو پھیلایا جائے اس پر دوسروں کو آمادہ کیا جائے تاکہ یہ سلسلہ حسنات باقیہ کا جاری ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اصلاح معاشرہ کے لئے حق و صداقت پر دوسروں کو آمادہ کرنا بنیادی امر ہے اسی کے ساتھ تو اوصی بالصبر بھی لازم ہے کہ احکام الہیہ اور مکام اخلاق کی پابندی اور اس کے مطابق زندگی بنانے کے لئے صبر و استقامت کی تلقین راہ حق میں شدائد مصائب کے تحمل کے لئے ہمت دلانا۔ اپنی ذات اور کردار کو باکمال بنانے کے بعد دوسروں کو بھی باکمال بنانے اور فوز و فلاح کے بلند ترین مقام تک پہنچانے کا ذریعہ ہوگا اور ادنیٰ تامل سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی۔ زندگی کی خوبی اور زمانہ کی خیر و برکت اسی میں مضمر ہے اور اگر انسانی حیات کمال کے ان دو پہلوؤں سے خالی ہو تو پھر دنیا آلام و مصائب اور آفات و فتن کا گہوارہ ہوگی۔ اور تاریخ عالم اس امر پر گواہ ہے کہ عالم میں ہر تباہی اور بربادی ایمان و عمل صالح کے فقدان اور تو اوصی بالحق اور تو اوصی بالصبر کے ختم ہو جانے سے بھی مرتب ہوتی رہی ہے۔ یعنی انسانوں میں جب نہ خود کوئی کمال رہے اور نہ دوسروں کو خیر کی دعوت ہو تو پھر سوائے خسار اور تباہی کے اور کیا ہو سکتا ہے اور چونکہ یہ حقائق زمانہ کی تاریخ ہیں۔ اس وجہ سے زمانہ کی

قسم کھا کر اس مضمون کو ارشاد فرمایا گیا۔ بعض مفسرین نے عصر سے وقت عصر مراد لیا ہے کسی نے نماز عصر لیکن جہور کے نزدیک یہی قول راجح ہے۔

قرآن کریم میں بہت سی چیزوں کی قسمیں حق تعلقے شائد نے کھائی ہیں۔ کہیں راست کی۔
فائدہ دن کی۔ چاند سورج کی۔ زمین و آسمان کی شہر مکہ کی۔ کہیں تین اور زیتون کی اس موضوع کو پہلے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ ان قسموں سے عرض ان مخلوقات کی عظمت کو مخاطبین کے ذہنوں میں قائم کر کے اصل مدعی کو واضح اور ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور اس میں غیر اللہ کی قسم کا اشکال بھی درست نہیں کیونکہ غیر اللہ کی قسم مخلوق کی طرف سے تو شرک کا شاہد رکھتی ہے۔ خالق کا خود اپنی مخلوق کی قسم کھانا اس شہ سے پاک ہے۔ اس لئے ان اقسام میں لفظ رب محذوف ماننے کی ضرورت نہیں جیسا کہ بعض حضرات نے اس کا اہتمام کیا ہے ظاہر ہی پر محمول رکھتے ہوئے کہا جائے کہ خالق کا خود اپنی مخلوق کی قسم کھانا شرک نہیں بلکہ مخلوق کی عظمت ظاہر کر کے خدا خود اپنی عظمت کو ثابت فرما رہا ہے۔

عہ: استاد محترم شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ اپنے فوائد میں فرماتے ہیں کہ انسان کو خسارہ سے بچنے کے لیے چار باتوں کی ضرورت ہے اول خدا اور رسول پر ایمان لائے اور ان کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے پورا یقین رکھے دوسرے اس پر یقین کا اثر محض قلب و دماغ تک محدود نہ رہے بلکہ جوارح میں بھی ظاہر ہو اور اس کی عملی زندگی اس کے قلبی ایمان کا آئینہ ہو۔ تیسرے محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت نہ کرے بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے بچے دین اور ہر معاملہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ چوتھے ہر ایک کو دوسرے کی یہ نصیحت و نصیحت رہے کہ حق کے معاملہ میں اور شخصی و قومی اصلاح کے راستہ میں جس قدر سختیاں اور دشواریاں پیش آئیں یا خلاف طبع امور کا عمل کرنا پڑے پورے صبر و استقامت سے تحمل کریں ہرگز قدم نیکی کے راستے سے ڈگمگانے نہ پائے جو خوش قسمت حضرات ان چار اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کامل ہو کر دوسروں کی تکمیل کریں گے ان کا نام صفحات دہر میں زندہ جاوید رہے گا۔ اور جو آثار چھوڑ کر دنیا سے جائیں گے وہ بطور باقیات صالحات ہمیشہ ان کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے (کذافی الفوائد)

تو اس طرح ان اصول اربعہ کو انسانی فوز و فلاح اور فرد و ملت کی کامیابی کے جامع اصول کہا جاسکتا ہے پھر ان اصول اربعہ میں قوت نظریہ اور قوت عملیہ کی تکمیل کا پہلو بھی واضح ہے اور اسی کے ساتھ تواریح و باطن اور تواریح بالعبور سیاست مدنیہ کے تمام شعبوں کو اعلیٰ و اکمل طور پر پورا کرنے کا باعث ہیں۔ ۱۲۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُوْرَةُ الْهُنٰةِ

سورۃ الہنزہ بھی کئی سورت ہے اور اکثر ائمہ مفسرین کا اس پر اتفاق ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں خاص طور پر ان امور و خصائل کی مذمت کی گئی ہے جو انسانی اقدار کو تباہ کرنے والے ہیں۔ طعن و تشنیع۔ عیب جوئی بدترین خصلت ہے جو ایمان کے ساتھ جمع ہونے کے قابل نہیں۔ مؤمن کی شان سے اس قسم کی باتیں بعید ہیں۔ ان مذموم اور ناپاک خصلتوں کا کفر و شرک کے ساتھ اجتماع ہو سکتا ہے۔ مگر انسان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ کفر و نافرمانی کا کیسا بدترین انجام ہے۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ جس کے تصور سے ہی انسان کانپ جائے۔ ظاہر ہے کہ جب اس جہنم میں مجرمین کو ڈالا جائے گا تو کیا حال ہو گا تو اس مضمون میں نار جہنم کی عظمت و ہیبت کو بیان کیا گیا۔

آیاتہا ۹ = ۱۰۴ = سُوْرَةُ الْهُنٰةِ مَكِّيَّةٌ = ۳۲ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ الہنزہ کئی ہے، اس میں نو آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۲

خرابی ہے ہر طعن دیتے، عیب پھیننے کی۔ جس نے سمیٹا مال اور گن گن رکھا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُبَدِّلَنَّا فِي الْحُطَمَةِ ۴

خیال رکھتا ہے کہ مال سدا رہے گا اس کے ساتھ۔ کوئی نہیں! اس کو پھینکنا ہے اس روندنے والی میں۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۶ الَّتِي

اور تو کیا بوجھا؟ کون ہے وہ روندنے والی؟ آگ ہے اللہ کی سلگائی۔ ۵ ج

تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۗ ﴿۸﴾ فِي

جھانک لیتی ہے دل - ان کو اس میں مومنا ہے - لہجے

عَمِدٍ مُّمدَّدَةٍ ۙ ﴿۹﴾

لہجے ستونوں میں -

طعن و تشنیع و عیب جوئی و حب مال
موجب ہلاکت و باعث نارِ جہنم ہے۔

قال الله تعالى - وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا كَالسَّيْفِ مُرَدَّدَةٍ ۙ ﴿۸﴾ ... الخ ... فِي عَمِدٍ مُّمدَّدَةٍ

(ربط) گزشتہ سورہ و العصر میں انسان کو ایسے اصول کی ہدایت فرمائی گئی جن کے ذریعہ وہ اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچا سکے اور انسانی حیات جس فوز و فلاح کے لئے عطا کی گئی اس کو حاصل کر کے خسران و محرومی سے محفوظ رہے۔ اب اس سورت میں ان بعض ناپاک اور بیہودہ خصلتوں کا بیان ہے جن سے انسان اپنی انسانیت ہی کو برباد کر ڈالتا ہے وہ طعن و تشنیع جیسی مذموم خصلت۔ لوگوں میں عیب تلاش کرنا۔ ان پر طنز کرنا۔ ان کی تحقیر و تذلیل کے درپے ہو جانا ہے۔ ان مذموم خصلتوں کا حامل انسان اپنی انسانیت ہی برباد کرتا ہے تو پہلے عمر ضائع کرنے پر وجہ تھی اور اس سے تحفظ کے اصول اربعہ کا بیان تھا۔ تو اب اصل انسانیت ہی کو تباہ کرنے والی خصلتوں کا بیان ہے تاکہ انسان ایسے ناپاک خصلتوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جہاں ایک طرف ان خصائل سے انسانیت کو گندگی سے آلودہ کرنا لازم آتا ہے اسی طرح مال کی محبت اور اس پر فریفتہ ہو جانا بھی انسانیت کو تباہ کرنے والی خصلت ہے۔ مال و دولت کی حرص انسان کو ہر خیر و فلاح سے محروم کرنے والی چیز ہے اور ساتھ ہی معاشرہ میں ہر نوع کی خرابی پیدا کرنے کا باعث ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ ناپاک خصائل ان معاصی اور گناہوں کا موجب ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ گناہوں میں حقوق اللہ کا برباد کرنا بھی بے شک بڑا گناہ ہے لیکن ان کی معافی کا امکان ہے۔ اس کے برعکس حقوق العباد کی معافی ممکن نہیں۔ ان خصلتوں سے انسان جماعتوں اور قوموں میں تفرقہ ڈالتا ہے جو بدترین جرم ہے۔ غیبت جیسی بدترین خصلت کا مرتکب ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ اور زنا سے بھی زیادہ بیع فرمایا۔ تو ان عادات و خصائل سے انسان کی دنائت و ذلت کی کوئی حد باقی نہیں رہتی تو ان پر وعید فرمائی گئی ہے اور آخرت کے عذاب کا بھی ذکر فرمایا گیا تاکہ انسان

ان باتوں سے پرہیز کرے۔ ارشاد ہے۔

بڑی ہی ہلاکت و تباہی ہے ہر ایسے شخص کے لینے جو پس پشت طعنہ دیتے والا اور عیب جوئی کرنے والا ہو جو اپنے اس خبیث اور کینہ خصلت کے ساتھ اس قدر حرص اور لالچی ہے کہ مال جمع کرتا ہے اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے۔ خیر اور نیکی کے کام میں خرچ کرنے کی تو کیا تو فیق ہوتی۔ زکوٰۃ و خیرات اور صلہ رحمی یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو کیا تصور کیا جاسکتا ہے وہ تو مال کی حرص اور بخل میں اس حد تک پہنچا ہے کہ گن گن کر رکھتا ہے۔ کہیں کوئی پیسہ نکل کر بھاگ نہ جائے کوشش یہی ہوتی ہے اس میں سے ایک پیسہ خرچ نہ ہونے دیا جائے ہر طرف سے مال سمیٹنے اور بار بار گننے ہی میں اس کو مزہ آتا ہے۔

کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ باقی رکھے گا نہ موت آئے گی اور نہ آسمانی حوادث و مصائب کا شکار بنے گا۔ اور نہ قیامت میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا جو کہ اس کے بخل و حرص مال اور غرور و نخوت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ خبردار ہرگز ایسا نہیں اس انسان کا یہ خیال قطعاً غلط ہے۔ ضرور بالضرور وہ پھینکا جائے گا حطہ میں۔ اور اے مخاطب سمجھے معلوم بھی ہے کہ کیا ہے وہ حطہ اور روندنے والی چیز اس کی شناخت و معرفت انسانی عقول و افکار سے بالاتر ہے وہ تو ایک آگ ہے دہکتی ہوئی جو بدن کو جلا کر ابھرتی ہے دلوں پر جب کہ دنیا کی کوئی آگ بھی بدن کو جلا کر دل تک نہیں پہنچتی۔ اور نہ ہی اس کی نوبت آتی ہے کہ آگ انسان کے بدن کو جلا کر دلوں کے اوپر اس کے شعلے ظاہر ہوں بلکہ وہ اس سے قبل ہی نزع روح کا باعث بن جاتی ہے۔ مگر یہ آگ ان مجرمین کے بدنوں کو جلاتی ہوئی دلوں پر ظاہر ہوگی اور اس کے شعلے دلوں کے اوپر بھڑکتے ہوں گے وہ آگ ان پر پاٹ دی جائے گی۔ جیسے کہ سرپوش میں کوئی چیز ڈھانک دی جائے جس کے بعد آگ کا ان پر ہر طرف سے احاطہ ہوگا نہ اندر کا گرم سانس باہر نکل سکے گا اور نہ باہر کی کوئی سرد ہوا ان تک اندر پہنچ سکے گی اور نہ ہی یہ ممکن ہوگا کہ یہ چہنئی تڑپ کر یا پھڑک کر باہر نکل جائیں بلکہ وہ گھرے ہوں گے۔ جگڑے ہونے لگیں بڑے بڑے آتش ستونوں میں کہ نہ تو ان ستونوں کو اکھاڑا جاسکے گا اور نہ ہی یہ مجرمین ان ستونوں سے کھل کر کہیں بھاگ سکیں گے۔ یا یہ پٹی ہوئی آگ۔ ایسے ستونوں کی شکل میں ہوگی جو بڑے سے

ملے بھڑے اور نمرہ کی صفت کے ساتھ اس شخص کی مزید یہ خصلت بیان کرنا کہ **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ**۔ یا تو اس کے پیش نظر ہے کہ بدگوئی اور عیب جوئی کی مذموم صفت تکبر سے پیدا ہوتی ہے جس کا منشاء مال و دولت کی کثرت ہے جس کی یہ نوبت ہے کہ **جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ** یا یہ کہ جس طرح جسمانی امراض میں ایک مرض دوسرے مرض سے وابستہ ہوتا ہے اسی طرح بدگوئی اور عیب جوئی کی بیماری بخل اور حرص مال سے پیدا ہوتی ہے۔ ۱۳

۱۴۔ یہ کلمات اس امر کی طرف اشارہ ہیں کہ آیت **فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ** ہو سکتا ہے کہ **إِنَّمَا عَلَيْكُمْ** میں لفظ **عليهم** سے متعلق ہو اور **كَيْتَبُذَنِّي** **فِي النُّحُطَةِ** میں جن لوگوں کو روندنے والی جہنم میں ڈالنے کی (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

ہی دراز کیے ہوئے اور پھیلائے ہوئے ہوں۔

ہمزہ اور لُزہ کی تفسیر

لفظ ہمزہ اور لُزہ اصول عربیت کی رُو سے فَعْلَہ کے وزن پر ہے جو مبالغہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جیسے ضَمَكْہ اس شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ ہنستا ہو اور مبالغہ کا صیغہ کسی بھی صفت کے بیان کرنے کے لئے اس جگہ لایا جاتا ہے۔ جہاں اس صفت یا فعل کو بطور عادت بیان کرنا مقصود ہو۔ ان کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں۔ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ غیبت و بدگوئی کرنے والا۔ ابو العالیہ حنّ مجاہد اور عطاء فرماتے ہیں کہ ہمزہ وہ ہے جو رد در رُو بدگوئی کرے اور لُزہ وہ جو پس پشت برائی کرے۔ قتادہ نے اس کے برعکس بیان کیا ہے۔

بعض ائمہ لغت سے نقل کیا گیا کہ ہمزہ وہ ہے جو کسی کے نسب میں طعن کرے۔ مثلاً غلاں کینہ ہے اس کی ماں ایسی ہے یا باپ ایسا تھا۔ اس کی قوم شریف نہیں ویزہ وغیرہ اور لُزہ وہ ہے ہاتھ پاؤں کے اشاروں اور حرکتوں سے تحقیر و توہین کرے حافظ ابن کثیر نے فرمایا ہمزہ وہ جو کسی کی زبان سے برائی کرے اور لُزہ وہ جو افعال کے ذریعے کسی کی دل آزادی کرے۔

بہر کیف یہ متعدد اقوال ائمہ مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ زیادہ مناسب دونوں کے ترجمہ میں وہی ہے جو اختیار کیا گیا کہ ہمزہ طعن اور عیب لگانے والا اور لُزہ عیب جوئی کرنا یا چغل خوری کرنے والا۔ اس میں شبہ نہیں کہ یہ دونوں خصالتیں انتہائی ذلیل خصالتیں ہیں۔ آیت وَ لَا تَنَابَرُوا بِلِقَابِ رَبِّیْمْ مِنْ وَجْهِیْمْ مِنْ تَحْتِیْمْ وَ مِنْ وَجْهِیْمْ مِنْ عَلَیْھِمْ وَ مِنْ عَلَیْھِمْ مِنْ تَحْتِیْمْ اور لعنت ملامت کرنے والا ہو۔

ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا ہلاکت و بربادی ہے اس شخص کے بیٹے جو لوگوں کو ہنساتا ہے جھوٹی بات کہہ کر۔ ہلاکت ہے ہلاکت ہے۔

عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت نجات کا راستہ

ع: مسند امام احمد بن حنبل۔

ابا بنی حاشیہ و عبید بیان فرمائی گئی ان کے واسطے فی عَمَدِ مُمَدَّ دِقَّہِ طَرْفِہِمْ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ انہا یعنی نار جہنم کی صفت ہو کہ وہ آگ ایسے ستونوں کی شکل میں ہوگی اور اس کے بلند شعلے ایسے نظر آتے ہوں گے۔ جیسے کہ بلند کیے ہوئے اور پھیلائے ہوئے ستون ہوں۔ ۱۲۔

کیا ہے فرمایا اپنی زبان قابو میں رکھو یعنی ہر بُری بات سے زبان کو روکو۔ اور گھر میں بیٹھو اور اپنے گناہوں پر رو یا کرو۔

ایک روایت میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے بھی ہو کہ غیبت کیا ہے لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ فرمایا کسی شخص کا اپنے بھائی کی ایسی بات ذکر کرنا جو اس کو بُری معلوم ہو۔ کسی نے اس پر عرض کیا۔ یا رسول اللہ اگر وہ بات اس میں ہو تو کیا پھر بھی غیبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اسی کا نام غیبت ہے اور اگر ایسی بات یا عیب لگاؤ جو اس میں نہیں تو پھر یہ تو بہتان ہے۔ عہدہ بالعموم ایسے غیبت امور یا عادات کا سبب کبر و تعلی ہوتا ہے اس بنا پر وہ دوسروں کی عیب گوئی اور طعن میں لگ کر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور طبعاً انسان کے عجز و نخوت اور دوسروں کی تحقیر کے یہ اسباب ہوتے ہیں۔ حسن و جمال، شرافت، نسب و حسب، علم و ہنر اور مال و دولت جس کا نشہ انسان کو اندھا بنا دیتا ہے تو اس وجہ سے ان امور خبیثہ کے ساتھ اس شخص کا یہ وصف بھی بیان کر دیا گیا۔ **الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ**۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الفیل

تمام مفسرین کے نزدیک سورۃ الفیل کی سورت ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور دوسرے ائمہ مفسرین صحابہ سے اسی طرح منقول ہے۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔ اس سورت میں ایک عظیم تاریخی واقعہ ذکر فرمایا گیا ہے جو باجماع امت حق تعالیٰ شانہ کی قدرت کاملہ اور بالغہ کا ایک واضح نمونہ تھا۔ اور اللہ رب العزت نے اس واقعہ کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کے لئے ایک دلیل اور بشارت کے طور پر ظاہر کیا۔ جس کو اصطلاح شریعت میں اربا ص کہا جاتا ہے۔ جس سال حضورؐ کی ولادت باسعادت ہوئی تھی اور ابھی ایک ماہ پچیس روز باقی تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ابراہم اشترم نے بیت اللہ پر ہاتھیوں کے لشکر سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مگر اللہ نے اپنی قدرت سے پرندوں جیسی ضعیف مخلوق کی چونچوں اور پنچوں کی کنکر یوں سے اس عظیم لشکر کو ہلاک اور پارہ پارہ فرمادیا یہ آپ کی نبوت کی تصریح کے لئے

عنه ، جامع ترمذی ابوداؤد ۔

عنه ، صحیح مسلم ۔

قدرتِ خداوندی نے بطور دلیل و نمونہ پیش کیا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔
 بیت اللہ چونکہ مرکز ہدایت بنایا گیا تھا تو اس پر کسی طاغوتی حملہ کو قدرت الہی نے گوارا نہ کیا اور اس
 قصہ سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ خدا کے دین اور مرکز ہدایت کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی نقصان نہیں
 پہنچا سکتی بلکہ وہ خود ہی پارہ پارہ کر دی جائے گی۔

آیاتہا ۱۰۵ = سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ = ۱۹ رُكُوعُهَا ۱

سورۃ فیل کی ہے اس میں پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۚ أَلَمْ

نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے، اچھی والوں سے ؟ نہ کر دیا

يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۚ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا

ان کا داؤ غلط ؟ اور بھیجے ان پر اڑتے

أَبَابِيلَ ۚ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۚ فَجَعَلَهُمْ

جانور تنگ تنگ۔ پھینکتے ان پر پتھریاں کھنکر کی ؟ پھر کر ڈالا انکو

كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۚ

جیسے بھس کھایا ہوا۔

نزولِ غضبِ خداوندی برہتکِ مائتہ توحید مرکز ہدایت

قال اللہ تعالیٰ: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ..... الی..... كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ
 (رابط) ناقبل سورۃ "البقرہ" میں انسان کے اخلاقِ رذیلہ کی مذمت اور اس پر خدا کی طرف سے

نازل ہونے والے قہر و عذاب کا ذکر تھا جو آخرت میں ایسی ذلیل حرکتوں پر مرتب ہوگا۔ اب اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ خدا کی نافرمانی اور اس کے دین کی دشمنی اور مقابلہ دنیا میں بھی بتا ہی اور ہلاکت کا موجب ہے۔ جیسے کہ اگر ہم اشرم کے لشکر نے اللہ کے گھر پر ناپاک جسارت کی تو کس طرح آسمانی عذاب نے اس کو ہلاک کر ڈالا تو ایسے تاریخی عظیم واقعات سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ خدا کی قدرت سے جب نافرمانوں اور مجرموں پر ایسے عذاب اور قہر دنیا میں واقع ہوتے ہیں تو بلاشبہ یقین کرنا چاہیے کہ کوئی مجرم خدا کے عذاب سے آخرت میں بھی ہرگز نہیں بچ سکے گا۔ اور جب اللہ کے گھر کی دشمنی پر خدا کا یہ قہر و غضب نازل ہوتا ہے تو جو شخص یا قوم اللہ کے پیغمبر اور اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے والے کی دشمنی اور مقابلہ کرے گی وہ کیونکر عذاب خداوندی سے بچ سکتی ہے۔ تو اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی آپ کے غلبہ اور طاغوتی طاقتوں کی شکست کی خبر دی گئی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے

کیا نہیں دیکھا تو نے اے مخاطب کہ کیسا معاملہ کیا تیرے رب نے ہاتھی دانوں کے ساتھ؟ جو ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ کے لیے آرہے تھے کہ وہ اپنی اس تدبیر سے (العیاذ باللہ) بیت اللہ کو سہدم کر دیں گے۔ تو کیا نہیں کر دیا۔ تیرے رب نے ان کی تدبیر کو۔ ان ہی کی ہلاکت و بربادی کی صورت میں؟ ضرور کر دیا اور ان کا دافان ہی پر الٹا واقع ہوا اور غلط ہو کر ان کی تباہی کا باعث بنا اور ان کے دل میں جو کچھ تھا وہ پورا ہونے کی بجائے حسرتیں لے کر وہ جہنم میں چلے گئے اور بھیج دیئے ان پر پرندے غول کے غول

عہ : یہ استفہام تقریری ہے کہ ہاں ضرور دیکھا ہے۔ اور اس وجہ سے اس کے بارہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضرور دیکھا ہے کیونکہ یہ قصہ اس قدر مشہور و معروف ہوا کہ گویا ہر ایک اس کو دیکھنے والا ہے اور اس بناء پر اس طرح سوال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳

عہ : ان کلمات سے لفظ کید کے مفہوم کی وضاحت مقصود ہے نیز یہ کہ تفضیل یہاں یعنی اخلاص و اہلاک ہے جو کسی تدبیر کے غلط ہونے کا انجام ہوتا ہے اسی وجہ سے اکثر حضرات اکابر نے ترجمہ میں غلط کا لفظ استعمال فرمایا۔

عہ : طَبِيرًا اَبَابِيْلًا میں لفظ ابابیل متفرق جماعتوں اور ٹولوں کو کہا جاتا ہے۔ امام لغت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں ابابیل متفرق ٹکڑیوں کو کہتے ہیں۔ چنانچہ محاورات میں بولا جاتا ہے جاءت النخيل ابابيل من ههنا و ههنا۔ یعنی گھوڑوں کے لشکر متعدد دستوں کی صورت میں پلے درپلے اس طرف سے اس طرف سے آئے۔

بعض اثر لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ جمع ہے لیکن اس لفظ سے اس کا کوئی واحد نہیں ہے۔ "أَخْفَشٌ" وقرآن اسی کے قائل ہیں اور بیان کیا کہ یہ لفظ شامیط اور عبادید کی طرح ہے کہ اس کا کوئی واحد (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

جو اڑتے ہوئے ان پر برس رہے تھے۔ سنگریزے کچی ہوئی مٹی کے جو ان پر گویوں کی طرح برس رہے تھے۔ پھر بنا دیا ان کو کھائے ہوئے بھوسہ کی طرح چُوراً چُوراً۔ جیسے گائے بیل چارہ کھانے کے بعد آخِر چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی ایسا پرانگندہ اور منتشر حقیر ذلیل کہ دیکھنے میں بھی قابلِ نفرت معلوم ہو۔ تو اس طرح اللہ نے اپنی قدرتِ قاہرہ سے ہاتھیوں جیسے طاقتور لشکر کو کمزور اور ہلکے جُتھے دانے پر ندوں سے اور ان کی چونچ اور پنچوں میں لینے ہوئے سنگریزوں سے ہلاک کر ڈالا۔

قِصَّةُ اصْحَابِ فِیْلِ

یہ واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پچاس پچپن روز پہلے کا پیش آنے والا عظیم تاریخی واقعہ ہے جو ایک طرف قدرتِ خداوندی کا نمونہ ہے تو دوسری طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رسالت کی بھی پیش آنے والی نشانی یا بشارت ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں اِراص کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کی آمد اور ظہورِ قدسی کا ایک غیبی اشارہ اور اعلان تھا اور اس نسبت کے باعث کہ آپ کا ظہورِ قدسی قریش میں ہو رہا تھا اس قصہ سے منجانب اللہ قریش کی بھی غیبی مدد و نصرت تھی کیونکہ یہ نبی آخر الزمان کا قبیلہ و خاندان ہے اور اللہ کے قبلہ کا متولی اور محافظ ہے۔ علامہ زرقالی حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ اور ابن سعد نے طبقات اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ملک یمن میں جب وہاں کا بادشاہ ذو نواس قوم حِمْیَر کا آخری

عہد لفظ سجیل کچی ہوئی مٹی اور گارے کے ٹکڑے۔ اہل لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ معرب ہے۔ سنگ بگل سے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سجیل ہر مضبوط اور شدید چیز کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ سجیل میں لام ن سے بدلا ہوا ہے اور معنی سجین ہے جو جہنم کا بدترین نیچے کا طبقہ ہے اور زجاج سے منقول ہے کہ سجیل کے معنی کتابت کے ہیں جیسے کَطَّیْتُ السَّجِّلَ لِنُكْتُبُ، میں تو یہ سنگریزے دہ تھے جن پر عذاب کا فیصلہ لکھا ہوا تھا۔ واللہ اعلم۔ ۱۲۔

(باقی حاشیہ) ہمیں دوسرے بعض ائمہ فرماتے ہیں اس کا واحد ہے۔ چنانچہ ابو جعفر رداسی کہتے ہیں کہ اس کا واحد ابانہ ہے اور یہ لفظ اس محاورہ میں بولا جاتا ہے "اِنَّ ضَعْفَ عَلِيٍّ اِبَانَةٌ" اور ابانہ سوکھے ہوئے گھاس کی گڈی کو کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ابول کی جمع ہے جیسے بول کی جمع مجاہیل آتی ہے اور کوئی کہتا ہے یہ ایبالہ کی جمع ہے جیسے دینار کی جمع دانیر ہے تو ایبالہ جمع ابایل ہوگی۔ فراء نے بیان کیا ابایل کو ایبالہ کی جمع کہنا زیادہ بہتر ہے۔ ۱۲ (من تفسیر الکبیر للرازی)

بادشاہ یہودی ہو گیا اور بہت سے لوگوں کو بھی زبردستی یہودی بنایا اور تعصب کی وجہ سے سحران کے عیسائیوں کو (جو اس وقت صحیح عیسوی مذہب کے متبع تھے) ظلم و ستم کا نشانہ بنایا حتیٰ کہ خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھروائی اور جس نے اس کا مذہب قبول نہ کیا اس کو اس دہکتی ہوئی آگ میں جھونکنا شروع کر دیا اور یہی وہ مظالم تھے جن کا ذکر سورۃ الشہادۃ ذاب الہیون میں گذر چکا۔ اس ظالم بادشاہ نے انجیل بھی جلادی تو کچھ لوگ علی ہونے انجیل کا نسخہ لے کر شاہ روم قیصر کے پاس پہنچے اور اس سے مدد طلب کی۔ شاہ قیصر نے عیشہ کے بادشاہ نجاشی کو جو اس کا تابع تھا۔ ان لوگوں کی مدد کے لیے لکھا۔ نجاشی نے ابرہہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا تاکہ ذونواس کی سلطنت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس نے یمن کی یہ سلطنت جو ذونواس کی تھی۔ اس کو تو ختم کر دیا اور خود اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ شخص نہایت ہی عیاش اور شہوت پرست تھا اس نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں تمام اطراف و اکناف کے لوگ زیارت و عبادت کی نیت سے جاتے ہیں تو اس نے بیعت اللہ کی عظمت و برتری ختم کرنے کے لیے شہر (صناعاء) یمن میں ایک کنیسہ (گرجا) تعمیر کرایا۔ جس میں ہر طرح کی تعمیری زیبائش اور آرائش رکھی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائیں اور بیعت اللہ کو چھوڑ دیں اور حضرت ابراہیم و اسماعیل کے وقت سے جو حج بیعت اللہ کا دستور عرب میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے بجائے صنعاء کے کعبہ کا حج یا میلہ ہونے لگے۔ اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص مکہ نہ جائے اسی کعبہ کا حج کیا کرے۔ ظاہر ہے کہ بیعت اللہ کی مقبولیت اس مصنوعی کعبہ میں کہاں سے آسکتی تھی اس کا کوئی اثر نہ پڑا اور بدستور اہل عرب و یمن مکہ مکرہ ہی جاتے رہے۔ اہل مکہ کو ظاہر ہے کہ اس پر غیظ و غضب اور ناگواری ہونی ہی چاہیے تھی تو اس جذبہ سے کسی جاوہر کش نے جو عرب یا مکہ کا تھا۔ اس کنیسہ میں پاخانہ کر کے اس کو جگہ جگہ سے آلودہ کر دیا۔ پھر چند روز بعد اس میں آگ لگ گئی یا بقول بعض متورخین بیعت اللہ کی محبت میں معمور کسی شخص نے رات کے وقت آگ لگا دی۔ جب حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ آگ بھی مکہ کے لوگوں نے لگائی ہے تو ابرہہ بادشاہ نے غصہ میں آ کر ایک لشکر جواز تیار کیا۔ جو بڑے طاقتور ہاتھیوں پر بھی مشتمل تھا۔ اور یہ ہاتھیوں کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبہ اللہ کو ڈھا دیا جائے اور راستہ میں جو قبیلہ بھی عرب کے قبائل میں سے مزاحمت کرتا اس کو تہ تیغ کرتا ہوا مکہ کی طرف اپنے لشکر کو رواں دواں رکھا۔ یہاں تک کہ جب یہ لشکر مکہ مکرہ کے قریب بعض روایات میں ہے نو دس میل کی مسافت پر تھا تو اطراف مکہ میں جو مویشی بھی جنگلوں میں چرتے نظر آئے ابرہہ کا لشکر ان کو بھی پکڑنے لگا۔ اسی میں عبدالمطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہڈ (دادا) تھے ان کے بھی دو سواونٹ پکڑ بیٹھے۔ اس وقت عبدالمطلب ہی قریش کے سردار اور بیعت اللہ کے متولی تھے۔ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہا گھرانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرنے گا۔ اور تم لوگ مکہ خالی کر کے میدانوں میں نکل جاؤ۔ اس کے بعد عبدالمطلب چند رؤساء قریش کو اپنے ہمراہ لے کر ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے بڑی ہی عزت کے ساتھ استقبال کیا۔ عبدالمطلب حسن و جمال کا پیکر تھے وقار و عظمت اور ہیبت ان پر برسی تھی۔

اور اللہ نے ان کو ایسی وجاہت اور دبدبہ عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی مرعوب ہو جاتا تھا اور کیوں نہ ہوتا جب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صلب سے وہ نبی شان و ذی وقار پیدا کرنے والا تھا جس کو اللہ رب العزت نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ "أعطيت المرعب بمسيرة شهر" کہ مجھے ایک ماہ کی مسافت سے مرعب عطا کیا گیا ہے کہ میں دشمن سے اس قدر فاصلہ پر ہوں گا تو اس بعد کے باوجود اس کے دل پر مرعب طاری ہوگا اور وہ بیہوش زدہ ہو جائے گا۔ تو ابرہہ اس قدر مرعوب ہوا کہ عبدالمطلب کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھانا تو گوارا نہ کیا البتہ خود تخت سے نیچے اتر کر فرش پر بیٹھا اور ان کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھایا۔ دوران گفتگو عبدالمطلب نے اپنے ادنیوں کا ذکر کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے تعجب کے ساتھ کہا کہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ تم نے اپنے ادنیوں کو تو چھوڑ دینے کا ذکر کیا اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کعبہ اور دین و مذہب ہے اس کے بارہ میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا حالانکہ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا اور تم کو اسی کی فکر چاہیے تھی عبدالمطلب نے جواب دیا "أنا ربُّ الابنِ و للبيتِ ربٌّ سيمنعنا" کہ ادنیوں کا میں مالک ہوں لہذا میں جس کا مالک ہوں میں نے اس کی فکر کی اور اس کا ذکر کیا اور کعبہ تو اللہ کا گھر ہے اللہ ہی اس کا رب ہے تو وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبدالمطلب کے اونٹ واپس کو دینے کا حکم دیا۔ یہ تمام ادنیوں کو لے آئے اور خانہ کعبہ کی نذر کر دیئے۔ اور بیت اللہ کے دروازے پر آکر گرہ مگرا کر دعا مانگنے لگے کہ لے اللہ یہ تو تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت فرما یہ دشمن ہاتھیوں کا لشکر عظیم لے کر آئے ہیں اور تیرے حرم کو برباد کرنے کا قصد لے کر آئے ہیں اور اپنی جہالت سے انہوں نے تیری عظمت و جلال کو نہیں سمجھا عبدالمطلب دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے۔ اور ادھر ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یکایک پرندوں کے غول کے غول نظر آئے۔ ہر ایک پرندہ کی بوجھ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنی شروع ہو گئیں۔ قدرت کی طرف سے پھینکی جانے والی یہ کنکریاں گویوں سے بھی شدید کام کر رہی تھیں۔ ہر ایک کے سر پر گرتی اور نیچے سے نکل جاتی اور جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا۔ اس طرح تمام لشکر تباہ ہو گیا خواہ وہ انسان ہو یا حیوان اور روایات میں ہے کہ ابرہہ کے بدن پر چھپک جیسے آبلے نمودار ہو گئے اور اس کا تمام بدن اس سے سڑ گیا اور جسم کے تمام حصوں سے خون اور پیپ بہنے لگا۔ بالآخر ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر گرنا گیا یہاں تک کہ سینہ پھٹ گیا اور اسی میں مر گیا۔

بعض روایات سے معلوم ہوا کہ یہ جگہ جہاں ابرہہ کا لشکر ہلاک کیا گیا وادی فخر تھی جو مزدلفہ اور سنی کے درمیان واقع ہے۔ یا بقول ابن عباس "وادی صفح تھی یہ کنکریاں عالم غیب کی تھیں جو غضب الہی

عہ: اسی طرح کی تاثیر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکی ہوئی کنکریوں میں پیدا فرمادی تھی۔ جبکہ آپ نے اپنی ایک مٹھی میں لے کر کفار کے لشکر پر پھینکی اور اس کو حق تعالیٰ نے فرمایا "وَمَا ذَمِيَّتْ إِذْ كَانَتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمِيٌّ"۔

پرندوں سے اس لشکر کا کام تمام کر دیا۔ پھر جب کہ احادیث سے بھی واضح تفسیر ہی ثابت ہو چکی تو آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس طرح کی بعید از قیاس و فہم تاویل کی جائے چنانچہ حافظ عماد الدین ابن کثیر اللہ شہقیؒ بروایت عکرمہؒ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طیاراً ابابیل کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں۔

”کہ یہ پرندوں کی ٹولیاں تھیں جو سمندر کی سطح سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا ان کی چونچیں پرندوں جی تھیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ پرندے سبز رنگ کے تھے اور ان کی منقار (چونچ) زرد رنگ کی تھی تو پرندوں کے یہ غول تمام لشکر پر چھا گئے اور کنکریاں برسانے لگے۔“

اعلیٰ بروایت ابو سفیانؓ عبید بن عمیرؓ فرماتے ہیں کہ یہ سیاہ مائل رنگ کے بحری پرندے تھے۔ اسی طرح دوسرے حضرات ائمہ تابعین نے متعدد پرندوں سے ابن عباسؓ مجاہدہ اور عطاؓ سے یہی نقل کیا ہے۔ ابو زرہؓ کی روایت سے یہ منقول ہے۔ عبید بن عمیرؓ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب فیل کے ہلاک کر ڈالنے کا ارادہ کیا تو ان پر پرندے سمندر سے اٹھے۔ اور ان کے سروں پر صفوں کی طرح چھا گئے۔ اور ہر ایک نے اپنی چونچ اور پنجوں میں لی ہوئی کنکریاں ان پر برسانی شروع کر دی جس سے کسی پر وہ کنکریاں گرتی بدن شق کرتی ہوئی بدن میں سے باہر نکل آتیں۔ حسن بصریؒ ضحاکؒ قتادہؒ اور ابو مسلم بن عبدالرحمنؒ سے بھی اسی طرح تفصیل منقول ہے۔

حافظ ابن کثیرؒ نے ان اقوال کو نقل کرتے ہوئے فرمایا اور یہ تمام سندیں محدثین کے نزدیک معتبر اور صحیح ہیں۔ اسی طرح تفسیر درمنثور میں سعید بن منصورؒ اور ابن ابی شیبہؒ اور ابن منذرؒ اور ابن ابی حاتمؒ اور ابو نعیمؒ اور بیہقیؒ نے دلائل میں عبید بن عمیرؓ سے بیان کیا کہ

قال لما اراد الله ان يهلك
اصحاب الفيل بعث الله
عليهم طيورا نشأت من
البحر كانها المخلطيف بكف
كل طير منها ثلاثة اعمار
مجمعة في منقارها حجر و حجران
في رجليها ثم جلت حتى صفت على
رؤسهم ثم صاحت و الوقت ما في
ارجلها و منا قيرها . فما من
حجر وقع منها على رجل الا خرج
من الجانب الاخران وقع على راسها

جب اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو ان پر پرندوں کو بھیجا جو دریا سے اٹھی تھیں گویا کہ وہ خطاطیف ہیں۔ ہر چڑیا تین تین پتھروں کے ٹکڑے لینے ہوئے تھی۔ ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ یہ چڑیاں دریا کی طرف سے آ کر اصحاب فیل کے سروں پر منڈ لائیں پھر چٹخیں اور ڈالا انہوں نے اصحاب فیل پر ان سنگریزوں کو جو کہ ان کے پاؤں اور چونچوں میں تھے پس نہیں تھلا کوئی سنگریزہ جو کہ اصحاب پر گرا مگر نکل گیا دوسری طرف سے اور اگر بدن کے

خروج من دین وان وقع علی
شئ من بدنها خرج من
الجانب الآخر و بعث اللہ ربکا
شدیدا فضربت ارجلها فزادها
شدۃ فاهلکوا جمیعاً (درمنشور)

کسی اور حصہ پر گرگا تو دوسری جانب سے نکل
گیا اور بھی اللہ تعالیٰ نے ہوا کے طوفان کو
پس مارا چڑیوں نے اپنے پاؤں سے اصحاب
فیل کو جس کی وجہ سے ان کی تکلیف میں اضافہ
ہو گیا اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔

علیٰ ہذا القیاس اللہ تعالیٰ نے اور یہی سبب بھی متعدد اسانید سے یہ روایات بیان کی ہیں۔ ان تمام
تفسیر سجات کے ہوتے ہوئے بلاشبہ یہ امر مفحکہ خیز اور گویا قدرت خداوندی کا انکار ہے کہ پرندوں کی
کنکریاں برسانے کا انکار کر کے قریش کے لوگوں کی طرف سے پیادوں پر چڑھ کر اصحاب فیل کا مقابلہ کرنا
اور ان کو شکست دینا بیان کیا جائے۔ اور اصحاب فیل کی ہلاکت کو ایک اتفاقی بیماری اور چیچک کے نکل جانے
پر محمول کیا جائے۔ اگر کسی تفسیر میں لفظ چیچک آیا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بیماری ان کے جسموں پر
الفا قاپش آگئی بلکہ وہ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کنکریوں کے سہی اور زہریلے اثرات ان کے بدن پر اسی طرح
رو نما ہوئے کہ بدن پر آبلے ابھر آئے جیسے کہ چیچک کے دانے ہوں۔ یہ کیفیت قدرت خداوندی پر ایمان رکھنے
والا شخص ان واضح تفسیرات کے بعد ایک لمحہ کے لیے بھی اس واقعہ کو تسلیم کرنے میں تامل نہیں کر سکتا۔ پھر جب کہ
دنیا میں پیش آنے والے ایسے عجیب واقعات اور قدرت کے کرشمے بار بار نظروں کے سامنے آتے ہیں اور
مؤرخین عالم میں پیش آنے والے ان واقعات کو نقل بھی کرتے ہیں۔ کسی جگہ بیان کیا گیا کہ آتشیں گولہ بڑا جس کی
آواز سے لوگ ہیبت زدہ ہو گئے اور زمین میں وہ دھنس گیا کہیں سُرخ آندھیوں سے تباہی پھیل گئی کہیں آسمان
سے اولے برسنے لگے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قریش کہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور
توید پھیلنے معمولی سے معمولی بات کی فکر میں رہتے تھے تو آخر انہوں نے کیوں نہ کہہ دیا کہ قرآن کا یہ اعلان غلط ہے
کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خدا نے اس لشکر کو ہلاک کیا اور اس طرح یہ واقعہ اس کی قدرت کی دلیل اور اس کے
بیخبرگی کی نبوت کی اطلاع ہے بلکہ یہ تو ہمارا کام تھا کہ ہم نے پیادوں پر سے ان پر پتھر برسائے اور اس طرح
اب رہہ کے لشکر کو شکست دی۔

امام رازیؒ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ عذاب خداوندی کے واقعات اور قدرت کی ایسی نشانیوں
میں مثلاً ہوا میں نہ لڑے طوفان۔ پتھروں کی بارشیں وغیرہ وغیرہ میں محدین تاویلات کر کے قدرت خداوندی اور
ایسے مظاہر غضب کا انکار کرتے ہیں اور نہایت ہی رکیک اور ضعیف یا بعید از قیاس تاویلات کر لیتے ہیں
لیکن اس واقعہ میں اس طرح اعذار اور تاویل کی قطعاً کوئی گنجائش ہی نہیں نہ اس واقعہ کو کسی اتفاق پر محمول کر
سکتے ہیں اور نہ اس کو کسی طبیعت اور مادہ کے اقتضاء پر محمول کیا جاسکتا ہے کیونکہ ایسی بات کہ پرندوں
کے غول اپنی چوچ اور پنجوں میں کنکریاں لے کر آئیں اور لشکر پر برسائے لگیں اور ایک مخصوص قوم اور لشکر
ہی پر یہ کنکریاں برسیں نہ کہ کسی اور پر ہرگز یہ بات نہ اتفاق پر محمول ہو سکتی ہے اور نہ اس کو اسطرحی پر محمول

کیا جاسکتا ہے جیسے کہ کسی آدمی چلنے کی تاویل کرنی جائے یا طوفان کی تاویل کر لی جائے۔ یا حضرت موسیٰؑ اور ان کے لشکر کا بحر قلزم سے عصا مارنے پر بارہ راتے ہو کر صحیح سالم نکل جانے اور اس کے بعد فرعون کے لشکر کے غرق ہو جانے کو دریاؤں کے مد و جزر پر محمول کر لیا جائے۔ عرض یہاں اس قسم کی کسی بھی بات کا امکان نہیں ہے۔

اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے کہ یہ واقعہ حضورؐ کی ولادت باسعادت سے پچاس روز قبل ہی تو پیش آیا اور جب یہ سورت نازل ہوئی اور اہل مکہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت پڑھ کر سنائی تو یقیناً اس وقت تک مکہ میں بہت سے لوگ وہ موجود تھے جنہوں نے اس واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ تو اگر یہ اعلان خلاف حقیقت ہوتا یا اس کی مراد یہ نہ ہوتی تو وہ کفار قریش بر ملا اس سورت کی تردید کر دیتے نہ کسی متنفس نے تردید کی نہ ظن کیا اور نہ کوئی تاویل کی اور نہ یہ دعویٰ کیا کہ نہیں پرندے نہیں بلکہ ہم نے پتھر برسائے۔

فائدہ کفار قریش اگرچہ مشرک تھے اور بیت اللہ میں سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے تو یہ شرک بے شک بدترین فعل تھا۔ اور اصولی طور سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے گھر کی دیواروں کو منہدم کرنے سے بھی یہ عمل شنیع اور بُرا تھا۔ لیکن اس پر طویل مدت گزرنے پر بھی عذاب نازل نہیں ہوا اور اگر یہ کہے لشکر نے بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ عذاب نازل ہو گیا اس پر ممکن ہے کہ تعجب ہو لیکن اصل بات یہ ہے کہ مشرکین کا جرم اللہ رب العزت کے حق پر تعدی اور نافرمانی تھی اور اگر یہ کہے لشکر کا یہ اقدام دین خداوندی اور بیت اللہ کی توہین تھی۔ اس وجہ سے خدا کو یہ بات برداشت نہ ہوئی یعنی اللہ نافرمانی برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے دین کی توہین نہیں برداشت کرتا۔

اصحاب الفیل کی تعبیر بجائے ارباب الفیل یا ملاک الفیل کے ایک عجیب لطافت رکھتی ہے۔ گویا اشارہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ قوم اپنی بہیمیت اور عقل و فہم سے محروم ہونے میں فیل کی جنس سے ہی تھے اس بناء پر یہ درست ہے کہ ان کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں کے ساتھی اور رفقاء کہہ دیا جائے۔

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ الفیل

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ قُرَيْشٍ

سورۃ قریش کی سورت ہے جس کی چار آیات ہیں۔ عبد اللہ بن عباسؓ اور جمہور مفسرین کا یہی قول ہے۔ بعض حضرات سے یہ ضعیف روایت بھی نقل کی گئی کہ انہوں نے اس کو مدنیہ کہا۔

اس سورت کا مضمون قریش پر قدرتِ خداوندی کی طرف سے خاص انعامات کا ذکر ہے کہ ان پر اللہ کی کیسی عنایت تھی کہ تجارتی وسائل اور ذرائع آمد و رفت آسان کر دیئے تھے۔ اس طرح کے مادی انعامات اور ظاہری عنایات کا تقاضا یہی تھا کہ وہ اپنے ربِّ منعم کی عبادت کرتے۔ پھر جبکہ ان کے رب کا گھر بھی خود مکہ میں ہے تو پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ ایمان نہ لائیں اور کعبۃ اللہ کی عبادت نہ کریں۔ تو اس سورت میں خاص طور پر ان مفاہین کو بیان کیا گیا۔

آیاتہا ۴ = ۱۰۶ = سُورَةُ قُرَيْشٍ تَكِيَّةٌ = ۲۹ = رُكُوعُهَا ۱

سورۃ قریش کی ہے۔ اس کی چار آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

رِیْلَفِ قُرَیْشٍ ۱ الْفِہِمُ رِحْلَةُ الشِّتَاءِ وَالصَّیْفِ ۲

اس واسطے کہ ہلا رکھا قریش کو۔ ہلا رکھنا ان کو کوچ سے جاڑے کے اور گرمی کے۔

فَلِیَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ۳ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ

تو چاہئے بندگی کریں اس کے گھر کے رب کی۔ جس نے ان کو کھانا دیا بھوک

جُوعٍ ۴ وَاَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۵

میں، اور اسن دیا ڈر میں۔

انعامات خداوندی برقریش بصورت
عطا رزق و امن و تسہیل وسائل سفر

قال اللہ تعالیٰ۔ لِیْلَفِ قُرَیْشٍ الی وَاَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ۔

(رابطہ) گزشتہ سورت میں اہل مکہ پر خداوند عالم کے اس خاص انعام و کرم کا ذکر تھا کہ مکہ والوں کو

ابو ہریرہ کے جملہ سے محفوظ رکھا۔ اور اہل مکہ کی یہ حفاظت تکوینی طور پر صرف اس بناء پر تھی کہ نبی آخر الزمان کا ظہور قدسی ہونے والا تھا اس سورت میں اہل مکہ اور قریش پر مزید یہ انعام بیان کیا جا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے لئے سفر کی سہولتیں عطا فرمائی تھیں۔ اور موسیٰ اختلافات کے لحاظ سے گرمیوں اور سردیوں میں ان کے دو سفر ہوتے تھے کیونکہ مکہ تو وادی غیر ذی ندرع تھا وہاں نہ کوئی پیداوار تھی اور نہ کسی قسم کی صنعت تو وہاں کے لوگ تجارتی سفر کے محتاج تھے۔ یمن گرم ملک تھا تو سردیوں میں اس طرف کا سفر کرتے اور شام سرد ملک ہے تو موسم گرما میں شام کا سفر کرتے ان دونوں جگہوں کے باشندے قریش مکہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اور ہر قسم کی خدمت کرتے اور ان کے جان و مال کی حفاظت کرتے اس خیال سے کہ یہ لوگ اہل حرم اور بیت اللہ کے نگران ہیں حالانکہ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارتگری کا بازار گرم تھا مگر قریش بڑے ہی سکون و چین سے اپنی زندگی گزارتے۔ اور جب تجارتی سفر کرتے خواہ یمن کی جانب۔ خواہ شام کی جانب تو ہر طرح محفوظ رہتے اور اعزاز و اکرام کیا جاتا۔ ان انعامات کو ذکر کرنے کی غرض یہی ہے کہ جس کعبہ اور رسول خدا کی برکت سے قریش پر اللہ کی یہ بے شمار نعمتیں ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اس رسول پر ایمان لائیں۔ اور اس رب کی عبادت کریں جس نے ان تمام انعامات سے نوازا ہے۔ تو ارشاد فرمایا۔

قریش کے مالوف و مانوس کرنے کے لئے مردی کا سفر اور گرمی کا سفر ہم نے مقدر کر دیا تھا۔ اور ہر دو موسم میں اسباب سفر ان کے واسطے ہیا کر دیئے تھے۔ تاکہ انہیں اس گھر (بیت اللہ) کے رب کی الفت و رغبت ہو۔ اور ظاہر ہے کہ انعام سے منعم کی محبت پیدا ہونا طبعی تقاضا ہے۔ اس لئے ان کو چاہیے کہ بندگی کریں۔ اس گھر کے رب کی جس نے ان کو کھانا دیا بھوک کی حالت میں اور امن دیا ان کو خوف کی حالت میں جب کہ حرم کے اطراف ٹیکا لوٹ و غارتگری عام تھی مگر اہل حرم کو یہ چور ڈاکو کچھ نہ کہتے اور اس سرزمین میں جہاں کچھ بھی پیدا نہ ہوتا ہو تو بے شمار رزق پھیل اور طرح طرح کی نعمتیں! یہ کس قدر عظیم انعام ہے جو صرف اس مبارک گھر اور کعبہ کی بدولت ہے تو جس گھر کے طفیل روزی ملتی ہو۔ امن و سکون حاصل ہو۔ اصحاب فیل کی زد سے محفوظ رہے ہوں۔ تو پھر اس گھر دانے کی بندگی کیوں نہیں کرتے اور کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس کے رسول کو ستاتے ہو اور اس سے دشمنی کرتے ہو۔

نبیؐ نے ایک روایت ام ہانیؓ کی سند سے بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو سات چیزوں کے ساتھ تمام قبائل پر فضیلت دی ہے۔ یہ کہ میں ان میں سے ہوں۔

عہ: ہر دو موسم کے یہ سفر آسان کر دینا بلاشبہ بڑا ہی عظیم انعام تھا۔ اور اسلام سے قبل ہی قریش کے لئے باہر ملکوں کے سفر کو اسلام کی اشاعت اور فتوحات کا بھی اللہ نے ذریعہ بنایا اور یہ بھی طبعی امر ہے کہ سفر اور تاجر بہ انسان میں حوصلہ اور اولوالعزمی پیدا کرنا ہے۔ قریش کے ساتھ اگرچہ اور قبیلوں میں بھی تھیں۔ مگر اصل قریش ہی تھے اس وجہ سے اصل مورد انعام قریش ہی کو فرمایا گیا۔ ۱۲۔

اور یہ کہ نبوت اللہ نے ان میں رکھی اور بیت اللہ کی تولیت و نگرانی ان میں ہے۔ اور یہ کہ ان ہی میں زمزم کی سخایت کا منصب ہے۔ اور یہ کہ اللہ نے انکی مدد کی ہاتھوں کے لشکر کے مقابلہ میں۔ اور یہ کہ انہوں نے اس وقت اللہ کی عبادت کی جبکہ انکے علاوہ اور کوئی اللہ کی عبادت نہ کرنا لانا تھا اور یہ کہ اللہ نے ان کے متعلق قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سورۃ لایلیف قریش تلاوت فرمائی۔

شہر بن حوشبہ اسامہ بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ لایلیف قریش تلاوت کرتے ہوئے سنا اور آپ یہ فرما رہے تھے۔ اے قریش کے لوگو! افسوس تم پر عبادت کرو اس گھر کے رب کی جس رب نے تم کو بھوک کی حالت میں رزق دیا اور تم کو خوف سے مامون کیا۔ یہ وہی مضمون ہے جس کو قرآن کریم نے دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا اَوَلَمْ يَرْزُقْنَا اَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا اَوْثَانًا وَيُحْتَفَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اِى حَقِيقَتِ كُوْرَانَ كَرِيْمِ آنحضرت کی زبان مبارک سے یوں تعبیر کرتا ہے اَمَوْتُ اَنْ اُعْبُدَتْ هَذِهِ الْبَلَدَةَ الَّذِي حَوَّاهَا۔

لایلیف میں لام مجرور معنی سبب و وجہ ہے۔ جس کو لام علت بھی کہا جاتا ہے اور بعض فائدہ ائمہ مفسرین اور اہل لغت اس کو لام تعجب کہتے ہیں۔ چنانچہ ابن جریر نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ لام تعجب ہے اور مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے لوگو! تعجب کرو کہ ہم نے قریش کے لئے کس طرح اس سرزمین کو مانوس بنایا۔ اور کیسی کیسی نعمتیں انکو دیں۔



عہ: قریش عرب کے قبیلہ کا نام ہے جو نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ اسی خاندان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور نضر بن کنانہ کی تیرھویں پشت میں ہیں۔ جیسا کہ سیرت کی کتابوں میں آپ کے نسب نامہ سے ظاہر ہے۔ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔

اہل لغت کہتے ہیں کہ قریش تصغیر ہے۔ قریش کی جس کے معنی سمندر کے ایک طاقت ور جانور کے ہیں چونکہ یہ قبیلہ بہادر تھا اس وجہ سے اس کا یہ نام معروف ہوا۔ قریش کے معنی جمع کرنے کے بھی ہیں۔ چونکہ قصی نے متفرق قوموں کو مکہ میں جمع کیا تھا۔ اس وجہ سے قریش کو قریش کہا گیا کسی نے بیان کیا کہ قریش کے معنی کسب کے ہیں اور یہ لوگ تجارت پیشہ تھے اس وجہ سے قریش کہلائے۔ اسی طرح اور بھی بعض معانی لفظ قریش کے لغت میں ملتے ہیں۔ اور ان معانی سے قریش کی وجہ تسمیہ ظاہر ہوتی ہے۔

واللہ اعلم۔ ۱۲

آیاتہا ۱۰۴ = سورۃ الماعون بکیتہ ۱۴ رکوعہا ۱

سورۃ ماعون کی ہے اس میں سات آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اَرَعَيْتَ الَّذِیْ یُكذِّبُ بِالْیَدِیْنِ ۱ فذٰلِكَ الَّذِیْ یَدْعُ

تو نے دیکھا؟ وہ جو جھٹلاتا ہے انصاف ہونا۔ سو وہی ہے جو دھکیلتا ہے

الْیَتِیْمَ ۲ وَلَا یَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْیَسٰكِیْنِ ۳ فَوَیْلٌ

یتیم کو۔ اور نہیں تاکید کرنا محتاج کے کھانے پر۔ پھر خزانی ہے

لِلْمَصَلِیْنِ ۴ الَّذِیْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۵

ان نمازیوں کی، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔

الَّذِیْنَ هُمْ رِءَاوُونَ ۶ وَیَسْعَوْنَ الْمَاعُونَ ۷

وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اور مانگے نہ دیں برتنے کی چیز۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سورۃ الماعون

سورۃ ماعون بھی مکی سورت ہے جس کی سات آیات ہیں۔ عطا اور جا بڑ کا یہی قول ہے جو ہور
اسی کے قائل ہیں اگرچہ بعض مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ نصف اول مکہ میں نازل ہوئی اور نصف آخر
مدینہ منورہ میں۔

اس سورت کے مضامین اپنی جامعیت اور اختصار میں بڑی ہی معجزانہ شان رکھتے ہیں۔ ان مختصر
آیات میں حکمت نظر یہ اور عملیہ تہذیب اخلاق سیاست مدن اور تمدن بیر منزل جیسے عظیم اصول اور

ان کا باب و جوہر جمع کر دیا گیا ہے حکمت نظر یہ ہی انسان کی زندگی کو فلاح و سعادت کی منزل تک پہنچانے والی ہے۔ اس کو بڑی ہی اہمیت سے بیان کیا گیا پھر یہ کہ انسان کے عمل نیک و بد کی جزا دہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح دوسرے عالم میں چلی جاتی ہے جہاں اس کو اچھے اور بُرے اعمال کا ثواب و عذاب دیکھنا ہوتا ہے تو انسان کی عملی کوششوں کا یہی عقیدہ اصل بنیاد ہے تو اس سورت میں بڑے ہی اختصار سے اس کو بھی ذکر فرمایا گیا۔ اس سورت کا پہلی سورت سے ربط ظاہر ہے۔ وہاں قریش پر خاص انعامات کا ذکر تھا۔ اور انعامات کو یاد دلا کر ان کو رب البیت کی بندگی کی دعوت دی گئی تھی۔ تو اس سورت میں قریش کے وہ امراض و دحانیہ بیان کیئے جا رہے ہیں جو ان کے لئے دین و دنیا کی سعادت سے محرومی کا باعث بنے۔ ارشاد فرمایا۔

اے ہمارے پیغمبر یا اے مخاطب۔ کیا تو نے دیکھا ہے اس کو جو جھٹلانا ہے۔ اعمال کے بدلہ کو اور انکار کرتا ہے قیامت کا اور اعمال کی جزا و سزا کا۔ حالانکہ ہر انسان کی فطرت میں یہ باسٹ و دیعت رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کو مانے اس کے انعامات کو سمجھے اور ان انعامات کے باعث اس پر ایمان لائے اور اس کی نعمتوں کا حق بھی ادا کرے اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو غریبوں مساکین ویتامی پر خرچ کرے لیکن افسوس صد افسوس یہ کہ سب بالمدین خدا اور قیامت کا منکر اور اس کی نعمتوں کو فراموش کرنے والا تو ایسا شخص ہے غرور و تکبر کے نشہ میں مست دھکے دیتا ہے یتیم کو اور خود تو کسی کی کیا مدد کرتا دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا دینے کی۔ ایسی سنگدلی اور بندوں کے حقوق سے غفلت کے ساتھ یہ بھی عیب ہے کہ خالق کا حق بھی نہیں پہچانتا اور نہ اس کو ادا کرنے کی طرف رخ کرتا ہے اور اگر کسی وقت اپنی کسی عرض یا کسی خوف کے باعث اللہ کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہو بھی جاتا ہے تو ہزار خرابیوں اور غفلت والا پرواہیوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ سو بڑی ہی ہلاکت و بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لئے جو اپنی نماز سے غافل دے خبر ہیں جو صرف دکھلاواتے ہیں۔ یعنی ریا کاری اور نمود ہوتا ہے نہ ان کو نماز کا اہتمام و خیال ہے نہ اس میں پابندی ہے نہ اس میں خشوع و خضوع اور طہانیت ہے۔ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی اور اگر پڑھی بھی تو چند جگہیں ماریں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم احکم الحاکمین کے دربار میں اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کے سامنے کس کیفیت سے کھڑے ہونا چاہیئے اعتقادی اور عملی خرابی اور ایسی گندگی کے علاوہ کینہ پن اس حد تک ہے۔ اور کسی کے مانگنے پر انکار کر دیتے ہیں حقیر سے حقیر چیز کا برتنے کی جس کے دینے میں نہ مالی بوجھ نہ کوئی مشکل اور نہ وہ کوئی قیمتی چیز جیسے ڈول رسی یا کوئی برتن۔ جن میں عام طور پر نپہ سٹل کیا جاتا ہے اور نہ ان کے

عہ۔ ان الفاظ سے اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
تلك صلوٰۃ المنافق قام فنقص اربع نقص لا يذكر الله الا قليلا۔ کہ ایسی نماز منافق کی نماز ہے کہ کھڑا ہوا اور چار ٹھونگیں ماریں۔ اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کیا۔ ۱۳

مانگنے کو عیب کہا جاتا ہے تو ایسی حقیر سی چیز ہی جو دینے پر تیار نہ ہو وہ کیا صدقات و زکوٰۃ ادا کرے گا کیا کسی مسکین کو کھلانے کا یا یتیم کی تربیت و کفالت کرے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اعتقادی گندگی اور عمل خرابیوں کے بعد ایسی اخلاقی گراوٹ انتہائی افسوسناک امر ہے اور انسانیت کے لیے تباہ کن بات ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ اسلام اور اسلامی تعلیمات انسان اور معاشرہ کو ایسی گندگیوں اور کینہ خصلتوں سے پاک رکھنے والی ہیں جن کی تعلیم و ہدایت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دنیا کر دی گئی اس لیے ہر مسلمان شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ کے ساتھ اخلاص اور مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ کرے۔ ریا کاری اور بد اخلاقی سے بچے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْكُوْثِرِ

سورۃ الکوثر مکہ ہے جس کی تین آیات ہیں اکثر مفسرین کا یہی قول ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے اسی طرح منقول ہے۔ یہ سورت بھی جامعیت مضامین میں ایک اعلیٰ مقام رکھتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

ابتداء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند عالم کی طرف سے خیر کثیر عطا کیے جانے کا اعلان ہے اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ جو وحی اور علوم الہیہ رشد و ہدایت اور فلاح و سعادت آپ کو دیئے گئے انکی عظمت و برتری اور بہتری کی کوئی حد نہیں ہو سکتی جس علم و حکمت نے دنیا کو انسانیت سکھادی ان کو عقائد اعمال و اخلاق کی بنیادوں تک پہنچا دیا۔ مگر ہیوں کی ظلمتوں سے نکال کر ہدایت اور ایمان و تقویٰ کے نور سے ان کی زندگیاں روشن کر دیں۔ بلاشبہ وہ ایسی خیر کثیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی خیر کا تصور نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس خیر کثیر کے عملی پہلوؤں کی تکمیل صلوة اور قربانی سے ہوتی ہے تو فَصَّلِ لِيْ بِتِلْكَ وَالْحَمْدُ فَرَادِيَا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عند اللہ مقبولیت کا یہ مقام ہے کہ آپ کا دشمن اور بدخواہ ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔

غرض اس سورت میں بے شمار مطالب اور امر اور حکم ہیں جس کا مقابلہ عرب کا کوئی فصیح و بلیغ ادیب و شاعر نہ کر سکا۔ روایات میں سب سے عرب کے شعراء میں سے مایہ ناز شعراء اپنے اپنے اشعار اور قصائد بیت اللہ کی دیواروں اور پردے پر لگا دیتے تھے۔ لیکن جب یہ سورت نازل ہوئی سب حیرت میں پڑ گئے اور شرمناک اپنے اپنے کلام بیت اللہ کی دیواروں پر سے اتار لیئے۔ اور پھر کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ اپنا

کوئی شعر یا کلام وہاں لگاٹے اور ہر ایک کی زبان سے یہ الفاظ بطور اعتراف جاری تھے۔ ماہذا کلام البشر کہ بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔

آیاتہما ۳ = سُوْرَةُ الْكُوْثِرِ مَكِّيَّةٌ = ۱۵ رُكُوْعُهُمَا ۱

سورہ کوثر کئی ہے، اس میں تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ ۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاَنْحَرِ ۲

ہم نے تجھ کو دی کوثر - سو نماز پڑھ اپنے رب کے آگے، اور قربانی کر۔

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۳

بیشک جو بیری ہے تیرا، وہی رہا بیچھا سٹا۔

العام ربُّ الجلال بعطاء کوثر و ہلاکت
بربادی دشمن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم

قال اللہ تعالیٰ۔ اِنَّا اَعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَ۔۔۔۔۔ الی۔۔۔۔۔ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ

ربط، سورہ ماعون میں حکمت اعتقاد یہ و عملیہ کے جملہ اقسام کا ذکر فرمایا گیا تھا اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے جو اعمال و اخلاق باعث عیب ہیں ان کی مذمت بھی کر دی گئی تھی تو اب اس سورت میں خیر کثیر کا ذکر ہے۔ جس کے باعث انسانی حیات عظمت و بلندی کے مقام تک پہنچتی ہے اور اس خیر کثیر کی شاخیں اور نہریں اس طرح پھیل جاتی ہیں کہ قیامت تک نسل انسانی ان کے ذریعہ ہر قسم کی سیرانی اور شادابی حاصل کرتی رہے اور اس پر بھل و بھول گئے رہیں۔ یہی وہ فرمان مبارک ہے جو دَمْنٌ یُّؤْتِکَ الْحِکْمَةَ فَحَقُّ اُوْتِیَ سَخِیْرًا اَکْثَرًا کے عنوان سے نازل فرمایا گیا تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

سے ہمارے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے کوثر۔ خیر کثیر اور عوض کوثر جس کی خیر و برکت

سے اللہ کے بندوں کو سیرابی، نجات اور آخرت کی بے پایاں نعمتیں اور خیر حاصل ہوگی اور آخرت کی اس خیر کثیر (جو حوضِ کوثر کی صورت میں ہوگی) کے علاوہ دنیا میں بھی آپ کو اور آپ کے ذریعہ تمام عالم کو خیر کثیر دے دیتے اور فلاح و سعادت کے علوم کی شکل میں دے دی ہے۔ دنیا اور آخرت کی خیر عطا کیے جانے کا حق یہ ہے کہ بس آپ ^{علہ} خاص اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھتے رہیں۔ تاکہ اس انعامِ عظیم کا حق اپنے بدن اور روح سے ادا کریں اور قربانی کریں تاکہ اپنے مال سے اس کے انعام کا حق ادا ہو جائے۔

انعاماتِ خداوندی سے جو عظمت آپ کو ملی ہے وہ رہتی دنیا اور قیامت تک قائم رہے گی اور اس طرح آپ کے ذریعہ عالم کو جو خیر کثیر پہنچ رہی ہے اس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی کوئی فکر نہ کریں کہ اسلام کے اور آپ کے دشمن آپ کی دشمنی اور بدخواہی میں کیا کر رہے ہیں آپ یقین رکھیں ان کی بدخواہی دشمنی اور سازشوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ یقیناً آپ کا دشمن ^{علہ} ہی دمِ بریدہ ہے۔ اور بے نام و نشان رہے گا نہ اس کی کوئی نسل باقی رہے گی نہ اس کا کوئی نام اور نہ بھلائی کا عمل اور نہ ہی اس کا کوئی علم و ہنر سب کچھ ختم ہو کر وہ نام و نشان سے بھی مٹ جائے گا اور کوئی اس کا بھلائی سے ذکر بھی کرنے والا نہ رہے گا۔ جبکہ اللہ نے آپ کو وہ عزت و عظمت دے دی کہ اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں۔ وَرَكَعًا لَكَ ذِكْرًا لَكَ۔ اور وہ علم و خیر کثیر عطا کی۔ دنیا اس سے مستفیض و سیراب ہے اور کوئی گوشہ اس سے خالی نہیں اور اس کی خوبی اور منفعت کا کائنات کے گوشہ گوشہ میں چرچا ہے۔ آپ کا نام اذنان میں لیا جا رہا ہے کہ عالم میں کوئی چیز زمین اس سے خالی نہیں اور شب و روز ہر لمحہ اشہدان محمد رسول اللہ کی صدا فضا میں گونجتی ہے پھر آخرت میں یہ انعام و اعزاز ہوگا کہ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا تو اس طرح آپ کا ذکر آپ کا فیض کسی لمحہ منقطع نہ ہوگا پھر کسی کافر کو آپ کے بیٹے کی موت پر یہ کہنا کہ محمد تو اب اَبْتَرٌ ہو جائے گا یعنی منقطع النسل کیس قدر بیہودہ اور لغو ہے جس ذات کا علم و فیض اور حکمت اور عقائد و اعمال اور کردار و معاشرت کی خوبیاں تمام عالم میں پھیل رہی ہوں۔ اس کے آثار باقیہ اس کے ایک بیٹے کی موت سے بھلا کیونکر منقطع ہو سکتے ہیں۔

الکوثر کا مفہوم

الکوثر کے معانی از روئے لغت کثیر یعنی خیر کثیر اور ہر قسم کی بھلائی اور بہتری کے ہیں اور اس کی

۱۔ یہ لفظ عربیت کی رو سے لَبْرَةٌ میں لام جو اختصاص کے لیے متعلی ہوتا ہے کے پیش نظر بڑھایا گیا۔ ۱۲۔
۲۔ دشمن لفظ شانی کا ترجمہ سَشَانٌ بغض و عداوت کو کہا جاتا ہے تو مراد وہی ہوئی کہ آپ سے بغض و دشمنی رکھنے والے۔ ۱۲۔

نعمتِ دبر تری کے مفہوم میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی معنی نفوی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباسؓ (جو جزائمتہ ہیں) نے تفسیر کی ہے الخیر الکثیر۔ جیسا کہ امام بخاریؒ ابن جریرؒ اور حاکمؒ نے اور اسی طرح امام ترمذیؒ احمد بن حنبلؒ اور ابن ماجہؒ نے بردایت معید بن جبیر نقل کیا ہے اور غیر کثیر حکمت ہے۔

خیر کثیر اپنی معنوی وسعت کے لحاظ سے ہر قسم کی خیر کو شامل ہے۔ اس بارہ میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں۔ البحر المحیط میں تو چھبیس اقوال نقل کئے ہیں اور بیان کیا کہ اس میں ہر قسم کی دینی دنیوی حقیقی اور معنوی نعمتیں داخل ہیں جو آپ کے طفیل امت کو ملنے والی تھیں ان نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت کو ثری بھی ہے جو آخرت میں آپ کو دی جائے گی۔ جس کی صفت احادیث کثیرہ میں اس طرح بیان فرمائی گئی کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا اس کا ایک گھونٹ بھی پینے والا کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا۔

اسی حوض کوثر پر قیامت کے روز آپ کا منبر ہوگا جیسے کہ ارشاد ہے وصنوبری علیٰ حوضی کہ میرا منبر میری حوض پر ہے جس کے پانی سے آپ امت کو اور اولین و آخرین کو روزِ محشر سیراب فرمائیں گے۔ جیسے کہ دنیا میں ایک معنوی حوض کوثر یعنی ذخیرہ علوم و رشد و ہدایت سے تمام عالم کو سیراب فرمایا اور یہ وہ حکمت الہیہ ہے جو خداوند عالم نے آپ کے قلب مبارک میں بھر دی ہے اور دنیا نے علم و حکمت کے جام اس حوض کوثر سے لینے جا رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں اور جو خوش نصیب علوم نبویہ کے چشمہ فیض سے دنیا میں سیراب ہو گا۔ ان شاء اللہ قیامت میں اس حوض کوثر سے بھی سیراب ہوگا اور جو بد نصیب یہاں محروم رہا۔ وہ وہاں بھی محروم رہے گا۔ اللہم اسقنا من حوضہ۔ - آمین۔

حوض کوثر کا ثبوت اس قدر کثرت کے ساتھ احادیث سے ثابت ہے کہ محدثین نے ان روایات و احادیث کو حد تو اثر میں شمار کیا ہے۔ اور جو چیز بھی احادیث متواترہ سے ثابت ہو وہ قطعی اور یقینی ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کا انکار یا ایسی تاویل جو انکار کے درجہ میں آئے اصول شریعت کی رُو سے کفر ہے۔

صحیح بخاری کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو آپ کو شبِ معراج میں (بھی) دکھائی گئی تھی جس کے کنارے موتیوں کے ٹیپے تھے آپ نے اس کا پانی دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ نے اس کے متعلق جبرئیلؑ سے پوچھا یہ کیا ہے جبرئیلؑ امینؑ نے جواب دیا۔ یہ وہی کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔
(رواہ البخاری و المسلم)

الغرض کوثر کے مفہوم میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں جس کا مصداق اکمل اور مظہر اتم قیامت کے روز حوض کوثر ہے۔ اگر آپ کا کوئی صلیبی فرزند انتقال کر گیا تو کیا ہوا آپ کی روحانی اولاد اور فیوض نبویہ سے مستفیض ہونے والی نسل تو قیامت تک قائم و باقی رہے گی۔ انبر کے معنی دم بریدہ کے ہیں تو جس کی نسل منقطع ہو جائے اور اولاد میں کوئی باقی نہ رہے تو گو یا وہ دم بریدہ ہے۔ سُدیؒ بیان کرتے ہیں کہ اہل

عرب جب کسی شخص کی اولاد میں کوئی بیٹا نہ رہے تو اس کو ابتر کہا کرتے تھے۔ عطاء سے منقول ہے کہ یہ ابو لہب کی طرف اشارہ ہے جس وقت آپ کے صاحبزادہ قائم کا انتقال ہوا تو ابو لہب مشرکین مکہ کے مجمع میں دوڑتا ہوا گیا اور کہنے لگا "بیت محمد" اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی **رَبَّانَا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ**۔

ابن عباس سے منقول ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے عاص بن داہل کے بارہ میں نازل ہوئی ہے کہ وہ خبیث آپ کو ابتر کہتا تھا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ایک جھونکا سا آیا۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا۔ مسکراتے ہوئے اور فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے یعنی بہت ہی عظیم الشان اور آپ نے یہ سورت بڑھ کر سنائی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْكَافِرُونَ

سورہ کافرون بھی کی سورت ہے۔ عبد اللہ بن مسعود۔ حسن بصری اور عکرمہ سے ہی منقول ہے۔ اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔

اس سورت کا مضمون درحقیقت اس بات کی تعلیم و تلقین ہے کہ اہل ایمان کو ایمان اور حق پر کلی انتہات اختیار کرنی چاہیے اور کسی مرحلہ پر اہل باطل کو اس کی طرف سے ایسی توقع نہ رہنی چاہیے کہ یہ حق اور ہدایت کے تقاضوں سے کسی درجہ میں انحراف کر سکتا ہے۔

پھر یہ بات بھی اس ضمن میں واضح کی جا رہی ہے کہ حق میں باطل کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں۔ اہل حق کو اسی پر استقامت چاہیے اور اگر اہل باطل کی طرف سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ کسی طرح بھی حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور عناد و بغض سے اس درجہ اسلام اور مسلمانوں سے مستغریں کہ قریب بھی آنے کو تیار نہیں تو پھر ان کو ایک آخری پیغام کے طور پر اعلان کر دینا چاہیے کہ اب اس صورت حال میں ہم مایوس ہو چکے ہیں۔ تم اگر حق قبول کرنے کو تیار نہیں تو **كَلْكَلٌ فِي جَنَّةٍ عَمُورٌ حَلِيمُونَ**۔ اور تم یہ توقع اپنے دل سے نکال دو کہ ہم تمہاری دلجوئی کے واسطے تمہارے مذہب اور تمہارے اخلاق و اطوار اختیار کر سکتے ہیں تو یہ اہم حقائق اور امور ان چند آیات میں ذکر فرمائے گئے ہیں۔

آیاتہا ۶ = ۱۰۹ = سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ نَبِيَّتُهُ = ۱۸ رُكُوْعُهَا ۱

سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ کی ہے۔ اس میں چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۱ لَا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۲ وَلَا

تو کہہ، اے منکرو! میں نہیں پوجتا جس کو تم پوجو۔ اور نہ

اَنْتُمْ عِبٰدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۳ وَلَا اَنَا عٰبِدُ مَا عِبَدْتُمْ ۴

تم پوجو جس کو میں پوجوں۔ اور نہ مجھ کو پوجنا جس کو تم نے پوجا۔

وَلَا اَنْتُمْ عِبٰدُوْنَ مَا اَعْبُدُ ۵ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وِلٰي دِيْنِ ۶

اور نہ تم کو پوجنا جس کو میں پوجوں۔ تم کو تمہاری راہ، اور مجھ کو میری راہ۔

اعلان استقامت اسلام و شعائر اسلام و بیزاری از مراعات اہل باطل

قال اللہ تعالیٰ: قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ الی لَكُمْ دِيْنُكُمْ وِلٰي دِيْنِ .

(رابط) سورۃ کافرین خیر کثیر کی بشارت سنائی گئی تھی اور یہ اعلان بھی کر دیا گیا تھا کہ خداوند عالم نے یہ طے کر دیا تھا کہ اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین غالب ہوگا۔ اور پیغمبر خدا ہی کا میاب ہوں گے اور جو بھی کوئی بغض اور دشمنی رکھے گا وہی ناکام ذلیل اور تباہ ہوگا۔ اب اس سورت میں دنیا کے تمام کراہوں اور باطل رشت کی پیروی کرنے والوں کو جو باطل کو فروغ دینے کے لئے بڑی ہی محنت اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ کھلے عام اعلان کیا جا رہا ہے۔ اب حق پرستوں کی طرف سے ایسے لوگوں کو مایوس ہو جانا چاہیے وہ ان کی سازشوں سے ہرگز متاثر نہ ہوں گے۔

اور معبود حقیقی کی پرستش کرنے والا اب کبھی بھی باطل کی طرف رخ نہ کرے گا۔ جبکہ اہل باطل حق قبول

کرنے کو تیار نہیں تو پھر اس احمقانہ تصور اور توقع کا کیا مطلب ہے کہ اہل حق اپنے عقیدہ اور طریقوں سے کچھ ہٹ جائیں۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ کفار قریش کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل اور ابولہب عاص بن وائل کو آپ کے چچا عباس بن عبدالمطلب کے ساتھ یہ پیغام بھیجا۔ بعض روایات میں ہے کہ صرف عباس کو ہی بھیجا۔ آپ ہمارے معبودوں اور ان کی پرستش کی برائی اور تردید کرنا چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کا مقابلہ اور مخالفت چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کو سلطنت کا شوق ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار ماننے کو تیار ہیں اور اگر مال و دولت مقصود ہے تو وہ بھی جمع کر کے آپ کے سامنے ڈھیر گا دیں گے۔ اگر کوئی خواہش ہے تو جو تمام قبائل سے حنین سے حنین عورت ہو آپ کے واسطے مہیا کر دیں گے لیکن آپ اس پیغام تو حید سے رک جائیں اور ہمارے بتوں (معبودوں) کی برائی کرنا چھوڑ دیں تو آپ نے اس پر فرمایا: ہلاکت ہو لے قریش مکہ۔ مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی حاجت نہیں میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ تم ہلاکت سے بچو اور خدائے وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو۔ روایات میں ہے کہ قریش مکہ نے یہ پیغام بھیجا کہ اچھا پھر ایسا کریں کہ آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کریں ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں تاکہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہ رہے ادا سہی طرح باہمی اخوت اور یگانگت قائم ہو جائے۔ اس طرح پھر کوئی تفرقہ باقی نہ رہے گا اور نہ باہمی کوئی رنجش پیش آئے گی تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی ارشاد فرمایا۔

لے ہمارے پیغمبر کہہ دو لے کافرو! میں نہیں عبادت کرتا ان معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ کیسے ممکن ہے اور جب کہ تم نہیں عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں حالانکہ تم باوجودیکہ مشرک کر رہے ہو اور بتوں کی پرستش کرتے ہوئے بھی یہ کہتے ہو کہ مَا نُعْبُدُكُمْ إِلَّا لِیُقَرِّبَنَا إِلَى اللَّهِ ذُنُفٰی اس لئے کفار مکہ کی یہ پیش کش اور توقع کہ میں ان کی بات مان لوں گا۔ باطل اور لغو ہے اور اب تو کیا آئندہ بھی کبھی بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان معبودوں کی جسکی تم پرستش کرتے ہو اور نہ ہی تم عبادت کر دو گے اس معبود کی جسکی میں عبادت کرتا ہوں کیونکہ تم تو یہ چاہتے ہو کہ خود میں ہی العباد بالذات توحید کو چھوڑ کر تمہارا طریقہ مشرک اختیار کر لوں۔ تو جو دعوت توحید کو ٹھکرا کر اور حق سے روگردانی کرتے ہوئے داعی حق ہی کو باطل کی دعوت دے گا۔ اس سے یہ کیا توقع کی جاسکتی ہے وہ حق پرست اور داعی توحید کے ایک خدا کی عبادت کرے گا اس لئے اب ایسے لوگوں کی اس قسم کی مفاہمت اور مصالحت کی گفتگو سے مایوس ہو جانا چاہیے اور سن لینا چاہیے کہ تمہارے واسطے تمہاری راہ ہے جس پر بھٹک رہے ہو اور تیار نہیں

عہ: آج کل بالعموم اہل باطل اسی قسم کی باتوں سے اہل حق کو پرچایا کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسک اور مذہب کی خصوصی روایات کو ترک کر دیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حق کی حقانیت ختم ہو جائے اور باطل کی تردید نہ ہو تو یہ ایک خطرناک دھوکہ ہے جس سے اہل حق کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اس تفسیر کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

کہ اس کو چھوڑ دینا بس اسی پر بھٹکتے رہو اور میرے لینے میری راہ ہے جس پر میں قائم ہوں اور اس سے ہرگز میرا قدم کبھی نہیں وگلا سکتا۔ اس لینے ہر صاحب ایمان شخص کو اسی طرح استقامت اور سختگی کے ساتھ ایمان

عہ: بعض حضرات اس موقع پر دین کا ترجمہ ”بدلہ“ فرماتے ہیں تو مطلب یہ ہو گا کہ تمہارے طریقہ اور عمل کا بدلہ تمہیں ملے گا اور میرے عمل اور طریقہ کا بدلہ مجھے ملے گا۔ اضافہ کردہ الفاظ سے یہ ظاہر کر دیا گیا کہ ان کلمات کا مفہوم کافروں کی طرف سے مایوسی اور جب کہ وہ حق قبول کرنے پر تیار نہیں تو اہل حق کی طرف سے اعلان استقامت ہے۔ اس لینے ان الفاظ سے یہ اشکال ذہن میں پیدا نہ کرنا چاہیے کہ اس آیت کا مدلول تو یہ تھا کہ اس آیت کے نزول کے بعد کوئی مشرک ایمان نہ لاتا۔ اور توحید اختیار نہ کرتا جب کہ یہ فرما دیا کہ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا مَّا آخِذُوكُمْ بِآيَاتِهِ تَمْتَذُونَ مَّا لَمْ يَأْتِكُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور نہ ہی اس کا یہ مقصد ہے کہ آئندہ کوئی کافر مشرک ایمان نہیں لائے گا۔ بلکہ ایسی روش کے بعد مایوسی کا بیان ہے اور اس ضمن میں تعلقین و تسلی ہے اور یہ اعلان کرانا ہے کہ اہل حق کی طرف سے اہل باطل کو مایوسی کر دینا چاہیے کہ ہم ان کی خواہش اور پیش کش سے اپنی کسی بات میں ترمیم کرنے کو تیار نہیں۔ بعض ائمہ عربیت جیسے زحشری وغیرہ ان جملوں کے تکرار کو تاکید پر محمول کرتے ہیں۔ ہم نے ترجمہ میں اس امر کو اختیار کیا کہ اول مرتبہ حال کے معنی مراد ہیں اور دوسری مرتبہ استقبال کے لحاظ سے اعلان استقامت ہے۔

بعض حضرات کے نزدیک پہلے دو جملوں میں ما کو موصولہ قرار دیا۔ اور دوسرے دو جملوں میں ما کو مصدر یہ جس کا مفہوم یہ ہوا۔ میں عبادت نہیں کرتا۔ اس معبود کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں (تو یہ ما موصولہ کا ترجمہ ہوا) اور نہ میں وہ عبادت اور طریقہ اختیار کرتا ہوں الخ تو یہ ما مصدر یہ کا ترجمہ ہوا۔ حاصل یہ کہ میرے اور تمہارے درمیان نہ معبود مشترک ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہے تم بتوں کو پوجتے ہو وہ میرے معبود نہیں ہو سکتے ہیں اس خدا کو مانتا ہوں جس کی ذات اور صفت میں کوئی شریک نہیں۔ تم ایسے خدا کو ماننے کو تیار نہیں علیٰ ہذا القیاس تمہاری عبادت بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا اور سیٹیاں بجانا ہے۔ میرا طریقہ خدا سے وعدہ لاشریک کی حمد و تسبیح کرنا۔ تو جب

(باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

(باقی حاشیہ) پیش نظر اب اس توجیہ کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ سورت اس وقت منسوخ ہو گئی جبکہ اللہ رب العزت نے آپ کو کفر کے رد کا حکم فرمایا اور انذار و تبلیغ کا مامور فرمایا۔ یا جب حکم جہاد اور قتال کا نازل ہوا تو اس بات کی گنجائش ختم کر دی گئی جو کُفْرٌ دِیْنُکُمْ میں دی گئی تھی کیونکہ آیات کا سیاق و سباق درحقیقت اہل ایمان کو اپنے ایمان پر قائم رہنے کا اعلان اور کافروں کی طرف سے مایوسی کے باعث قلوب کو مطمئن اور یکسو کر لینے کی تلقین ہے۔ واللہ اعلم۔

پر قائم رہنا چاہیے اور اس سنجگی اور استقامت کا ایسی ہی قوت کے ساتھ اعلان کر دینا چاہیے کہ اہل باطل اس کی طرف سے مایوس ہو جائیں۔

تعر محمد اذکار العزیز تفسیر سورۃ مکارون

صحیح مسلم میں حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد **فائدہ** در کعتوں میں قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ اور سورۃ اخلاص کو تلاوت فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ آپ ان دو سورتوں کو مغرب کے بعد سنتوں میں اور فجر سے قبل سنتوں میں پڑھا کرتے تھے۔

نیز حضرت جابرؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرتؐ جب رات کو بستر پر لیٹتے تو تب بھی یہ سورت تلاوت فرماتے اور آپ نے حضرت علیؓ کو بھی اس کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ انہا براءة من الشرك کہ یہ سورت شرک سے براءت اور پاکی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ النَّصْرِ

سورۃ النصر جہود مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ بعض روایات نے یہ بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے زمانہ میں ایام تشریق کے دوران مقام منیٰ میں نازل ہوئی اس سورت کا نام بعض حضرات نے سورۃ التذویج بھی بیان کیا ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے قبل نازل ہوئی۔

حافظ ابن کثیرؒ بروایت صدقہ بن یسارؓ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت جب ایام تشریق میں نازل ہوئی تو آپ نے مجھ لیا کہ یہ سورت میرے واسطے

(بقیہ حاشیہ) نہ معبود میں شرکت اور نہ طریقہ عبادت میں شرکت تو پھر سمجھو کہ کس بات پر ہو سکتا ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ کا خیال یہ ہے کہ ایک دفعہ سے نفی اس لحاظ سے ہے کہ آنحضرتؐ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے تو پہلے بھی کبھی شرک نہیں کیا۔ جب کہ نبی بھی نہ تھا اور جاہلیت کا دور تھا تو اب جب کہ نبوت و رسالت عطا کر دی گئی اور مجھ کو اللہ نے توحید کا داعی بنا دیا۔ تو اب یہ کیونکر ممکن ہے کہ میں ان معبودوں کی عبادت کروں۔

(تفصیل کے لیے فوائد عثمانی ملاحظہ فرمائیں)

پیغام اوداع ہے اور اسی کے بعد آپ نے وہ معروف خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ اوداع کے نام سے معروف ہے جس میں آپ نے قیامت تک کے واسطے تمام عالم کے لئے ایسے راہنما اصول ذکر فرمائے جس میں امن عالم انسانیت کی فلاح و کامیابی اور مسلمانوں کی عزت و عظمت جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کے جملہ قوانین ارشاد فرمادیئے۔

ایک روایت میں ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا اے فاطمہ مجھے خبر رحلت دے دی گئی ہے۔ جس پر حضرت فاطمہ بیقرار ہو کر رونے لگیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر آپ نے فاطمہ سے پھر یہ فرمایا۔ اے فاطمہ تو میرے گھرانہ میں سب سے پہلے وہ ہے جو مجھے ملے گی۔ جس پر فاطمہ ہنسنے لگیں۔ (رواہ البخاری و مسلم)

اور پھر یہ راز رکھا۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی باوجود اصرار کے نہ بتایا۔ تا آنکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی تو اس کا اظہار کیا۔ اگرچہ اس سے قبل آپ کی وفات کی خبر و ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ میں دے دی گئی تھی۔ لیکن زمانہ رحلت کے قریب تر ہونے کی اطلاع اسی سورت نے کی۔ اسی وجہ سے روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبرؓ نے اس سورت کو سنا تو بیقرار ہو کر رونے لگے جیسا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دورانِ خطبہ وہ بات سُن کر رونے لگے تھے۔ جب آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندہ کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ دنیا کو اختیار کرے یا اپنے رب کو تو اس بندہ نے اللہ کو اختیار کر لیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اب آپ کی رحلت کا وقت قریب ہے۔

صحیح بخاری میں ہے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھ کو بدر کے بزرگوں میں شمار اور داخل فرماتے تو بعض بزرگ صحابہ کو خیال گذرا اور کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہے حالانکہ ہمارے بیٹے ابن عباسؓ کے برابر ہیں تو فاروق اعظمؓ نے سب حضرات صحابہ سے اس سورت کا مطلب دریافت کیا۔ جس پر کسی نے ظاہری مطلب بیان کر دیا اور کسی نے سکوت اختیار کیا۔ ابن عباسؓ سے دریافت کیا اے ابن عباسؓ کیا تم بھی اس سورت کا یہی مطلب سمجھتے ہو؟ جواب دیا نہیں یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر وفات ہے تو اس طرح عمر فاروقؓ نے ابن عباسؓ کی علمی عظمت کو ظاہر فرمایا۔

ع: صحیح بخاری و مسلم۔ تفسیر ابن کثیر۔

عکرمہؓ سے روایت ہے بیان کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عباسؓ فرماتے تھے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عبادت اور ذکر و فکر میں شب و روز معروف ہو گئے اور حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ کثرت سے یہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ گویا آپ کتبِ بحمدک پر عمل فرماتے ہوئے یہ کلمات فرماتے تھے۔ ۱۲

آیاتھا ۳ = ۱۱۰ = سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ ۱۱۴ رُكُوعُهَا ۱

سُورَةُ نَصْرِ مَدَنِيَّةٌ ہے اس کی تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۱ وَرَاَيْتَ النَّاسَ

جب پہنچ چکی مدد اللہ کی اور فیصلہ - اور تو نے دیکھے لوگ

يَدْخُلُونَ فِي دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۲ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

پہنچتے (داخل ہوتے) اللہ کے دین میں فوج فوج - اب پاکی بول اپنے

رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۳ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۳

رب کی خوبیاں ، اور گناہ بخشتا اس سے بیشک وہ معاف کر نوالا ہے۔

ذکر بشارت فتح و نصرت و غلبہ دین
و ظہور اسلام مع حکم تسبیح و استغفار

قال اللہ تعالیٰ - اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ الی اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا۔

(رابط) اس سے قبل سورہ کافرون میں اس امر کا حکم تھا کہ مشرکین کی سازشوں سے مسلمانوں کے قدم جاوہ استقامت سے کسی درجہ میں متزلزل نہ ہونے چاہئیں ان کو واضح اعلان کی صورت میں کہہ دیا جائے کہ ان کی خواہشات اور کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں گی اور اس امر کا کوئی اسکان نہیں کہ حق اور باطل میں کوئی باہمی سمجھوتہ ہو اگر کفار مکہ شرک اور کفر سے باز آنے کو تیار نہیں تو پھر حق پرست اور مسلمان کیونکہ ایمان و توحید کے تقاضوں سے دست بردار ہو سکتا ہے اس مرحلہ پر تو بس یہی اعلان کرنا پڑے گا اِنَّكُمْ دِیْنُکُمْ قَدِیْ دِیْنِ تُوَا سِ مَنَابِت سے اس سورت میں فتح و نصرت کی بشارت کا ذکر کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے غلبہ دین اور ظہور اسلام کی خبر دی گئی۔ اور چونکہ یہ بات اس نعمت کو متضمن تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض بعثت الحمد للہ مکمل ہو گئی۔

اور آپ امت کے کام سے فارغ ہو گئے اس لئے اب آپ کلیدِ خالق ہی کی طرف رخ کر لیجئے اور اس کی یہی صورت ہے کہ تمام تر مشغولیت، انہماک الی اللہ ہو جائے حتیٰ کہ یہ انہماک اور رجوع الی اللہ عملاً و اشتغلاً مکمل ہوتے ہوئے اصلاً و ذاتاً بھی رجوع الی اللہ ہو جائے جس کی صورت دنیا سے رحلت کر کے رفیقِ اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہو جانا ہے لہذا ارشاد فرمایا۔

جب آجائے اللہ کی نصرت اور فتح حتیٰ کہ کم اور حجاز کے بڑے بڑے شہر فتح ہو جائیں اور دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ جو حق اور فوج در فوج اللہ کے دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور اس طرح آپ امت کے کام اشاعت اسلام اور دعوت توحید کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں اور جو غرض آپ کی رسالت و بعثت کی تھی وہ پوری ہو جائے اور دیکھ لیں کہ اسلام کا ظہور و غلبہ ہو گیا اور اب یہ بات نہیں کہ ایک ایک دو آدمی اسلام میں داخل ہوں بلکہ فوج در فوج اور قبیلے کے قبیلے بیک وقت قبول اسلام کر رہے ہوں تو اس کی طرف سراپا انہماک و توجہ کے لئے بس اپنے رب کی تسبیح و پاکی میں مشغول ہو جائیے اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور اسی سے استغفار کیجئے تاکہ اس حمد و ثنا اور استغفار کے ذریعہ اس کے انعامات کا شکر ادا ہو سکے اور فتح و نصرت اور غلبہ دین کا انعام بے شک اسی کو چاہتا ہے کہ اس کی طرف شکرانہ انداز میں رجوع کیا جائے بے شک وہ پھر درگاہِ بڑا ہی رجوع کرنے والا ہے۔ اپنے ہر اس بندہ کی طرف جو اپنا رخ اس کی طرف اس کی حمد و ثنا اور استغفار و شکر کی صورت میں کرتا ہے۔

سُورَةُ النَّصْرِ كَانَتْ قَبْلَ اَزْفَحٍ كَمَا يَأْتِي بَعْدَ اَزْفَحٍ

علماء مفسرین کے اس بارہ میں کہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے یا قبل از فتح مکہ دو قول ہیں ایک یہ کہ قبل از فتح مکہ نازل ہوئی ہے جیسا کہ اذّا سے معلوم ہوتا ہے جو مستقبل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس سورت میں آئندہ حاصل ہونے والی فتح کی خبر دی گئی اور بشارت سننے

عہ: آیت مبارکہ اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ میں نصر اور فتح کو عطف کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ نصر کے معنی فتح اور اعانت کے ہیں۔ جس کی حقیقت تحصیل مطلوب میں اعانت اور اسباب اعانت اور فتح تحصیل مطلوب کا نام ہے اس لحاظ سے ظاہر ہوا کہ نصرت فتح کا سبب اور ذریعہ ہے تو فتح کا عطف نصر پر اسی نوعیت سے نہایت لطیف ہوا۔ اعانت و نصرت میں کبھی اسباب ظاہری کی فراہمی ہوتی ہے جیسے لشکر اور سامان حرب اور نادرہ وغیرہ۔ اور کبھی باطنی اسباب سے ہوتی ہے جیسے مجاہدین کے حوصلوں کی بلندی اور کافروں کی سرعوبی و بزدلی اور ہیبت یا ان کی سوء تدبیر۔ تو اسی کے پیش نظر فرمایا گیا۔ وَصَالَةُ النَّصْرِ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ۱۲۔

کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس پر یہ آثار و احوال مرتب ہوں گے کہ **يَذُخُّنَّ خُلُوفَ رَبِّهِنَّ فِي جَنَّاتٍ آفَاقًا**۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے نازل ہونے کے بعد دو سال سے کچھ زائد حیات رہے اور اس کے بعد آپ کی رحلت ہوئی۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد نزل ہوا۔ جیسا کہ بعض روایات کی تصریح میں بیان کیا گیا کہ حجۃ الوداع میں ایام تشریق میں نزل ہوا تو اس صورت میں لفظ **اِذَا كُوِّدَ** کے معنی میں لیا جائے گا جو کہ ماضی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ **اِذَا** ماضی کے لئے مستعمل نہیں ہوتا اور اس کی مثال قرآن کریم کی ایک آیت میں موجود ہے کہ **اِذَا كُوِّدَ** کے معنی میں استعمال کر لیا جائے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **حَتَّىٰ اِذَا جَعَلْنَاهُ نَارًا خَالًا لِّلنَّوْثَىٰ اُخْرَسَ عَٰلَمِيْنَ**۔ **قَطْرًا**؟

اس تقدیر پر اکثر روایات اور مفسرین کے قول کی بنا پر یہ کہ سورہ نصر بعد فتح مکہ نازل ہوئی کہا جا سکتا ہے کہ **اِذَا** مستقبل ہی کے معنی پر محمول ہے۔ اور فتح مکہ اگرچہ ہو چکی لیکن فتح اسلام اور ظہور دین کے یہ ابتدائی مراحل جو طے ہوئے ہیں مکمل فتح اور کامل غلبہ آئندہ آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوگا۔ جب کہ فارس و روم جیسے عظیم ملک بھی ختم ہو کر اسلامی مملکت کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور ظاہر ہے کہ تمام عالم پر اسلام کا غلبہ روم و فارس الجزائر و مراکش اور کابل و چین تک پریم اسلام لہرنے کے بعد ہوا۔ جو عثمان غنیؓ کے دور خلافت میں ہوا تو اس صورت میں فتح مکہ کے بعد بھی **اِذَا** مستقبل کا استعمال کسی بھی درجہ میں باعث اشکال نہ رہا اور اس تقدیر پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ گویا فتح مکہ ایک تمہید اور بشارت تھی۔ اس مکمل ہونے والی فتح کے لئے جس کی بشارت سنائی گئی اس طرح زمان نبوی کو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔

”اِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ كَسْرِيٌّ فَلَا كَسْرِيَّ بَعْدَهُ۔“
 قَلَّ اللَّهُ مُحَمَّدًا كَثِيرًا عَلِيٌّ نَصْرَةٌ وَفَتْحٌ۔ فَيَارْتِ اَعْلَى كَلِمَةً
 الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَانصَرْنَا نَصْرًا عَزِيْزًا بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ
 وَاخْذَلِ الْكُفْرَةَ اَعْدَاءَ الْاِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاجْعَلْنَا فَاوْزِيْنَ وَثِيْقًا
 عَلٰى مِلَّةِ الْاِسْلَامِ وَعَلٰى مِلَّةِ نَبِيِّكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَاحْشُرْنَا فِي زَمْرَةِ الَّذِيْنَ
 اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰهِدِ اَعِ وَالصّٰلِحِيْنَ۔
 آمِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحِمَ الرَّاحِمِيْنَ۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاَلْبَبِ

سورۃ الہلب بھی کئی سورت ہے۔ عبداللہ بن الزبیرؓ اور ابن عباسؓ سے یہی منقول ہے اور ائمہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کی پانچ آیات ہیں۔ اس سورت میں خاص طور سے اس اہم تاریخی امر کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا اور آیت مبارکہ **اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الَّا قَوْمَ لُؤَيٍّ نَادِيٍّ** اور سلسلہ وحی کے آغاز کے بعد سب سے پہلا حکم بھی آپ کو یہی دیا گیا۔ **فَتَمَّ فَاَنْذِرْهُ** تو آپ بطحا مکہ کی طرف نکلے اور ایک پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے قبائل عرب کو پکارا **اِذَا صَبَا حَاهُ** یا صبا ماہ جس پر قریش کے تمام قبائل جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو! ذرا یہ بناؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک دشمن کا لشکر تم پر صبح کو حملہ آور ہونے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے اور میری بات پر اعتماد کرو گے۔ سب نے جواب دیا بے شک۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے آپ کے بارہ میں کبھی کوئی تجر بہ ہی نہیں کیا سوائے صداقت اور سچائی کے۔ آپ نے فرمایا۔ **اِنِّيْ نَذِيْرٌ لِّكُم مِّنْ بَيْنِ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ**۔ کہ میں تمہیں ایک سامنے آنے والے شدید عذاب سے ڈرانے والا ہوں (اگر تم ایمان نہ لاؤ گے) تو یہ سنکر بد بخت البرہلب کہنے لگا۔ **فَبَثَّ اَنْذِرْتُمْ** تمہارے ہاتھ ٹوٹیں۔ کیا اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے آپ پر ایک پتھر اٹھا کر پھینکا اور بہت کچھ بیہودہ باتیں کہیں اور حرکتیں کیں۔ تو اس سورت میں اس بد بخت کی بد تمیزی اور شقاوت کی مذمت اور اس پر وعید فرمائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے مغرور مشکبر انسانوں کا مال اور ان کی عزت و قوت اسلام اور رسول خدا کے مقابلہ میں ہرگز کام نہیں آسکتی ان کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد ہونا ہی پڑے گا۔



آیاتہا ۱۱۱ = سُوْرَةُ الْلٰهَبِ مَكِّيَّةٌ = ۶ رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ لہب مکی ہے اور اس کی پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۱ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ

ٹوٹ گئے ہاتھ ابی لہب کے اور ٹوٹ گیا وہ آپ۔ کمال آیا اس کو مال

مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۲ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۳

اس کا اور نہ جو کمایا۔ اب پیٹھے گار پہنچے گا ذبک مارتی آگ میں۔

وَأَمْرَاتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۴ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ ۵

اور اس کی جوڑو۔ سر پہ لینے پھرتی ایندھن۔ اس کی گردن میں رسی

مِّنْ مَّسَدٍ ۵

ہے موم کی۔

خُسرانِ بربادی در دنیا و عقبی از دشنی

رَسُولِ خِدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

قال الله تعالى: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ الى كَحَبْلٍ مِّنْ مَّسَدٍ -

(ربط) گزشتہ سورہ نصر میں یہ بتایا گیا تھا کہ حق اور بدایت ہی کو غلبہ و کامیابی حاصل ہوتی ہے اور دنیا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور اپنے دین کو غالب و کامیاب فرمایا ہے۔ تاریخ عالم میں اس نے اپنی قدرت عظیمہ کا مشاہدہ کرا دیا کہ وہ پیغمبر اور ان کے ساتھی جو مکہ سے مجبور و مظلوم ہو کر ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ چند ہی سال گذرنے پر وہی اللہ کا رسول دس ہزار قدسیوں کے ساتھ اسی سرزمین میں فاتح و کامیاب داخل ہو رہا ہے۔ تو اس کے بالمقابل اس سورت میں یہ بتایا

جاری ہے کہ دین خداوندی اور اللہ کے رسول کی دشمنی کا انجام کس طرح تباہی اور بربادی کی صورت میں رونما ہوتا ہے چنانچہ وہ سردارانِ کفر جن کے مال و دولت اور عزت و شہرت کی کوئی کمی نہ تھی (جن میں ایک ابو لہبؓ بھی تھا) کیسے ذلیل اور تباہ و برباد ہوئے۔

چنانچہ ارشاد فرمایا: ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹ گیا۔ وہ خود ہی بس تباہ و برباد ہو گیا۔ قدرتِ الہیہ کے اس فیصلہ سے جو اس کی اس بیہودگی و بدتمیزی پر جاری ہو گیا جو اس نے کی اس وقت جب کہ وہ صفا پر چڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل قریش کو ایمان کی دعوت دی تھی تو اس بیہودہ نے کہا تَبَّأ لَكَ الْهَذَا اجمعتنا۔ اس بیہودہ نے اپنے مال و دولت کے غرور اور نشہ میں اس بیہودگی کا انکاب کیا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ بس یہ ٹوٹ گیا۔ تباہ و برباد ہو گیا اور اس قطع فیصلہ کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ چنانچہ یوں ہی ہوا کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ ہی وہ سب کچھ جو اس نے کمایا تھا۔ اس کی عزت و سرداری اور قبائل عرب میں اس کی مقبولیت و محبوبیت دنیا کی زندگی میں خدا کا یہ فیصلہ نافذ ہو کر رہا۔ اور سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ کس طرح تباہ ہوا اور ذلیل و خوار ہو کر بڑی ہی گندی موت سے مرا کہ کوئی اس کے قریب بھی آنے کو تیار نہ تھا جو بلاشبہ ایک عذاب تھا۔ اور رسول خدا کی دشمنی اور توہین کی سزا تھی جو اس کو دنیا میں بھگتنی پڑی۔ اب اس کے بعد مزید آخرت کا عذاب بھی سامنے ہے کہ وہ عنقریب داخل ہوگا ایک ایسی دھکتی ہوئی آگ میں جو بڑی شعلے برسانے والی ہوگی اور ذاتِ لہب آگ میں ابو لہب کے لئے تیار کر دی گئی ہے اور جو بد بخت بد نصیب کفر و نافرمانی کی بھر پوری غیظ و غضب کی آگ میں اللہ کے رسول کی دشمنی کرتا رہا اس کو ایسی ہی ذاتِ لہب اور دھکتی ہوئی آگ میں یقیناً جانا پڑے گا اور اس کی بیوی بھی اس دنیوی ہلاکت اور عذابِ اخروی میں مبتلا ہوگی جو لکڑیاں لا کر لانے والی ہے جس کی گردن میں مویج کی مضبوط رسی پڑی ہوئی ہے تو وہ بد بخت بھی ہلاک ہوگا اور اس کی بد نصیب بیوی بھی تباہ و برباد ہوگی جن کے حق میں خدا کا یہ فیصلہ ہو گیا۔

حضرات مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب کی بیوی جو عرب کے سرداروں میں سے تھی جس کا نام آزدیا بنت حرب تھا اپنے حسن و جمال میں بڑی معروف تھی اور اسی وجہ سے اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا۔ اس کی ذلت میں خاص طور سے یہ وصف یعنی حَمَالَةَ الْخَطْبِ اس وجہ سے بیان کیا گیا کہ یہ بھی ابو لہب کی طرح حضورؐ کی دشمنی اور غیظ و غضب میں بھر پور ہوئی آگ کی طرح شعلے برساتی پھرتی تھی۔ اور شدتِ عداوت کے باعث لکڑیاں جن میں کانٹے ہوتے حضورؐ کے راستے میں ڈال دیتی۔ تاکہ آپ کے پاؤں میں کانٹے چھیں۔ بعض کا خیال

علیہ: ابو لہب آپ کے بعد المطلب کا حقیقی بیٹا یعنی آپ کا چچا تھا۔ اس کا نام عبد العزی تھا۔ نہایت سرخ رنگ اور خوبصورت آدمی تھا چہرے کی چمک دمک ایسی تھی کہ گویا چہرے سے شعلے نکل رہے ہوں۔ اس وجہ سے ابو لہب کینیت تھی۔ ۱۲

ہے کہ اس قدر نخل تھا کہ مال و دولت کے باوجود لکڑیاں سر پر اٹھا کر لاتی تھی۔

بخاری نے بیان کرتے ہیں: "فِي جَيْدِهَا خَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ" وہ نارِ جہنم کا طوق ہے جو اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔

سعید بن المسیب سے منقول ہے کہ ابو لہب کی بیوی کی گردن میں ایک نہایت قیمتی ہار پڑا رہتا تھا جس پر یہ فخر کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اس ہار کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عداوت میں خرچ کر دوں گی۔

علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر روح المعانی میں روایت مجمع بن الطارق بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ سوق ذی الحجہ میں آپؐ لوگوں کو اسلام اور فضلے دہدہ کی عبادت کی دعوت دیتے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے ابو لہب بدبخت آپؐ پر پتھر برساتا ہوا آ رہا ہے جس سے آپؐ کی پنڈلیاں اور قدم لہو لہان ہو چکے ہیں اور یہ بدبخت دونوں ہاتھ اٹھا کر مار رہا ہے اور آپؐ پر ہنسی مذاق کرتا جا رہا ہے۔

ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے ایک غیبت بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر تھوکا تھا۔ تو ان تمام شقاوتوں اور بدبختیوں کا انجام دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ چند روز کے بعد اللاس وغزبت کا دور شروع ہو گیا اور اس بدبخت بیٹے پر جس نے یہ یہودگی کی تھی اور آپؐ کی زبان مبارک سے اس کے حق میں یہ بددعا نکلنی تھی کہ اے اللہ تو اس پر اپنا کتا مسدقہ فرما دے۔ تو اسی طرح ہوا ایک روز جنگل میں جا رہا تھا کہ ایک شیر نے چپا کر چمرا چمرا کر دیا۔

اور خود ابو لہب ایک بیماری میں مبتلا ہوا جس کو اہل عرب عدسہ کہتے ہیں یعنی طاعون کا پھوڑا۔ یہ ایسا مرض متعدی سمجھا جاتا ہے کہ کوئی اس مریض کے قریب بھی نہیں آتا۔ تکلیف کی حد نہ رہی۔ کتوں جیسی آواز نکلتے لگی۔ چہرہ بگڑ گیا جو چہرہ حسن و جمال سے چمکتا تھا وہ قابل نفرت بن گیا کہ دیکھنے سے ہی لوگ کترانے لگے یہاں تک کہ گھر والوں نے اس کو دور جگہ ڈلوادیا مبادا کہیں ان کو بھی یہ مرض نہ لگ جائے۔ اسی حالت میں مر گیا اور تین دن تک لاش اسی طرح پڑی رہی کیونکہ کسی میں ہمت نہ تھی کہ ایسی گندی اور بدبو دار لاش کے قریب بھی آسکے اس صورت حال میں کچھ حبشی مزدوروں کو بلوایا گیا جنہوں نے لکڑیوں کے ذریعے اس لاش کو دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا۔ اس کی یہ بیوی جس کو قرآن نے مکی زندگی میں ہی حمالۃ المحطب کہہ دیا تھا اور گویا اس وقت یہ ابو لہب کی کوزدگوشی کی دہکتی ہوئی آگ کو اور زائد کرنے اور باقی رکھنے کے بیٹے لکڑیوں کی کانٹھیں اٹھا اٹھا کر لانے والی اور دھکتی ہوئی آگ کو امد بھڑکانے والی حمالہ تھی یہ واقعہ اور صورت بھی حمالۃ المحطب بن گئی۔ اور قدرت خداوندی نے جب انتقام و قہر کے سلسلہ کا آغاز ان کی فقر و تنگدستی سے کیا تو پہلے یہ اُمّ جمیل جو ناز و شہرت سے گردن میں ہار ڈالے پھرتی تھی۔ ابو لہب کی بیماری سے غمزہ ہو گئی۔ پھر فقر و تنگدستی نے یہاں تک نسبت پہنچائی کہ لکڑیاں لا کر لانے کی نوبت آ گئی اور جو رسی لکڑیاں باندھنے کی گلے میں پڑی

عہ تفسیر ابن کثیر ج ۴

ہوئی تھی۔ ایک روز تھوکر کھا کر جب گری اور کڑیوں کی گانٹھ گر گئی۔ تو وہ رسی پھندے کی طرح گلے میں پھنس گئی اور ایسا گلا گھٹا کر تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اور اس وقت اس کے گلے میں یہ پھندا اس قیمتی ہار اور زرین گلو بند کی جگہ تھا جو یہ اپنے گلے میں ڈالے پھرا کرتی تھی اور اس ہار کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دشمنی میں بیچنے کا ارادہ کرتی تھی۔

سبحان اللہ کس طرح خداوند عالم کی قدرت نے ابولہب اور اس کی بیوی کو ہلاک و برباد کیا اور جو جو باتیں ظاہری نشان و شوکت کی تھیں انہی کو عذاب کی صورت میں منتقل کر دیا۔

یہ سورت جب نازل ہوئی اس وقت ابولہب کی شعلہ فشانیاں خوب جولائیت پر تھیں اور اس کی بیوی ام جمیل کا جمال و مطراق بھی بڑے عروج پر تھا۔ اس وقت خداوند عالم نے یہ خبر دی تھی۔ ظاہر ہے کہ ایسی خبر دینا وحی الہی کا کام ہو سکتا تھا پھر اس کی صداقت دنیا کے سامنے روز روشن بن کر آگئی۔ اور اس تاریخ کو دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ تو دنیا کی رسوائی اور بربادی تھی۔ اس سے بڑھ کر آخرت کا عذاب ہے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَۃُ اَشَدُّ دَآبِقًا۔ ابولہب کی ہلاکت عذوہ بدر سے سات روز بعد پیش آئی تو اس تاریخی حقیقت کو دنیا تسلیم کرنے پر مجبور ہے جو قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی عظیم الشان دلیل ہے۔ جس پر عقل والے انسان کا ایمان لانا ضروری ہے

تم بحمد اللہ تفسیر سورۃ اللہب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُورَةُ الْاِخْلَاصِ

سورۃ اخلاص مکیہ ہے جمہور کے نزدیک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ عکرمہ جابر عطاء اور ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی منقول ہے اس کی چار آیتیں ہیں۔ اس سورت مبارکہ میں توحید خداوندی اور اس کی

حصہ، ان الفاظ سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اس مقام پر خداوند عالم نے كَمَا لَآءِ الْحَطَبِ اور فِيْ جَبَدٍ مَّا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ کا عذاب کس طرح ظاہری اور معنوی طور پر مکمل فرمادیا اور اس ضمن میں ان کلمات کی بلاغت و حکمت اور ان کلمات سے اعجاز قرآنی بھی واضح ہو رہا ہے۔ اور اس کی گردن میں مونس کی رسی دنیا کا عذاب تھی۔ لیکن اس کو اللہ نے نمونہ بنا دیا۔ « اِذَا الْاَعْتٰكِلُ فِیْ ذُرِّهِۦ اَعْتٰقِہُمْ وَ السَّلٰۃُ یَسٰلُ یَسْتَجِیْبُوْنَ » کا۔

ذات و صفات کی عظمت کا بیان ہے اور یہ کہ اس کی الوہیت اور ذات و صفات میں اس کا کوئی مشابہ اور نمونہ نہیں۔ مماثلت و مشابہت خواہ ذات میں ہو یا جملہ صفات میں یا صفات میں سے کسی ایک وصف میں وہ برابری کی موجب ہے اور علی الاطلاق کسی ایک کی عظمت و کبریائی کے منافی ہے۔

اس ضمن میں یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ اسلام کی خصوصیت توحید ہے اور اسی خصوصیت کے باعث اسلام دوسرے مذاہب سے ممتاز و مجزا ہے اور یہی وہ خصوصیت ہے جس کی بناء پر اسلام دنیا کے تمام مذاہب سے بہتر اور عین عقل و فطرت کے مطابق ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ کفار قریش نے یا یہود کے علماء میں سے کعب بن الاشرف نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف ہم سے بتائیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کا رب کیسا ہے۔

امام احمد اور امام بخاری نے اپنی تاریخ میں ابی بن کعب کی روایت سے بیان کیا ہے کہ مشرکین نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے وہ کس نسب سے ہے تو اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کی عظمت و فضیلت کے لئے یہی بات بہت کافی ہے کہ توحید خداوندی کا مضمون ہے اور اس کی شان کبریائی اور بے نیازی بیان کی گئی ہے۔ مزید برآں اس کے فضائل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قُلْ هُوَ اللَّهُ تَعَدَلَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ كَمَا قُلْنَا هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَهَائِي قُرْآنِ كَمَا بَرَأَ بِي۔ بہت ہی بڑی فضیلت ہے۔

میچ بخاری و دیگر کتب حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جس کسی شخص نے یہ سورت پڑھی اس نے تہائی قرآن کی تلاوت کی۔ اس لئے کہ قرآن کریم از اول تا آخر جن مضامین پر مشتمل ہے وہ تین قسم کے ہیں۔ توحید و صفات خداوندی۔ اعمال عبادہ۔ قیامت اور جزا و سزا تو اس سورت میں توحید و صفات کا بیان ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے ایک سریر بھیجا تھا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا تو یہ صاحب جب بھی غار پڑھانے تو ہر رکعت میں سورت کے شروع کرنے سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے تو لوگوں نے واپس آکر یہ بات آپ سے بتائی (کیونکہ یہ چیز عام دستور اور طریقہ صلوٰۃ سے مختلف تھی) تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے دریافت فرمایا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ سورت صفت الرحمن ہے اور مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کو بتاد اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اس سورت کی محبت نے اسکو جنت میں داخل کر دیا۔

حضرت ابو ایوب انصاریؓ ایک مجلس میں تھے کہ انہوں نے حاضرین مجلس سے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر رات تہائی قرآن کی تلاوت کے ساتھ قیام کر لیا کرے (یعنی تہجد پڑھے) لوگوں نے عرض کیا اے ابو ایوبؓ کیا کسی میں اس قدر طاقت ہو سکتی ہے کہ ہر رات وہ اتنی مقدار تلاوت کرے۔ آپ نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ تَعَدَلَ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ تَوَاسِي

مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور فرمایا صدق ابوالیوب۔
 ایک روایت میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے قل هو اللہ احد ختم سورت
 تک دن مرتبہ پڑھ لی۔ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ عمر فاروقؓ یہ سن کر کہنے لگے پھر
 تو یا رسول اللہ تم جنت میں بہت سے محل بنا لیں گے آپ نے فرمایا اللہ کی رحمت اور اس کے انعامات اس
 سے بھی زیادہ وسیع تر ہیں۔

اس سورت کی عظمت کا یہ مقام ہے کہ احادیث و روایات میں اس کے متعدد نام ذکر فرمائے گئے۔
 امام رازی نے ایسے بیس نام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور ہر نام کے ساتھ وجہ تسمیہ اور اس کا ماخذ بھی
 قرآن کریم سے ذکر کر دیا گیا ہے۔

آیاتہا ۳ = سوره الاخلاص کلیمہ ۲۲ = رکوعہا ۱

سورۃ اخلاص کی ہے۔ اس میں چار آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۱ اللّٰهُ الصَّمَدُ ۲ لَمْ يَلِدْ ۳ وَ

تو کہہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ زادہ دار (بے نیاز) ہے۔ نہ کسی کو جنم نہ

لَمْ يُولَدْ ۳ وَ لَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۴

کسی سے جنم نہ اور نہیں اس کے جوڑ کا کوئی۔

اعلان توحید خداوندی و تقدیس و تنزیہ از ممالک و مشابہت

قال اللہ تعالیٰ۔ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ الی كُفُوًا اَحَدٌ۔

حق تعالیٰ شانہ کی معرفت اسکی شان ربوبیت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے جو انسان کی فطرت میں ابتداءً فریش

عنت: تفسیر ابن کثیر ج ۳، تفسیر کے لئے درمنثور اور قرطبی ملاحظہ فرمائیں۔

عنت: تفسیر کبیر ج ۳۲، ص ۱۴۵ - ۱۴۶

اور روز اول سے ددیعت رکھ دی گئی۔ اور عبد الست میں اولاد آدم کو اسی عنوان سے مخاطب فرمایا گیا تھا اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَ سُبْحٰنَ رَبِّكَ دِيَا تَحَا۔ بَلٰی۔ تَوْرَبْ كِي مَعْرِفَتِ اِنْسَانِ كَعْمِيْرَا وَاَسْكِي فِطْرَتِ مِيْنِ دِدِيْعَتِ رَكْحِيْ هُوْنِيْ تَحِي۔ اِسْ لِيْ قِرْآْنِيْ مِضَامِيْنِ كِي اِبْتَدَا اِسِيْ صَفْ كِي سَا تَحَا حَمْدٌ وَا شَرْحٌ سَعِيْ فَرْمَانِيْ كُوْنِيْ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اور ظاہر ہے کہ مقصد اس معرفت کا نقل و تکرار یا اس کا نتیجہ و ثمرہ ایمان باللہ ہے۔ جس پر نجات اخروی اور سعادت ابدیہ موقوف ہے اور ایمان باللہ توحید ذات و صفات ہی کا نام ہے اس وجہ سے قرآنی مضامین کا اختتام اس سورت مبارکہ پر ہو رہا ہے، جو قرآنی مضامین کی روح اور انسانی حیات کا اصل مقصد ہے تو اب ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھتے ہوئے ہمارے پیغمبر جب یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے رب کی صفت کیسا ہے تو کہہ دیجئے وہ خدا ایک ہی ہے وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے۔ ذات میں یکتائی اس طرح کی کہ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ اسکی الوہیت میں۔ اور صفات میں یکتائی یہ ہے کہ وہی انہی ہے اور کوئی نہیں۔ وہی ابدی ہے اور کوئی نہیں۔ وہی قادر مطلق ہے اور کوئی نہیں۔ وہی علیم وغیرہ ہے لیکے احاطہ علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ خواہ ظاہر ہو یا باطن حتیٰ کہ دلوں کے راز بھی وہی جاننے والا ہے اور کوئی نہیں۔ وہی رحمان و رحیم ہے اسکے سوا اور کوئی نہیں اسکی توحید ذات و صفات اس امر کو مستلزم ہے کہ وہی اللہ ہے نیاز ہے کسی کی اسکو حاجت نہیں بلکہ سب ہی اس کے محتاج ہیں۔ تو ظاہر ہے صرف ایسا ہی ایک خدا عبادت کا مستحق ہے ایسے خدا کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا یا اسکے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کر لینا عقل و فطرت کے خلاف امر اور انسان کا بدترین ظلم اور ذلیل جرم ہے۔ افسوس کہ اسکی ذات و صفات اور وحدانیت کے سمجھنے میں ٹھوکر میں ٹھوکر میں کھائیں کسی نے دو خالق "یزدان" و "اہرم" تجویز کیئے اور نور و ظلمت کو معبود بنا لیا کسی نے اس کے لیے بیٹا تجویز کر لیا کسی نے خدائی کو تین خدائیوں میں جمع کر دیا پس سن لینا چاہیئے ایسے تمام بعید الفہم لوگوں کو جو اپنی بلادت و حماقت سے یہ کہیں نَحْنُ اَنْبِيَاءُ اللّٰهِ وَ اٰجِبْنَا وَاَنْبِيَا وَا نْكُوْهُمُ جُوْ يٰ كَيْفِيْنَ عَزِيْزِيْنَ بِيْنِيْ اللّٰهِ۔ اور ان مسیحیوں کو بھی جو مسیح بن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور انکو بھی جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ الغرض ہر انسان کو جو خدا کی خدائی میں کسی کو شریک کرتا ہو یا اس جیسا کسی کو قرار دیتا ہو یہ حقیقت سمجھ لینی چاہیئے کہ وہ خدا ایسا واحد و یکتا ہے کہ نہ اس نے کسی کو جتا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اس لیے کہ وہ احد و وحد ہے اور احدیت و وحدیت کا تقاضا ہی ہے کہ نہ اسکی کوئی بیٹا اور اولاد ہو اور نہ وہ کسی کی اولاد ہو۔ کیونکہ یہ چیز نہ امر شریک اور احتیاج ہے لہذا احدیت و بلے نیازی کے ساتھ کیونکہ جمع ہو سکتی ہے اور اسکی یہ شان احدیت اس امر کو بھی مقتضی ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی بھی ہمسرا اور مثال و نمونہ کہ ادنیٰ سے ادنیٰ مشابہت بھی رکھے۔ جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ۔ اس لیے کہ اگر کسی میں مشابہت و مماثلت فرض کی جائے تو لامحالہ دو کا کسی ایک وصف میں برابر ہونا لازم آئے گا اور یہ برابری خدا و نو عالم کی شان کبریائی کے بھی منافی ہوگی۔ اور معنوی طور پر وحدانیت کا بھی ابطال لازم آئے گا۔ جس کا نتیجہ ہی ہے کہ وہ واحد و یکتا ایسا ہے نیاز ہے کہ اس کو نہ خاندان و قبیلہ کی ضرورت ہے نہ بقا و نسل کے لیے نہ دیگر کسی امر کے باعث اور نہ ہی اس کا کوئی نمونہ اور مثال ہے۔ سُبْحٰنَكَ اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۔

سورہ اخلاص کے یہ کلمات احد و وحد۔ لم یلد۔ ولم یولد۔ اسی وجہ سے خدا و نو عالم کی وحدانیت اور شان بے نیازی بیان کرنے میں نہایت ہی اعلیٰ دارفہ ہیں۔ یہ ایسی برکت و عظمت والے قرار دینے گئے کہ ان الفاظ کی بدولت بندہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں جیسے کہ عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد یعنی ابو موسیٰ اشعریؓ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تفسیر المعوذتین

سُورَةُ الْفَلَقِ وَسُورَةُ النَّاسِ

کلام اللہ کی یہ دو آخری سورتیں معوذتین کہلاتی ہیں دونوں مدنی سورتیں ہیں عبداللہ بن عباس اور جمہور صحابہ و ائمہ مفسرین رضی اللہ عنہم اجمعین اسی کے قائل ہیں کہ دونوں سورتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور اس وقت نازل کی گئیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہودنے سحر کر دیا تھا اور اس جادو کے اثر سے آپ پر ایک طرح کا مرض سا بدن مبارک پر لاحق ہو گیا تھا اور اس دوران کبھی ایسا بھی آپ کو اپنے کسی دنیا کے کام اور معاملہ میں خیال ہوتا کہ میں نے یہ کام کر لیا حالانکہ وہ نہیں کیا ہوا ہونا کبھی کوئی چیز نہیں کی اور خیال ہوتا کہ میں نے یہ بات کر لی ہے اس کے علاج کے واسطے یہ دو سورتیں نازل ہوئیں۔

امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت باسناد عروہ بن الزبیر تخریج کی ہے کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا اور جب لے سکے کچھ آثار بدن مبارک اور آپ کے معمولات میں کسوس ہوتے تو آپ نے (ایک روز) فرمایا اے عائشہ میں نے اللہ رب العزت سے جو بات معلوم کرنی چاہی تھی وہ مجھے اللہ نے بتا دی ہے وہ اس طرح کہ میرے پاس دو آدمی آتے (یعنی اللہ کے فرشتے دو انسانوں کی صورت میں) ایک ان میں سے میرے سر کی طرف بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی طرف تو اس نے جو سہرا بنے بیٹھا تھا دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا ان پر جادو کیا گیا ہے پہلے نے پوچھا اور کس نے ان پر جادو کیا جواب دیا بید بن الاعصم نے۔ جو یہودیوں میں سے ایک شخص تھا منافق تھا دریافت کیا اور کس چیز میں جادو کیا گیا؟ جواب دیا بالوں کے گچھے میں سوال کیا وہ کہاں ڈالا گیا تو بتایا بیڑ ذروان میں (ایک کنوئیں کا نام ہے) حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنوئیں پر تشریف لے گئے اور اسکو نکلوایا اس کنوئیں کا پانی دیکھا گیا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندی کا پانی ہے سرخ رنگ کا۔

ابن عباس کی روایت میں ہے کہ بالوں کو کسی دھاگہ میں باندھ کر اس میں گرہیں لگائی جوتی تھیں تو

اس پر اللہ ﷻ نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائیں آپ ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو ہر آیت کی تلاوت پر ایک گمرہ کھل جاتی اور دونوں سورتوں کی آیات پوری ہونے اور دم کرنے پر ایسا معلوم ہوا گویا کسی بندش سے کھول دیا گیا تو آپ پر پھر حسب سابق وہ نشاط کی حالت عود کر آئی اور جو گھٹن یا جسمانی تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔

یہ واقعہ صحیحین میں موجود ہے سند احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث میں متعدد سندوں اور صحابہ کی روایات سے یہ فقرہ منقول ہے حضرت عائشہؓ ابن عباسؓ اور زید بن ارقمؓ کی روایات صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہیں اور ان روایات و احادیث پر کسی نے جرح نہیں کی اور اس طرح کی کیفیت یا بدنی احوال میں کسی نوع کا تغیر منصب رسالت کے منافی نہیں ہے جیسے آپ کا کسی وقت بیمار ہو جانا یا کسی وقت غشی کا طاری ہونا جیسے کہ مرض الوفا کے زمانہ میں ایسا ہوا یا جیسے غزہ احد میں آپ کے چہرہ انور پر زخم لگ جانا اور دندان مبارک کا شہید ہونا یا جس طرح کہ کسی وقت آپ کو نماز میں سہو پیش آ جانا تو یہ جملہ احوال بمقتضائے بشریت ہیں اور ایسے پیش آنے سے آپ کے مقام رسالت اور وحی الہی کے اعتقاد میں کسی قسم کا کوئی سقم اور حرج نہیں واقع ہو سکتا اور نہ ہی یہ احوال آپ کے منصب رسالت کے منافی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز میں سہو پیش آیا تو آپ نے فرمادیا تھا انما انا بشر انسى ما كتبتون فاذا نسيت فاذكروني کہ میں بہر حال ایک بشر ہوں اور کسی وقت (حکمت الہیہ کے باعث) کوئی چیز بھول جاتا ہوں جیسے تم لوگ بھولتے ہو تو جب میں کوئی چیز بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو۔

تو اس قسم کے سہو یا غشی کے واقعہ سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسی صورت میں آپ کی وحی اور آپ کی باتوں پر (العیاذ باللہ) کیسے یقین کر لیا جائے ظاہر ہے کہ اس قسم کے احوال جسمانیہ جو آرزو قسم مرض و حواشی طبیعیہ ہوں سے وحی الہی اور فرائض منصب رسالت کی ادائیگی میں ذرہ برابر بھی خلل و شبہ کی گنجائش نہیں اور عنین اتنی سی بات سے کہ آپ کو کسی کام کر لینے کا خیال ہو گیا حالانکہ نہ کیا ہو قطعاً وحی الہی کے اعتقاد پر کوئی جرح نہیں کی جاسکتی انبیاء علیہم السلام بہر حال جنس بشر سے ہیں اور ان پر ایسے احوال و عوارض بشریہ کا طاری ہونا شریعت اور احکام دین کی حجیت و قطعیت پر کسی طرح بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا اور یہ مسحور ہونا اس طرح کا نہ تھا جو کفار و مشرکین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور طعن کہا کرتے کہ مسحور و مجنون ہیں کہ وحی الہی کے جوش اور جذبہ دعوت و تبلیغ میں انہماک جنون کے عنوان سے تعبیر کرتے بعض حضرات اہل علم کا اس قصہ میں یہ تاویل اختیار کرنا ظاہر احادیث کے مضمون کے صریح خلاف ہے۔

اور اگر بالفرض و التقدير کسی سہو یا سحر کو نقصان تصور کیا جائے تو یہ اس صورت میں ہے جب کہ اللہ کی وحی سے اس سہو یا سحر کو دور نہ کیا گیا ہو جب کہ ہر سہو پر اور اس جادو کے قصہ میں وہ اثرات قدرت خداوندی نے زائل کر دیتے تو پھر کیا اشکال ہو سکتا ہے قرآن کریم کی یہ آیت اس حقیقت اور حکمت الہیہ کو ظاہر کر رہی ہے سَلَفٌ مُّذَكَّرٌ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا نَسَاءَ اللَّهِ اس لیے یہ حقیقت واضح ہو گئی

کہ اگر کسی دقت کوئی مرض یا کسی لمحہ کوئی سہو یا غشی پیغمبر پر طاری ہو گئی تو اس سے فرائض نبوت میں کوئی خلل نہیں واقع ہو سکتا۔

آیاتہا ۵ = ۱۱۳ = سُوْرَةُ الْفَلَقِ مَدَنِيَّةٌ = ۲۰ = رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ فلق مدنی ہے اور اس کی پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۲ وَ مِنْ

تو کہہ میں پناہ میں آیا صبح کے رب کی ہر چیز کی بری سے جو اس نے بنائی اور بری سے

شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۳ وَ مِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی

اندھیرے کی جب سمٹ اُدے اور بری سے عورتوں کی جو گمبھوں میں

الْعُقَدِ ۴ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۵

پھونکیں اور بری سے برا چاہنے والے کی جب گمے ہونے

آیاتہا ۶ = ۱۱۴ = سُوْرَةُ النَّاسِ مَدَنِيَّةٌ = ۳۱ = رُكُوْعُهَا ۱

سورۃ ناس مدنی ہے اس کی چھ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۱ مَلِكِ النَّاسِ ۲ اِلٰهِ

تو کہہ میں پناہ میں آیا لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے

النَّاسِ ۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۴ الَّذِیْ

بلوچے کی بری سے اس کی جو سنکارے اور چھپ جاوے وہ جو خیال

يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ

ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں جنوں میں

وَالنَّاسِ ۝

اور آدمیوں میں

معوذتین کے بارہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا موقف

معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ الناس قرآن کریم کی دو سورتیں ہیں اور سپر تمام صحابہ اور ائمہ مفسرین کا اتفاق ہے اور عہد صحابہ سے لے کر آج تک تو اتر کے ساتھ ان دونوں کا قرآن کی سورتیں ہونا ثابت ہے اور احادیث صحیحہ سے ان دونوں کا فرض نمازوں میں پڑھنے کا بھی ثبوت ہے نیز حضرت عثمان غنیؓ کے مصحف الامام میں بھی ان کا ہونا تمام روایات اور تاریخی نقول سے ثابت ہو چکا جس میں کسی بھی تردد کی گنجائش نہیں

عقبہ بن عامرؓ کی روایت میں ہے کہ میں ایک سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی زمام پکڑنے لگا تو چل رہا تھا تو آنحضرتؐ نے اپنی انتہائی شفقت کے باعث مجھ کو کہا اے عقبہ کیا تو سوار نہیں ہو گا اس ڈر کی وجہ سے کہ آپ کے فرمان کی تعمیل نہ کرنا کہیں معصیت نہ ہو جاتے میں سواری پر سوار ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر کر پیدل چلنے لگے تھوڑی دیر تعمیل حکم کی خاطر میں بیٹھ کر پھر نیچے اتر آیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم (میرے عرض کرنے پر) سوار ہو گئے پھر آپؐ نے ارشاد فرمایا اے عقبہ کیا میں تجھ کو ایسی دو بہترین سورتیں نہ سکھا دوں جو قرآن کریم میں پڑھی جاتی ہوں میں نے عرض کیا بھگ یا رسول اللہ پھر آپؐ نے مجھ کو یہ دونوں سورتیں پڑھائیں اسکے بعد نماز کی اقامت ہوئی تو آپؐ نے نماز پڑھائی اور نماز کی دونوں رکعتوں میں ان دونوں سورتوں کو تلاوت فرمایا اسکے بعد فرمایا جب آپؐ میرے سامنے سے گذر رہے تھے (اے عقبہ کیسا پایا تو نے ان دو سورتوں کو یعنی تو نے دیکھ لیا کہ یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نماز میں انکی تلاوت کی گئی (ایک روایت میں ہے کہ یہ نماز فجر تھی) اور آپؐ نے فرمایا ان سورتوں کو پڑھا کرو جب بھی تم سویا کرو اور جب بھی نیند سے بیدار ہو کر دو۔

حضرت عثمان غنیؓ نے مصحف قرآنی کے جو نسخے تمام بلاد اسلامیہ کو بھیجے تھے ان سب میں یہ موجود تھیں اور اقطار عالم میں صحابہؓ و تابعینؓ اور پوری امت انکی تلاوت کرتی رہی اور تو اتر سے یہ امر ثابت ہے کہ اس بارہ میں کسی نے اختلاف نہیں کیا صرف عبداللہ بن مسعودؓ سے اختلاف نقل کیا گیا کہ انہوں نے اپنے مصحف (نسخہ قرآن) میں سوذتین کو نہیں لکھا تھا (جس سے یہ بات سمجھی گئی کہ وہ ان کے

قرآن ہونے کے قائل نہیں ہیں، قطعی طور پر تو یہ متعین و معلوم نہیں ہو سکا کہ عبد اللہ بن مسعود کی کیا مراد تھی اور کس وجہ سے انہوں نے اپنے مصحف میں انکو نہیں لکھا تھا یا ان کو کیا خیال یا شبہ پیش آیا کہ اس کے باعث یہ صورت واقع ہوئی۔

بعض حضرات مفسرین جیسے صاحب روح المعانیؒ کا اس وجہ سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں مسودہ میں لکھی ہوئی نہیں تھیں یہ سمجھنا کہ ابن مسعود ان کے قرآن ہونے کے منکر تھے صحیح نہیں ہے قاضی ابوبکر باقلانیؒ نے تصریح کی ہے۔

لم يتكروا ابن مسعود كونهما
من القرأت وانما انكر اثباتهما
في المصحف فانه كانت يروى ان
لا يكتب في المصحف شيئا الا
ان كانت النبي صلى الله عليه
وسلم اذن في كتابته وكان
لم يبلغه الاذن -

کہ ابن مسعود انکے قرآن میں سے ہونے کے
منکر نہیں تھے بلکہ مصحف قرآنی میں لکھنے
کے منکر تھے اور ان کا خیال تھا کہ مصحف
میں صرف ان ہی آیات کو لکھا جلتے
جن کی کتابت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے اجازت دی ہو باقلانی کہتے ہیں گویا
ابن مسعود کو آپ کی اجازت کا علم نہیں
ہوا تھا۔

حافظ نے فتح الباری میں بعض اتر سے یہ نقل کیا کہ ابن مسعود کو انکے قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ انکی صفت میں اختلاف تھا یعنی یہ سمجھتے تھے کہ یہ تلاوت کے لئے نازل نہیں ہوئیں بلکہ تعویذ اور دم کرنے کے لئے نازل ہوئی ہیں تاکہ بلاؤں اور آفات سے محفوظ رہنے کیلئے پڑھا جائے۔

لیکن روایات و نقول اور صحابہ کے تعامل سے یہ بات ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ اپنی ایک رات تھی جسکے ساتھ حضرات صحابہ میں سے کسی نے بھی اتفاق نہیں کیا بعض حضرات سلف کا خیال ہے کہ ابن مسعود نے اپنے مصحف میں ان سورتوں کو لکھا تھا جن کو یاد کرنے اور حفظ کرنے یا محفوظ رکھنے کی ضرورت ہو اور چونکہ یہ سورتیں ایسی تھیں کہ انکے لئے اس امر کی حاجت نہ تھی اور انکا حفظ ایسا قطعی تھا کہ اس میں کبھی بھی شبہ نہیں ہو سکتا تھا تو اس وجہ سے انکو اپنے مصحف میں نہیں لکھا جیسا کہ بعض روایات سے یہ معلوم ہوا کہ انکے مصحف میں سورۃ الحمد بھی لکھی ہوئی نہیں تھی حالانکہ سورۃ فاتحہ کا قرآن ہونا ایسا قطعی اور یقینی امر ہے کہ اس میں کسی کو بھی تردد نہیں ہو سکتا۔

زر بن جبشؒ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا۔

ابن قتیبہؒ کا قول ہے کہ ابن مسعود انکو نماز میں تلاوت کے لئے نہیں بلکہ صرف تعویذ یعنی سحر اور دیگر ہدکات سے حفاظت کے لئے بطور تعویذ سمجھتے تھے علامہ ابوبکر بن الانباریؒ نے اس بات پر تنقید کی اور فرمایا ابن قتیبہ کا یہ قول درست نہیں ان کا کلام اللہ ہونا اور قرآن کریم کی سورتیں ہونا تمام دنیا

کے نزدیک مسلم ہے اور قیامت تک اس میں کوئی شبہ نہیں کر سکتا اور انکی قرآینت تو اتر سے ثابت ہے اور بکثرت احادیث سے انکا نماز میں پڑھنا بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے۔
حافظ ابن کثیرؒ کی رسالے یہ ہے کہ ابتداء میں کسی وجہ سے ابن مسعودؓ نے انکو اپنے مصحف میں نہیں لکھا تھا لیکن بعد میں اپنے قول سے رجوع کر کے جمہور صحابہؓ کا قول اختیار کیا ہو سکتا ہے انہوں نے اس بارہ میں کچھ نہ سنا ہو لیکن جب دیکھا کہ قرآن کریم کے وہ صحیفے جو تمام بلادِ اسلامیہ میں پھیلے گئے ان سب میں مسعودیؓ مکتوب ہیں اور جملہ صحابہؓ انکو پڑھتے ہیں اور کسی نے بھی اس بارہ میں کوئی اختلاف نہیں کیا تو پھر اپنے قول سے رجوع کیا۔

علامہ آلوسیؒ صاحب تفسیر روح المعانی اور حافظ عینیؒ کا بھی یہی خیال ہے حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ان روایات کو تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے جن میں مسعودیؓ کا نماز میں پڑھنا ثابت ہے حضرات اہل علم ان حوالوں کی مراجعت فرمائیں بالخصوص جب کہ یہ ثابت ہے کہ زید بن ثابتؓ جو کاتبِ وحی تھے اور عروۃ ابن مسعودؓ کے مطابق انہوں نے جو مصحف مرتب کیا تھا اس میں مسعودیؓ موجود تھیں اور اس مصحف کو تمام صحابہؓ بالاتفاق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت و تلاوت کے مطابق تسلیم کرتے تھے اور اسی کے مطابق جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف تھا۔



ملہ یعنی آپؐ کی حیات مبارکہ آخری سال رمضان میں جب جبریل امینؑ نے دو مرتبہ آپؐ کے قرآن کریم کا دورہ کیا تھا تو اسی کے مطابق زید بن ثابتؓ کا مرتبہ وحی کا مرتبہ کردہ مصحف تھا۔ ۱۲

تعلیمِ تعویذ و حصولِ پناہ از مہالکِ حسیہ

قال اللہ تعالیٰ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الخی --- وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ
 (ربط) اس سے قبل سورۃ اَضْلَاج (قل هو اللہ احد) میں عقیدہ توحید کا بیان تھا اور یہ کہ نجات کا دار و مدار
 اسی پر ہے کہ خداوند عالم کو اسکی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا مانا جائے گا اور اس طرح کہ نہ اسکا کوئی نمونہ
 ہے اور نہ اسکی کوئی ہمسر کی کرنے والا ہے تو اسی عقیدہ کا نام ایمان ہے اور اسی پر بندہ کی نجات و کامیابی
 موقوف ہے اس سورت مبارکہ میں مؤمن کے عقیدہ اور انسان کی سعادت میں جو چیزیں ضل انداز ہیں
 اور اسکو ہلاکت و تباہی میں ڈالنے والی ہیں انکو بیان کیا جا رہا ہے بہت سی گمراہیاں اور ہلاکتیں بہیمیت
 کے آثار اور اسکی ظلمت سے پیدا ہوتی ہیں تو ضرورت ہے کہ نور عقل اور نور ہدایت سے ان ظلمتوں کو دور کیا جائے
 بہت سی مخلوقات جو اپنی ذات اور اپنی خلقت سے موذی ہیں تو انکی ایذاؤں سے بچنے کی ضرورت ہے
 بہت سی مہلک سازشیں اور تباہی ہوتی ہیں تو ان سے بھی حفاظت کی ضرورت ہے اور بہت سی کمینہ
 خصلتیں اور انسان کے اندر جرمی عادات ہوتی ہیں تو ان سے بھی پناہ ضروری ہے تو ان جملہ ہلاکت اور مضر و مہلک
 سے بچنے کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔

کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف سے لوگوں کو سناتے ہوئے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ
 دین کے بنیادی عقائد ان پر استقامت کا حکم اور ایمان و سعادت کے تحفظ کے لئے یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے
 یہ اللہ کا فرمان ہے اور اسکی قطعیت میں ذرہ برابر بھی شہ نہیں کیا جاسکتا اور وہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں
 صبح کی روشنی کے رب کی جو روشنی رات کی تاریکی کو مٹا کر نمودار ہوتی اور سارے عالم میں پھیلتی ہے اور اسکو
 روشن کر دیتی ہے تو اس رب کی جس نے ایسی روشنی پیدا کی جو سارا عالم روشن کر دے میں پناہ چاہتا
 ہوں اس رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور ظاہر ہے ہر مخلوق کا خالق ہی اس مخلوق کے
 شر اور اس کے شر کی ظلمت سے بچا سکتا ہے جو نور صبح کا خالق ہے اور اندھیری (یعنی ظلمت و تاریکی)

تاریکی کی چند قسمیں ہیں اول عدم تاریکی اس تاریکی کو، ہستی کے صبح نے دور کیا دوسری جہل اور بہیمیت کی تاریکی
 اور شہوات و لذات نفس کی ظلمت جس کو نور فطرت اور روحانیت کی روشنی دور کرتی ہے تیسری تاریکی
 یہی تاریکی جو رات کی سیاہی ہے جس میں خباثت و شیطاں عیاش و ذقان اور موذی جانور نکل کر اپنی نفسانیت
 و خباثت اور بہیمیت کی ظلمت پھیلاتے ہیں جسکو وحی الہی اور ہدایات ربانہ دور کرتی ہیں پونہ تاریکی
 خصائل ذمیرہ کی تاریکی ہے جسکو تعلیمات نبویہ اور محاسن اخلاق دور کرتے ہیں تو میں شکر کا خلق سے لے کر وہیں
 شکرِ حاسد اِذَا حَسَدَ تک ان چاروں تاریکیوں کا ذکر ہے ۱۲۔

شدید ہو جاتے جیسے قرآن کریم کی آیت رَلٰی عَسَقَ الْاِنۡلِیٰل سے یہی مفہوم ہوتا ہے اور وقیع کے معنی پھینکے کے ہیں اور بعض اہل لغت سمٹنے کے بھی بیان کرتے ہیں ابن قتیبہ نے بیان کرتے ہیں کہ غاسق چاند کو کہتے ہیں جس گہ میں آجلنے کی وجہ سے تاریک ہو جاتا ہے تو اس کا دقوب اس ظلمت تاریکی میں داخل ہو جانا ہے چاند چونکہ اپنے اصل جرم اور گنہ کے اعتبار سے تاریک ہی ہے اس میں نور سورج کی محاذات سے ہوتا ہے اس بنا پر غاسق تاریک اور چاند دونوں کے معنی کیلئے جامع ہو سکتا ہے۔

تعلیم و تلقین از مہالک باطنیہ و آفات نفسانیہ

قال اللہ تعالیٰ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ الْفَلَقِ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ
 ربط گذشتہ سورت یعنی الفلق میں اللہ رب العزت کی پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا تھا ایسے تمام مہالک اور آفات سے جو حسی اور ظاہری ہیں کہ ہر مخلوق کے شر۔ ہر تاریکی کے فتنے سے ہر جادو کی مصیبت سے اور ہر حسد اور کید و مکر سے تو یہ تمام آفات ظاہری اور حسی تھیں اب اس سورۃ الناس میں ان آفات اور ہلاکتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے جو باطنی ہیں اور وہ نفس سے اور نفس کے دواعی و تقاضوں سے پیدا ہوتی ہیں اور قلب پر وارد ہو کر انسان کے دین اور عقیدہ کو ہلاک برباد کر دیتے والی ہیں تو اس سورت میں ان سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔

ارشاد فرمایا کہہ دیجئے اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ حاصل کرتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ انسانوں کے معبود کی ہر دوسرے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے ہٹ جانے والا ہو وہ جو دوسرے ڈالتا ہو لوگوں کے دلوں میں جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہر ایک کے دوسرے میں پناہ چاہتا ہوں قلبی و سادس کے ذریعہ

گمراہ کرنے والے جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی جیسے کہ ارشاد ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ رِيْجٍ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُوفَ الْقَوْلِ عَنُوْرًا اِس لیے دونوں کے دوسروں سے خدا کی پناہ طلب کرنے کی تلقین فرمائی گئی اور چونکہ سادس قلبیہ ڈالنے والے شیاطین نظروں کے سامنے نہیں ہوتے تو گویا وہ دوسرے ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے ہیں ”خوس“ لغت میں پیچھے ہٹ جانے کو کہا جاتا ہے جیسے کوئی قزاق اور قافلہ داؤ اور گھات میں لگا ہو اور موذیہ پاتے ہی حملہ کر کے پیچھے چھپ جاتے تو دوسرے ڈالنے والا شیطان بھی اسی طرح دوسرے ڈال کر فوراً پھپھٹ جاتا ہے۔

۱۔ بعض ائمہ مفسرین اس خوس اور پیچھے ہٹ جانے کو اس مضمون پر محمول کرتے ہیں جو اس آیت میں
 باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر

ابلیس یا اسکی ذریت میں سے نوح جن قلوب بنی آدم تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ سے طرح طرح کے دوسرے اور ناپاک خیالات قلب میں ڈال دیتے ہیں اور جو انسان ابلیس کے تابع ہو جائیں وہ ابلیس ہی کا کام انجام دینے کے لیے اس ہم میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے دلوں میں مختلف قسم کے شکوک و دواہام پیدا کرتے رہیں اور انکی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ دین اسلام، احکام اسلام اور اصول و عقائد میں ایسے ایسے شکوک پیدا کریں کہ مسلمان عقیدہ توحید ایمان بالآخرت اور اصل ایمان ہی سے محروم ہو جائے ایسے ہی شیاطین انس کے بارہ میں مولانا رومؒ فرما گئے۔

اے بسا ابلیس شکن آدم است

بس بہر دستے نباید داد دست

ان شیاطین انس کا وجود اور ظہور ہر زمانہ میں ہوتا ہے خصوصاً زمانہ اخیر میں ایسے مفیدین اور فتنہ پردازوں کی کثرت احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ان میں ایسے خطرناک فتنہ پرداز ہوں گے جن کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اگر میں ان کا زمانہ پا لوں تو ان کو اس طرح ہلاک کروں گا جیسے عاد و ثمود کی قومیں ہلاک کی گئیں جب دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ انکی کوئی علامت اور نشانی ہمیں بتا دیجیئے آپ نے فرمایا وہ لوگ ہم ہی جیسے ہوں گے صورت و شکل میں ہماری جیسی ہی باتیں کرتے ہوں گے ہماری جیسی زبان سے بولتے ہوں گے خیر البریہ کے اقوال کہتے ہوں گے قرآن اپنی زبان سے پڑھتے ہوں گے لیکن دین سے اس طرح قطعاً بے تعلق ہوں گے جس طرح کوئی تیر نشانہ اور شکار سے خطا کر جلتے اور بچ کر نکل جاتے تو اس تیر پر اسکی نوک پر کنارہ پر پھلکے پر گرہ پر کہیں بھن شکار کا کوئی اثر اور نشان نہیں ہوتا تو ایسا ہی ان فتنہ پردازوں اور گمراہ کرنے والوں — کی زندگی میں یعنی ان کی معاشرت طور و طریق طرز زندگی میں کسی بھی رخ پر اسلام کا اثر نہیں آئے گا تو یہ ان ملحدین کا گردہ ہے جو دین اور اسلام کا نام لے کر اسلام کو مسخ کرنے والے ہیں۔

تو اس میں کوئی شہہ نہیں کرانکے دوسرے شیاطین کے دوسروں سے زیادہ خطرناک اور ہلک ہیں۔



باقی حاشیہ ۵۸۶
بیان فرمایا کیا وَ اِمَّا يَنْزِعُكَ مِنْ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اور حدیث میں ہے
ان الشیاطات جائن علی قلب ابی آدم کما ذکر اللہ خنس تو شیطان کا انسان کے
قلب سے ہٹ جانا استعاذہ اور ذکر اللہ سے اس کا خنوس ہے۔ ۱۲

معوذتین کی تفسیر میں حکماء و عارفین کی تحقیق و تشریح

معوذتین کے مضمون کا حاصل یہ ہے کہ انسان اگر ہلک حسد اور ہلک باطنیہ سے پناہ حاصل کر سکتا ہے تو صرف اسی رب کی پناہ جو خالق کائنات ہے اسی کا حکم تمام کائنات اور حتیٰ کہ انسانوں کے قلوب پر بھی جاری ہے پہلی سورت میں جو آفات اور ہلکات حس اور ظاہری ہیں ان سے پناہ مانگنے کے لئے یہ عنوان **قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ** یعنی پناہ چاہتا ہوں میں رب الفلق کی ہر مخلوق کے شر سے اختیار فرمایا گیا۔

جیسا کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ مخلوقات کے شر اور ان کے جملہ اقسام و انواع مادیات اور بہیمیت کی ظلمت و تاریکی ہیں اس وجہ سے مناسب پناہ مانگنے میں رب کی صفت میں فلق کا لفظ ذکر کیا جائے حق تعالیٰ شانہ کی یہ صفت ذکر کرنے کے بعد جن چیزوں سے پناہ مانگی گئی وہ چار چیزیں ہیں **شَمْسٌ وَّ مَآءٌ وَّ نَارٌ وَّ اَرْضٌ** ہر مخلوق کے شر سے **شَمْسٌ غَاسِقٌ اِذَا وَقَبَتْ رَاٰتِ** کی تاریکی کا شر جس میں جملہ شرور و آفات رو نما ہوا کرتے ہیں **شَمْسٌ اَنْفَثَتْ جَادٌ وَّ كُرُوٰنٌ** کا شر **شَمْسٌ حَاسِدٌ** حاسدوں اور کینہ خصلت انسانوں کا شر تو ان چار آفتوں سے پناہ حاصل کرنے کے لئے رب کی ایک صفت رب فلق کے ساتھ اس **تَعُوْذِ** کو ذکر فرمایا گیا لیکن دوسری سورت میں ایک ہی **سَمِوْءِ** سے تحفظ اور **تَعُوْذِ** کے لئے رب کی تین صفات بیان کی گئیں **رَبِّ النَّاسِ** میں ربوبیت **مَلِكِ النَّاسِ** میں بادشاہت **رَبِّ النَّاسِ** میں معبودیت تو ان صفتوں سے موصوف رب کی پناہ شر و موائس الناس سے ذکر کی گئی۔

دونوں سورتوں کے عنوان سے ظاہر ہوا کہ شیاطین جن اور انس کے دوسو سے زیادہ خطرناک اور ہلک ہیں اسی وجہ سے ایک شر سے تحفظ اور بچاؤ کے لئے خداوند عالم کی تین صفتوں کے ذریعہ پناہ مانگی گئی جب کہ پہلی سورت میں جملہ ہلکات حسد سے پناہ کے لئے رب کی ایک ہی صفت کے بیان پر اکتفا فرمایا گیا۔

امام رازی کی تحقیق منیف

امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر مفتاح الغیب یعنی تفسیر کبیر میں بعض عارفین سے ان سورتوں کی تشریح میں عجیب حقائق اور بلند دقائق ذکر فرماتے **مَعْنَى** بعض عارفین کے عنوان سے جو تحقیق ذکر فرمائی اسکے اکثر مقدمات ابن سینا کے مقدمات سے کچھ ملتے جلتے ہیں فرمایا بعض عارف فرماتے ہیں کہ جب کہ خدا تعالیٰ کی معبودیت کے متعلق جو امور تھے سورہ اخلاص میں انکی

تمام و کمال شرح کر دی گئی تو مناسب معلوم ہوا کہ اب خالق سے اتر کر ان دونوں سورتوں میں مخلوقات کے مراتب کی تفصیل کی جاوے اس لئے شروع سورت میں قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّكَ الْفَلَقِ کہہ کر اشارہ کر دیا گیا کہ اس سورت میں مخلوق کے مدارج کا ذکر ہوگا کیونکہ فلق لعنت میں اس چیز کو کہتے ہیں جس کو شق کر کے کوئی دوسری چیز اس میں سے برآمد ہو اور جیسا کہ رات کی تاریکی میں سے صبح کا نکلتا یا تخم میں سے درخت بازمین اور پتھروں میں سے چشمہ صلب پدہ میں سے نطفہ یا رحم مادر میں سے بچہ برآمد ہوتا ہے اسی طرح تمام مخلوقات ظلماتِ عدم کی غیر تنہا ہی پر دوں کو بھاڑتے ہوئے وجود کے منور سطح پر برآمد ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے رب الفلق کے معنی رب جمع امکانات ہوتے۔

اب عالم ممکنات دو حصوں پر تقسیم ہوتا ہے ایک ارواح مجردہ کا عالم جس کو عالم الامر کہتے ہیں اور دوسرا مادیات کا عالم جس کو عالم الخلق سے تعبیر کر سکتے ہیں ان میں سے پہلی قسم جو نہ خیر محض ہے جس میں شر کا کوئی شائبہ نہیں اور دوسری قسم میں مادہ کے اقتران نے شروع کی بھی آمیزش پیدا کر دی ہے اس لئے جناب باری عزوجل نے **مَنْ مَتَّيْ مَا خَلَقَ** کہہ کر عالم مادیات سے تعوذ کی تعلیم فرمائی لیکن یہ ظاہر ہے کہ کل اجسام دو قسم کی ہیں اجسام اثیریہ (علویہ) اور اجسام عنصریہ (سفلیہ) جس میں سے اجسام اثیریہ تو بطبعیہا اختلاف و فطور سے بری ہونے کی وجہ سے خیر ہی خیر ہیں جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے **مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفْوِيْطٍ فَاَنْزَجِ الْبَصِيْرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُوْرٍ** اور اجسام عنصریہ کی تین قسمیں (جن کو موابد ثلاثہ کہتے ہیں) نکلتی ہیں جمادات، نباتات، حیوانات ان ہی تینوں اقسام کا احاطہ کرنے اور ماضی کی مصداق میں سے بطریق تخصیص بعد التعمیم اجسام اثیریہ کو نکالنے کے واسطے یہ تین کلمات ارشاد ہوتے۔

وَمَنْ مَتَّيْ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ مَتَّيْ النَّفٰثٰتِ فِي الْعَقَدِ وَمِنْ مَتَّيْ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ کیونکہ غاسیق اِذَا وَقَبَ سے مراد اس جگہ شب دیجور ہے جس میں تہ برتہ تاریکی چڑھی ہوئی ہے اور ظاہر ہے جمادات شب دیجور کے ساتھ اس وجہ سے بہت پوری مشابہت رکھتے ہیں کہ وہ صبح قوی نفسانہ اور انوار کمالات سے بالکل خالی ہونے کی وجہ سے ظلمت خالص اپنے اندر لے لے ہوئے ہیں برخلاف نباتات کے ان میں کم از کم قوتِ غازیہ نباتیہ تو موجود ہوتی ہے جو ان کو طول، عرض عمق تین جانبوں میں بڑھاتی رہتی ہے جس کو اگر تنغث فی العقد الثلاثہ سے تعبیر کیا جائے تو بالکل چسپاں ہے۔

باقی تیسری قسم حیوانات انکی حالت یہ ہے کہ تمام قوی حیوانیہ (حواس ظاہرہ، حواس باطنہ اور شعور و غضب وغیرہ) روح انسانی کو انصاف الی عالم الغیب اور امور آخرت میں اشتغال رکھنے سے روکنے میں مصروف رہتے ہیں اور جہاں تک موقع پاتے ہیں روح مقدس کو اوج سے حنیض کی طرف اور بلندی سے پستی کی طرف دھکیلنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشتہ نہیں کرتے انکی مثال بالکل ایسے دشمن اور

اور حامد کی ہمتے کہ جو ہر وقت گھٹات میں لگا بیٹھا رہے اور جب موقع پائے آد بوجھے تو قرآن حکیم نے تمام مخلوقات کے مشورے سے استعاذہ کرنے کی تعلیم ایک ذرا سی سورت میں جمع کر دی اور اس طور پر ساری سورت کا مطلب یہ نکلا کہ اے ساری مخلوق کے پروردگار ہم تمام جسمانیات یعنی جملات اور نباتات اور حیوانات کے مشورے سے تیری بارگاہ احدیت میں پناہ جوئی کرتے ہیں

مگر جو حکم اس سورت میں نفس انسانی مستعین تھا اور یہ جملہ مراتب مستعاذ منہ کے اندر بتلائے گئے ہیں تو ضرورت تھی کہ کسی دوسری جگہ خود نفس انسانی کے مراتب کی بھی تشریح کی جاتی اس لئے اس سے اگلی سورت میں اس ضرورت کو پورا کیا گیا کیونکہ نفس انسانی کی سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ وہ اگرچہ باعتبار اپنی اصل فطرت کے نقوش معرفت کے قبول کرنے کے یقینے ہمیشہ سے مستعد ہے لیکن ابتداء پیدائش میں نظریات تو درکنار وہ علوم بدہمیرہ کے حصول سے بھی معری ہوتا ہے اور اس حالت میں ان سب کو ایک ایسے رب (ترقی) کی ضرورت ہے جو اسکو اولاً معارف بدہمیرہ کی تلقین کرے۔

بعدہ جب وہ دوسری مرتبہ پہنچے اور بدہمیات کے حصول سے اسکے اندر ملکہ نظریات کی طرف منتقلی ہونے کا پیدا ہو جاوے تو اب اسکو ایک ایسے ملک مستغرق کی حاجت ہے جو اسکو اس ملک سے کام لینا اور اپنی معلومات میں تصرف کرنے کے قواعد سکھائے اور جب وہ ترقی کی دد میں اس سے بھی آگے قدم بڑھانا چاہے تو لازم ہے کہ اس کے علوم کو قوت سے فعل میں لانے اور اسکو کمال تمام عطا کرنے کے واسطے کوئی ایسی ہی کامل ذات اسکی سرپرستی کرے جس میں تمام کمالات بالفعل ہوں اور قوت وعدم کا نام و نشان نہ ہو۔

چنانچہ ان ہی تینوں مراتب نفس انسانی کی ترقی کے مطابق خدا تعالیٰ نے اپنی تین صفات ربّ الناس (لوگوں کے پروردگار) ملک الناس (لوگوں کے بادشاہ) الا الناس (لوگوں کے معبود) کو پے درپے ذکر فرمایا اور نفوس انسانہ کے ہر ایک مرتبہ کے مناسب اپنے اسماء میں سے ایک اسم کو منتخب کر لیا لیکن یہ بھی چونکہ معلوم تھا کہ نفس انسانی سے مزاحمت سے زیادہ کرنے والی قوت وہمیرہ ہوتی ہے جسکو دوسرا سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس بنا پر نفس انسانی کو خصوصیت سے اسکے مشورے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی اور اس وجہ سے کہ قوت وہمیرہ بسا اوقات عقل کا ساتھ چھوڑ کر پیچھے کھسک جاتی ہے تو اسکو خناس کا لقب دیا گیا الغرض حق تعالیٰ نے ان کلمات اور تعبیرات سے انسان کو خوب متنبہ کر دیا کہ سب سے بڑا دشمن یہی دوسرا خناس ہے اور اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر یہی تقوٰذ ہے۔

یہی بات کہ سورہ فلق میں مستعاذ بہ (یعنی جس کی پناہ حاصل کی جاتے) ایک ہے اور مستعاذ منہ (یعنی جن سے پناہ مانگی جا رہی ہے) چار ہیں تو ان چاروں کے درمیان تعلق کیا ہے اور شتی کا خلق کا عنوان جب کہ مابعد کے تمام اقسام کو جامع ہے تو پھر بعد میں ان تینوں کو کس لئے بیان کیا گیا اور سورہ ناس میں مستعاذ منہ صرف ایک ہی چیز ہے لیکن مستعاذ بہ تین اوصاف کے ساتھ مذکور ہے

زَبَّ كَلِمًا، اللہ اور یہ تینوں ناس یعنی انسانوں کی طرف مضاف ہیں تو ان امور کی حکمت ذکر کرتے ہوئے امام رازیؒ اپنی تفسیر کے اخیر میں فرماتے ہیں۔

جاننا چاہیے کہ اس سورہ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) میں ایک خاص نکتہ ہے وہ یہ کہ اس سے پہلی (سورہ خلق) میں تو صرف ایک صفت (رب الخلق) سے بیان کیا گیا ہے اور مستعاذہ کی جانب میں تین قسم کی آفتیں (غاسق، نفاثات، حاسد) مذکور ہیں اور اس کے برعکس اس سورہ (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) میں مستعاذہ کی طرف تین صفتیں (رب الناس، ملک الناس، الہ الناس) بیان ہوئیں اور مستعاذہ نہ فقط ایک ہی آفت (دوسواں) کو قرار دیا گیا تو دونوں سورتوں میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی شہادت ہر مقام میں بقدر مطلوب کی عظمت اور اہمیت کے کی گئی ہے اور معلوم ہے کہ پہلی سورہ میں مستعین کا مقصود اپنے نفس اور بدن کو بچانا ہے اور دوسرے میں دین کو بچانا ہے اسلئے خدا تعالیٰ نے اپنے طرز کلام سے متنبہ کر دیا کہ دین کی تھوڑی سی بھی مسفرہ دنیا کی بڑی سے بڑی مسفرہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ قابل احترام اور قابل خیال ہے اور شر ماخلق میں اگرچہ دنیا کی ہر چیز سے استعاذہ ہو گیا تھا لیکن بعد میں غاسق، نفاثات اور حاسد کو ذکر کر کے یہ ظاہر فرما دیا گیا کہ انواع شرور میں یہ تین قسمیں سب سے زیادہ ہلک اور شر ہیں۔

حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ سرہ ان تین اوصاف کے ذکر کرنے کی وجہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان تین صفتوں کو ذکر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے دخل پانے کی آدنی میں تین راہیں ہیں شہوت، غضب اور عقیدہ باطل کو جس کو اصطلاح میں ہوا بھی کہتے ہیں ان میں سے شر شہوت کو دفع کرنے کے لئے اسم رب ہے اور شر غضب کے رد کرنے کے لئے اسم ملک ہے اور شر ہوا کے مقابلہ میں اسم الہ کو رکھا گیا ہے گویا یوں فرمایا گیا کہ اگر شیطان شہوت کی راہ سے تمہارے دل میں دوسرے ڈالے تو اس باری تعالیٰ کی ربوبیت کو پیش نظر رکھو اور اگر وہ غضب کی راہ سے تمہارے سامنے آئے تو تم خدا کی شہنشاہی اور عدل و انتقام کو یاد کرو اور اگر ہوا کی راہ سے اپنا تصرف جمانا چاہے تو تم کو چاہیے کہ مرتبہ الوہیت کی طرف اپنی التجا لے جاؤ لے کے بعد آگے چل کر شاہ صاحب فرماتے ہیں۔

اور بعض مفسرین نے ان تینوں صفتوں (رب الناس، ملک الناس، الہ الناس) کی تفسیر اور انکو اس ترتیب کے ساتھ بیان کرنے کے بارہ میں یہ کہل ہے کہ آدنی ہر اسکی زندگی کے تین دور آتے ہیں عمد طفولیت میں وہ اپنے پرورش کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں پہچانتا اور بھوک اور پیاس کے وقت ایک اسی سے التجا کرتا ہے اور جب کسی چیز سے خوف زدہ ہوتا ہے تو اسی کی طرف بھاگتا ہے اور اسی واسطے ان حالات میں کچھ فقط ماں باپ ہی کو بلاتا ہے اور انہی سے زیادہ کرتا ہے بعدہ جوانی کی عمر میں پہنچ کر جب یہ دیکھتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی میری طرح سے بادشاہ وقت یا امیر کے محتاج ہیں اور اسی سے روزی حاصل کرتے ہیں اور بلاؤں اور مصائب کے دفع کرنے

میں اسی کی پناہ ڈھونڈتے ہیں تو ناچار اسکے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہے بادشاہ اور امیر ہی ہے اور اسی کا تقرب کا رخانہ وجود کے انتظام کا باعث ہے گویا اس حالت میں اس کا تمامی اعتماد اور بھروسہ فقط بادشاہ اور امیر پر ہوا لیکن جب وہ اس حالت سے بھی ترقی کر کے یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ بادشاہ اور امیر بھی بعض اوقات میں در ماندہ اور عاجز ہو کر اپنی التجا میں عالم الغیب کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرف سے مطالبہ کے حاصل کرنے اور سردوں کے بر آنے میں مدد مانگتے ہیں تو وہ جان لیتا ہے کہ یہ بادشاہ اور امیر بھی عاجز اور محتاج ہونے میں مجھ سے کچھ کم نہیں اور یہ کہ عالم کا سارا کارخانہ کسی دوسری ہستی کے ساتھ واسطہ ہے جس کو اللہ اور معبود کہتے ہیں پس ان تین صفوں کے لانے میں اس طرف اشارہ ہوا کہ اگر بندہ طفل مزاج ہے اور سوائے تربیت اور پرورش کے کسی دوسری چیز کو نہیں جانتا تو اسکو معلوم کرنا چاہیے کہ یہ صفت میں بھی رکھتا ہوں چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی التجا کرے کیونکہ میں رب الناس ہوں اور میری ربوبیت تمام آدمیوں پر حاوی ہے اور اگر بندہ کی عقل حد بلوغ کو پہنچ گئی اور اپنے بادشاہ اور امیر کو تمام امور کا مالک سمجھ گیا تو یہ صفت بھی بوجہ احسن میرے اندر موجود ہے کیونکہ میں تمام دنیا کا بادشاہ ہوں نہ خاص ایک اقلیم یا در اقلیم کا اور اگر بندہ کو تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ بادشاہ دامیر اور مادر و پدر سب کے سب کسی دوسری ذات کے محتاج ہیں جس کو اللہ اور معبود کہتے ہیں اور جس کا نام پاک صبح و شام در زبان رہتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ صفت تو (سرسری نظر میں بھی) کسی دوسرے میں میرے سوا موجود نہیں ہے غرضیکہ بندہ کو ہر حالت میں تمام وسائل و اسباب کو نظر انداز کر کے تنہا میری جناب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔



قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی کا کلام معرفت التیام

معوذتین کی تفسیر میں علماء و حکماء نے حقائق و معارف بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ بالخصوص حافظ ابن قیم امام رازی محقق ابن سینا اور حضرت شاہ عبدالعزیز قدس اللہ اسرارہم نے جو حقائق لطائف ذکر ملتے ہیں ان میں سے بطور نمونہ چند اشارات یا اقتباسات ان دونوں سورتوں کی تفصیل میں ذکر کر دیتے گئے ہیں لیکن پھر استاذ محترم شیخ الاسلام حضرت علامہ تبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قاسم العلوم والخیرات کی تحقیق ذکر فرماتی ہے وہ اپنی جگہ ایک عظیم شان رکھتی ہے۔

حضرت الاستاذ نے جس تعبیر اور سیاق و سباق سے اس تحقیق کو اپنے فرائد میں بیان فرمایا ہے یہ ناچیز اس تفسیر کے خاتمہ پر اسکو نقل کرتا ہے تاکہ اس تفسیر کے لئے حسن خاتمہ اور توفیق کے لئے باعث سعادت ہو بطور تمثیل ہر دو سورت کے حقائق و معارف اس طرح بیان فرماتے ہیں:

یہ ایک فطری اور عام دستور ہے کہ باغ میں جب کوئی نیا پودہ زمین کو شق کرتے ہوتے باہر نکلتا ہے تو باغبان اس کے تحفظ میں پوری کوشش اور ہمت صرف کر دیتا ہے اور جب تک وہ جملہ آفات ارضی و سماوی سے محفوظ ہو کر اپنے حد کمال کو نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک بہت زیادہ تردد اور عرق ریزی کرنا پڑتی ہے۔

اب غور کرنا چاہیے کہ پودے کی زندگی کو فنا کر دینے والی یا اسکے ثمرات کے تمتع سے مالک کو محروم بنا دینے والی وہ کون کون سی آفات ہیں جن کے شر اور مضریت سے بچالینے میں باغبان کو اپنی مساعی کے کامیاب بنانے کی ہر وقت دھن لگی رہتی ہے ادنیٰ تا مل سے معلوم ہو جائے گا کہ ایسی آفات اکثر چار طرح ظہور پذیر ہوتی ہیں جنکے انسداد کے لئے باغبان کو چار امور کی اشد ضرورت ہوتی ہے اول ایسے ہرزہ خور جانوروں کے دندان و دہن کو اس پودے تک پہنچنے سے روکا جلتے جن کی جبلت اور خلقت میں ہرزہ اور گیہا کا کھانا داخل ہے دوسرے کوئی یا نہر یا بارش کا پانی ہوا اور حرارت آفتاب غرضیکہ تمام اسباب زندگی و ترقی کے پہنچنے کا پورا انتظام میرے اور پر سے برف

۱۔ ناچیز حضرت استاذ کا یہ کلام بعینہ انکی ہی عبارت میں نقل کر رہا ہے تاکہ حضرات قارئین اصل مضمون کے علاوہ نفس تعبیر میں جو حقائق و معارف ہیں ان سے بھی مستفیض ہوں۔ ۱۲۰۔

اولہ وغیرہ جو اسکی حرارت غریزہ کے احتقان اور رک جانے کا باعث ہو، اس پر گرنے نہ پاتے کیونکہ یہ چیزیں اسکی نشوونما اور ترقی کو روکنے والی ہیں جو تھے مالک باغ کا دشمن یا اور کوئی حاسد اس پودے کی شاخ و برگ وغیرہ کو نہ کاٹ ڈالے یا اسکو جڑ سے اکھاڑ کر نہ پھینک دے اگر ان چار باتوں کا خاطر خواہ بندوبست باغبان نے کر لیا تو خدا سے امید رکھنا چاہیے کہ وہ پودا بڑا ہوگا پھولے پھلے گا اور مخلوق اسکی پُرمیوہ شاخوں سے استفادہ کرے گی ٹھیک اسی طرح ہم کو خالق ارض و سما سے جو رب العلق اور فائق الحدیث والنوی اور جنتان عالم کا حقیقی مالک ہے (اپنے شجرہ وجود اور شجر ایمان کے متعلق ان ہی چار قسم کی آفات سے پناہ مانگنی چاہیے جو اوپر مذکور ہوئیں پس معلوم کرنا چاہیے کہ جس طرح اذل قسم میں سبزہ خورد جانوروں کی ضرر رسانی محض انکی طبیعت کے مقتضیات میں سے تھی اسی طرح شر کی اضافت "ما خلق" کی طرف بھی اسی جانب مشیر ہے کہ یہ شر اس مخلوق میں من حیث ہو مخلوق کے واسطے ثابت ہے اور اسکے صدر میں بجز انکی طبیعت اور پیدائشی دواعی کے اور کسی سبب کو دخل نہیں جیسا کہ سانسپ بکھو اور تمام سباع و بہائم وغیرہ میں مشاہدہ کیا جاتا ہے۔

نیش عقرب نہ از پتے کین است
مقتضاتے طبیعتش این است

اس کے بعد دوسرے درجہ میں دو غامض اقواب سے تعوذ کی تعلیم دی گئی ہے جس سے مفسرین کے نزدیک مراد یا تو زات ہے جب خوب اندھیری ہو یا آفتاب ہے جب غروب ہو جائے یا چاند ہے جب اسکو گھن لگ جاتے ان میں سے کوئی معنی تو ایک اتنی بات یقینی ہے کہ غاسق میں سے شر کا پیدا ہونا اسکے وقوب (یعنی کسی چیز کے نیچے چھپ جانے پر) یعنی ہے اور ظاہر ہے وقوب (چھپ جانے) میں اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ ایک چیز کا علاقہ ہم سے منقطع ہو جائے اور جو فوائد اسکے ظہور کے وقت ہم کو حاصل ہوتے تھے وہ اب ہاتھ نہ آتیں کیونکہ سبب وجود اسباب وجود پر موقوف ہوتا ہے اور ہر چیز کا بقا اس پر موقوف ہے کہ وہ ہلکات و حوادث سے محفوظ رہے اور اگر وہ لگایا ہوا پودا اسباب بقا و زندگی سے محروم ہو جائے تو لامحالہ وہ کھلا کر خشک ہو جائے گا (تو آفات میں یہ دوسری قسم ہے آفت کی) اب اس کے بعد تیسرا تعوذ "لَقَدْ نَفِثَ فِي الْعُقَدِ" سے کیا گیا جو ساحر از عمل ہے اور سحر کے اثر سے مسخروں کو ایسے امور عارض ہو جاتے ہیں جن سے اصل طبیعت کے آثار اصیلہ و طبیعیہ مغلوب ہو کر دب جاتے ہیں تو سحر کی یہ آفت اس آفت سے ہمت شاہ ہو گئی جو پودے پر برف وغیرہ کے گرنے اور حرارت غریزہ کے محقق (بند) ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی تھی جس سے اس کا نشوونما رک جاتا تھا بلید بن الاعصم کے قفر میں جو الفاظ آتے ہیں فقام علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نما انشط من عقال ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز

نے مستوی ہو کر آپ کے مقتضیات طبیعت کو بچھپا لیا تھا جو جبریل علیہ السلام کے توحید سے باذن اللہ دفع ہو گئی اب ان آفات میں سے تحرز (برہیز کرنا) ضروری قرار دیا گیا صرف ایک آخری درجہ باقی ہے یعنی کوئی مالک باغ کا دشمن بر بنار عدالت و حسد پردے کو جڑ سے اکھاڑ کر بھینک دے یا اس کی شاخ و برگ کاٹ ڈالے تو شر کے اس مرتبہ کو موٹ شئی حاسدہ اذاً حسدک نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ادا کر دیا ہاں اس تقریر میں اگر کچھ کمی ہے تو صرف اتنی کہ کبھی کبھی تخم کو ان چاروں آفات میں سے کسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بلکہ رویتدگی سے پہلے ہی یا تو بعض چیونٹیاں اس تخم کے باطن سے وہ خاص جو ہر ہی چوس لیتی ہیں جس سے تخم کی رویتدگی اور نشوونما ہوتی ہے اور جس کو ہم "قلب الجوب" یا سویدار تخم سے تعبیر کرتے ہیں یا اندر ہی اندر گھن گک کر کھوکھلا ہو جاتا ہے اور قابل نشوونما نہیں رہتا شاید اس کمی کی تلافی دیا ہندکات کی تکمیل کے لئے دوسری سورت میں "الو سواس الخناس" کے شر سے استعاذہ کی تعلیم فرمائی گئی کیونکہ سواس ان ہی فاسد خطرات کا نام ہے جو ظاہر ہو کر نہیں بلکہ اندرونی طور پر ایمان کی قوت میں رخنہ ڈالتے ہیں جن کا علاج عالم الخفیات والسرائر کے علاوہ کسی کے قبضہ میں نہیں لیکن سواس کا مقابلہ ایمان سے ٹھہرا تو دفع و سواس کے واسطے ان ہی صفات سے تمسک کرنے کی ضرورت ہوتی جو ایمان کے اصل مبادی و مناشی شمار کیے جاتے ہیں اور جن سے ایمان کو مدد پہنچتی ہے اب تجربہ سے معلوم ہوا کہ سب سے اول ایمان (انقیاد و تسلیم) کا نشوونما حق تعالیٰ کی تربیت ہاتے بے پایاں اور انعامات بے غایت ہی کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے پھر جب ہم اس کی ربوبیت مطلقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمالا ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ وہ رب العزت مالک الملک اور شاہنشاہ مطلق بھی ہے کیونکہ تربیت مطلقہ کے معنی ہر قسم کی جسمانی درو حانی ضروریات کو ہم پہنچانے کے ہیں۔

اور یہ کام بجز اس ذات منبع الکمالات کے اور کسی سے بن نہیں پڑ سکتا جو ہر قسم کی ضروریات کی مالک ہو اور دنیا کی کوئی ایک چیز بھی اس کے قبضہ اور اقتدار سے خارج نہ ہو سکے ایسی ہی ذات کو ہم مالک الملک اور شاہنشاہ مطلق کہہ سکتے ہیں اور لاریب اسکی پر شان ہونی چاہیے لَعْنِ الْمَلْئِکِ الْیَوْمِ لِلّٰہِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ گویا مالکیت و ملکیت ایسی قوت کا نام ہے جس کی فعلیت کا مرتبہ ربوبیت سے موسوم ہوتا ہے کیونکہ ربوبیت کا خلاصہ اعطاء منفعت اور دفع مضرت ہوتا ہے اور ان دونوں چیزوں پر قادر ہونا ملک علی الاطلاق کا منصب ہے پھر ذرا آگے بڑھتے ہیں تو ملک علی الاطلاق کے ہونے ہی سے ہم کو اس کی معبودیت اور الوہیت کا سرخ بھی ملتا ہے کیونکہ معبود اس کو کہتے ہیں جس کے حکم کے سامنے گردن ڈال دی جاتے اور اس کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے حکم کی اصلاً پروا نہ کی جاتے تو ظاہر ہے کہ یہ انقیاد و بندگی بجز محبت کاملہ اور حکومت مطلقہ کے اور کسی کے سامنے سزاوار نہیں اور دونوں چیزوں کا اصلی مستحق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس لئے

معبودیت اور الوہیت کی صفت بھی تنہا اسی وحدہ لا شریک کے لئے ثابت ہو گئی پڑھو! اَلْعَبْدُ ذُو ذَنْبٍ
صَغِيرٌ دُوِّنَ النَّاسِ قَالَا يَكْفُرُ لَكُمْ صَعِيَ اَقِي لَمْ نَفْعًا:

غرض سب سے اول جو صفت ایمان کا مبداء ہے وہ ربوبیت ہے اور اسکے بعد جو صفت ہے وہ ملکیت ہے اور ان سب کے بعد الوہیت کا مرتبہ ہے پس جو شخص اپنے ایمان کو وسوسہ شیطانی کی مہر سے بچانے کے لئے بارگاہ الہی میں جو چارہ جوئی کرے گا اس کو اسی طرح درجہ بدرجہ نیچے کی عدالت سے لوہر کی عدالت میں جانا مناسب ہوگا جس طرح اس نے بالترتیب اپنی صفات رب الناس، ملک الناس الہ الناس کو سورۃ "الناس" میں بیان فرمادیا اور عجیب بات یہ ہے کہ جس طرح مستغاذہ کی جانب میں یہاں تین صفتیں بغیر واو عطف اور بغیر اعادہ باچارہ کے مذکور ہیں اسی طرح مستغاذ منہ کی جانب بھی تین چیزیں نظر آتی ہیں جو صفت درصفت بیان کی گئی ہیں اسکو بولوں سمجھ سکتے ہو کہ لفظ وسواس کو الوہیت کے مقابلہ میں رکھو کیونکہ جس طرح مستغاذ بہ حقیقی إلا الناس ہے اور ملک در رب اسی تک رسائی حاصل کرانے کے عنوان قرار دیتے گئے ہیں اس طرح مستغاذ منہ کی حقیقت یہی وسواس ہے جس کی صفت آگے خناس بیان فرماتی ہے خناس سے مراد یہ ہے کہ شیطان بحالت غفلت آدمی کے دل میں وسواس ڈالنا رہتا ہے اور جب کوئی بیدار ہو جاتے تو چوروں کی طرح پیچھے کو کھسک آتا ہے ایسے چوروں اور بد معاشوں کا بندوبست اور انکے دست آمدی سے رعایا کو مصئون اور مامون بنانا بادشاہان وقت کا خاص فریضہ ہونا ہے اس لئے مناسب ہوگا کہ اس صفت کے مقابل ملک الناس کو رکھا جائے اور اَلَّذِي يُؤْمِنُ مِنِّي حَذْوِ النَّاسِ، جو خناس کی فعلیت کا درجہ ہے اور جس کو ہم چور کے لقب لگانے سے تشبیہ دے سکتے ہیں اسکو رب الناس کے مقابلہ میں رجوع بہ سابق ملک الناس کی فعلیت کا مرتبہ ہے (شمار کیا جاتے پھر دیکھتے کہ مستغاذ منہ اور مستغاذ بہ میں کس قدر تام اور کامل تقابل ظاہر ہوتا ہے (انہی کلام میں)۔

غرض حق تعالیٰ شانہ نے ان دونوں سورتوں میں ہر قسم کی آفات اور ہلاکتوں سے بچنے کیلئے استغاذہ اور پناہ حاصل کرنے کی تعلیم و تلقین فرمائی۔

پہلی سورت میں رب فلق کی پناہ جن ہانک سے بیان کی انکی مناسبت سے سورۃ الناس میں حق تعالیٰ کی تین عظیم صفات رب الناس، ملک الناس، الہ الناس کی پوری پوری مناسبت ظاہر ہو گئی اور یہ بھی ظاہر

۵۸ اس ناہیز کا حضرت الاستاذ شیخ الاسلام کی یہ تحقیق اختتام تفسیر پر لعینہ ان ہی کی تفسیر اور کلمات میں نقل کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ خود شیخ الاسلام نے سورۃ والنجم کی آیات کی تفسیر اپنے استاد خاتم المدینین حضرت شاہ سید محمد نور قدس اللہ سرہ انکی عبارت اور کلمات میں نقل فرمائی جس کا استاد محترم نے فتح الملہم میں بڑے اہتمام و عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا - ۱۲

ہو گیا کہ فتنوں اور ہلاکتوں میں ایک حسی اور ظاہری فتنے ہیں اور ایسے جرائم و جنائث ہیں جو مادی اور حسی طور پر نہایت ہی ہیبت ناک ہیں جو شیطانِ اسود (کالے شیطان) کا اغوا و اضلال ہے۔ براغوا و اضلال اگرچہ نہایت ہی قبیح و ہیبت ناک ہے جس میں قتل و غارت گری بدکاری جیسے موزی افعال ہیں لیکن ان سے بڑھ کر خطرناک فتنہ اور گمراہی شیطانِ ابیض (گورے شیطان) کی ہے جو عقائد و نظریات اور افکار و خیالات کی گمراہی سے دنیا کو ہلاک اور تباہ کرتا ہے اس وجہ سے اس سے پناہ مانگتے ہوئے خدا کی تین صفتیں بیان فرمائی گئیں کہ اس ہلاکت سے بچاؤ اسکی ربوبیت، مالکیت اور الوہیت ہی کی صفت اور شان سے ہو سکتا ہے اس قسم کی تباہی اور ہلاکت وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا یصبح الرجل مؤمناً ویُحسب کافراً یحسب مؤمناً ویصبح کافراً کہ صبح کو اچھے کا تو موتمن ہو گا لیکن جب شام کا وقت آئے گا تو کافر ہو گا یا شام کو موتمن ہے تو صبح کافر اچھے گا تو اس قدر جلد تبدیلی ایمان و کفر کی یہ ایسے رساوس سے ہی ہوتی ہے جو شیطانِ ابیض کی طرف سے گمراہی اور ہلاکت کا ذریعہ ہوتی ہے کہ عقیدہ اور نظریہ کا بگاڑ یہ اسکی حرکت ہے درند انسان میں عملی گمراہی اس قدر جلد نہیں آتی اور کبھی ایسا تصور نہیں کیا جاسکتا کہ صبح کو ایک شخص عقیف و پاکدامن ہو اور شام کو چوریزانی، بدکار، اور شرابی نظر آتے اس وجہ سے اس ہلاکت کو اہم سمجھتے ہوئے اس سے تحفظ اور بچاؤ حق تعالیٰ شانہ کی تین عظیم صفتوں کے ساتھ استعاذہ میں فرما دیا گیا، اللھم احفظنا من الفتن ما ظہر منها وما بطن وینا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وھبت لنا من لدنک ورحمتک انک الوھاب۔



کلمات دعا مرثیہ

یہ ناچیز گناہگار اپنی تفسیر اس کا اعتراف کرتے ہوئے اس رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے جس کی محض توفیق ذمیرے سے تفسیر معارف القرآن کی تکمیل کی سعادت سے بہرہ ور ہو رہا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تیرے کلام پاک کی تفسیر تیرے ہی فضل و کرم سے اعتقاد پذیر ہو رہی ہے تیری بارگاہ قدس میں دست بردہا ہوں کہ اسکو قبول فرمائے درگزر کرتے ہوئے قبول فرمائے۔

اے میرے پروردگار میں معترف ہوں کہ نہ میں اخلاص کا حق ادا کر سکا اور نہ ہی اس عظیم خدمت کی عظمت و برتری کے شایان شان کچھ ہو سکا بس یہی ہے جہد المقلد دموعہ ناواں کی کوشش اسکے چند آنسو ہیں اے میرے پروردگار میں اپنی تمام تفسیرات و عیوب پر نادم و شرمندہ ہوں ذمیرے دامن میں علم ہے نہ ہی تقویٰ اور عمل صالح کا ذخیرہ ہے۔

اے اللہ میں اپنے قصور علم و فہم کی وجہ سے تیرے کلام پاک کے معارف و حقائق کے سمندر میں سے ایک قطرہ بھی نکال کر پیش نہ کر سکا میری یہ کاوش بس ایک بے قیمت اور کھوٹی پونجی ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے ہی التجار کرنا ہوں جو تیرے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کی تھی وَجِئْنَا بِبِضَاعِهِ مُؤْتَاةٍ كَأَوْفٍ لَنَا الْكَيْدَ وَ تَصَدَّقَ عَلَيْنَا كَمَا هُمْ كَهْوَةٌ بِلُونَجِي لے کر آئے ہیں لیکن اے یوسفؑ تو ہمارا پیمانہ بھر کر دیسے اور مزید انعام بھی فرما تو یوسف کریم ابن الکریم کے رب کریم تیری بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ یہ کھوٹی پونجی ہے مگر اس پر اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کر عطا فرما دینا تو تو رب کریم ہے اور میں ندامت و شرمندگی کے ساتھ تیری بارگاہ میں طالب عفو ہوں کہ میری تفسیرات معاف فرما دے میری توبہ قبول فرمائے ہوتے جس طرح اے رب العالمین تو تائبین کے سیئات کو حسنات سے بدل دیتا ہے اسی طرح جو میری برائیاں اور سیئات ہیں تو اپنے فضل و کرم سے انکو حسنات سے بدل دے۔ رَبِّ تَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتَبَّ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً أَنْتَ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ وَرَبِّ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَاتِ وَرَبِّ الْمَوْلُودَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اے اللہ تو میرے والد محترم مولانا محمد دریس کاندھلوی (قدس اللہ سرہ) و سلام علیہ یوم ولید
و یوم بصوت راسے تو فی حکایتہ لجال الماضی) و یوم یبعث حیًا جن کی تفسیر کا یہ تکملہ میں آج
پورا کر رہا ہوں انکو اپنی بے پایاں عنایات سے اور رحمتوں سے سرفراز فرما جنت الفردوس میں انکے درجات بلند
فرما انکے علوم و فیوض سے مسلمانوں کو متمتع فرما آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔

وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَوْلًا وَاٰخِرًا. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنَّ كُنَّ سَيِّئًا اَوْ اٰخِطَاْنَا ذُنُوْبًا قَبْلَ
مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ وَثَبَّ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ۔
مُسْتَعَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلِّمْ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ط

دُعَاءُ خَتَمِ الْقُرْآنِ

اَللّٰهُمَّ اِنْسُ وِحَشِي فِي قَبْرِى اَللّٰهُمَّ اَرْحَمِنِي بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ
اِمَامًا وَّنُوْرًا وَّهَدًى وَّرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ
مَا جِهَلْتُ وَاَرزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اِنَّاءَ الْاَيْلِ وَاِنَّاءَ النَّهَارِ وَاَجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَارَبِّ الْعَالَمِيْنَ

ناجیز عاصی و خاظمی

محمد مالک کاندھلوی غفر اللہ ذنوبہ وستر عیوبہ

یوم الاثنين بعد صلوة العصر ۱۵ صفر المظفر ۱۳۰۷ھ

۲۰ اکتوبر ۱۹۸۶ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تصدیق نامہ



ریسرچ اینڈ جمنیشن آفیسر

مکتبہ المعارف دارالعلوم حسینیہ شہدادپور کے مطبوعہ
تفسیر معارف القرآن جلد ہشتم (تکلم) مصنفہ
حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
ابن حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پارہ ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ کا متن
قرآن کریم بغور پڑھا۔

تصدیق کے جاتی ہے کہ اس کے
متن قرآن کریم میں کوئی کمی
بیشی یا اعراب کے غلطی نہیں ہے۔
واللہ اعلم

عبدالمنان شہدادپوری
رجسٹرڈ پروف ریڈر برائے قرآن کریم
۲۰ جولائی ۱۹۶۱ء



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی
رَسُوْلِکَ الْکَرِیْمِ
وَہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ○

مکتبہ المعارف

دارالعلوم الحدیثیہ شہداد آباد
سندھ، پاکستان